

شیخ الاسلام

مولانا حسین احمد مدنی

فریدالوحیدی

شیخ الاسلام

مولانا حسین احمد مدنی

ایک سوانحی و تاریخی مطالعہ

فریدالوحیدی

فاضل (دیوبند)۔ ایم۔ اے۔ (علیگ)۔

قومی کتاب گھر

61
1 ذاکر گزشتہ جملیہ سیرت نبوی دہلی

بجملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں

کتاب	شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ
مولف	فریدالوحیدی
کتابت	ایس۔ ایم۔ منظر و سید ابوجعفر زیدی
ٹائٹل	خلیق ٹوکنی
اشاعت، طبع اول	جنوری ۱۹۹۲ء
تعداد	ایک ہزار
صفحات	۸۵۶
قیمت	دو سو پچاس روپے (مجلد)
طباعت	بھارت آفسٹ پریس دہلی ۶

ناشر

قومی کتاب گھر $\frac{61}{1}$ ڈاکٹر نگر، نئی دہلی 110025

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست

- ۱ - پیش لفظ مولف ۹
- ۲ - شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ مولانا ابوالحسن علی ندوی ۱۷
- ۳ - خاندان اور وطن اصل ۲۵
- ۴ - شجر و نسب ۲۹
- ۵ - مولوی سید حبیب اللہ صاحبؒ ۳۲
- ۶ - مولوی سید حبیب اللہ صاحبؒ کی ہجرت مدینہ ۴۱
- ۷ - مولوی صاحبؒ کا مدینہ طیبہ میں قیام ۴۴
- ۸ - اہل و عیال کی پے در پے آواہات ۶۲
- ۹ - مولانا صدیق احمد صاحبؒ ۷۴
- ۱۰ - مولانا سید احمد صاحبؒ ۸۵
- ۱۱ - مولانا سید جمیل احمد صاحبؒ ۹۳
- ۱۲ - صاحبزادی ریاض خاتمہ ۹۴
- ۱۳ - مولانا سید محمود احمد صاحبؒ ۹۵
- ۱۴ - اہلاد سہلا انکم، از اقبال سہیل ۱۰۱
- ۱۵ - شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحبؒ ۱۰۲

- ۱۰۷ - دیوبند میں طالب علمی
- ۱۱۹ - شادی خانہ آبادی
- ۱۲۱ - بیعت و ارادت
- ۱۲۴ - مدینہ طیبہ کا قیام
- ۱۲۷ - دربار نبی سے اکتسابِ علوم
- ۱۳۱ - اشغالِ روحانیہ
- ۱۳۴ - مدینہ طیبہ میں درس و تدریس
- ۱۳۷ - ہندوستان کا پہلا سفر اور خلافت
- ۱۴۹ - مدینہ طیبہ کو دوسری واپسی
- ۱۵۹ - ہندوستان کا دوسرا سفر ۱۳۲۷ھ
- ۱۶۳ - مدینہ منورہ کا تیسرا قیام ۱۳۲۹ھ
- ۱۶۴ - ہندوستان کا تیسرا سفر ۱۳۳۱ھ
- ۱۶۵ - مدینہ طیبہ کا آخری دور ۳۵-۱۳۳۱ھ
- ۱۶۳ - شیخ الہند مولانا محمودؒ
- ۱۸۵ - مالٹا کے قیدی
- ۱۹۱ - قیدی کیمپ کی تفصیلات
- ۱۹۴ - مالٹا میں حضرتؒ کے مشاغل
- ۱۹۸ - ایامِ اسیری میں صدقات
- ۲۰۰ - کچھ دوسرے قیدی رفقاء
- ۲۰۶ - تبدیِ شہید

- ۲۱۰ - ۳۶ - رہائی کے آثار
- ۲۱۳ - ۳۷ - مالٹا سے رہائی
- ۲۱۷ - ۳۸ - رہائی کے بعد ہندوستان میں
- ۲۲۳ - ۳۹ - حضرت کا سیاسی رجحان
- ۲۳۰ - ۴۰ - جامعہ ملیہ اسلامیہ (نظم) از حفیظ جالندھری
- ۲۳۴ - ۴۱ - شیخ الہند مولانا محمود حسن کا وصال
- ۲۴۳ - ۴۲ - کلکتہ میں قیام - سیاسی زندگی کی ابتداء
- ۲۶۲ - ۴۳ - کراچی کا مقدمہ
- ۲۸۴ - ۴۴ - دارالحدیث ہلٹ کے شیخ الحدیث ۲۸-۱۹۲۴ء
- ۳۰۵ - ۴۵ - بھتیجے کی شادی
- ۳۰۸ - ۴۶ - شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند
- ۳۱۵ - ۴۷ - دیوبند تشریف آوری ۱۹۲۸ء
- ۳۲۱ - ۴۸ - حضرت کا سیاسی مسلک
- ۳۲۸ - ۴۹ - لڑاؤ اور حکومت کرو
- ۳۳۴ - ۵۰ - جلیتہ علماء اور حضرت کی سرگرمیاں
- ۳۳۶ - ۵۱ - تیسری گرفتاری - جلیتہ و کانگریس میں اتحاد و فکر
- ۳۴۱ - ۵۲ - ہندوستانی قومیت کی بنیادیں
- ۳۶۱ - ۵۳ - متحدہ قومیت حضرت کا موقف
- ۳۷۹ - ۵۴ - کانگریس میں شرکت
- ۳۸۸ - ۵۵ - معادین و مخالفین

- ۳۹۳ - ۵۶۔ ماٹا سے رہائی کے بعد مدینہ طیبہ کا پہلا سفر
- ۳۹۷ - ۵۷۔ جمعیتہ علماء اور مسلم لیگ میں اشتراک و اقرار
- ۳۲۵ - ۵۸۔ اہلیہ کا انتقال اور چوتھی شادی
- ۴۲۹ - ۵۹۔ بھتیجے کی وفات
- ۴۳۶ - ۶۰۔ ڈاکٹر اقبال کی تنقید
- ۴۵۰ - ۶۱۔ جمعیتہ علماء ہند کی صدارت
- ۴۵۷ - ۶۲۔ پاکستان کا اعلان
- ۴۶۶ - ۶۳۔ پاکستان اور حضرت کا موقف
- ۴۹۳ - ۶۴۔ حضرت مولانا سید احمد کا وصال
- ۴۹۵ - ۶۵۔ آل انڈیا جمعیتہ کانفرنس کی صدارت
- ۵۰۳ - ۶۶۔ الہ آباد جیل ۱۹۴۲ء
- ۵۳۲ - ۶۷۔ سلہٹ کی روانگی ۱۹۲۷ء-۲۷
- ۵۳۷ - ۶۸۔ جنگ کا اختتام، آزادی کے آثار
- ۵۴۷ - ۶۹۔ مسلم لیگی جمعیتہ علماء
- ۵۶۵ - ۷۰۔ مسلم لیگی دشنام طرازیوں اور دست درازیاں
- ۵۷۲ - ۷۱۔ ایکشن میں مسلم لیگ کی کامیابی ۱۹۴۵ء-۴۶
- ۵۸۳ - ۷۲۔ ڈائریکٹ ایکشن ۱۹۴۶ء-۴۷
- ۵۹۷ - ۷۳۔ انٹرم گورنمنٹ
- ۶۰۱ - ۷۴۔ آئرشب دید کے قابل تھی بسل کی ٹرپ
- ۶۱۷ - ۷۵۔ انسانی درد سے، خون کے دریا، لاشوں کے انبار

- ۶۳۳ - ۷۶ - دلی میں آگ
- ۶۴۹ - ۷۷ - تاریخی اور لافانی کردار
- ۶۶۲ - ۷۸ - آزادی کے بعد مسلمانوں کی خدمات
- ۶۷۲ - ۷۹ - دارالعلوم دیوبند کی خانہ تلاشی
- ۶۷۵ - ۸۰ - دارالعلوم دیوبند کی تلاشی (نظم)
- ۶۷۷ - ۸۱ - صدارت اجلاس جمعیتہ علماء ہندی
- ۶۸۵ - ۸۲ - مہتمم دارالعلوم دیوبند کی ہجرت پاکستان
- ۶۸۹ - ۸۳ - حکومت ہندوستان اور حضرتؒ
- ۶۹۳ - ۸۴ - اجلاس جمعیتہ علماء رکھنؤ ۱۹۴۹ء
- ۶۹۷ - ۸۵ - تحریک مدح صحابہ کی حمایت
- ۷۰۳ - ۸۶ - تبلیغی جماعت کی تائید
- ۷۰۸ - ۸۷ - صدارت اجلاس جمعیتہ علماء حیدرآباد ۱۹۵۱ء
- ۷۱۷ - ۸۸ - مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور حضرتؒ
- ۷۵۵ - ۸۹ - صدارت اجلاس جمعیتہ علماء ہند کلکتہ ۱۹۵۵ء
- ۷۶۲ - ۹۰ - آخری حج ۱۹۵۵ء
- ۷۶۴ - ۹۱ - آخری خطبہ صدارت ۱۹۵۶ء
- ۷۷۲ - ۹۲ - ضعف و امراض - پیری و اعراض
- ۷۷۶ - ۹۳ - شخصیت نیمیتیں اور آخری وصیتیں
- ۷۸۵ - ۹۴ - مرض و وفات
- ۷۹۱ - ۹۵ - یا ایہا نفس الملنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیۃ

- ۷۹۵ - ۹۶ - زفرق تا بقدم ہر کجا کر می نگرم
- ۷۹۷ - ۹۷ - اولاد و اخلاق
- ۸۰۰ - ۹۸ - کس قیامت کا یہ اتم ہے
- ۸۱۹ - ۹۹ - شجرہ نسب حضرت شیخ الاسلام
- ۸۲۰ - ۱۰۰ - شجرہ طریقت
- ۸۲۵ - ۱۰۱ - خلفاء و مجازین
- ۸۳۵ - ۱۰۲ - کتابیات
- ۸۳۹ - ۱۰۳ - اشاریہ

پیش لفظ

زیر نظر کتاب ادائیگی فرنس کی ایک نامیاد کوشش ہے۔ اس کا مطالعہ اسی روشنی

میں کیا جانا چاہیے۔

حضرت کی وفات پر کوئی چونتیس سینتیس برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس عرصہ میں

آپ کی حیات اور خدمات پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اس سلسلے کی تالیفات اور موضوعات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ارباب فکر و نظر اور مورخین و محققین میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ادکار، نظریات، حیات اور کارناموں پر تحقیق کی پیاس و تلاش بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ چنانچہ مختلف زاویوں اور عنوانات کے تحت آپ کی سوانح نگاری کا سلسلہ تا اس دم بڑے ذوق اور اہتمام کے ساتھ برابر جاری ہے۔

ملت اسلامیہ کا ماضی متعلین امت اور اولیائے کرام کے تذکروں سے سمور ہے۔

تاریخ کے صفحات میں ان کے کارناموں اور مجاہدات کا ہر گوشہ پوری تحقیق کے ساتھ مذکور ہے۔ ان پاک باطن بزرگوں نے امت کی روحانی، اخلاقی اور عملی اصلاح کی طرف توجہ فرمائی اور اپنی ساری زندگی اس خدمت میں گزار کر لاکھوں لاکھ تشنگان سلوک و معرفت کو سیراب کیا۔ مگر بعض نفوس قدیہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دنیاوی اور دینی زندگی کے ہر گوشے اور اجتماعی، سیاسی، ملکی، معاشرتی اور معاشی وغیرہ حیات انسانی کے ہر حصے میں پیش آمدہ مصائب و مشکلات کے مقابلہ و مجاہدہ میں

لے پاکستان اور ہندوستان کی کچھ یونیورسٹیوں سے بعض محققین نے خود اور بعض نے دوسروں کے ذریعہ راقم کو

مال ہی میں اطلاع دی کہ وہ حضرت کی سوانح پر کام کر رہے ہیں۔

زندگیاں جاں نثاری اور بے جگرگی کے ساتھ وقف کر دیں اور اپنے اخلاص، اہلیت اور مثالی
ایثار و قربانی سے قوم و ملت کی رہنمائی فرمائی۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جو نیابت انبیاء کے
منصب کا حق ادا کرتی ہیں اور یہی وہ قدسی صفت شخصیتیں ہیں جو مرکز بھی امر رہتی ہیں۔

ہرگز نہ میر دآں کہ دلش زندہ شد بعشق
ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

یہی نہیں بلکہ اُن کے پیغامات اور ارشادات زمان و مکان کی حدود کو عبور کر کے قیامت
تک منارہ نور ثابت ہوتے ہیں اور ان کی مثالی زندگیاں ہر زمانے میں وقت کے
اندھیاروں کے مقابلے میں ہدایت و رہنمائی کا چراغ جلائے رکھتی ہیں۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی نابلسہ روزگار
اور نقید المثال اکابر اولیاء میں شمار ہوتے ہیں۔

آپ مسند تدریس و تبلیغ حدیث نبویؐ کے تاجدار تھے۔ دوسری طرف علوم
اسلامیہ کے احیاء اور نشر و اشاعت کے علمبردار بھی تھے۔ اس کے ساتھ ہی تصوف و
سلوک، تربیت باطنی اور تہذیب اخلاق کے لیے وقف تھے۔ انہی وقت میں جہاد آزادی
کے سپہ سالار اور میدان سیاست کے شہ سوار تھے۔ آپ کی زندگی اعلیٰ انسانی فضائل
اور محاکم اخلاق کا نمونہ تھی اور زندگی کا ہر لمحہ عبادت ریاضت تعلق مع اللہ اور
صبر و توکل علی اللہ میں غرق تھا۔

اشتنال حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ شب و روز کی آٹھ یا دس
ساعتیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کی نذر
تھیں۔ تعلیم و تدریس کی نشر و اشاعت سے ایسا شغف تھا کہ بر عظیم ہندوستان کا شاید
ہی کوئی گوشہ ایسا بچا ہو جہاں اسفار کی سختیاں اور مشقتیں خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت
کر کے آپ نے خیر کھ من تعلم القرآن و خیر کھ من علمہ کا پیغام نہ
پہنچایا ہو۔

تصوف و سلوک و تربیت نفوس میں یہ مقام حاصل تھا کہ ایک ایک مجلس میں

سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طالبین رشد و ہدایت بیک وقت مرید ہو کر داخل سلسلہ ہوتے تھے۔ میدان جہاد میں ایسی بے جگری کے ساتھ نبرد آزما تھے کہ طوق و سلاسل کو زندگی بھر بازیچہ اطفال سمجھا اور وارورسن کو لیک بکنے کے لئے ہر لمحہ تیار رہے۔

سیاسی معاملات میں حق تعالیٰ نے وہ بالغ نظری عطا فرمائی تھی کہ جو فیصلہ فرمایا وہ نوشتہ دیوار ثابت ہوا اور جو مسلک و نظریہ اختیار کر لیا اس کی صداقت اور معقولیت کو آج تک چیلنج نہیں کیا جاسکا۔ مکارم اخلاق اور خصائل حمیدہ میں ایسی برتری اور تفوق عطا ہوا تھا کہ زندگی کا ہر قدم اِنِّی بَشْتُ لَاتَمِّمُ مَکَارِمَ اِخْلَاقِکُمْ کی مکمل تشریح و تبصیر تھا۔

عبادت و ریاضت اور تضرع و زاری کی یہ کیفیت تھی کہ کبر سنی اور ضعف کے عالم میں بھی راتوں کا بیشتر حصہ نوافل و تہجد میں گزارتا تھا۔ آدھ آدھ گھنٹے اور بعض اوقات اور زیادہ دیر تک قیام کی حالت میں کھڑے رہتے تھے اور جن آنکھوں نے تمام زندگی بڑے سے بڑے دنیاوی حادثہ پر گریہ و زاری کا تصور بھی نہیں کیا تھا ان سے مصطلی و جانناز پر پہنچتے ہی آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی اور گھنٹوں بسکیوں اور پچکیوں کی آواز آتی رہتی تھی۔

کیا کیا بتلایا جائے اور کہاں تک لکھا جائے۔ ان تمام اوصاف و خصوصیات کے احوال و تفصیل بیان کی جائیں تو حضرت کی زندگی کے ہر گوشہ پر کسی کسی بے صفات کی کتابیں لکھی جاسکتی ہیں۔

ہندوستان کی مذہبی و تمدنی تاریخ اور اس کے باشندوں کی تہذیبی و سانی خصوصیات اور مسائل کے پیش نظر حضرت ملک میں متحدہ قومیت کی سیاست پر یقین رکھتے تھے اور اس کو یہاں کی اقتصادی، سماجی، سیاسی، مذہبی اور اجتماعی مشکلات و مسائل کا واحد حل بتلاتے تھے۔ اس نظریہ کی مخالفت میں زمین و آسمان ایک کر دئے گئے۔ وقت نے چند دہائیوں کے مختصر عرصہ میں برق رفتاری کے ساتھ صدیوں کی راہ ط کر لی۔ حالات حیرت ناک اور ناقابل یقین حدوں تک بدل گئے۔ مگر ایسا معلوم ہونا ہے

کہ حضرت کے سیاسی نظریہ کی صداقت و حقیقت آج تک زندہ و تابندہ ہے۔ انسانیت رِسک رہی ہے۔ بنی نوع انسان ظلم، جبر، نا انصافی اور درندگی کے خمیر تلے پڑا ہوا کواہ رہا ہے۔ راقم الحروف نے بہت سے عوام و خواص لوگوں کی باتیں سنی ہیں۔ موافقین کی بات نہیں ہے جو لوگ حضرتؒ کے نظریات کے شدید مخالف تھے وہ بھی زبان سے نہ یہی لیکن دل میں اس کی صداقت اور حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ملکوں کے گوناگوں مسائل کا حل حضرتؒ ہی کے ارشاد کردہ نظریات میں ہے۔ الفضل ماشھدت بہ الاعداء

ملک کی آزادی کو کوئی پچاس برس ہونے کو آئے۔ خوش ہونے اور دل کی تسلی کے لئے بڑی بڑی ترقیاں اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ گننے کے لئے شمار کیا جائے تو سیکڑوں میدان ہیں جن میں ہندوستان نے ترقی حاصل کی ہے مگر ساتھ ہی تباہیوں، ہلاکتوں اور ناکامیوں کی فہرست بھی بہت طویل اور حوصلہ شکن ہے۔ یہ بڑی دردناک داستان ہے جس کے لئے ہزاروں نہیں تو سیکڑوں صنغات تو ضرور ہی درکار ہیں۔ انہی مشکلات اور موانع میں ایک بڑا مسئلہ ریاستوں اور مرکز کے درمیان اختلاف و انتشار کا ہے۔ یہ سلسلہ شروع دن سے شروع ہوا تھا اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ اختلاف بڑھتا جا رہا ہے۔ آج چالیس پینتالیس برس گزر جانے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ اصل کمزوری اذہری لپیا پوتی سے حل ہونی مشکل ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد ہندوستان میں مرکز اور ریاستوں کے درمیان ربط و تعلق، اختیارات و فرائض کی تعین و تجدید پر مشتمل ایک خاکہ اور فارمولہ پیش کیا تھا۔ اس وقت تو جذبات کے طوفان اور متوقع اقتدار کے نشے میں اُس فارمولے پر کما حقہ توجہ نہیں کی گئی، مگر مرد ایام کے ساتھ ایسا مسلوم ہوتا ہے کہ چاہے نام نہ لیا جائے لیکن ہندوستان کو متحد و مضبوط رکھنا ہے تو یہاں کی مرکزی حکومت اور ریاستوں کے درمیان پائیدار تعلق کی بنیادیں وہی ہوں گی جس کی نشان دہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارمولے میں کی تھی اور جو اُس وقت مذنی فارمولے کے نام سے مشہور ہوا تھا۔

اس مختصر سی صحبت میں حضرت کی زندگی کے تمام گوشوں کی طرف اشارہ کرنا مشکل ہے مگر حضرت کے سوانح نگاروں اور تذکرہ نویسوں کے لئے مذکورہ بالا اور اسی قسم کے دوسرے موضوعات پر تحقیق کرنا ضروری ہے۔

راقم الحدوث کی زندگی کے کم و بیش پینتیس برس حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سایہ طہافت میں اس طرح گزرے ہیں کہ انفرادی و اجتماعی زندگی، علمی و سیاسی سرگرمیاں روحانی و اخلاقی تعلیمات، شب بیداری و تضرع و زاری، مردت اور اعلیٰ اقدار انسانیت، غرض شب و روز کے اکثر اوقات اپنی ناقص عقل و فہم کی حدود کے اندر مشاہدہ و مطالعہ سے گزرے ہیں اب میں زندگی اور عمر کے اس مرحلے پر ہوں کہ دنیوی شہرت، عزت اور منفعت کا کوئی درجہ مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق اور اخلاص نصیب فرمائے تو اب ان میں سے کسی متاع کی تمنا بھی نہیں ہے۔ مگر حضرت کے سوانحی تذکرے اور سیرتیں دیکھ کر احساس ہوا کہ ان میں حضرت کی زندگی کے بعض اہم گوشے تشذہر گئے ہیں۔ یہ خطہ بھی دل میں گزرا کہ اسی طرح غفلت میں کچھ اور دیر ہو گئی تو شاید یہ گنج گراں مایہ ہمیشہ کے لئے بنگاہ و دل سے مستور رہ جائے۔ انہی خیالات کے ماتحت یہ خواہش تیز تر ہوتی گئی کہ اس باب میں جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اور جیسا کچھ بھی جانا اور پہچانا ہے بلا کم و کاست اور بدون مبالغہ و اضافہ کے صفحہ قرطاس کے حوالے کر دوں، شاید ہے کہ ہندوستان کی نئی نسل کو اس سے رہنمائی اور ہدایت نصیب ہو ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ خاندان کی آنے والی نسلیں جو ہندوستان، عربستان، یورپ اور امریکہ وغیرہ میں منتشر ہوتی جا رہی ہیں، اپنی اصل نسل اور اپنے گھرانے کی قدر و قیمت پہچان اور جان سکیں گی۔

ارادہ تھا کہ اپنی حیثیت و صلاحیت کے مطابق حضرت کی روحانی، علمی، سیاسی، تدریسی اور تربیتی زندگی اور کارناموں کے تفصیلی حالات بیان کرتا۔ مگر قلم اٹھا یا تو پانچ برس کا عرصہ اور ساڑھے آٹھ سو صفحات کی ضخامت صرف سوانحی حالات کی نذر ہو گئے، مجبوراً پہلی جلد یہیں پر ختم کر دینی پڑی۔ اگر زندگی اور حالات نے فرصت دی تو اصل مضامین دوسری جلد میں پیش کرنے کا خیال دارادہ ہے۔

کتاب میں مدح سرائی، منقبت نگاری، القاب آرائی اور مبالغہ آمیزی سے صرف نظر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کشف و کرامات، روحانی تصرفات اور خرق عادات کے بیان پر بھی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت کی بیاسی برس کی عمر کا ایک ایک لمحہ کرامتوں، خرق عادات، عظمتوں اور عزیمتوں سے اس درجہ بھرپور ہے کہ روایاتی کرامتوں کا تذکرہ، تعریف و توصیف اور مدح و منقبت اس کے لئے تخفیف اور تحصیل حاصل کے مراد ہے۔ دوسرے یہ کہ اس تالیف کا بنیادی نقطہ نظریہ ہے کہ بلا کسی انشا پر داری اور رنگ آمیزی کے حضرت کی زندگی اور سرگرمیوں کی سادہ اور تاریخی تصویر پیش کر دی جائے۔ کوشش کی گئی ہے کہ واقعات کے ساتھ ان کے مستند ماخذ اور شہادتیں بھی احتیاط اور تحقیق کے ساتھ پیش کر دی جائیں۔ اس کے لئے پہلے تو حضرت ہی کے بیانات اور اقوال کو مرجع بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد تاریخی وقائع و تحقیقات اور مورخین و محققین کے مطالعہ اور اقوال پر بھروسہ کیا گیا ہے اور آخر میں ۱۹۳۷ء کے بعد کے حالات میں کسی درجہ میں اپنے ذاتی مشاہدات و مطالعہ کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ تاہم پچاس برس کے عرصے پر پھیلے ہوئے سارے مطبوعات، اخبارات اور منشورات تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی اس لئے کہ اس تلاش و جستجو کے لئے جس فرصت و فراغت کی ضرورت تھی افسوس کہ وہ میسر نہ آسکی۔

اس تذکرہ میں ہندوستان کی جنگ آزادی، ملک کی تقسیم اور قیام پاکستان کا پس منظر بھی شامل ہو گیا ہے۔ ان مراحل میں حضرت اس طرح شامل رہے ہیں کہ آپ کا کوئی تذکرہ ان تفصیلات کے بغیر اور جنگ آزادی اور تقسیم ملک کی کوئی تاریخ بغیر حضرت کا تذکرہ کئے تکمیل نہیں ہو سکتی۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہم العالی نے باوجود کثرت مشاغل، مسلسل اسفار اور صحت کی کمزوری کے سودہ کا مطالعہ فرمایا، قیمتی مشورے اور بعض اہم مضامین عنایت فرمائے اور حضرت کی شخصیت اور کتاب کی اہمیت پر اپنے خاص اسلوب میں اپنے انکار عالیہ کو قلم بند فرمایا ہے۔

عزیز گرامی قدر پروفیسر ضیاء الحسن صاحب فاروقی سلمہ پروفیسر ڈاکٹر ذاکر حسین چیمڑ، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی نے بڑی توجہ اور محنت کے ساتھ مسودہ کتاب کو حرفاً حرف پڑھا اور بہت سے قیمتی اور مفید مشوروں سے رہنمائی کی۔

عزیز مہترم مولانا سید اسجد مدنی سلمہ اللہ ناظم جمعیتہ علماء ہند دہلی نے قدم قدم پر ہمت افزائی کی اور حضرت کی بعض بہت اہم نگارشات فراہم کیں۔

عزیز مولانا ڈاکٹر سید رشید الوحیدی سلمہ ڈیپارٹمنٹ آن اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی نے کتاب 'طباعت' تصحیح و تہذیب کے صبراً زامراصل بڑی دلسوزی و جانفشانی کیساتھ مکمل کئے۔ ویسے تو ان حضرات گرامی نے ایک قومی و ملی خدمت انجام دی ہے جس کیلئے انشاء اللہ یدین و دنیا میں عند اللہ ماجور و مشکور ہوں گے مگر میرا فرض ہے کہ صمیم قلب سے ان کا نہ صرف شکر یہ ادا کروں بلکہ بارگاہ رب العزت میں دعا کروں کہ حق تعالیٰ ان کے سایہ ہمایونی صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرمائے اور قوم و ملک کو ان کی خدمات و رہنمائی سے متمتع اور بہرہ ور کرے۔ آمین ثم آمین۔

ہر چند کہ یہ کتاب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل سوانح نہیں کہلائی جاسکتی مگر اتنا ضرور ہے کہ اس موضوع پر کام کرنے والوں کو اس سے ایک نقشہ اور خاکہ بنانے میں کافی مدد ملے گی۔

ایک آخری گزارش اور رہ گئی ہے اور وہ یہ کہ مولف کو اپنی خایوں اور کوتاہیوں کا صدق دل سے اعتراف ہے۔ میں نے شخصیات اور جماعتوں کے بیان میں خلوص نیرت کے ساتھ پوری احتیاط ملحوظ رکھی ہے کہ کسی کی شان میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ پھر کبھی ایک ذائقہ نگار کی حیثیت سے بعض مقامات پر بہت سی باتیں نہ چاہنے کے باوجود کبھی لکھنی ہی پڑیں اور اس کے نتیجے میں کہیں کہیں بہت سے حقائق منظر عام پر آ گئے جن کے لئے مجھے معذور و مجبور سمجھنا چاہیے۔

دوسرے یہ کہ نہ مجھے علم و ذہن میں کوئی غیر معمولی حیثیت نصیب ہے اور نہ میری زبان قلم کو ملی اسلوب اور حقائق طرز تحریر کا درجہ حاصل ہے۔ جو کچھ بھی پڑا اور جیسا بھی ہو سکا

سمولی عام فہم اور بول چال کی زبان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حضور میں پیش کر دیا اور اس پر داغ یہ ہے کہ اس حقیر سی ذرہ بے مقدار خدمت کے صلے میں اپنے مولائے رحیم اور داتا کریم سے عفو و مقبولیت اور نجات و منفعت کا طلب گار ہوں اور قارئین سے اسی دُعا کا اُمیدوار ہوں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز

فرید الوہیدی

بہار نومبر ۱۹۹۱ء

ذکر نگر۔ نئی دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شیخ الاسلام مولینا حسین احمد مدنی

مؤلفہ

مولینا سید فریدالوحیدی صاحب

(حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی (مدظلہم العالی)

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى، أما بعد؛

ایک جامع فضائل ہستی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کے فضائل و کمالات میں مرکزی اور نمایاں صفت کون سی ہے جس کو اس شخصیت کی کلید قرار دیا جائے اور جس سے اس کی زندگی اور خصوصیات کو سمجھنا آسان ہو جائے، مولینا کو بہت سے لوگ ایک جلیل القدر عالم اور ایک عظیم استاد حدیث کی حیثیت سے جانتے ہیں، بہت سے لوگ ایک سیاسی رہنما اور مجاہد کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو ان سب فضائل سے آراستہ کیا تھا۔

لیکن راقم کی کوتاہ نظر میں دو صفتیں آپ کی زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے معاصرین میں ممتاز بنایا ہے، ایک عزیمت دوسرے حمیت، عزیمت کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ نے علماء اور اہل درس کے حلقے سے باہر قدم نکالا اور اس سلسلے کی طرف توجہ کی، جو وقت کا اہم مسئلہ تھا اور عین انگریزی حکومت کے عروج کے زمانے میں جس کی سلطنت میں آفتاب غروب نہیں ہوتا تھا، اعلان کر کے کلمۃ حق عند سلطان جائزہ کے افضل جہاد کا شرف حاصل کیا، ممالک میں اسیری کے دن گزارے، اور ہندوستان کی جیلوں میں ہمیشہ رہ کر سنت یوسنی ادا کی اور دنیا کی عظیم ترین سلطنت کے مقابلے میں برسوں سینہ سپر رہے، یہاں

تک کہ آپ کا مقصد پورا ہوا۔

پھر یہ عزیمت آپ کی پوری زندگی میں نمایاں ہے، فرائض کی ادائیگی، نوافل و مستحبات کی محافظت، مخالف ماحول میں سموات کی پابندی اس زمانہ میں بڑی استقامت ہے، وعدوں کے ایفاء، دور دراز کے جلسوں اور اجتماعات میں شرکت اور اس کے لئے ہر طرح کی مصوبتیں برداشت کرنا مستقل عزیمت ہے، پھر اس کے ساتھ دارالحدیث کے اسباق کی پابندی اور کتابوں کی تکمیل ایک مستقل مجاہدہ، ہمانوں کی میزبانی اور مختلف الطبائع انشخاص کے ساتھ ضیافت و اکرام کا معاملہ اور ان کی مزاجی خصوصیات کا تحمل مستقل جہاد، پھر مریدوں کی تربیت اور نگرانی، کثیر التعداد خطوط کا جواب دینا اور سب اس ضعف و پیری اور مصروفیت میں، یہ سب آپ کی غیر معمولی عزیمت و علوئے ہمت کی دلیل ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ مَعَالِی الْاَمُوْر دیکر مسغانہا (اللہ تعالیٰ اہمیت اور عزیمت والے) اونچے کاموں کو پسند فرماتا ہے، اور فروتر اور بے سود اعمال و حرکات کو ناپسند فرماتا ہے، پر عمل کر کے دکھادیا، اسی طرح ہیئت بھی آپ کی کتاب زندگی کا نہایت روشن عنوان ہے، اسی ہیئت نے انگریزوں کی مخالفت کا جذبہ پیدا کیا، جس کی آسودگی اُس وقت تک نہیں ہوئی جب تک انگریز اس ملک سے چلے نہیں گئے، تحریک خلافت اور جیتے علماء کی جدوجہد میں یہی روح کام کرتی رہی تھی، اور یہی آپ کو سدا جوان، مستعد و سرگرم رکھے ہوئے تھی، اور اسی نے سیکرٹوں ہزاروں آدمیوں کو متحرک بنا رکھا تھا، یہی ہیئت تھی جس نے آپ سے مہینوں دشمن اسلام طاقتوں کے خلاف قوت نازل اس جوش و ولولہ کے ساتھ پڑھوائی کہ معلوم ہوتا تھا کہ خراب میں شکاف پڑ جائیں گے، اور الفاظ نہیں ہیں بلکہ شرارے ہیں جو آپ کے دل سے نکل رہے ہیں۔

لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جس جبروتی طاقت اور عظیم سلطنت کے مقابلہ میں وہ میدان میں آئے، اس کا (جہاں تک اسلام اور مسلمانوں، خلافت اسلامی اور آزاد ممالک اسلامیہ اور خود ہندوستان کا تعلق ہے) تاریخی کردار، اس کی اسلام دشمنی، اسلامی سطوت و وحدت کی تیغ کشی، اور خلافت اسلامیہ اور سلطنت عثمانیہ کے زوال و استیصال میں اس کا قائمہ حصہ، جزیرۃ العرب، حجاز مقدس اور ان عرب ممالک پر اثر و نفوذ قائم کرنے کی کامیاب

جدوجہد وجود دعوت اسلامی کا منبع و سرچشمہ، مقامات مقدسہ پر مشتمل اور مسلمانوں کی عقیدت و محبت کا مرکز ہیں، نیز اس عظیم مردم خیز، تاریخ ساز تجدیدی و اصلاحی تحریکوں اور علوم دینیہ و اسلامیہ کے آخری مرکز ہندوستان پر غاصبانہ قبضہ اور وہاں کی اس مسلم آبادی پر جس نے اس ملک پر آٹھ سو برس تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، تمدنی و تہذیبی، علمی و فکری، سیاسی و انتظامی طور پر اس کو چار چاند لگائے اور اس کو پہلی مرتبہ سیاسی وحدت و مرکزیت اور انسانی وحدت و مساوات اور سماجی عدل و انصاف سے آشنا کیا، ان سفاکانہ مظالم کی داستان بھی سامنے ہو جن کا اعتراف انگریز مصنفین و مورخین اور عسکری و انتظامی شعبے کے ذمہ داروں نے بھی کیا ہے، اور جن کو پڑھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

تحریک خلافت نے ہندوستان میں جو جوشِ ایمانی، غیرتِ اسلامی، حیثیتِ دینی، بلند نگاہی اور مصائب و محن پر صبر و استقامت کی شان پیدا کر دی تھی، اس کو "حیثیت" و "عزیمت" کے الفاظ سے بہتر الفاظ (بشرطیکہ ان کے صحیح وزن اور درجہ حرارت کو سمجھا جائے) نہیں مل سکتے، اور اس کا مظہر اتم اور نمونہ کامل حضرت مولینا سید حسین احمد مدنیؒ تھے، جن کی انگریز دشمنی اور حیثیتِ دینی، فکری و اعتقادی حدود سے آگے بڑھ کر قلبی و جذباتی نفرت و عداوت، اور قال سے آگے بڑھ کر حال میں تبدیل ہو گئی۔

شیخ الاسلام مولینا مدنیؒ، ان کی جماعت (جمعیۃ العلماء) ان کے رفقاء کار اور جنگِ آزادی میں حصہ لینے والے اور اس کے سلسلے میں قید و بند کی مصیبتیں اٹھانے والے اور مخالفین کی ناراضگی اور مقاطعہ کا نشانہ بننے والے علماء اور اہل دین کا اجن کے سرخیل اور پیشوا شیخ الاسلام مولینا مدنیؒ تھے، ملتِ اسلامیہ ہندیہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ انھوں نے اپنی قربانیوں، خلوص و بے غرضی، ہمت و عزیمت اور صبر و استقامت سے، جو کہ اکثریت کے بڑے سے بڑے قائدین کی قربانیوں سے کم نہیں، ہندوستان کی ملتِ اسلامیہ کو اس قابل بنادیا کہ اس سرزمین پر اعزاز و افتخار کے ساتھ سرا دیا کر کے چلے، بڑی سے بڑی سیاسی اور مذہبی ایثار و قربانی جماعت سے آنکھیں ملا کر بات کرے، اور اپنے دین و شریعت اور اپنی زبان و تہذیب، اپنے عالمی قانون (PERSONAL LAW) اور ملک کی آئین سازی

اور نظامِ تعلیم میں اپنے تشخص اور اپنی ملی ضروریات کے تحفظ کا (احساسِ بہتری کے ادنیٰ شاہد کے بغیر) مطالبہ کرے اور اس کے لئے جدوجہد کو جائز ہی نہیں ضروری سمجھے، یہ ملت پر اتنا بڑا احسان ہے جس سے وہ کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی، اور تاریخ اے کبھی فراموش نہیں کر سکتی، ان دینی قائدین اور مجاہدینِ آزادی کو بجا تک دہل اعلان کرنے کا حق ہے کہ

آغشتہ ایم ہر سرخائے بخونِ دل

تازونِ باغبانیِ صحرا نوشتہ ایم

جیسا کہ کہا گیا آپ کا دوسرا امتیاز حیثیت تھی، یہی حیثیت تھی جو کسی منکر شرعی اور خلاف سنت فعل کو دیکھنے کی روادار بھی، اور جس کی حرارت اور آہنج آس پاس بیٹھنے والوں کو اکثر موس ہوتی، جن لوگوں نے آپ کے اس جذبہ کو پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ "حیثیتِ دینی" آپ میں کس قدر کوٹ کوٹ کر بھری تھی، وہ بعض اوقات اس سے غلط فائدہ اٹھالیتے، اسی طرح مولینا کی شرافت و مردت سے (جو آبائی درتہ اور ساداتِ کرام کا شیوہ ہے) بہت سے لوگ غلط فائدہ اٹھا کر آپ کے مخلصِ جبین اور نیاز مندوں کے لئے بشرِ مزدگی کا باعث بنتے اور اپنی اغراضِ براری کر کے اپنی ہوشیاری اور موتح پرستی کا ثبوت دیتے اور مولینا کی ذات کو نقصان پہنچاتے۔

اس شانِ عزیمت و وصفِ حیثیت کے علاوہ ان کی تیسری خصوصیت اور شان

امتیازی ان کی انسانی بلندی ہے۔

تحریکِ آزادی کے رہنماؤں اور قائدین کے خیالات سے اختلاف کی گنجائش ہے، انھوں نے اپنی بلند نظری سے ملک کی آزادی سے جو توقعات قائم کی تھیں، اور اپنی فطری شرافت اور نفس کی پاکیزگی سے اس ملک کی اکثریت کے متعلق جو اندازے لگائے تھے، وہ کہاں تک صحیح ثابت ہوئے؟، اور ان کو زبان، کلچر، مذہب، تعلیم اور پرسنل لاء کے تحفظ کے بارے میں (جس کی کانگریس کے منشور اور ہندوستان کے دستور نے ضمانت کی تھی) آخری عمر میں جو مایوسی ہوئی اور ان کو اپنی سیاسی جدوجہد کے رفیقوں اور جیل

کے ساتھیوں کے متعلق (صاحب اختیار و اقتدار ہو جانے کے بعد) جو تلخ اور دل شکن تجربے ہوئے، آج ان کو خواہ زبان پر نہ لایا جا سکے مگر آنے والے مورخ کے قلم کو ان کے اظہار سے روکا نہیں جاسکتا، مگر جو چیز ہر شک و شبہ اور ہر بحث و نزاع اور ہر اختلاف سے بالاتر ہے۔ وہ مولینا کی بلند سیرت، پاکیزہ شخصیت، بے غرض جدوجہد بے داغ زندگی اور مکارم اخلاق ہیں جنہوں نے ان کی ذات کو کھرا سونا اور سچا موتی بنا دیا تھا اور ان کو اخلاقی و طبعی بلندی کے اس مقام پر پہنچا دیا تھا جس کے متعلق دورِ اول کے عرب شاعر نے کہا ہے۔

ہِجَانُ الْحَمِي كَالذَّهَبِ الْمُصَفَّى

صیغۂ دیمۂ عینہ جان

اقبیلہ کے شریف سردار ایسے کھرے سونے کی طرح ہیں، جو کسی بارش کی صبح کو

زمین سے اٹھایا جائے، اور صاف کر لیا جائے)

راقم سطور نے اپنی ایک تازہ تصنیف ”الموتضیٰ“ کے پیش لفظ میں ”سخن طائر گفتنی“ کے عنوان سے ایک تلخ تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کا خیف لفظی ترمیم کے ساتھ یہاں بھی نقل کر دینا مناسب (اور درجات کے تفاوت کے ساتھ) حسب حال ہے، راقم نے لکھا تھا کہ:

”یہ ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ بہت سی تاریخ ساز، عہد آفرین

اور نادرہ روزگار شخصیات ایسی بھی ہیں، جن کی مکمل سیرت (جو ان کی روشن

ترین خصوصیات پر حاوی اور ان کے مرکزی اور اہم کمالات و محاسن پر روشنی

ڈالتی ہو) عرصہ دراز تک مرتب نہیں ہوتی، اور یہ بات ان کے ماننے والوں

اور عقیدت مندوں پر ایک اخلاقی و دینی علمی فرض کی نوعیت رکھتی ہے جس

کی ادائیگی بعض اوقات انہوں نے بھی نہیں کی جو ان کی تنظیم میں غلبہ اور

مبالغہ سے کام لیتے اور ان سے محبت و وابستگی کو سرمایہٴ افتخار و شہرت

سمجھتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ فرض ماہ و سال کی مختصر مدت میں ادا

ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس پر طویل مدت گزر جاتی ہے۔
یہی معاملہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنیؒ کے ساتھ پیش
آیا جن کی وفات ۱۳ جلدی الاولیٰ ۱۳۴۷ھ (۱۹۵۷ء) میں پیش آئی، لیکن تقریباً نصف
- صدی گزر رہی ہے کہ ان کی سیرت و تذکرہ میں ابھی تک کوئی شایان شان کتاب ملک
کے سامنے نہیں آئی۔

متفرق طور پر مختلف اہل تعلق اور عقیدت نے اس موضوع پر خام فرسائی کی اور ان کی
سہمی بہر حال مشکور ہے، لیکن ضرورت تھی کہ کوئی ذی علم فرد خاندان، یا خاندانی، تاریخی و سوانحی،
اندرون و بیرون اور شب و روز کی زندگی کا واقف حال، اس وسیع اور نازک موضوع پر قلم
اٹھاتا، اور اس سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ مستند مواد، چشم دید واقعات اور مشاہدات و تجربات
پیش کرتا۔

راقم کو اچانک یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ اسی خاندان والا نشان کے ایک فرزند
مولانا سید فرید الوحیدی صاحب جو حضرت مولینا کے حقیقی بھتیجہ مولینا سید وحید احمد صاحب
مرحوم ایسر ماٹا کے صاحبزادہ ہیں، انھوں نے مولینا کا مکمل تذکرہ مرتب کر لیا ہے اور
اس کی کتابت بھی ہو گئی ہے۔ مولینا نے ازراہ تعلق و محبت اور اس علم کی بنا پر کہ راقم اور
اس کے خاندان کو حضرت مولینا سے گہری عقیدت کا تعلق ہے، اس کو مولینا سے جزئی تلمذ

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳

کا شرف بھی حاصل ہے، اور اس کے برادر محترم مولینا حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب مرحوم (سابق ناظم ندوۃ العلماء) مولینا کے دست گرفتہ اور گہرے عقیدت مند بھی اور لکھنؤ میں ان کا مکان مولینا کی مستقل فرودگاہ اور جائے قیام تھا، مجھ سے مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی۔

راقم نے اپنی شدید مصروفیت، کمزوری صحت اور مسلسل اسفار کے باوجود اس پر اجمالی نظر ڈالی اور اندازہ ہوا کہ اس تذکرہ میں کم سے کم وہ مواد اور معلومات زیادہ سے زیادہ جمع ہو گئے ہیں، جو ایک واقف و متیقظ فرد خاندان ہی جمع کر سکتا ہے، یہ کتاب خاندانی حالات کا اچھا ماخذ ہے، اس میں اولین سفر حجاز کی دل دوز سرگزشت، قیام مدینہ طیبہ کے تفصیلی حالات، مدینہ طیبہ میں گھر کی عسرت اور معاشرت کا بوتلا ہوا نقشہ، مانا کی اسیری کے بارے میں قیمتی معلومات (جن کا بڑا حصہ انھوں نے اپنے والد محترم سے سنا ہوگا) حضرت کے سوانحی حالات مثلاً دیوبند کی طالب علمی کی تفصیلات، والد ماجد مولینا حبیب اللہ صاحب کا قدرے تفصیل سے تعارف، اس کے ساتھ سیاسی شعور اور سرگرمیوں کی ابتدا، تحریک خلافت کے آغاز کی بعض قیمتی تفصیلات و معلومات، برطانیہ اور عالم اسلام کے بارے میں اس کے کردار پر مفید مواد، اور مولینا کی دعوتی تحریک کی سرگرمیوں، مجاہدات و ابتلاوات پر قیمتی مواد جمع کر دیا گیا ہے، پھر اخلاق و سیرت، معاشرت و تعلقات اور معاملات کے بارے میں وہ مفید اجزاء اور پہلو بھی آگئے ہیں، جو گھر کا کوئی فرد ہی پیش کر سکتا ہے۔

لیکن راقم اپنے ان سارے اعترافات اور شہادتوں کے ساتھ یہ لکھنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ تحریک آزادی کے بحرانی دورِ مسلم لیگ کے داعیوں اور رہنماؤں کے طرز عمل، قیام پاکستان کے داعیوں اور رہنماؤں کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، اور جن جذبات کا اظہار کیا گیا ہے، اسی طرح علامہ اقبال، علامہ شبلی نعمانی، اور حضرت حکیم الامت مولینا تھانوی، مولینا شبیر احمد صاحب عثمانی، دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے ذمہ داروں اور منتظمین، اور ان بعض شخصیتوں کے بارے میں جن سے مولینا کو فکری و نسلی بنیاد پر اختلاف تھا، جس انداز میں تنقید کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، اس کو اگرچہ ایک پروردہ نعمت اور سرشار عقیدت فرد خاندان

کی کسی حد تک نفسیاتی، خاندانی اور فکری ہم آہنگی پر معمول کر کے اس کی تاویل کی جا سکتی ہے، لیکن راقم اس کے بارے میں اتنا لکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کو ان اثرات و تعلقات کے باوجود اس سے زیادہ محتاط اور نادر خانہ بنایا جا سکتا ہے اور مخالفین کے لئے تاویل اور عذر تلاش کرنے کی گنجائش ہے، ممکن ہے کہ مصنف عزیز وفاضل اس مشورہ پر غور فرمائیں، اور اس حصہ پر امکانی حد تک نظر ثانی کریں، لیکن یہ حقیقت بہر حال اپنی جگہ پر قابل اظہار و تشکر ہے، کہ اس کتاب میں وسیع پیمانے پر ایسے مواد و معلومات آگے ہیں جو آئندہ ہر سوانح نگار کے لئے چراغِ راہ اور رہنما ثابت ہوں گے، اور وہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ایک بڑی محنت، جستجو اور جوئے شیر لانے سے بچ جائے گا، اس بنا پر حضرت کے سب متقدین اور اس موضوع پر قلم اٹھانے والوں کو مصنف کتاب کا ممنون و شکر گزار ہونا چاہیے۔ شک، اللہ سعيہ و تقبل بحمودہ

البراحسن علی ندوی

دارہ شاہ علم اللہ
۲۸ ربیع الاول ۱۴۱۲ھ
۸ اکتوبر ۱۹۹۱ء

خاندان اور وطنِ اصلی

ملک اودھ کے سابق دارالسلطنت عروس البلاد فیض آباد سے کوئی چالیس میل دور مشرق میں دریائے گھاگھا کے کنارے پر ایک شہور مردم خیز اور زر خیز قصبہ ٹانڈہ آباد ہے۔ یہ مقام ہندوستان کے ان اہم اور متعدد مراکز میں شمار ہوتا ہے جہاں کپڑے کی صنعت صرف تجارت ہی نہیں بلکہ فن کی بنیادوں پر ترقی کرتی رہی ہے۔ زیادہ تر آبادی مسلمان ہے اور ان میں اکثریت اس عجمت کی ہے جس نے معاش اور معیشت کے لیے پارچہ بانی کی صنعت میں نام پیدا کیا ہے۔ یہ فن کار ہر زمانے میں نئی نئی فنئی اور صنعتی ایجادات کرتے رہے ہیں۔ ان میں بعض خاندان اور افراد ایسے بھی ہوئے ہیں جو ہندوستان گیر شہرت اور اہمیت کے مالک ہوئے اور کپڑے کی صنعت میں ان کا نانی نہیں پیدا ہو سکا۔ یہ طبقہ تعلیم، تمدن، ذہانت، شرافت، دین داری، فن کاری، وضع داری اور دیانت داری جیسی اعلیٰ صفات سے متصف ہے۔ قصبے میں ان کے اور بعض دوسرے مسلم طبقات کے علاوہ معدودے چند گھرانے شیوخ اور سادات کے بھی آباد ہیں۔ اب سے کچھ دنوں پہلے تک قصبہ بلکہ ضلع اور پورے علاقے کی دینی سرپرستی، اخلاقی اور معاشرتی تربیت اور ذہنی و روحانی سیادت انہی شیوخ اور سادات میں مرکوز چلی آتی تھی۔ یہاں کے عوام و خواص ہمیشہ ان کی عزت و احترام کرتے رہے تھے اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے رہے تھے۔ آج بھی ان خاندانوں اور ان کے افراد کا نام ادب و لحاظ کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض حضرات دور دراز تک مشہور رہے۔ بعض ہندوستان گیر شہرت کے مالک ہوئے اور بعض حضرات ساری دنیا میں

لے اب یہ ملک ختم ہو چکا ہے اور ہندوستان کے صوبہ یو۔ پی کا ایک حصہ ہے۔

مقبول و محبوب ثابت ہوئے۔

انہی میں ایک "شاہ نور میاں" کا خاندان ہے۔ آپ کا پورا نام شاہ نور الحق قادری چشتی سہروردی ہے۔ اور مقبرہ قبصے سے متصل ایک گاؤں اللہ داد پور میں زیارت گاہِ خلافت ہے۔ شاہ صاحب بڑے ولی اللہ، صاحب کشف و کرامات اور فنا فی اللہ بزرگ تھے۔ آپ کسی دوسرے ملک سے سلاطین شرق جو نپور کے زمانہ عروج میں پسند رہوئیں صدی کے اواخر میں نانڈہ وارد ہوئے تھے۔ کوئی متعین تاریخ آپ کی آمد کی نہیں مانتی، مگر حضرت شیخ مدنی نے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ تقریباً چار سو برس سے نانڈہ آپ کے خاندان کا مسکن ہے۔ اس حساب سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کی آمد ۱۵۷۵ء کے آس پاس کسی وقت ہوئی ہے۔ نانڈہ میں آپ کے فیضِ عام کی شہرت ہوئی اور خلقت کو آپ کی ذات سے رشد و ہدایت ملی تو عوام و خواص کا رجوع عام ہوا اور خانقاہ میں شب و روز ازدحام رہنے لگا۔ اس وقت نانڈہ میں راج بھر قوم کا کوئی راجہ بربر حکومت و اقتدار تھا۔ اس کی حکومت اور مطلق العنانی میں آپ کے معتقدین اور مریدین کے اجتماعات سے خلل انداز ہی ہوئی تو اُس نے شاہ صاحب کو نکالنے کی تدبیریں کیں۔ شاہ صاحب نے اُس کو راہِ راست پر لانے اور سلامت رومی پر مائل کرنے کے لیے اسلام کی دعوت دی۔ اس پر وہ ایک بے سرو سامان بوریہ نشین فقیر کے درپے آزار ہو گیا اور قوت و شوکت اور ہتھیار کے ساتھ شاہ صاحب کی روحانیت اور توکل علی اللہ کے مقابلے پر آیا۔ شاہ صاحب نے اعانتِ غیبی طلب کی۔ طوفان و زلزلے نے اس کے پورے قلعے کو جشیم زدن میں مسمار کر دیا۔ صرف بنیادیں رہ گئیں جو ہنوز باقی ہیں۔ راج بھر وہاں سے فرار ہو گئے۔ شاہ صاحب نے بستی کا نام اللہ داد پور رکھا۔ آپ کا مزار اسی قلعے میں ہے۔

آج سیکڑوں برس بعد بھی یہاں آپ کے خاندان کے لوگ آباد ہیں جن میں

خال خال اولادِ ذکور اور اکثریت اولادِ اناث کی ہے۔

شاہ صاحب اور ان کے بعد آپ کے مریدین و منتسبین اسی قلعے میں دفن ہوتے رہے اور آج بھی آپ کے مرحومین اہلِ خاندان، ساکنانِ اللہ دادپور اسی میں آسودہ خاک ہوتے ہیں۔ رحمہم اللہ۔

شاہ صاحب کا شجرہ نسب، خاندانی تاریخ، منشا و مولد کے حالات مردور زمانہ کے ہاتھوں ضائع و برباد ہو گئے، اس لیے قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے۔ حسبِ نسب کیا ہے اور خاندانی حالات کس طور پر ہیں۔ مگر تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب صحیح النسب سید اور حسین الاحقرین امام زین العابدین کی اولاد میں ہیں اور آپ کے اجداد میں حضرت سید محمد مدنی عرف سید ناصر ترمذی مدینہ طیبہ سے ترمذ تشریف لائے اور ان کی اولاد میں حضرت مخدوم سید احمد توختہ تمثال رسولِ قدس اللہ سرہ العزیز ترمذ سے لاہور آئے اور آپ کی اولاد میں سید شاہ زید بن سید شاہ احمد شاہ نور الحق کے جدِ اعلیٰ ہیں۔ شاہ زید سے اوپر تک کا پورا شجرہ نسب محفوظ ہے۔ اور شاہ نور الحق صاحب سے نیچے تک موجود ہے۔ لیکن شاہ زید اور شاہ نور الحق قدس اللہ سرہما العزیز کے درمیان کی دو یا تین کڑیاں ابھی تک نہیں مل سکی ہیں۔ ان دو تین نسلوں پر زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو برس کا عرصہ گزرا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے ممکنہ حد تک شجرے کی تحقیق فرمائی ہے مگر اس کے لیے جس فراغت اور فرصت کی ضرورت تھی وہ عمر بھر حضرت کو حاصل نہ ہوئی اس لیے کسی قدر کمی رہ گئی۔ نقشِ حیات میں مذکور ہے :

”موزان سادات نانڈہ ضلع فیض آباد و سادات موسیٰ و سادات بھوکر و سادات ملو پور پرگنہ کا دی پور ضلع سلطان پور و سادات راسے پور و سادات کمال پور بکنی و سادات منڈیا ہو پرگنہ خاص و سادات دیوگاؤں پرگنہ خاص سادات آں بسیار نجیب اند و اکثر در قبائل ایشاں صاحب جاہ و جلال بوداند۔ و در ریادت ایشاں بیج شکے نیست۔“

”ساداتِ ٹانڈہ وغیرہ۔ حضرت سید احمد توختہ تمثالِ رسولؐ کی اولاد میں ہیں۔“

اور شجرہ یہ ہے :

سید شاہ زید بن سید شاہ احمد بن سید شاہ حمزہ بن سید شاہ ابوبکر ابن سید شاہ عمر
بن سید شاہ محمد بن حضرت مخدوم سید شاہ احمد توختہ تمثالِ رسول (علیہ السلام) بن سید علی
بن سید حسین بن سید محمد مدنی المعروف بہ سید ناصر ترمذی بن سید حسین بن سید موسیٰ حمصہ
بن سید علی بن سید حسین اصغر بن حضرت امام علی زین العابدین ابن شہید کربلا حضرت
امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام

”حضرت مخدوم سید نور الحق چشتی ٹانڈوی قدس اللہ سرہ العزیز حضرت سید احمد
توختہ تمثالِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تھے اور وہ سید محمد مدنی المعروف بہ
سید ناصر ترمذی کی اولاد سے تھے۔ اور وہ حضرت سید حسین اصغر بن حضرت امام
علی زین العابدین ابن شہید کربلا حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہم السلام کی اولاد
سے تھے۔ متفق علیہ نساہین ہے۔ (عمدۃ الطالب، منبع الانساب، کنز الانساب
ائمۃ الہدیٰ، تاریخ آئینہ اودھ)“

”سید محمد مدنی عرف سید ناصر ترمذی سے تشریف لائے اور ان کی اولاد سے
حضرت مخدوم سید احمد توختہ تمثالِ رسول (علیہ السلام) لاہور تشریف لائے
اور ۶۲۰ھ میں وصال ہوا۔ لاہور میں ان کا مزار ہے۔ ان کی اولاد میں سید
شاہ زید بن سید شاہ احمد زاہد مورث ساداتِ ٹانڈہ وغیرہ کے ہیں۔“
”اس نسب نامہ اور دیگر احوال کی تفصیل مذکور حضرت شاہ ولایت احمد
صاحب لاہر پوری کی مساعی جمیلہ سے حاصل ہوئی ہیں جس کے لیے ہم نہایت
شکر گزار ہیں۔ جزاہم اللہ خیر الجراء۔“

موصوف تحریر فرماتے ہیں :

”بڑی محنت اور تحقیق سے جو حالات شجرہٴ نسب حضرت شیخ الاسلام دریافت

ہوئے وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ افسوس کہ سید شاہ زید بن سید شاہ احمد زاہد کے
بچے کا سلسلہ دریافت نہ ہو سکا۔

فقیرہ نسب حضرت شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز
امام مظلوم نواسہ رسول شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ

سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ — سیدنا امام حسین اصغرؓ — سید علیؑ — سید موسیٰ
حمصہ — سید حسین — سید محمد مدنی عرف سید ناصر ترمذی — سید حسین — سید علی —
مخدوم سید شاہ احمد توختہ تمثال رسول — سید شاہ محمد — سید شاہ عمر — سید شاہ ابوبکر —
سید شاہ حمزہ — سید شاہ احمد زاہد — سید شاہ زید شاہ نور الحق —
شاہ محمد زاہدی — شاہ عبد الواحد — شاہ راجو — شاہ منور — شاہ قلندر —
شاہ لدھن — محمود — شاہ محب اللہ — شاہ صفحہ اللہ — شاہ خیر اللہ —
شاہ محمد ماہی — شاہ مدن — سید شاہ نور اشرف — سید جہانگیر بخش — سید
پیر علی — سید حبیب اللہ مہاجر مدنی — شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی ،

شاہ نور الحق قدس اللہ سرہ العزیز کی اولاد میں چودھویں پشت، شاہ نور اشرف
تک تمام حضرات بڑے صاحب فضل و کمال، ادیباء اللہ اور خدائیدہ بزرگ ہوتے رہے۔
ہر بیٹا مندرشد و ہدایت پر باپ کا خلیفہ و جان نشین ہوتا رہا۔ اللہ داد پور کی خانقاہ طالبین
حق اور اہل باطن کے لیے مرکز و مرجع شمار ہوتی رہی۔ عوام کا تو ذکر کیا خواص بلکہ انھیں انھیں
تک اس درجہ معتقد اور مرید رہے کہ سلاطین دہلی میں سے کسی بادشاہ غالباً ہمایوں یا اکبر
نے اوائل سوٹھویں صدی میں خانقاہ کے مصارف کے لیے چوبیس گاؤں پر مشتمل ایک
علاقہ عطیہ و ہدیہ پیش کیا تھا۔ کاغذات ضائع ہو جانے کی وجہ سے یہ تحقیق باقی نہیں رہی کہ
کس زمانے میں اور کس بادشاہ نے یہ عطیہ دیا تھا۔

۱۸۵۷ء تک پہنچتے پہنچتے اللہ داد پور کی خانقاہ کے انوار و برکات ماند پڑ چکے تھے۔

خاندان میں دینی، روحانی اور اخلاقی زیادت و تفوق کی جگہ دنیا داری اور حرص و طمع نے لے لی۔ گیارہ گاؤں خاندان کے قبضے سے نکل گئے اور جو تیرہ گاؤں باقی بھی تھے۔ ان پر اہل خاندان کا مالکانہ قبضہ و تصرف جاری ہو گیا تھا۔ خاندان کا ذریعہ معاش زمینداری اور پیری مریدی تھا لیکن رشد و ہدایت سے خالی ہو جانے کی وجہ سے اور گردشِ ایام سے علاقہ ہاتھوں سے تبدیل نکل جانے کی وجہ سے آمدنی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی اور گذر اوقات کی تنگی ہو گئی تھی۔ اس پر مزید مصیبت یہ کہ افراد خاندان و بانی امراض ناگہانی حادثات اور دشمنوں کی تاخت و تاراج کی نذر ہو گئے تھے۔ آخر آخر میں خاندان کے صرف ایک بزرگ سید اکبر علی صاحب مرحوم باقی بچے تھے۔ آپ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے حقیقی نانا تھے اور خاندان کی تربیت، جائداد کی نگرانی اور علاقے کے انتظامات کی ذمہ داری صرف انہی پر منحصر رہ گئی تھی۔ مگر بد قسمتی سے آپ بھی بڑے نازک دور میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شہر نانڈہ سے ملا ہوا دریائے گھاگرا بہت تیز رو اور بے راہ رو دریا ہے۔ ہر سال اس میں سیلاب آتا ہے اور گاہے گاہے یہ پوری پوری آبادیوں اور بستیوں کو نکل لیتا ہے۔ باشندگان نانڈہ اضلاع بستی۔ گورکھپور وغیرہ کے سفر میں اکثر اسی دریا کو عبور کر کے قطع مسافت کرتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے آخری ایام میں سید صاحب موجودہ ضلع بستی کے اپنے بارہ مواضعات کی نگرانی کے سلسلے میں اسی دریا میں کشتی کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ بیچ دھارے میں پہنچے تو کشتی کو طوفان اور تیز دھارے نے گھیر لیا اور کشتی الٹ گئی۔ آپ تلوار لے کر دریا میں کود گئے اور تیر کر دریا پار کرنے کی کوشش کی۔ بہاؤ تیز اور کنارہ دور تھا۔ ہر چند ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی اور ڈوب کر واصل بحق ہو گئے۔ خاندان کا حال پہلے ہی ابتر تھا۔ سید صاحب آخری مرتبہ خاندان اور سرپرست تھے۔ اب ننھے ننھے بچے اور کمزور خواتین بالکل ہی بے سہارا رہ گئیں۔

• قرب و جوار میں اپنے حلیفوں کے ساتھ بھٹیٹی (BHEETY) کا راجہ قدیم زمانے سے

درپے آزار تھا مگر سید صاحب کی دلیری، بہادری اور جلالِ شان کے آگے ان کی ایک نہ چلتی تھی اور بارہا زک اٹھا چکے تھے۔ اب اس موقع کو غنیمت جانا اور اعلان کیا کہ اکبر علی کے کسی بچے کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس کے حملے کی تیاریوں کی خبر سن کر حسنان کی عورتیں ننھے بچوں کو لے کر راتوں رات کسی طرح بچ بچا کر اور چھپ کر شہرِ ٹانڈہ کے ایک محلہ قصبہ میں اپنے اعزہ کے یہاں پہنچ کر پناہ گزین ہوئیں۔ اسے دوسرے دن ان کے صحیح و سلامت نکل جانے کا علم ہوا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور حویلیوں کے تالے توڑ کر دروازے اکھاڑ کر اور دیواریں ڈھا کر مال و متاع لوٹنا شروع کر دیا اور مہینوں تک گاڑیاں بھر بھر سامان اور اسباب منقول کرتا رہا۔ یہی وہ وقت تھا جب شاہ نور الحقؒ کا خاندانی شجرہ، قدیم تحریریں، تاریخیں اور یادگاریں، سلطانی وثیقے اور شاہی فرامین صدیوں پرانے کاغذات اور مستندات غرض سب کچھ دست برد ہو گیا۔ خاندانی علاقہ جو گردشِ ایام کے ہاتھوں سے بچ رہا تھا اس میں سے بیشتر پر یانسی اور بھیٹی کے اجاڑنے نے قبضہ کر لیا۔ ان ستم رسیدہ پناہ گزینوں میں سید صاحب کے تین صاحب زادگان اور

لے سید اکبر علی صاحب کے تین صاحب زادگان سید عبدالغفور، سید تصدق حسین اور سید تفضل حسین تھے۔ ایک صاحبزادی تھیں۔ صاحبزادی صاحبہ نور النساءؑ مرحومہ مولوی حبیب اللہ صاحب مرحوم کی اہلیہ اور حضرت شیخ الاسلام کی والدہ تھیں۔ صاحبزادوں میں عبدالغفور لاؤلفوت ہوئے۔ تفضل حسین کے دو صاحبزادے زوار حسین اور جواد حسین تھے۔ ڈاکٹر زوار حسین صاحب کے صرف ایک صاحبزادے سید انوار حسین صاحب دم تحریر بقید حیات ہیں۔ ان کے دو صاحبزادگان ڈاکٹر سید حبیب احمد سول سرجن اور سید حمید احمد بقید حیات اور صاحب اولاد ہیں۔ متعدد صاحبزادیاں ہیں۔ سید جواد حسین مرحوم کے دو صاحبزادے سید افتخار حسین آئی، اسے ایس ریٹائرڈ اور سید امتیاز حسین مرحوم تھے۔ مقدم الذکر احمد اللہ بقید حیات ہیں

ان کے پانچ صاحبزادگان سید بشیر احمد ہلال، نسیم احمد جمال، نصیر احمد نہال، کبیر احمد ہلال، در نسیم احمد جلال ہیں۔ ان کے علاوہ تین لڑکیاں ہیں۔ موخر الذکر کے صاحبزادگان اقبال نکمال، تقدیر و صیغہ اور دو لڑکیاں ہیں (دیکھیے ص)

عہد روایت مولانا سید حبیب محمود احمد صاحب مدینہ طیبہ نیرہ مولوی شاہ حبیب اللہؒ۔

حضرت مخدوم شاہ نور الحق صاحب کی سترھویں اور شاہ نور اشرف صاحب کی چوتھی پشت میں سید پیر علی صاحب مرحوم و مغفور کے دو صاحبزادگان بھی تھے جن میں سے ایک کا نام حبیب اللہ تھا۔ یہی وہ حبیب اللہ ہیں جو آگے چل کر مولوی شاہ سید حبیب اللہ صاحب ہماجد مدنی کہلائے اور انہی کے صلب سے حضرت شیخ الاسلام مرشد کامل مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ تولد ہوئے۔

مولوی سید حبیب اللہ صاحب

آپ کی ولادت اللہ داد پور تحصیل ٹانڈہ ضلع فیض آباد ملک اودھ میں ۱۸۵۴ء سے چار پانچ برس پہلے ہوئی۔ ۱۸۵۴ء کے انقلاب کے حالات آپ کو بچپن کے دھندلے نقوش کی طرح یاد تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت گھر کے معاشی، اقتصادی، علمی اور روحانی حالات بہت کمزور ہو چکے تھے۔ دشمنوں نے جو لوٹ مار اور غارتگری کی تھی۔ اس کے بعد خاندان میں صرف دو گاؤں جڑاون پور اور اللہ داد پور بچے تھے۔ اس غارتگری سے پہلے جو مرفہ الحالی

(ص سے آگے) سید تصدق حسین مرحوم کے چار صاحبزادے سید مقبول احمد، سید خلیل احمد، سید فاروق احمد، سید بخشش احمد مرحومین تھے۔ مقبول احمد صاحب اپنے مریدوں میں صوبہ بہار میں جا بسے تھے۔ وہاں صاحب اولاد ہو کر فوت ہوئے۔ خلیل احمد صاحب کے دو صاحبزادیاں شاکرہ اور ذاکرہ مرحومین تھیں۔ ذاکرہ کے کوئی نہیں تھا۔ شاکرہ کے دو بچے عزیزان طفیل اور عبدالمعبدو صاحب اولاد ہیں۔ فاروق احمد وہ ہیں جن سے مدینہ میں حضرت شیخ الاسلام کی بہن منسوب ہوئیں مگر بعد میں مفارقت ہوئی۔ ان کے دوسری بیوی کے دو لڑکے پاکستان چلے گئے، ایک ہندوستان میں ہیں۔ بخشش احمد صاحب مرحوم کے دو لڑکے سید مسعود احمد صاحب اور سید جمیل احمد صاحب بقصد حیات اور صاحب اولاد ہیں۔ تصدق حسین کے دو لڑکیاں صابرہ خاتون اور کنیز فاطمہ تھیں صابرہ خاتون کے ایک لڑکے محمد علیین اور کنیز فاطمہ کے تین صاحبزادگان سید توکل حسین صاحب، مولانا عزیز احمد قاسمی اور مولوی مشتاق احمد صاحب، صاحب اولاد اور ترقی پذیر ہیں۔ سید اکبر علی صاحب مرحوم کی یہ جملہ اولادیں اب دہلی، لکھنؤ، دیوبند، بنارس، پاکستان، بہار وغیرہ میں پھیل گئی ہیں۔ لے نقش حیات، ج ۱، ص ۲۵

اور فارغ البالی گھر میں تھی اس کے نقوش بھی آپ کے ذہن میں باقی تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایشیائے خورد و نوش اور مٹھائیوں کے مثلے بھرے رہتے تھے۔ آپ کے دو بھائی اور بھی تھے جن میں ایک سید نجیب اللہ صغریٰ میں ذخیرہ آخرت ہوئے دوسرے سید اشرف علی صاحب تھے جن کی اولاد آج بھی اللہ داد پور میں آباد ہے۔ مولوی صاحب کے والد سید پیر علی صاحب کے دو بھائی سید نواز ش علی اور سید تیغ علی اور بھی تھے۔ دونوں لاولد فوت ہوئے۔ تیغ علی صاحب نے آپ کو گود لے لیا تھا اور نہایت محبت و شفقت کے ساتھ پرورش شروع کی تھی۔ قضا و قدر سے کس کو چارہ ہے۔ مولوی صاحب چار پانچ برس کی عمر کو پہنچے تو ۱۸۵۷ء تک ان کے والد اور دونوں چچا آپ کو یتیم چھوڑ کر جواری رحمت میں جا بسے۔ اب دونوں بچوں کا بار والدہ اور دو بڑی والدائوں پر آپڑا۔ تنگ دستی اور عسرت تو تھی ہی۔ اب بڑی محرومی یہ پیش آگئی کہ گھر میں کوئی مرتی اور سرپرست نہیں رہا۔ مولوی صاحب کی بڑی والدہ جنھوں نے آپ کو گود لے لیا تھا، کافی عمر تک زندہ رہیں۔ حضرت شیخ الاسلام نے اپنی ان دادی کو دیکھا تھا۔ فرماتے تھے کہ ہماری منجھلی دادی کہا کرتی تھیں کہ میں نے حبیب اللہ کو بڑی تنگ دستی میں چر حسہ کات کر پالا ہے۔ حالات کی سختیوں، بیچارگی اور در ماندگی نے یتیم حبیب اللہ کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع نہیں دیئے۔ مگر ناموافق حالات اور نامساعد ماحول میں بھی آپ نے اپنی ذاتی کوششوں اور خداداد صلاحیتوں کے سہارے جس حد تک تعلیمی ترقی کی، وہ قابل تعریف و تحسین ہے۔ پہلے آپ نے مقامی درسگاہ میں اس زمانے کے دستور کے مطابق اُردو، فارسی اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور اتنی قابلیت اور دستگاہ حاصل کی کہ انشا پر دازی اور فارسی زبان میں شعر کہنے لگے۔ فارسی دانی اس وقت میں قابلیت کا معیار شمار ہوتی تھی کیوں کہ کچھ ہی دنوں پہلے تک یہ حکومت کی سرکاری زبان تھی۔ اس کے

۱۔ سید اشرف علی صاحب مرحوم کے دو صاحبزادے تھے۔ سید ظہیر الدین اور سید بشیر الدین مرحومین۔ سید ظہیر الدین کے صرف ایک صاحبزادی تھیں۔ جن کے لڑکے ملک زادہ منظور احمد شہر و معروف ہیں۔ سید بشیر الدین کے ایک صاحبزادے مولوی سید فضل الرحمن ہیں۔

بعد آپ نے سرکاری اسکول سے مڈل اسکول کا امتحان پاس کیا۔ علمی ذوق اور فطری ذہانت اس امر کی مقتضی تھی کہ تعلیم جاری رکھی جائے۔ کوئی سرپرہا تھہ رکھنے والا اور سہارا دینے والا ہوتا تو یقین ہے کہ علمی اور معاشی میدان میں غیر معمولی ترقی کرتے۔

مگر افلاس اور تنگدستی کے بے رحم ہاتھوں نے مزید ترقی کے راستے سدود کر دیئے۔ اور ٹانڈہ سے قریب آٹھ میل کے فاصلے پر ایک قصبہ التفات گنج میں پرائمری اسکول کی ملازمت کرنی پڑی۔ آٹھ روپے ماہوار تنخواہ ملے پائی۔ اس وقت یہ رقم آسودہ حالی کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ اس قلیل تنخواہ سے بڑی حد تک فراخی اور فارغ البالی آگئی۔ مولوی صاحب اب اٹھارہ برس کے ہو گئے تھے۔ کچھ اطمینان نصیب ہوا تو بڑی والدہ صاحبہ نے جنھوں نے پرورش کی تھی، شادی کر دینی ضروری سمجھی۔ گھر ہی میں سید اکبر علی مرحوم کی بلند اقبال صاحبزادی موجود تھیں۔ ان کی والدہ موضع ندرولی ضلع فیض آباد کے ایک نجیب الطرفین سید گھرانے کی لڑکی تھیں۔ والدہ کے ماموں بڑے ولی اللہ کامل، صاحب علم اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ موصوف نے بھانجی کو اردو، ہندی، فارسی وغیرہ کے علاوہ اشغالِ تصوف اور روحانی تربیت سے بھی بہرہ ور کیا تھا۔ وہ کشف قبور اور مکاشفات میں کامل تھیں اور ذکر و شغل میں مصروف رہتی تھیں۔ انھوں نے صاحبزادی کو بھی زیورِ تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا تھا۔ علاوہ اردو فارسی کے ہندی زبان میں بھی راج الوقت کتا ہیں، ہنس جواہر اور ملک محمد جائسی کی پدمات وغیرہ پڑھائی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اشغالِ روحانیہ اور تصوف کا ذوق بھی پیدا کر دیا تھا۔ اُس زمانے کے شرفاء میں اپنے ہی خاندانوں اور گھرانوں میں شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ مولوی صاحب کا پیغام بھی سید اکبر علی کی صاحبزادی نور النساء سے دیا گیا اور آپ کی بڑی والدہ صاحبہ نے اس کے لیے بری کوشش کی۔ آخر بڑی جدوجہد کے بعد یہ پیغام منظور ہوا۔ اٹھارہ برس کی عمر میں جب صاحبزادی چودہ برس کی تھیں، مولوی صاحب کی شادی ہو گئی۔ اخراجات

اور ضروریات بڑھیں تو آپ کو آمدنی اور ملازمت میں ترقی کی فکر ہوئی۔ مگر اس کے لیے تعلیمی اسناد کی ترقی پہلے ضروری تھی۔ چنانچہ نارمل اسکول کا امتحان دینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت پورے ملک اودھ میں نارمل اسکول صرف لکھنؤ میں تھا۔ چنانچہ آپ وہاں چلے گئے اور امتیازی حیثیت سے یہ امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ضلع اناؤ کے قصبہ صفی پور میں تیس روپے ماہوار پر ڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہو گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد اسی ضلع کے بانگرہ منو قصبہ میں ٹرانسفر ہو گیا۔

یہی وہ مقام ہے جہاں شیخ الاسلامؒ کی ولادت باسعادت ہوئی اور یہیں پر مولوی صاحب کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہوا۔ قریب ہی گنج مراد آباد میں حضرت مولینا شاہ فضل رحمن صاحب کی مرجع خلافت خانقاہ تھی۔ حضرت اپنی فیض رسانی، تعلق مع اللہ، کشف و کرامات اور تقویٰ و للہیت کی وجہ سے عوام و خواص ہر طبقے میں بے حد مقبول و محبوب تھے۔ غیر مسلمین اور عیسائی انگریز عہدہ داران حکومت تک آپ کے حضور میں حاضر اور فیضیاب ہوتے تھے۔ شہرہ اور چرچا سن کر مولوی صاحب بھی دربار میں حاضر ہوئے اور معتقد ہو گئے۔ آپ کی خوشدامن چون کہ خود صاحب معرفت بزرگ تھیں اور تصوف کی قدر و قیمت پہچانتی تھیں اس لیے برابر اصرار کرتی رہتی تھیں کہ تمہارے خاندان سے روحانی ترقی اور نسبت ادلیا، ختم ہو گئی ہے اور بغیر بیعت و خلافت کے مرید کرنا بڑی معصیت اور مواخذہ آخرت کا سبب ہے۔ تمہارے خاندان کے لوگ بلا کسی نسبت و خلافت کے پیری مریدی کرتے ہیں مگر تمہیں کسی مرشد کامل سے تعلق پیدا کر کے اصلاح باطن اور تربیت روحانی کی طرف پوری توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب کی محبت اور عقیدت مولوی صاحب کے دل میں پہلے ہی جاگزیں تھی۔ خوشدامن صاحبہ کے اصرار اور نصیحت سے طبیعت میں مزید جلا پیدا ہو گئی۔ خاندان میں یہ دستور تھا کہ کوئی فرد اپنے گھرانے سے باہر مزید نہیں ہوتا تھا، مگر باوجود اہل خاندان کی مخالفت اور ناگواری کے آپ مع اپنی اہلیہ محترمہ کے

حضرت شاہ افضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی سے بیعت ہو گئے، یہ
 نانڈہ کی بیشتر آبادی انصاری جماعت پر مشتمل ہے۔ اس لیے بانگر مو اور اناؤ
 کے لوگ آپ کی نسبت بھی یہی خیال کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مولانا نے جلسہ
 مجلس میں فرمایا کہ :

”مولوی صاحب بڑے پیرزادے اور صحیح النسب سید ہیں۔ آپ کے جدِ علی
 مخدوم سید شاہ نور الحق قدس اللہ سرہ العزیز بڑے عارف باللہ اور ولی اللہ
 بزرگ تھے۔ میں نے رات خواب میں ان کی زیارت کی اور انہوں نے فرمایا
 کہ میرے بیٹے حبیب اللہ کا خیال رکھنا۔ یہ
 آپ کا شجرہ شاہ نور الحق صاحب تک مندرجہ ذیل ہے :

سید حبیب اللہ بن سید پیر علی بن سید جہانگیر بخش بن شاہ نور اشرف بن شاہ
 مدن بن شاہ محمد ماہی بن شاہ خیر اللہ بن شاہ صفت اللہ بن شاہ محب اللہ بن شاہ محمود
 بن شاہ لدھن بن شاہ قلندر بن شاہ منور بن شاہ راجو بن شاہ عبد الواحد بن شاہ محمد اہدی
 بن شاہ نور الحق رحمہم اللہ تعالیٰ۔

حضرت گنج مراد آبادی بڑے صاحب کشف اور مستجاب الدعوات تھے۔ اس کا
 بارہا تجربہ ہو چکا تھا کہ حضرت کا فرمایا ہوا پورا ہوتا ہے اور آپ کی بات صحیح اور سچی ہوتی
 ہے۔ اس لیے اس اعلان کے بعد مولوی صاحب کے نجیب الطرفین سید ہونے کی حقیقت
 لوگوں میں مسلم الثبوت ہو گئی۔ اس کے علاوہ دوسرے قرائن اور دلائل سے بھی آپ کا
 صحیح النسب سید ہونا معلوم و مشہور ہے۔ اودھ کے بادشاہ آصف الدولہ مرحوم کے زمانے
 سے ملک میں اعلیٰ حسب و نسب کے شیعہ حضرات آباد ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب کی رشتہ داریاں
 فیض آباد، سلطانپور، نانڈہ وغیرہ کے مضافات میں اعلیٰ درجے کے شیعہ و سنی خاندانوں میں قدیم
 زمانے سے چلی آرہی تھیں۔ آپ کے گھرانے کے تعزیر اور مہندی کا جلوس محرم میں پورے شہر

میں گشت کرتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مدنیؒ کے ایک نانا سید حسن علی شاہ نے اپنے صرف خاص سے ایک امام باڑہ بھی بنوایا تھا جو آج تک موجود ہے۔ خاندان کے چند بزرگوں کے اثر سے خاندان سنی مسابک پر قائم رہا اور بڑی حد تک شیعہ خاندانوں سے قرابت داریاں ختم ہو گئیں تاہم کسی حد تک اب بھی باقی ہیں۔ مختصر یہ کہ اودھ میں یہ خاندان برابر سادات کا خاندان شمار ہوتا آیا ہے۔

مولوی صاحب اپنی طبعی خصوصیات، تقویٰ، دینداری، امانت و دیانت، حسنِ کارکردگی، پابندی اوقات اور نسبی تفوق کی بنا پر بانگر مٹو کے قیام کے زمانے ہی میں بہت مقبول و مشہور ہو گئے تھے۔ ذمہ دارانِ محکمہ اور افسرانِ متعلقہ آپ سے بہت متاثر اور مہربان ہو گئے تھے۔ آپ کی مقبولیت اور صلاحیتوں کے پیش نظر مخلصین معاصرین نے مشورہ دیا اور ذمہ داران نے اشارہ کیا کہ اگر آپ انگریزی پڑھ لیں تو اعلیٰ مناصب تک پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کے کہنے سے انگریزی شروع بھی کی۔ مگر اس کے بعد زہد و قناعت کا مزاج اس سے مطابقت نہ کر سکا اور انگریزی ترک کر دی۔ وطن میں مولوی صاحب کی جو بھی کجی کجی جانداد تھی وہ رہن تھی۔ بڑے بھائی نہ اس کو داگزار کرانے کی وسعت رکھتے تھے، نہ انتظام کر سکتے تھے اور نہ شرکاء اور اعزہ کی دست و برد سے حفاظت کر سکتے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے درخواست گزاری اور کوشش کی کہ آپ کا تبادلہ ٹانڈہ ہو جائے۔ مخلصین اور افسران نے سمجھایا کہ موجودہ حالات میں تبادلہ مفید نہیں ہوگا۔ بڑا نقصان یہ پیش نظر تھا کہ ٹانڈہ کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ صرف بیس روپیہ تھی جبکہ یہاں تیس روپیہ ماہوار مل رہے تھے۔ مگر مولوی صاحب نے اس فرق کو برداشت کیا اور آخر کار تبادلہ ٹانڈہ چلے آئے۔ وطن پہنچ کر آپ نے جانداد کے انتظامات نہایت سمجھ داری، ہوش مندی اور مستعدی کے ساتھ شروع کیے۔ پہلے تو قرض اُدھار لے کر ساری جانداد رہن سے چھڑوائی۔ اور پھر شرکاء اور اعزہ کی ریشہ دہانیوں کا سدباب کیا۔ اور پھر حسب قانون بند و بست و شریعت ساری جانداد تقسیم کی۔ اس طرح دونوں بھائیوں کو اطمینان اور فراغت نصیب ہوئی۔ بڑے بھائی

بھی کثیر العیال تھے اور آپ کے بھی تین بچے تھے۔ آبائی مکان سکونت کے لیے کافی نہ تھا۔ اس لیے موروثی اور جدی مکان سے الگ آپ نے اپنے لیے علیحدہ مکان بانگرمٹو کے زمانہ قیام ہی میں بنوایا تھا، جو نہایت فراخ و وسیع اور آرام دہ تھا۔ اب اس میں قیام پذیر ہو گئے۔ ان تمام امور سے فراغت پا کر اطمینان اور توجہ کے ساتھ بچوں کی تعلیم کا فکر کیا۔ اس وقت دو بڑے صاحبزادگان، حضرت مولینا صدیق احمد صاحب اور حضرت مولینا سید احمد صاحب مرحومین اسکول میں تعلیم پاتے تھے۔ تیسرے صاحبزادے شیخ الاسلام مدنی آج بھی چھوٹے تھے۔ دو بڑے صاحبزادوں کی تعلیم و تربیت آپ نے اس قدر اہتمام کے ساتھ فرمائی کہ دونوں نڈل اسکول کے امتحان میں تمام صوبہ میں اول آئے۔

سرکاری امتحانات میں اس قدر عظیم الشان کامیابی کے بعد ہر قسم کی اعلیٰ تعلیم کے وظائف کے اور اس کے بعد وقیع ملازمتوں اور ترقیات کے امکانات بہت روشن ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے مزید اقدامات کے لیے مشورے بھی دیئے اور ترغیب دی۔ مگر مولوی صاحب کا ارادہ اور فیصلہ یہ تھا کہ اولاد دینداری، تقویٰ اور علوم دینیہ میں ترقی اور کمال حاصل کرے۔ چنانچہ اس موقع پر آپ نے صاحبزادگان کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ”میں نے تم سبھوں کو اس لیے پرورش کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور کچھ کر کے شہادت حاصل کرو۔“ اس کے بعد آپ نے تینوں صاحبزادگان کو مدرسہ دیوبند میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبند کی کیمیا اثر تربیت اور دربارہ دار میں داخل کر دیا۔ کچھ فراغت، فرصت اور وسعت نصیب ہوئی تو آپ نے معاشی برتری اور جائیداد کی ترقی کی جانب توجہ دینے کا ارادہ کیا اور باغات لگانے کا پروگرام بنایا۔ عزم، ارادہ، حسن تدبیر اور نظم و ترتیب میں مولوی صاحب بڑی امتیازی شان کے مالک تھے۔ اگر اسی پروگرام پر قائم رہتے تو عجب نہیں کہ علاقے کے بڑے رئیس شمار ہوتے۔ مگر اسی دوران ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا جس سے آپ کا حوصلہ اور ارادے

متزلزل ہو گئے۔ آپ کو اپنے مرشد سے غایت تعلق تھا۔ مدتوں خدمت میں حاضر رہے تھے۔ ذکر و شغل اور معرفت کی دولت اسی دربار سے حاصل ہوئی تھی۔ حضرت بھی خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ نہ صرف دینی اور روحانی بلکہ دنیوی اور انتظامی معاملات میں بھی رہنمائی اور ہدایات سے بہرہ ور فرماتے تھے۔ آپ شیخ کے رنگ میں پورے طور پر رنگ گئے تھے اور فنا فی الشیخ کے درجے پر تھے۔ اچانک ۱۳۱۳ھ مطابق ۱۸۹۵ء میں مرشد حضرت مولانا شاہ فضل رحمن صاحب کا ایک سو پانچ برس کی عمر میں وصال ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ اس صدمے سے مولوی صاحب کے دل کی دنیا اُجڑ گئی۔ ارادے اور عزائم ختم ہو گئے۔ حوصلوں اور امیدوں کی عمارت زمین پر آ رہی۔ جو شب و روز جدوجہد اور مشغولیتوں میں گذرتے تھے، اب آہ وزاری اور اختر شماری میں بسر ہونے لگے۔ ان کیفیات کی اطلاع صاحبزادوں کو دیوبند پہنچتی رہی اور وہ حتی المقدور تسکین و تسلی کی کوشش کرتے رہے۔ آخر ایک بار منجھلے صاحبزادے مولانا سید احمد نے باپ کو خط لکھا ”میاں! اب باغ وغیرہ لگانے کی فکر بے کار ہے۔ ہندوستان اب رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ اب تو مدینہ منورہ چل بیسے!“ آپ کے دل میں آپچ تو سلگ ہی رہی تھی۔ صاحبزادے اور پھر عالم باعمل اولاد، شیخ کامل کے خصوصی شاگرد اور صحبت یافتہ لڑکے کا یہ اشارہ پاکر عشقِ محمدی کی آگ بھڑک اٹھی اور ایسا لگا کہ جیسے گوہر مقصود ہاتھ آ گیا ہو۔ ہمہ وقت مدینہ طیبہ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی رٹ لگ گئی۔

گھر میں سوائے منجھلے صاحبزادے کے اور بہر شخص اتنی عجلت میں اس قدر لمبے سفر کا مخالف تھا۔ بڑے صاحبزادے کا کہنا تھا کہ سلوک و تصوف میں میری تربیت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے شیخ حضرت گنگوہی سے بھی شکایت کی مگر حضرت نے فرمایا کہ باپ کی اطاعت ضروری ہے۔ ایسا ہی ہے تو اب چلے جاؤ پھر واپس آ جانا اور اشغال و اذکار مکمل کرنا۔ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ اُدیہ عذر تھا کہ میری فنون کی کچھ کتابیں باقی ہیں۔ اعزہ اور اقربا نے اصرار کیا کہ جانا ہی ہے تو اس بار حج و زیارت کر کے واپس آ جائیے

لہ قديم شرفنا کے دستور کے مطابق مولوی صاحب کو بچے ”میاں“ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ لہ نقش حیات، ج ۱

اور دو چار سال بعد گھر بار کو لے کر ہجرت کی نیت سے چلے جائے گا۔ سمدھیانے والوں نے اعتراض کیا کہ ہم اپنی بچیوں کو ہمیشہ کے لیے اتنی دور نہیں بھیج سکتے۔ عام لوگوں نے سمجھا یا کہ اس سال طاعون کی وبا کی وجہ سے ہندوستان کی ساری بندرگاہیں بند ہیں اور انتہائی دقتیں اور پریشانیاں پیش آرہی ہیں۔ مگر مولوی صاحب کی آتش شوق بھڑکتی ہی گئی اور کوئی دلیل کارگر نہیں ہوئی۔ سمدھیانے والوں سے فرمایا کہ جس کو اپنی لڑکی کو بھیجنے سے غدر ہو وہ طلاق لے لے۔ صاحبزادوں سے کہا کہ جس کی تعلیم و تربیت باقی رہ گئی ہو، وہ وہیں چل کر پوری کرے گا۔ اعزہ اقرار سے یہ کہا کہ آپ لوگ مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں مجھ کو اگر کہا جائے کہ تجھے توپ کے منہ پر باندھ کر گولہ چھوڑا جائے گا اور تو مدینہ طیبہ پہنچ جائے گا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔

سفر بھی معمولی نہ تھا۔ پانچ صاحبزادے، ایک صاحبزادی، تین بہوئیں، ایک پوتا اور دو میاں بیوی خود، کل بارہ افراد کا قافلہ تھا۔ سمندر پار کا سفر۔ نہ ریلیں ایسی مسلسل اور افراط نہ ڈیزل سے چلنے والے تیز رفتار جہاز، نہ راستے مامون و محفوظ، نہ آسٹن اور منظم قواعد و ضوابط۔ غرض قدم قدم مشکلات اور موانع کا ہجوم تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ اخراجات سفر کا تھا۔ عمر بھر کے لیے رخصت ہو رہے تھے۔ ہجرت کی نیت تھی۔ چلتے جی واپسی کا ارادہ بھی نہ تھا۔ پورے قافلے کے کثیر اخراجات تھے۔ ایسے میں خدا نخواستہ ضرورت پڑ جاتی تو کوئی قرض بھی نہ دیتا۔ کسی سے مدد لینا مولوی صاحب کے مزاج کے خلاف تھا۔ چنانچہ اپنی ساری جائیداد فروخت کر دینے کا فیصلہ کیا اور ٹانڈہ کے ایک رئیس راجہ علی حسین کے ہاتھوں تین ہزار روپیہ میں کل جائیداد فروخت کر دی۔ مکان کی قیمت اتنی کم لگی کہ فروختگی کا ارادہ ملتوی کر کے بعض اعزہ کو رہنے کے لیے عاریتاً دے دیا اور اواخر شعبان ۱۳۱۶ھ مطابق جنوری ۱۸۹۹ء میں اللہ کے بھر و سے ہر قافلے کا کوچ ہو گیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَہَا وَمَرَسَدُہَا اِنَّہٗ بِیْ لَغَفُوْرٍ الرَّحِیْمِ۔

مولوی سید شاہ حبیب اللہ صاحب کی ہجرت مدینہ

۶۱۸۹۹

یہ خاندان جو کم و بیش تیسری صدی ہجری میں مدینے سے نکل کر چار یا پانچ سو برس کے عبوری اسفار کے بعد ترمذ اور لاہور ہوتا ہوا ٹانڈہ آکر قیام پذیر ہوا تھا۔ آج او آخر شعبان ۱۲۱۶ھ میں تقریباً ایک ہزار سال بعد پھر اپنے موروثی وطن مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ مولوی سید شاہ حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ، صاحبزادگان والا تبار مولینا صدیق احمد، سید احمد، حسین احمد، جمیل احمد، محمود احمد، خورشید احمد، صاحبزادہ ریاض فاطمہ مرحومہ، تین بڑی بہنیں اور اہلیہ محترمہ کل بارہ نفر عازم سفر تھے۔ مولینا سید محمود احمد صاحب سات برس کے تھے اور مولینا وحید احمد صاحب کی عمر تین یا چار برس تھی۔ تین ہزار روپیہ تو جائیداد سے حاصل ہوا تھا اور کچھ پہلے کا پسماندہ بھی تھا۔ کل ملا کر پانچ ہزار کی رقم کھانے پینے، اخراجات سفر اور دوسری ضروریات کے لیے ساتھ تھی اور پھر منزل پر پہنچ کر بھی کچھ نہ کچھ رہنا ضروری تھا۔ ہم آج کے زمانے میں شاید اس حقیر سی رقم کی قیمت کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ تاہم آئندہ واقعات سے کچھ نہ کچھ تخمینہ سمجھ میں آجائے گا۔ اس سال طاعون کی وبا کی وجہ سے ساری بندرگاہیں بند تھیں۔ صرف چانگام کی گودی تھوڑی بہت کھلی ہوئی تھی۔ تھوڑی بہت اس لیے کہ مسافروں پر سوسو پابندیاں اور سختیاں تھیں اور بہت سے لوگ قدم قدم پر ان رکاوٹوں کی وجہ سے سفر سے پہلے ہی حوصلہ چھوڑ بیٹھتے تھے۔ ٹانڈہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا تو پہلی منزل الہ آباد کے قرظینہ کیمپ میں ہوئی۔ شہر کے باہر سنگم کے کنارے ایک کوٹھی میں علاقے کے سائے حجاج مجبوس تھے۔ باہر نکلنے، کسی کے ملاقات کرنے یا کوئی چیز خریدوانے منگوانے کی سختی سے ممانعت تھی۔ ہجرت کی اطلاع پا کر بہت سے لوگ مولوی صاحب کو الوداع کہنے اور

اُن سے ملنے کے لیے آئے۔ ان میں حضرت مولینا محمد حسین صاحب بھی تھے۔ آپ حضرت گنج مراد آبادی کے خلیفہ تھے اور بڑے اہل اللہ بزرگ تھے۔ چھوٹے بڑے امیر غریب سب آپ کو جانتے اور آپ کے معتقد تھے۔ مولینا کو بھی سعی و سفارش سے بس اتنی اجازت ملی کہ دروازے کے جنگلے سے دور کھڑے رہ کر دیکھ لیں اور دو باتیں کر لیں۔

قرنطینہ کیا ایک قسم کی سزا تھی کہ نئے نئے کپڑے بہوؤں اور بیٹوں کے ریشمی اور قیمتی ملبوسات، ادنیٰ اور سوتی جڑ اور دو دو بار دوا کے کھولتے ہوئے پانی میں پکائے گئے۔ نجانے جراثیم ختم ہونے کہ زندہ ہی رہ گئے۔ مگر کپڑے تو سارے کے سارے بے موت مر گئے۔ یہ ان حالات میں ایک دو نہیں پورے پندرہ دن اس قید میں رہ کر ۱۲ رمضان کو جب رہائی ہوئی تو اس طرح کہ پولیس کے پہرے میں ریل کے ایسے ڈبے میں سوار کر لئے گئے جس کی ساری کھڑکیوں میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور جس میں خطرناک قیدی سفر کر لئے جاتے تھے۔ دوران سفر بھی ڈبے میں پولیس کا پہرہ رہتا تھا اور اسٹیشن پر بھی دروازوں پر پہرہ ہوتا تھا۔ باہر نکلنے کی، کسی سے ملاقات کرنے کی اور کھانے پینے کی کوئی چیز خریدنے کی سخت ممانعت تھی۔ چائگام تک سارا سفر اسی قید و بند میں گذرا اور آخر ایک اسٹیشن پہلے پہاڑ تلی ریلوے اسٹیشن پر حجاج کو اتارا گیا۔ یہاں ایک خنس پوش بانس کی پردہ دار بیرک میں قیام کا انتظام تھا۔ یہاں قید و بند کی اتنی سختی تو نہ تھی مگر آزادانہ آمد و رفت کی یہاں بھی اجازت نہیں تھی۔ جہاز کے انتظار میں اس جگہ قافلے کو ایک ماہ تک قیام کرنا پڑا۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اس کیمپ کے نگران، انگریز فوجی افسر کے دل پر مولوی صاحب کے حسن اخلاق، پابندی اوقات اور سلامت روی کا بہت اچھا اثر پڑا، اُس نے دوران قیام بہت خدمت و رعایت کی۔

ایک ماہ کے طویل انتظار کے بعد بالآخر جب حاجی قاسم کمپنی کا جہاز "زبیدہ" چائگام پہنچا تو جہاز کے ذمہ داران سے مولوی صاحب کے آرام و راحت کی تاکید کی۔ چنانچہ جہاز کے سب سے اوپری طبقے کے وسطی حصے میں آپ کو ایک وسیع پردہ دار اور

ہوا دار کمرہ دیا گیا جس سے پورا بحری سفر آرام اور راحت سے کٹا۔ مگر سفر بھی کیسا بے آج جیسا نہیں کہ دہلی سے اڑے اور پانچ گھنٹے کے بعد جدہ اتر گئے۔ راستے میں کہیں رکنے اور انتظار کرنے کی آدھ پون گھنٹے کی بھی زحمت نہیں ہوئی۔ یا اگر بحری جہاز ہی سے آئے تو بھی بمبئی سے چلے اور بغیر کہیں رکنے ہوئے پچھٹے دن جدہ کے ساحل پر آ گئے۔ یہ جہاز پورے سترہ دن پانی میں تیرنے کے بعد عدن پہنچا اور عدن میں کچھ قیام کرنے کے بعد روانہ ہوا تو کامران میں لنگر انداز ہوا۔ یہاں حجاج کو جہاز سے اترنے کا حکم ہوا۔ اور پھر قرظینہ میں ڈال دیئے گئے اور ایک دو دن نہیں پورے دس روز کی قید با مشقت بھگتنی پڑی۔ ستم ظریفی یہ کہ دس روپیہ فی کس اس سزا کی فیس بھی ادا کرنی پڑی۔ یہاں سے خدا خدا کر کے پھوٹے تو تین دن کا سفر طے کر کے جدہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے مگر ساحل کا تو صرف نام تھا۔ اس زمانے میں جہاز گہرے سمندر میں ٹھہرتا تھا۔ حجاج اور اور سامان بہزار دقت کشتیوں میں اترتے تھے اور ہچکولے کھاتی ہوئی کشتیاں کنارے پر لگتی تھیں۔

مولوی صاحب کو سامان اُتروائی اور کشتیوں کا کرایہ ساڑھے سات روپیہ فی کس ادا کرنے پڑے۔ جدہ میں کسٹم، امیگریشن اور حاجیوں سے متعلق کارروائی میں دو ایک روز تو لگے ہی ہوں گے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ کو روانگی ہوئی۔ جدہ اور مکہ کے سفر میں آج کل زیادہ سے زیادہ چالیس منٹ لگتے ہیں۔ مگر اُس وقت ساقلے اونٹوں کے ذریعے اور خجروں پر سوار ہو کر دو دن میں یہ مسافت طے کرتے تھے۔ راستے میں آدھے فاصلے پر بحرہ کی منزل میں رات گزارتے تھے۔ مولوی صاحب کے قافلے کو ذی قعدہ کی ۲۳ یا ۲۵ تاریخ کو مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ ابھی حج میں کچھ کم پندرہ دن باقی تھے۔ سید ابو بکر شیدی مرحوم کو مطوف مقرر کیا گیا اور انہیں کے ایک بنگالی نژاد کارندے کے یہاں محلہ جیاد میں قیام ہوا۔ مکان تنگ و تاریک تھا۔ ہوا اور دھوپ کے گذر کا تو اُس زمانے کے مکانوں میں گویا رواج ہی نہ تھا۔ یہاں پانی کی بھی قلت تھی۔ مگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ کرنے کی فرصت بھی کسے تھی۔ حرم پاک

کعبہ، در کعبہ، غلاف کعبہ، بابِ رحمت، ملتزم، میزابِ رحمت، حطیم، مقامِ ابراہیم، زمزم، عمرہ، نوافل، تہجد، طواف، نمازیں، دعائیں، تلاوتیں، تضرع و زاری، الحاح و بیقراری، توبہ و استغفار، غرض قدم قدم اور پل پل کیسی کیسی رحمتیں اور کتنی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چھپر پھیلا کر نصیب فرمادی تھیں۔ اور کبھی کسی وقت اتفاق سے اگر خالی رہے تو مولوی صاحب اور صاحبزادگان حضرت قطب عالم حاجی امداد اللہ صاحب کے دربار میں حاضر ہو کر ذکر و شغل مراقبہ و مجاہدہ وغیرہ میں مصروف ہو جاتے تھے حضرت بھی بڑی شفقت اور خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ کیوں کہ یہ کوئی راہ چلتوں کا قافلہ نہ تھا۔ مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی۔ حضرت شیخ الہند محمود حسن، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے خدام اور مقربین کا قافلہ تھا۔ ان کے سلام و پیام، حالات و تفصیلات لے کر آیا تھا۔ اے گل بتو خرمندم تو بونے کے داری۔ حضرت قطب عالم بڑے شوق سے ان خاصانِ خدا کی باتیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جی چاہتا ہے ایک بار اور ان حضرات سے ملاقات ہو جاتی۔ قصہ مختصر جب حج و عمرہ سے فراغت کے بعد مولوی صاحب مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت حاجی صاحب نے خصوصی طور پر دعا فرمائی کہ بارِ البان حضرات کو ہجرت کے شدید امتحانات سے بچانا۔ اونٹوں پر بارہ دن کے مسلسل سفر کے بعد ۲۵ رذی الحجہ ۱۳۱۶ھ مطابق ۸ مئی ۱۸۹۹ء کو مولوی صاحب کے خاندان نے مدینہ طیبہ کی خاک کا سرمہ لگایا اور دربار رسالت میں باریاب ہوئے۔ منزل کوچہ جاناں کی نہ پوچھو دوری جیسا مشاق ہونزدیک بھی ہے دور بھی ہے

مولوی سید شاہ حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا مدینہ طیبہ میں قیام

۱۹۰۰ء

یہ تو اللہ ہی جانتا ہوگا کہ جب مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی ہوگی جب پہلے پہلے گنبد خضرا پر نظر پڑی ہوگی، جب مدینہ کی گلیوں میں سے گزرے ہوں گے جب حرم نبوی

میں داخلہ میسر ہوا ہوگا جب سرکار کی چوکھٹ پر جیس سائی کی ہوگی جب روضہ من ریاض الجنۃ میں سک سک کر روئے اور گڑ گڑائے ہوں گے جب حجرہ عائشہ کی جالیوں کا نظارہ کیا ہوگا اور جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت مولوی صاحب کے قلب و جگر پر کیا کیا لکڑ گئی ہوگی۔ تاریخ میں تو بس اتنا لکھا ہے کہ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے سبز گنبد کے سائے میں باب النساء کے قریب زقاق البدور میں ایک مکان کرایہ پر لیا گیا۔ مکان چھوٹا تھا، خاندان کے افراد زیادہ تھے۔ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ تنگی ہو مگر تنگی فراخی دیکھتے تو کوچہ محبوب کی جنت کیسے نصیب ہوتی۔ سرکار کے دربار سے ایک قدم بھی ہٹنا گوارا نہیں تھا۔ مگر بہت جلد حقائق کی تلخیاں اپنا رنگ دکھلانے لگیں۔ علائق اور ضروریات انسان کی زندگی کے ساتھ ہیں اور بہت ظالم ہیں۔ لاکھ کوششیں کیں مگر چھوٹے مکان میں گزرنہ ہوا۔ لاچار وہاں سے اٹھ آئے اور حارۃ الاغوات میں ایک وسیع اور فراخ ہوادار مکان ایک سو بیس روپیہ سالانہ پر کرایہ پر لے لیا۔ جب ذرا سکون اور فرصت ملی تو اولاد کو بلا کر مسائل و معاملات کے شرعی فیصلے کیے۔ سفر سے جو رقم بچ رہی تھی وہ حسب قانون وراثت شرعی ایک ایک فرد کو تقسیم کر دی اور فرمایا کہ تم لوگ جیسے چاہو اس رقم کو خرچ کرو۔ میں تو ہجرت کی نیت کر کے حاضر ہوا ہوں اس لیے جیتے جی واپسی کا سوال نہیں ہے۔ تم میں سے جو واپس جانا چاہے اس کو اجازت ہے چلا جائے۔ کرایہ کے لیے یہ رقم کافی سے بہت زیادہ ہے۔ صاحبزادوں میں کسی نے ہجرت کی نیت نہیں کی تھی۔ قطب عالم حضرت حاجی صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے منع فرمایا تھا کہ ہجرت کے بعد منجانب اللہ بڑے شدید امتحانات ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں، جس کو دنیا مقصود ہو وہ جدہ میں رہے۔ اور جو اللہ رسول کو چاہے وہ مدینہ آجائے۔ اور جو دونوں کا طلبگار ہو وہ مکہ مکرمہ جاوے۔ اس لیے صاحبزادگان نے بیک زبان عرض کی کہ ہم نے اگرچہ ہجرت کی نیت نہیں کی ہے مگر جب تک آپ کا سایہ اللہ برقرار رکھے آپ کو چھوڑ کر

نہیں جائیں گے۔ مولوی صاحب روشن ضمیر اور صاحب کشف بزرگ تھے، فرمایا کہ تم میں سے ایک کو تو آخر کار ہندوستان جانا ہی پڑے گا اور واقعی آگے چل کر یہ قرعہ فال حضرت شیخ الاسلام کے نام پڑا۔ اس زمانے میں اہل مدینہ اور ہجرت کی گزراوقات صرف ترک حکومت کے وظائف، ممالک اسلامیہ کے تبرعات اور عام مسلمانوں اور خاص طور پر ہندوستان کے رؤساء، نوابوں، تعلقہ داروں، جاگیرداروں اور ریاستوں کی پیش کردہ خدمات پر منحصر تھی۔ مولوی صاحب کو ان ذرائع پر بھروسہ کرنا پسند نہیں ہوا اور صاحبزادگان کو حکم دیا کہ کوئی باعزت روزگار تلاش کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان سے روانہ ہوتے ہوئے یہ خیال تھا کہ لڑکے چوں کہ عربی زبان اور دینیات میں عالم و فاضل ہیں، اس لیے عرب ملک میں ابھی ملازمتیں آسانی سے مل جائیں گی مگر یہاں پہنچے تو یہ توقع پوری طرح صحیح نہیں ثابت ہوئی۔ چنانچہ باب الرحمتہ اور باب السلام کے درمیانی بازار میں ایشائے خورد و نوش اور ضروریات زندگی مثلاً چائے، شکر، گھی، تیل وغیرہ کی ایک دوکان کھولی گئی۔

مدینہ طیبہ کی کھجور خاص تحفہ اور بیش بہا تبرک ہے۔ اس وقت تجارت اور دوکاندار فصل کے وقت کھجوریں خرید لیتے تھے اور ان کو حج کے موسم کے لیے محفوظ کر لیتے تھے۔ افریقہ کے ملکوں سے مٹی کے بڑے بڑے مشکے جہازوں پر بندرگاہوں تک اور پھر اونٹوں پر مدینہ تک آتے تھے۔ ان مشکوں میں کھجوریں دبا دبا کر بھر کے اوپر سے نمک اور پتوں کی تہہ جمادیتے تھے۔ اس طرح کھجوریں سال کے سال محفوظ اور صاف رہتی تھیں اور ان میں کیرے وغیرہ نہیں لگتے تھے۔ صاحبزادوں نے بھی ایک ایسا ہی گودام کرائے پر لے کر کئی سو روپے کی کھجوریں بھر لیں۔ دوکان کے لیے تھوک کی خریداری اور سامان کی فراہمی اور دوسرے بنیادی انتظامات بڑے بھائی مولانا صدیق احمد صاحب کرتے تھے۔ ان کو ان امور میں کافی سلیقہ، تجربہ اور واقفیت ہو گئی تھی۔ دوسرے دو بھائی مولانا سید احمد اور مولانا حسین احمد باری باری دوکان پر بیٹھتے تھے۔ اس طرح

خاندان کی گذر بسر کا ایک معقول ذریعہ پیدا ہو گیا تھا۔ مگر تجارت اور دوکانداری کی پہلی شرط یہ ہے کہ تاجر پورے طور پر اسی کا بند کر رہ جائے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے غرض چوبیس گھنٹے اسی بھکر میں غرق رہے، دوسرے یہ کہ لین دین میں، قرضوں کی وصولیابی میں، خرید و فروخت میں کسی قسم کے لحاظ ملاحظہ اور رورعایت کو روانہ نہ رکھے، تیسرے یہ کہ شدید سے شدید ضرورت پر بھی دوکان بند نہ ہو اور تاجر اپنے مرکز سے غائب نہ ہو۔ یہاں معاملہ ان تمام اصولوں کے بالکل برعکس تھا۔ زندگی کا اصل مقصد تو حدیث تفسیر، فقہ اور دینیات کی تعلیم و تدریس تھا اور اصل مشغلہ ذکر و شغل، تصوف، مراقبہ، پاس انفاس، تزکیہ نفس اور دوسرے روحانی اشغال تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ چوبیس گھنٹے یا شب و روز کے زیادہ ہی تر اوقات دوکانداری اور تجارت کی مشغولیت اور دین میں گذر جاتے۔ اور یہ بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ لین دین، خرید و فروخت اور مسترضوں کی وصولیابی میں درشتگی، کھری معاملہ داری اور خشک کلامی اختیار کی جاتی۔ اور فرض کیجیے یہ سب کچھ ہو بھی جاتا تو جب پیر و مرشد گنگوہیؒ نے اذن حاضری دیا اس وقت ہندوستان کا سفر کیسے ٹالا جاسکتا تھا۔ پیر زادوں کا خاندان تھا۔ اہل اللہ کا گھرانہ تھا اور صوفیائے عظام کی اولاد تھے۔ پیر کے حکم کو اشارہ غیبی گردانا۔ کیسی دوکان کہاں کی تجارت اور کس کی دنیا داری؟ سب کچھ جہاں تھا اور جس حال میں تھا چھوڑ چھاڑ دینا، دوں کو ترک کر رضائے باری تعالیٰ کے راستے پر روانہ ہو گئے۔

ہم خدا خواہی وہم دنیاے دوں
 ایں خیال است و حال است و جنوں

نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔

مولینا صدیق احمد صاحب اور مولینا حسین احمد صاحب تو حضرت قطب عالم گنگوہی کے حکم پر ہندوستان روانہ ہو گئے۔ مولینا سید احمد نرم خو، رحمدل اور قیق قلب انسان تھے اور پھر اکیلے ان کے بس کی بات بھی نہیں تھی، اس لیے ۱۳۱۸ھ (۱۹۰۰ء) ختم ہوتے ہوتے دوکان اٹھالینے ہی میں نفع نظر آیا اور یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اب تینوں بھائی تعلیم و تدریس تصوف اور سلوک کے لیے بالکل فارغ تھے۔ حرم پاک میں حدیث شریف

کے اسباق مسجد اجابت میں اذکار و اشغال، قرآن پاک کی تفسیر، فقہ اور عقائد پر بیانات غرض اب کسی دینی اشغال میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اور یہ مولوی صاحب جی کی بہت اور توکل تھا کہ نہ تو خود آخرت پر دنیا کے عیش و عشرت کو ترجیح دی اور نہ اولاد کو کسی ایسی مصروفیت میں ڈالا جس سے ان کے تعلق مع اللہ اور خدمات فی سبیل اللہ میں رکاوٹ پیش آتی۔ تذکرہ کرنے اور لکھ دینے میں تو یہ معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن تصور ان حالات کا کیجیے اور اندازہ ایک پرہیزی اور خوددار خاندان کی مشکلات کا کیجیے تو حقیقت واضح ہوتی کہ یہ تسلیم و رضا صبر و قناعت اور یہ مجاہدہ و ریاضت بہر کس و ناکس کے بس کا سودا نہیں ہو سکتی مگر پھر بھی انسانی ضروریات اور بشری احتیاجات جیسے جی بنی آدم سے جدا نہیں ہو سکتیں۔ آدمی خود تو جیسے چاہے تنگی ترشی میں گزر کر لے مگر معصوم بچوں اور ضعیف خواتین کا کیا کرے۔

شب چوں عقد نماز بر بندم چه خورد بامداد فرزندم

چنانچہ مولینا تاج احمد صاحب کو پڑھانے کی ملازمت کرنی پڑی جس کی تنخواہ بیس روپیہ ماہوار ملتی تھی۔ اس قلیل مقدار میں آٹھ دس افراد کے خاندان کا گذر کیسی ہی کفایت اور حسن انتظام سے ہو، ناممکن ہے۔ دس روپیہ ماہوار تو مکان کا کرایہ ہی دینا پڑتا تھا۔ اس لیے یہ زمانہ اس خاندان پر بڑا سخت اور عسرت و تنگدستی کا گذرا۔ اتنا تو اللہ کا فضل ہوا کہ فاقوں کی نوبت کبھی نہ آئی۔ مگر اس سے پہلے کی ساری تکلیفیں گذر گئیں۔ اور جب کوئی چارہ نہ رہا تو مولوی صاحب نے کسی سے پچاس روپے قرض لیے۔ اس سے اتنا سہارا ہوا کہ کسی نہ کسی طرح قوت لایموت کا انتظام ممکن ہوا۔ مگر اس طرح کہ ”ایک وقت کچھڑی اور ایک وقت نمکین پیچھ پر تمام گھروالوں کا گذران کئی ماہ تک رہا۔“ اور اس طرح گذر کرنے میں کیسا کیسا جگر کا خون کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ کرنا متوسط الحال لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کچھڑی اور نمکین پیچھ سے معصوم بچوں اور کمزور عورتوں کے پیٹ کیسے بھرتے ہیں یہ بھی خوب معلوم ہے۔ آخر کچھ

دنوں کے بعد صاحبزادگان نے ہندوستان سے کچھ رقم ارسال کی جس سے کسی قدر فراخی ہوئی اور خورد و نوش کی آسانیاں ہوئیں مگر اچانک ایک دوسرا امتحان پیش آگیا۔ مکان جس میں رہتے تھے اور کافی راحت و آرام سے گذر ہوتا تھا۔ اس کے مالک نے کرایہ بڑھایا اور بڑھا ہوا ایک سال کا پیشگی کرایہ طلب کر لیا۔ نیز عدم ادائیگی کی صورت میں انخلاء کا نوٹس دے دیا۔ اس ادائیگی کے لیے ایک سو بیس روپے کی ضرورت تھی۔ جس کا چولھا قرض سے روشن ہوتا ہو اس کے لیے اکٹھے اتنی رقم کی فراہمی مشکل ہوگئی۔ چار و ناچار دوسرے کی تلاش شروع ہوئی۔ اتنے بڑے کنبے کے لیے کافی قریب، ہوادار اور حسب گنجائش کرایہ کا مکان ملنا آسان نہ تھا۔ مگر کافی دوڑ دھوپ کے بعد باب مجیدی کی طرف شہر پناہ کے باہر ایک حیدرآبادی رئیس نواب جانی میاں مرحوم کا زیر تعمیر مکان ملا جو سرمایہ کی کمی کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا صدر دروازہ تو مکمل ہو گیا تھا۔ مگر اندرونی در اور کھڑکیاں وغیرہ بغیر دروازوں کے تھے۔ نواب صاحب نے مولوی صاحب کا خیال کیا اور تا اختتام تعمیر مفت رہائش کے لیے دے دیا۔ چنانچہ پورا خاندان اسی نامکمل مکان میں اٹھ آیا۔ سیمنٹ کے بجائے مٹی کا وقتی پلاسٹر کر لیا گیا اور دروازوں کھڑکیوں کی جگہ ٹاٹ کے پردے لٹکالیے گئے۔

بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے

ہائے کیا چیز عنبریب الوطنی ہوتی ہے

اسی مدینہ طیبہ میں آج اسی نوے برس بعد مولوی صاحب کے چھوٹے صاحبزادے مولانا سید محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محل نما مکان میں درجنوں نوکروں، خادموں اور منشیوں اور چھپاتی ہوئی موٹر کاروں کے ماحول میں بھرے گھر میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تحدیثِ نعمت فرمائی اور راقم الحروف کی کسی بات پر اپنے پوتوں سے فرمایا کہ اُس وقت ہمارے گھر میں ٹاٹ کے پردے بڑے ہوئے تھے۔ یہی دروازے بھی تھے اور پردے بھی۔ لڑکے یہ سن کر ہٹکا بٹکارہ گئے۔ اور کئی دن تک پوچھتے رہے کہ اعلیٰ درجے کے بیش قیمت دروازوں اور ریشمی پردوں کے بجائے ٹاٹ کے پردے لگوانے میں داد اجان

کی کیا مصلحت تھی۔ اب انھیں یہ کون سمجھا تا کہ "تلك الايام ندا و لها بين الناس" تو اس طرح وقتی طور پر مکان کا مسئلہ حل تو ہو گیا، مگر مولوی صاحب کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جیسے تیسے بھی ہو اپنا گھر اور اپنی جھونپڑی بنانی ضروری ہے۔

خیال تو بہت اچھا تھا۔ ضرورت بھی شدید تھی اور اس کے علاوہ چارہ کار بھی نہیں تھا۔ مگر علامہ اس کی کیا شکل ممکن تھی؟ سرمایہ تو بڑی چیز ہے یہاں تو کوئی معمولی رقم بھی پاس نہ تھی، خود ضیافت اور کمزور ہو گئے تھے، دونوں صاحبزادگان ہندوستان میں تھے۔ پردیس سے سابقہ تھا۔ لوگ بھی غیر، طرز تعمیر بھی الگ اور عمارتی سامان بھی ہندوستان کے اعتبار سے بالکل مختلف، اور سب سے بڑی مشکل یہ کہ راج مزدوروں کی زبان عربی اور مولوی صاحب اردو بولنے والے، غرض قدم قدم رکاوٹیں اور مشکلات سدا رہ تھیں۔ مگر یہی خصوصیتیں تھیں جنہوں نے آپ کو سطح عوام سے بہت بلند منصب کر دیا تھا۔ دشواریاں اور ناہمواریاں آپ کے عزم اور حسن تدبیر و انتظام کے لیے ہمیشہ ہمیز ثابت ہوتی تھی اور قوت عمل کو اور بھی تیز کر دیتی تھیں۔

جتنی جتنی ستم دہر سے کھاتا ہے شکست

دل جواں اور جواں اور جواں ہوتا ہے

سفر سے سچی ہوئی جو قوم آپ نے اولادیں تقسیم فرمائی تھیں، ان میں صاحبزادی کے حصے کے روپے امانت کے طور پر آپ کی تحویل میں تھے، اسی میں سے پانچ سو روپے بطور قرض لیے گئے۔ شہر سے باہر ایک زمین انوعات (حرم پاک کے خواجہ سرا خدام) کے لیے وقف تھی۔ اس میں کچھ کھجوریں تھیں اور کنواں تھا۔ اس زمین سے ایک ٹقطعہ جس میں پانچ صاحبزادوں اور ایک صاحبزادی کا گذر ہو سکے، خرید لیا گیا۔ مولوی صاحب اس وقت تک حجاز کے باشندے نہ تھے اس لیے قانوناً رجسٹری ان کے نام نہیں ہو سکتی تھی چنانچہ سرکاری طور پر زمین ڈاکٹر رفاقت علی مرحوم کے نام رجسٹری کرائی گئی۔ بعد میں جب آپ کو رعیت نامہ

لے ڈاکٹر صاحب دیوبند کے شیخ عثمانی تھے۔ حکومت برطانیہ کے فوجی ڈاکٹر ہو کر افریقہ بھیجے گئے تھے، وہاں سے مدینہ طیبہ آئے اور ترکی فوج میں ڈاکٹری کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ آپ نے مولوی صاحب اور خاندان کے ساتھ بڑے سلوک کیے اور (ص آئندہ پر)

ملا تب زمین آپ کے نام ہوئی۔ اتفاق سے اس زمین پر مٹی کا ایک ڈھیر پہلے سے پڑا ہوا تھا۔ یہ کسی دوسرے کے لیے تو بے کار ہی ہوتا۔ اس کے اٹھوانے اور صاف کروانے میں کچھ پیسے اوپر سے ہی خرچ ہو جاتے۔ مگر مولوی صاحب نے اس مٹی سے کچی اینٹیں پتھوالیں۔ اس میں سے کسی قدیم عمارت کے پتھر کے چوکے بھی نکل آئے۔ آج تو ہر چیز نئے فیشن اور نئے طریقے کی ہو گئی۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے چاروں طرف جلے ہوئے سیاہ رنگ کے جو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں اور جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ کوہ آتش فشاں کا جلا ہوا لاد یا پتھر ہیں انہی سے اینٹوں کی طرح چوکے گڑھے جاتے تھے اور انہی سے عمارتیں بنی تھیں۔ جھانویں کی ساخت کے پتھروں کی سیاہ اینٹوں کی عمارتیں نہایت دیدہ زیب، مضبوط اور آرامدہ ہوتی تھیں۔ یہ اینٹیں مفت میں یا یوں کہیے کہ نفع میں مل گئیں تو بہت کفایت سے بہت جلد تیرہ فٹ اونچی چہار دیواری تیار ہو گئی۔ صاحبزادگان مولینا صدیق احمد اور حسین احمد ۱۳۲۰ھ میں ہندوستان سے لوٹے تو اپنی زمین اور اس پر چہار دیواری پا کر نہایت متعجب اور مسرور ہوئے۔ اتنی ہمت جو بڑھاپے میں باپ نے کی، شاید ان جوانوں کے کیے نہ ہوتی۔ حضرت شیخ مدنیؒ ایک مدرسہ شمسہ باغ میں پچیس روپیہ ماہوار پر ملازم ہو گئے۔ بڑے بھائی بھی ایک جگہ تعلیم و تدریس پر ملازم ہو گئے۔ اور ملازمت کے ساتھ ہی خارج اوقات میں حرم پاک میں شوقین اور خواہشمند طلباء کو حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ کا درس بھی دیتے تھے۔ طلباء کے رجحانات اور میلانات سے واقفیت اور عربی زبان میں تجربہ تو حضرت کو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب تدریس کی ملازمت کی وجہ سے وقت بھی مطالعہ اور تدریس کے لیے بالکل فارغ ملتا تھا۔ اس لیے بہت جلد بڑی شہرت ہو گئی۔

عام طور پر لوگوں میں رشک و حسد ہونے لگا۔ مدرسے کے ناظر صاحب بھی روز روز

(بقیہ ص ۵۰) بیٹھ آڑے دنتوں پر کام آئے۔ حضرت مولینا مولوی عبدالحق صاحب مدنیؒ آپ کے صاحبزادے تھے آپ حضرت شیخ الاسلام مدنی کے شروع سے آخر تک شاگرد تھے اور استاد سے بہت تعلق خاطر رکھتے تھے۔ ڈاکٹر رفاقت علی مرحوم کی ایک صاحبزادی سے مولینا سید احمد صاحب کی شادی بھی ہوئی تھی۔ مولینا عبدالحق صاحب مدنی مدرسہ شاہی مراد آباد کے ہتم رہے اور اسی عہدے پر رہتے ہوئے دیوبند میں ۱۹۵۳ء میں انتقال فرمایا۔

نئی نئی شرطیں لگانے لگے۔ حضرت امکانی حد تک ان کے سارے احکام کی تعمیل کرتے رہے۔ مگر ایک ایسی شرط بھی موصوف نے لگائی جسے پورا کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ ناظر صاحب نے حکم دیا کہ مدرسہ کے اوقات کے علاوہ کہیں بھی کوئی سبق نہ پڑھایا جائے اور مدرسہ کے طلباء کے علاوہ کسی کو تعلیم نہ دی جائے اور حرم پاک میں حدیث و تفسیر کا درس نہ دیا جائے۔ مولوی صاحب نے صاحبزادہ سے فرمایا کہ میں نے تم کو اشد رسول کے لیے وقف کیا ہے اور دین کی خدمت کے لیے تعلیم دی ہے، اس لیے نہیں کہ تم ملازمت کرو۔ چنانچہ حضرت نے استعفیٰ دے دیا اور سارا وقت حرم پاک میں درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا۔ جس مکان میں مولوی صاحب مقیم تھے اس کا انتظام و اہتمام بھی ناظر مدرسہ ہی کے ذمہ تھا۔ اس استعفیٰ کی وجہ سے ان کو ناگواری ہوئی اور انھوں نے نوٹس دے دیا کہ ہینڈ بجر کے اندر مکان خالی کر دیا جائے، کیسی مشکل اچانک آپڑی، سال سوا سال کے اندر اندر دوسری بار مکان کا سخت مرحلہ درپیش ہے مگر حق تعالیٰ کے قوانین کا تجربہ بنی آدم کو زندگی میں بار بار ہوتا ہی رہتا ہے۔ بات صرف احساس اور مواعظت و عبرت حاصل کرنے کی ہے۔ عسی ان تکرہوا شیئا دھوخیو لکم و عسی ان تمبوا شیئا دھوشتر لکم۔ ناظر صاحب نے تو پریشان کرنے کے لیے یہ دھمکی دی تھی۔ مولوی صاحب کی عالی ہمتی کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا۔ عسرت، تنگدستی اور موانع کا ادنیٰ سا خیال کیے بغیر ذاتی مکان کی تعمیر کا ارادہ کر لیا۔ کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کہاں سے آئے گا؟ یہ سوالات آپ کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے تھے۔ اذا ہم القی بین عینیہ ہہ۔ و تکب عن فکر العواقب جانبا۔ چہار دیواری بن ہی چکی تھی۔ کچی اینٹیں بھی موجود تھیں۔ پتھر کے کچھ بچو کے بھی باقی بچ گئے تھے اور سب سے بڑا سامان تعمیر اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور توکل تھا۔ اتنی گنجائش تو تھی نہیں کہ راج مزدور لگائے جاتے۔ سارے خاندان کو لے کر خود ہی تعمیر میں لگ گئے۔ روزانہ عورتوں، بچوں اور صاحبزادگان کو لے کر جاتے تھے۔ دیوار خود اپنے ہاتھ سے چھنتے تھے۔ اینٹیں، چو کے اور گارا صاحبزادگان، علماء اتقیا اور اولیا صاحبزادگان، مولانا صدیق احمد صاحب خلیفہ و مجاز مولانا رشید احمد گنگوہی تلمیذ خصوصی شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا سید احمد صاحب خلیفہ مجاز شیخ الہند مولانا محمود حسن

صاحب و مولانا خلیل احمد صاحب و بانی مدرسہ علوم شرعیہ مدینہ منورہ اور حضرت شیخ الاسلام، محدث جلیل، مجاہد عظیم مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ ڈھوتے تھے۔ سونے کو کندن بننے کے لیے جھٹی میں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ کنویں سے پانی بھرنا، گارا بنانا، مصالحو تیار کرنا اور دوسرے کام وہ محترم خواتین کرتی تھیں جنہوں نے زندگی میں کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالے تھے۔ پانی کی ٹھلیا بھی نہیں اٹھائی تھی اور کسی سخت کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اعضاء و جوارح محنت اور شفقت میں مصروف رہتے تھے اور زبان پر آیات قرآنیہ اور ذکر اللہ جاری رہتا تھا۔ واذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم۔ مہینہ بیس روز تک شب و روز اسی طرح محنت اور سنتِ ابراہیمی و سنتِ نبوی ادا کرتے رہے۔

” احاطہ کے جانب مشرقی شمال میں پانچ کوٹھریاں، ایک غسل خانہ، ایک جائے ضرور اور ایک پردے کی جگہ ان تمام کوٹھروں کے سامنے اپنے ہی ہاتھوں سے سب نے مل کر بنائی۔ کوٹھر۔وں کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ چھت اتنی اونچی بنائی گئی کہ چار پائی پر کھڑے ہوں تو چھت سر میں نہ لگے مگر زیادہ نیچی بھی نہ رہے۔ کڑھی کی جگہ بول کی موٹی موٹی شاخیں جو کہ بدوی لوگ شہر میں فروخت کرنے کے لیے لاتے ہیں، دور دور لگائی گئیں اور ان پر کھجور کے پتوں کے ڈنٹھل قریب قریب بچھائے گئے اور ان پر کھجور کے بوریے بچھا دیے گئے اور ان پر گلاوہ (ترمٹی) بچھا کر خشک مٹی ڈال دی گئی۔ چھت اتنی مضبوط نہ تھی کہ بلا تکلف اس پر آدمی چل سکے۔ اور نہ اتنی موٹی تھی کہ زور کی بارش کو روک سکے۔ چھت کی طرح ڈھلواں رکھی گئی تھی۔ اس طرح دھوپ اور سڑی سے حفاظت ہو گئی۔ معمولی بارش کی بوندوں سے بھی حفاظت ہوتی تھی۔ مگر زور کی بارش میں جو کہ مدینہ منورہ میں بہت کم ہوتی ہے، سب پانی اندر آتا تھا۔“

اس پھوس کی کٹھی سے سارے ہی افرادِ خاندان کو جو مسرت، اطمینان اور راحت نصیب ہوئی، اس کا تذکرہ بھی حضرت ہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے، معلوم ہوتا ہے

جھونپڑی نہیں جویلی اور مکان نہیں قلعه تعمیر ہو گیا ہو سے
وہ دو تنکے سہی لیکن ہیں اپنے
بڑی راحت ہے مجھ کو آشیاں میں

”اس عمارت کے تیار ہو جانے پر ہم سبھوں کو اس قدر خوشی ہوئی جو حد بیان سے باہر تھی۔ گویا ہم سب قیدِ غلامی سے آزاد ہو گئے۔ اپنے مکان میں جہاں چاہاں بیٹھیں، جہاں چاہاں سوئیں، جہاں چاہاں پانی گرائیں، روشنی کھلی ہوئی تھی، ہوا میں بڑے صحن دار مکان کی طرح آتی تھیں، کوئی ٹوکنے اور کہنے والا نہ تھا۔ کراہوں کی فکر اور تقاضوں کا کھٹکا باقی نہ رہا تھا۔ پانی بھی اس کنویں کا تقریباً شیریں تھا۔ صرف پینے اور کھانا پکانے کے لیے ایک مشک سقہ لاتا تھا۔ محاصل بہت زیادہ اطمینان کی صورت پیدا ہو گئی۔“

مکان کی راحت تو کسی درجے میں نصیب ہو گئی۔ کسی درجے میں اس لیے کہ گھاس پھوس کا مکان اور پھر اپنے ہاتھوں سے چھایا ہوا جھونپڑا جیسا کچھ ہو گا ظاہر ہے۔ بہر حال سر چھپانے کا بہانہ تو ہو ہی گیا تھا۔ مگر معاش کی تنگی اپنی جگہ پر تھی۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ادھر مولانا سید احمد صاحب تربیت باطنی کی غرض سے گنگوہ شریف چلے گئے۔ اب صرف مولانا صدیق احمد صاحب کی ملازمت اور ان کی معمولی سی تنخواہ پر گذر تھا جو کسی طرح کافی نہ تھا۔ لیکن جینا مولوی صاحب نے محض اللہ کے بھروسے پر اپنی اولاد کو دینی خدمات کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد بھی فرمائی۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء کے اواخر میں بعض اہل اخلاص و عقیدت مند حضرات کی کوششوں سے بھوپال کی نواب سلطان جہاں بیگم کی حاضری کے موقع پر ایک جماعت دعا گوئی کی مقرر ہوئی۔ اس میں مولوی صاحب اور ان کے تینوں صاحبزادگان کے نام بھی رکھے گئے۔ دس روپیہ فی نفر ماہوار اگر امیہ مقرر ہوا۔ مولوی

صاحب کے پندرہ روپے طے ہوئے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان وظائف کے نگران شیخ حسن عبد الجواد کو ضرورت پیش آئی کہ اردو حساب و کتاب و اندراجات کے لیے کسی اردو داں کو مقرر کریں۔ اس کے لیے موصوف نے حضرت شیخ کے نام کی سفارش کی۔ چنانچہ آپ کا نام وظیفہ یابوں میں سے تو نکل گیا۔ مگر چوبیس روپے ماہوار پر یہ مستقل ملازمت مل گئی۔ اُس زمانے میں مدینہ منورہ کی ملازمتیں نام کی ہوتی تھیں۔ حکومت کا اور تنخواہیں دینے والوں کا اصل مقصد اہل مدینہ کی خدمت اور پرورش ہوتا تھا۔ لاتعداد اشخاص کا گذر اوقات ان ملازمتوں کے نام پر ہوتا تھا۔ ڈیڑھ سو یا اس سے زیادہ موذن حرم پاک میں اذان کے لیے مقرر تھے۔ نماز پڑھانے کے لیے دوسو سے زیادہ امام تھے اور ستر خطیب تھے۔ یہ سب باری باری اپنی ڈیوٹی انجام دیتے تھے اور باری بھی شاید ہینوں ہینوں میں ایک ایک کی آتی ہوگی۔ مگر حضرت کو تو ہندوستان ہی کی ملازمت ملی تھی۔ تاہم اس مجموعہ آمدنی سے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑھاپے اور کمزوری میں کسی قدر سانس لینے کا موقع ضرور مل گیا۔

اتفاق سے اسی زمانے میں نواب صاحب بھاو پور بھی حج و زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ ان کے وزیر اعظم مولانا رحیم بخش صاحب بڑے عالم، متقی اور باخدا شخص تھے اور حضرت قطب عالم گنگوہی کے متوسلین میں سے تھے۔ انتظامات کے لیے وہ نواب صاحب کی آمد سے پہلے ہی مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ قدرتی طور پر ان کو مولوی صاحب اور ان کے حضرت گنگوہی کے خلفاء، صاحبزادگان سے خصوصی تعلق اور عقیدت ہوگئی اور نواب صاحب آئے تو موصوف نے ان کی جانب سے بھی دس روپیہ ماہوار کا وظیفہ مقرر کرا دیا۔ یہ ساری مستقل آمدنیاں تھیں اور ان کے بند ہونے کا بظاہر خطرہ نہیں تھا۔ اس موقع پر بطور پاس گزارا ایک واقعہ کا تذکرہ نوک قلم پر آیا جا رہا ہے۔ مولانا صدیق احمد صاحب کی جواں عمری میں وفات کے بعد ان کا بھوپال کا وظیفہ مولانا وحید احمد مدنی کو ملتا رہا اور مولانا کے انتقال کے بعد ما انضمام ریاست وہ وظیفہ

راقم الحروف کے نام جاری رہا۔ قبض الوصول پر نام کے ساتھ وظیفہ خوار مدینہ منورہ لکھا رہتا تھا۔ میں وظیفہ بند ہونے کے بعد ہی اس قابل ہوا کہ صحیح طور پر اس اصطلاح وظیفہ خوار مدینہ منورہ کا مطلب سمجھ سکوں۔ الغرض، برہنہ کہ اب سیل و نہار کی گردش کی شدت میں کمی آچلی تھی۔ اور فی الجملہ فراخی اور فارغ البالی بھی میسر ہو گئی تھی مگر پھر بھی دنیاوی راحت و طمانیت کا جو معیار ایک عام متوسط الحال گھرانے کو نصیب ہوتا ہے اس سے اب بھی کوسوں کی دوری تھی۔ مولوی صاحب نے عسرت اور تنگدستی ہی میں آنکھ کھولی تھی مگر تھے تو زمیندار ہی۔ گھر میں کھیتی تو ہوتی ہی تھی۔ گڑ، گھی، تیل، دودھ، دہی، چنا، مٹر، دالیں، گیہوں، چاول، پھل پھلاری، سبزی ترکاری، غرض سب ہی کچھ تو گھر میں پیدا ہوتا تھا اور اس پر مستزاد مولوی صاحب کا نظام، انتظام، کفایت شعاری اور جزر سی تھی۔ اسی سلیقہ اور منظم زندگی کے نتیجہ میں مرہونہ جائداد و اگزار کرائی۔ موروثی مکان سے الگ اپنے ہی صرفہ سے ایک اعلیٰ درجہ کا زمیندارانہ، وسیع، آرام دہ اور شاندار مکان بنوایا، بچوں کی شادیاں کیں اور ان میں خاندانی اور روایاتی عزت اور وقار ملحوظ رکھا۔ مختصر یہ کہ مرثہ الحالی، کشادگی اور سپید پوشی کی زندگی گزارتے رہے۔ حضرت کی روایت سنئے: ”واقعہ یہی ہے کہ والدین مرحومین کا حسن انتظام ہی تھا کہ اس تھوڑی سی تنخواہ میں وہ سپید پوشی کے ساتھ کثیر الاولاد گھرانے کا روزمرہ کا خرچ، تعلیمی اخراجات اور تقریبیں پوری کرتے رہے۔ بڑے بھائی صاحب اور منجھلے بھائی صاحب کا ۱۸۹۶ء مطابق ۱۳۰۵ھ شوال میں نکاح کیا۔ اول الذکر کی برات شہزاد پور میں چھ کوس کی دوری پر گئی اور ثانی الذکر کی شادی ماموں تفضل حسین صاحب مرحوم کے یہاں گاؤں ہی میں ہوئی۔ زیورات، جوڑوں، مہانوں اور ولیمہ وغیرہ میں خاصی مقدار خرچ ہوئی جو کہ پس انداز مقدار سے پوری ہوئی۔ پھر ۱۸۹۲ء مطابق ۱۳۱۲ھ میں میری شادی ہوئی اور مصارف کثیرہ برداشت کرنے پڑے مگر ایک پیسہ قرض نہیں لینا پڑا۔ اور ان کی حالت اعلیٰ درجہ کی شمار ہوتی تھی اور وہ بہت مطمئن اور خوش و خرم نظر آتے تھے۔“

۱۔ اُس جائداد کے بقا ابھی میں آج کے دور میں بھی فراخی، فراوانی اور فارغ البالی کا دور دورہ ہے۔ (مؤلف)

اُس زمانے کو ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا۔ اودھ کے چھوٹے سے چھوٹے زمینداروں کے حالات کے عینی شاہد ابھی چار چھ برس پہلے تک تو بہت موجود تھے مگر انہی کی زبانی سننے والے تو اب بھی ہر جگہ اور ہر مقام پر مل جائیں گے۔ سرخاندان میں رعیت کے دو چار بلکہ دس پانچ گھر اور پلوہاہو کی ایک خاصی تعداد بیگاریوں کی ایک لائن اور حویلیوں میں خادماؤں کی ایک جماعت ہوتی تھی۔ مگر یہ تو گھر کی اور وطن کی باتیں تھیں۔ یہاں تو مدینہ طیبہ تھا۔ شہنشاہوں کے سرکار کا دربار تھا۔ حکم الحاکمین کے محبوب کا دیار تھا۔ یہاں پل پل آزمائش اور قدم قدم ابتلا رہتا تھا۔ جن کے رُتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ وطن، ماں باپ اور اعزہ و اقرباء سے مفارقت، رہن سہن کی اجنبیت، آب و ہوا کے شدید تو تھے ہی۔ گھر کی صفائی، جھاڑو پونچھا، برتن مانجھنا بھی خواتین کو خود ہی کرنا پڑتا تھا اور سب سے کٹھن مرحلہ کپڑے دھونے اور چکی پیسنے کا تھا۔ جن ملکوں میں گھر گھر دھو بی کپڑے دھوتے ہوں اور پہناریاں چکی پیستی ہوں وہاں کی عورتیں خود یہ کام کریں تو ان کو سو سوار آفریں ہے۔

”عورتوں کو اُن کے وطن اور اعزہ سے توجہ دینا ہی پڑا تھا مگر وہاں قیام کی صورت میں افلاس اور عادات و رسوم و اختلافِ موسم و ہوا وغیرہ کی وجہ سے بھی نئی نئی مشقتیں اٹھانی پڑیں۔ اگرچہ ہمارا خاندان غریب تھا مگر تاہم ہمت سے کاروبار خانہ داری برتن مانجھنا دھونا، جھاڑو دینا وغیرہ گھر میں ذکر عورتیں انجام دیا کرتی تھیں مگر وہاں پہنچ کر یہ سب کام بھی انہی کو کرنے پڑتے تھے۔ کھانا پکانا تو یہاں وطن میں بھی حسبِ معمول ان کو انجام دینا ہوتا ہی تھا۔ مزید برآں ان کو آنا بھی خود پینا پڑا حالانکہ یہ مشقت کبھی بھی ان کو وطن میں تحمل نہ کرنی پڑی تھی۔ والدہ مرحومہ باوجود ضعیف العمری بہت زیادہ جفاکش اور عالی ہمت تھیں اپنی ہر بہو کی اگرچہ باری مقرر کر دی تھی مگر خود ہر ایک کے ساتھ چکی پیسنے میں اور دوسرے کاروبار میں لگی رہتی تھیں۔ علیٰ ہذا القیاس عورتوں کو اپنے اور اپنے خاندان

اور بچوں کے کپڑے بھی دھونے پڑتے تھے۔ حالانکہ اس کا سابقہ کبھی بھی وطن میں ان کو نہ ہوا تھا۔

یہ تو خواتین کی کہانی تھی اب ذرا ان مرد حضرات کا قصہ سنیے جو ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کے مقتدا بنے، استاد ہوئے اور پیر و مرشد ثابت ہوئے۔

”ہم مردوں کو بھی بسا اوقات کپڑوں کا دھونا اور مشکوں میں میٹھا پانی کندھوں پر لا کر لانا پڑتا تھا، جس کو ہم رات کو جبکہ نہر کے مخزن کی بھیڑ کم ہو جاتی تھی، انجام دیتے تھے۔ یہ کام مجھ کو اور بھائی تیر احمد صاحب کو انجام دینا پڑتا تھا۔“

مولوی صاحب کے مزاج میں نظم اور کفایت شعاری تو تھی ہی۔ خورد و نوش کی فراہمی میں بھی یہ کفایت شعاری ملحوظ رہتی تھی۔

”کھانا بھی سرمایہ اور محصل کی کمی کی وجہ سے نہایت معمولی ہوتا تھا۔ والد صاحب نہایت منتظم طبیعت کے تھے۔ اکثر بازار کی سستی سے سستی ترکاری لاتے تھے اور کبھی کبھی گوشت اور اکثر دال بھی تھی۔ روٹی اور چاول حسب عادت وطن متعل ہوتے تھے۔“

ان تمام تفصیلات کے باوجود مولوی صاحب کا زیادہ تر وقت ذکر و شغل اور اوراد و وظائف میں گذرتا تھا۔ مسجد نبوی میں نماز باجماعت کسی حال میں ترک نہیں ہوتی تھی۔ مدینہ طیبہ میں جاڑوں کے زمانے میں بڑے کڑا کے کی سردی پڑتی ہے۔ فجر کی نماز بھی غلس میں منہ اندھیرے ہی ہوتی ہے مگر کوئی بھی نماز مولوی صاحب کی مسجد نبوی سے باہر یا بغیر جماعت کے یا بغیر تکبیر اولی کے نہیں ہوتی تھی۔ حرم پاک میں روزانہ مراقبہ میں بھی کافی وقت گزارتے تھے۔ عام طور پر لوگوں سے ملاقات، بات چیت یا مجاہست سے گریز فرماتے تھے۔ صرف اہل اللہ، اتقیا، علماء، اور صاحب نسبت بزرگوں کے پاس کبھی کبھی بیٹھ کر ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ کی تمیتیں حاصل کرتے تھے۔ ہندوستان میں ذکر و شغل پر مدوامت

تھی اور پیر و مرشد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی خصوصی توجہات بھی حاصل تھیں مگر بیعت و خلافت کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت کے وصال کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ مولانا نے اجازت دے دی ہے مگر مدینہ طیبہ میں کسی کو بیعت نہیں کیا۔ صاحبزادگان اپنے معمولات تدریس، تعلیم، مطالعہ اور اشغال روحانیہ میں مصروف تھے۔ معاش کی جانب سے کسی قدر اطمینان ہو گیا تھا۔ بظاہر زندگی ہموار اور مطمئن تھی۔ لیکن مکان جو بھوس، گارے اور کھجور کے ڈنٹھلوں سے بنا ہوا تھا، لڑکے شدید تھپیروں، کرکڑاتی ہوئی سردیوں کی لہروں اور تیز بارش کے جھونکوں کا مقابلہ کرنے سے بالکل معذور تھا۔ پہلے پہلے تو خوشی خوشی میں پتہ نہ چلا مگر تھوڑے ہی دنوں میں تجربہ ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں، کمزور عورتوں اور ضعیف بوڑھوں کے لیے سردی گرمی اور بارش سے بچاؤ کے لیے یہ مکان ناکافی تھے، اس لیے مولوی صاحب نے پختہ مکان بنوانے کا فیصلہ اور عزم کر لیا اور آہستہ آہستہ حسب گنجائش استطاعت کچھ سامان، پتھر کے چوکے، کڑیاں، لکڑیاں وغیرہ خریدتے رہے۔ رفتہ رفتہ کچھ عمارتی ضروریات جمع ہو گئیں۔ تو اللہ کا نام لے کر دوسری بار مکان کی نیو ڈال دی۔ اب کے کچھ تجربہ بھی ہو گیا تھا۔ حالات بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ ضروریات کی اہمیت بھی سامنے آگئی تھی۔ اس لیے یہ مکان نہایت پائدار آرام دہ اور خوش منظر بنیادوں پر شروع کیا گیا۔ اس بار خواتین کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ الحمد للہ۔ دیواریں اٹھانے، پتھر چننے اور تعمیر کرنے کے لیے راج مزدور لگائے گئے۔ مگر پانی ڈھونے، گارا بنانے، اینٹیں پاتھنے اور راجوں کو سامان پہنچانے میں اس مرتبہ بھی صاحبزادگان کو سارے سارے دن لگنا پڑا۔ جو پڑھاتے تھے وہ سبق کا ناغہ کر کے اور کبھی کبھی دوران سبق سے اٹھ کر آتے اور کام میں لگتے تھے اور جو چھوٹے تھے، مدرسہ جاتے تھے مولانا سید محمود احمد صاحب، مولانا جمیل احمد صاحب، مولانا وحید احمد صاحب، وہ مدرسہ سے آکر مکان میں لگ جاتے تھے۔

مختصر یہ کہ دو سال کی مسلسل جدوجہد اور دن رات کی تگ و دو کے بعد ۱۳۲۱ھ

مطابق ۱۹۰۳ء میں سات وسیع اور ہوادار کمروں کا دو منزلہ پختہ مکان، ہر منزل پر باورچی خانہ، غسل خانہ، جائے ضرور اور کنویں کے ساتھ تیار ہو گیا اور اب سارا خاندان وسعت اور راحت کے ساتھ اس نئے مکان میں منتقل ہو گیا۔ اس سے پہلے کئی بار سوچا گیا کہ سب لوگ الگ رہائش اختیار کریں۔ مگر حالات نے اس کی اجازت نہ دی تھی۔ اب ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ اطمینان بخش انتظام ہو گیا تو مولوی صاحب نے صاحبزادوں کو الگ کر دیا۔ مگر یہ مکان اور پہلا مکان اور دوسری زمین آپ نے وقف علی الاولاد کر دی تاکہ کوئی صاحب اپنا حصہ فروخت کر کے واپس نہ چلے جائیں۔ جس زمانے میں یہ مکان بنا ہے اس وقت مدینہ طیبہ میں بڑی رونق تھی۔ شہر کی آبادی کم و بیش ڈیڑھ لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ مرفہ الحالی اور مال داری کے آثار پورے شہر پر نمایاں تھے۔ ترکہ حکومت کی طرف سے شہریوں اور باشندوں کی دیکھ ریکھ کا پورا خیال رکھا جاتا تھا۔ نہایت شاندار خوبصورت ریلوے اسٹیشن قائم تھا۔ دن میں کئی کئی بار ریلیں آتی جاتی تھیں۔ باب مجیدی کی طرف شہر پناہ کے باہر بڑی آباد سر دیکیں، شاندار مکانات اور خوبصورت دوکانیں قائم تھیں۔ اسی محلے میں مولوی صاحب کے مکانات تھے اور صرف اسی محلے کی آبادی کم و بیش تیس ہزار تک پہنچ گئی تھی مگر دوسری جنگ عظیم اور شریف حسین کی بغاوت کے بعد یہ محلہ تو اجڑا ہی گیا، گئے چٹنے چند سو آدمی رہ گئے۔ پورا شہر مدینہ بھی غیر آباد ہو گیا۔ کل بارہ تیرہ ہزار افراد رہ گئے۔

”شریف حسین کے زمانہ حکومت میں یہ تمام محلہ اُچڑ ہو گیا تھا۔ بلکہ بیرونی باب مجیدی جو کہ قبل از جنگ عمومی نہایت آباد اور قیمتی متعدد محلات کو مشتمل ہو گیا تھا صرف ان محلوں کی آبادی تقریباً تیس ہزار تک پہنچ گئی تھی۔ مگر شریف موصوف کی بغاوت کی وجہ سے وہ آفت آئی کہ صرف چند سو کی آبادی رہ گئی۔ تمام مدینہ منورہ کی تقریباً سو لاکھ یا اس سے زائد مردم شماری تھی۔ جنگ کے بعد امن کے زمانہ میں صرف بارہ تیرہ ہزار کی مردم شماری رہ گئی“

حسن اتفاق سے راقم الحروف نے مولوی صاحب کا مذکورہ مکان اور مدینہ طیبہ کا ریلوے اسٹیشن دیکھنے کی مسرت حاصل کی۔ مکان خوبصورت، ہوادار اور آرام دہ تھا۔ حضرت مولانا سید محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے بڑی تفصیل سے بتلایا کہ فلاں حصہ الہیہ حساب کے لیے مخصوص تھا۔ اس حصے میں بڑے بھائی صاحب رہتے تھے وغیرہ وغیرہ۔

اسٹیشن کو اجڑے ہوئے اگرچہ ستراسی برس گزر چکے تھے مگر پٹریاں ابھی باقی تھیں۔ انجن اور ڈبے، پلیٹ فارم پر شکستہ اور زخم خوردہ حالت میں صاف بستہ تھے۔ اسٹیشن کی عمارت بذات خود خوبصورت، شاندار اور ماڈرن تھی۔ اس پر مستزاد اس کا محل وقوع تھا اور اس کے ملحق چھوٹی سی ترکی و اسلامی طرز کی حسین مسجد نے دل کشی میں چار چاند لگا دیئے تھے۔ کم و بیش پون صدی گزر جانے کے بعد بھی اس جسم مردہ میں اب بھی زندگی کے ایسے آثار باقی تھے کہ نظریں بے اختیار ہو کر ٹکٹ گھنڑ، ویٹنگ روم اور اسٹیشن ماسٹر آفس تلاش کرتی رہ گئیں۔ پلیٹ فارم پر ٹرین ہن ٹنگ کی حالت میں انجن اور دو رتک تجھی پٹریوں کو دیکھ کر راقم الحروف بے ساختہ ایک ڈبے میں سوار ہو گیا اور چشم تصور کو ایسا لگا کہ ابھی مسافر بھر جائیں گے، سگنل ڈاؤن ہوگا، گارڈ سیٹی دے گا اور ٹرین بھک بھک کرتی ہوئی استنبول کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اس حال سے اس ماضی کا اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ اسی رونقوں، برکتوں اور رحمتوں والے دیار میں ایک غریب الدیار درویش اور راضی برضا خاندان کا مسکن تیار ہو گیا تھا۔ اب ایسا لگا کہ کانٹوں بھرا راستہ کٹ گیا، مصائب کے بادل چھٹ گئے اور مشکلات کے پہاڑ ہٹ گئے۔ مگر کہاں؟ یہ دنیا سراہوں اور نظر فریبیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کی ہر حقیقت وہم و خیال اور ہر قدم دھوکہ اور فریب ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے مصائب و مسائل کا کس مرحلے پر خاتمہ ہے اور کب اور کہاں ابتداء ہے۔

کس نمی گویدم از منزل آخر خبرے

صد بیاباں بگذشت و دگرے در پیش است

مولوی صاحب کی زندگی کی اصل آزمائش، ابتلا، اور امتحان تو اب شروع ہو رہا تھا۔

اہل و عیال کی پے در پے اموات

مولوی صاحب کو امید تھی کہ پانچ بیٹوں کی اولاد پھیلے پھولے گی تو ان کو دین دنیا دونوں کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ دینی اعتبار سے حضور کے فرمان (انی مکاتیبکم الامم کی تعمیل کی فضیلت نصیب ہوگی اور دنیاوی حیثیت سے پردیس میں بڑا خاندان وجود میں آجائے گا۔

”والد صاحب کو یہ بھی خیال تھا کہ یہ سب میری اولاد پھیلے پھولے گی اور آپس میں اپنی اولاد کی شادی بیاہ کر کے ترتی کر جائے گی اور ایک اچھا خاصا کنبہ اور خاندان بن جائے گا۔“

آثار، قرآن اور صورتِ حالات دیکھتے ہوئے یہ امید اور توقع کچھ بیجا اور بے موقع بھی نہ تھی۔ تینوں بڑے بیٹوں کے کئی بچے ہو چکے تھے۔ دو غیر شادی شدہ نوجوان بیٹے تعلیم و تربیت، صورتِ سیرت اور صلاحیت و لیاقت میں دن دوئی رات چوگنی ترتی کر رہے تھے۔ مکان اور پھر ایسا مکان کہ ہر فرد کے لیے علیحدہ علیحدہ حصہ بن کر تیار ہو گیا تھا۔ خاندان کے علم، فضل، بزرگی اور للہیت کا چرچا ہو رہا تھا اور مقبولیت میں مدینہ طیبہ، عرب اور ہندوستان تک روز افزوں شہرت ہو رہی تھی۔ لوگ، عوام، خواص، علما، صلحا، اتقیا، رساء، امراء اور اہلکاران حکومت معتقدوں، مذاہن اور مستفیدوں کے زمرے میں شامل ہو رہے تھے۔ ایسے میں اگر مولوی صاحب کے قلب میں کثرتِ اولاد اور زیادتی خاندان کی آرزو پیدا ہوئی ہو تو بالکل قدرتی اور فطری بات تھی۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نظر کس طرح لگتی ہے اور کیوں لگتی ہے، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہو گا مگر لاکھوں کے گھر پلک جھپکتے میں خاک ہوتے اور بھرے پورے خاندان دیکھتے ہی دیکھتے برباد ہوتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ وسلم کا ارشاد ”العیین حق“ اپنے کانوں سے سنا۔ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ مولوی صاحب کی بہری بھری اور لہلہاتی کھینتی صبح شام میں مرجھا گئی۔

سب سے پہلے حضرت مدنیؒ کی ایک دو سالہ صاحبزادی اور مولانا صدیق احمد صاحب کے ایک تین سالہ صاحبزادہ حمید احمدؒ ۱۳۲۰ھ میں ذخیرہ آخرت ہوئے اور اسی دوران ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۳ء، ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۰۴ء کے درمیان مولانا سید احمد صاحب کے کئی بچے ایام رضاعت میں انتقال کر گئے۔

۱۳۲۲ھ میں مولوی صاحب پر ایسا حادثہ گذرا جس نے ان کے سکون و راحت کی عمارت خراب سے بلا دی۔ پینتالیس سال تک حق رفاقت ادا کرنے کے بعد خدمت گزار اطاعت شعار اور وفا شناس رفیقہ زندگی سیدہ نور النساء جنھوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت میں، زمانہ کے گرم و سرد میں، گھر داری اور تعمیر و ترتیب میں دن رات تنکا تنکا جنم کر اور قدم قدم چل کر ساتھ دیا تھا۔ اچانک داغ مفارقت دے گئیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ گھر والوں، متعلقین اور مخلصین نے آپ کی دل بستگی اور راحت رسانی کی ہر ممکن کوشش کی۔ اہلیہ مرحومہ کی ایک بیوہ خالہ زاد بہن تھیں، ان کو ہندوستان سے بلا کر باصرہ عقد ثانی پر تیا کیا گیا۔ مگر وہ مزاج دانی، دل داری اور خاطر داری جس کے مولوی صاحب عادی تھے، میسر نہ ہوئی۔ آخر ان زوجہ ثانیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ہاجر خاتون سے آپ کا تیسرا عقد ہوا۔

۱۳۲۴ھ مطابق ۱۹۰۶ء میں جو ان سال سعادت مند اور نہایت ہونہار فرزند جمیل احمد جو ترکی میں حکومت کے خرچ پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، مرضِ دق میں مبتلا ہو کر آئے اور کچھ دن بیمار رہ کر جو ار رحمت میں جا بسے۔ اس ماتم سخت ست کہ گویند جو ان مرد۔ ۱۳۲۵ھ مطابق ۱۹۰۷ء کے آس پاس داماد سید فاروق احمد چوری چھپے، بیوی کے زیورات اور نقد لے کر فرار ہو گئے۔ کئی بچیوں میں ایک یہی بیٹی سچی تھیں، پانچ بھائیوں کی اکلوتی بہن تھیں۔ باپ کے ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا تو تھیں ہی، اس کے علاوہ سارے گھر کی آنکھوں کا تارا تھیں۔ کہہ لیں جو ان بیٹے کی موت کے بعد نسبت جگر بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم ہوا تو بوڑھے باپ کی دنیا اندھیر ہو گئی۔

ابھی ان صد مات سے ہوش بھی نہ آیا تھا کہ اسی سال میں بڑی بہو یعنی مولانا

محمد صدیق صاحب کی اہلیہ دق میں مبتلا ہوئیں اور دس گیارہ برس کے ایک بچے وحید احمد کو چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہوئیں۔ ان حادثات کے تھوڑے ہی دن بعد ۱۳۲۶ھ مطابق ۱۹۰۸ء میں حضرت شیخ مدنیؒ کی پہلی اہلیہ بھی دق میں مبتلا ہوئیں اور صرف چند ماہ بیمار رہ کر ایک تین برس کی بچی زہرہ کو چھوڑ کر راہی ملک عدم ہوئیں۔ اس طرح دونوں بیٹوں کے بھرے پورے گھر دیکھتے دیکھتے اجڑ کر رہ گئے۔

بڑے فرزند کی دوسری شادی بریلی کے ایک مہاجر تید فرزند علی مرحوم کی لڑکی سے کی گئی۔ یہ بیوی بھی صرف ڈیڑھ سال زندہ رہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوا اور اسی زچگی میں انتقال کر گئیں۔ ان کے بعد ہی بچہ بھی ماں کے پاس چلا گیا۔

اس کے بعد صاحبزادی ریاض فاطمہ دق و دل میں مبتلا ہوئیں اور سال بھر بیمار رہ کر ۱۳۲۹ھ مطابق ۱۹۱۱ء میں چار برس کی ایک بچی چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہوئیں۔ بچی بھی ماں کا صدمہ اور فرقت برداشت نہ کر سکی اور تھوڑے ہی دنوں بعد ماں کے پہلو میں جاسوئی۔

بڑے فرزند مولانا صدیق احمد صاحب کا تیسرا عقد کر دیا گیا ان سے ایک بچہ ہوا اور کچھ عرصہ زندہ رہ کر انتقال کر گیا اور کچھ ہی عرصہ بعد ماں بھی مالکِ حقیقی سے جا ملیں۔ اس کے بعد صاحبزادہ تید محمود احمد صاحب کی پہلی اہلیہ جو بریلی ہی کے ایک خاندان کی اور شیخ ریاض الدین صاحب کی ہمشیرہ تھیں، بیمار ہوئیں اور تھوڑے دن تپ دق میں مبتلا رہ کر اللہ کو پیاری ہوئیں۔

مولانا صدیق احمدؒ کا چوتھا عقد ڈاکٹر رفاقت علی کی صاحبزادی سے کر دیا گیا تھا۔ ان سے ایک بچہ پیدا ہوا اور صغر سنی میں وفات پا گیا۔ اسی طرح رفتہ رفتہ چھوٹے بڑے بیسویں بیسویں افراد بوڑھے باپ نے اپنے ضعیف کندھوں اور کمزور ہاتھوں سے قبر میں اتارے۔

ابھی قربانی پوری اور امتحان مکمل نہیں ہوا تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح ان کی مجتہد اور جاں نثاری کے دعوے داروں کو بھی پیغمبرانہ امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔

مولوی صاحب بھی سرکارِ دو عالم کے جاں نثار اور عاشقِ زارِ الہی تھے چنانچہ بارگاہِ خداوندی میں جب صبر و شکر کا نذرانہ گزاران چکے تو آزمائش کی آخری آنچ دکھنی شروع ہوئی۔

بڑے صاحبزادے مولانا صدیق احمد صاحب آج تک معاملات میں انتظامات میں اور مشکلات میں باپ کے دست و بازو تھے۔ چھوٹے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کی تھی۔

بارگاہِ رشیدی میں لے جا کر مرید کرایا تھا اور اشغالِ روحانی کے راستوں پر لگایا تھا۔ ہجرت کے بعد تجارت، معیشت اور معاش کا بوجھ اپنے کاندھوں پر سنبھالا تھا۔ اب جب

باپ کو ان کی خدمت، سہارے اور موجودگی کی اتنی ضرورت تھی جتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ تب وہ بیمار پڑے اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد کل بیالیس تینتالیس سال کی

عمر میں سن ۱۳۳۲ھ مطابق ۱۹۱۱ء میں جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہو گا کہ پیری و کمزوری میں اس حادثے سے مولوی صاحب پر کیسی قیامت گذر گئی

ہوگی۔ اس مختصر سی مدت میں پے در پے اموات سے کیسے کیسے مرم کے جیسے ہوں گے

بہر لحظہ نمی گیرم از غیب جانے بہر لمحہ جانِ دگر می فروشم
تا ہم حضرت شیخؒ نے ان مصائب کا مجمل تذکرہ 'نقشِ حیات' میں اس طرح کیا ہے:

”والد صاحب مرحوم کا آخری حصہ عمر بالخصوص والدہ مرحومہ کی وفات کے بعد

بہت زیادہ مکرر اور رنجِ وہ گزارا ہے۔ ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور

گھرانے کے نفوس تقریباً چالیس نفر یکے بعد دیگرے وفات پا گئے۔ خود

فرماتے تھے کہ تقریباً چالیس نفر اپنے گھرانے کے میں نے اپنے ہاتھ سے

مدینہ منورہ میں دفن کیے ہیں۔ مگر انتہائی ضبط اور صبر و استقلال پر

عمل پیرا رہے۔“

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَدَّرَ وَقَضَى رَحِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ

وَعَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَ الْجَمِيعِ۔

ایڈریا نوبل کی نظر بندی اور وصال

۱۲۲۲-۲۵ء مطابق ۱۵-۱۹۱۲ء کی جنگِ عظیم کا زمانہ تھا۔ ترکی بھی جنگ میں ایک شریک ملک تھا۔ خلافتِ عثمانیہ اور حکومتِ ترکی کا چراغ ٹٹمار ہا تھا۔ جگہ جگہ بغاوتیں اور شورشیں ہو رہی تھیں۔ ذرا ذرا سے شک و شبہ پر گھر کے گھر کھود کر پھینک دیئے جاتے تھے۔ مولوی صاحب کا دولت خانہ ہندوستان کے اہل اللہ، علماء اور سربراہ آدرودہ قائدین کا مہمان خانہ تھا۔ آپ کے صاحبزادگان حکومتِ برطانیہ کے مخالفین اور مجاہدینِ آزادی کے تربیت یافتہ شاگرد اور تلامذہ تھے۔ مدینہ طیبہ میں جہاں آپ لوگوں سے محبت، عقیدت اور ارادت عام تھی وہیں ایسے بھی بہت سے افراد و اشخاص تھے جن کو اس خاندان سے حسد و عداوت تھی اور اس کی وجہ ان کی شانِ استغنا، پر وقار زندگی، سادگی اور کم آ میری تھی۔ ہنز پچشم عداوت بزرگ تر عیبت۔ یہ لوگ حکومت اور افسران و ذمہ دارانِ حکومت کے یہاں موقع بے موقع شکایتیں پہنچاتے رہتے تھے کہ یہ لوگ خطرناک ہیں۔ ان کے یہاں ہندوستان کے سیاسی لوگ مہمان رہتے ہیں۔ ان کے یہاں ہر وقت معتقدین و ذرائعین کا مجمع رہتا ہے۔ وقت نازک تھا۔ زخم ہرا ہوا تو ذرا سی ٹھیس بھی لہو لہان کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے فرزند مولانا حسین احمد اور سولہ سالہ پوتے وحید احمد کو شریف حسین نے مکہ میں گرفتار کر وا کر اپنے حلیفوں نگر بڑوں کے حوالے کر دیا۔ جنہوں نے دونوں حضرات کو پابہ جولاں مالٹا بھیج کر قید کر دیا۔ بوڑھا باپ مدینہ طیبہ میں ایک ایک پل بیٹے اور پوتے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک لختہ پائے جگر کی گرفتاری اور حالتِ قید میں جزیرہ مالٹا کو روانگی کی اطلاع ملی۔ جرم و سرِا کی تفصیل تو معلوم نہیں ہوئی۔ یہ افواہ سنی کہ دونوں کو پھانسی دی جائے گی۔ مولوی صاحب صبر کی چٹان اور شکر کا مجسمہ تھے مگر تھے تو گوشت پوست اور مٹی پانی کے بنے ہوئے انسان ہی۔ دونوں ہاتھ بارگاہِ الہی میں شکر کے لیے تو اٹھے مگر ساتھ ہی بے اختیار ٹوٹے ہوئے دل سے آہ بھی نکل ہی گئی۔

یہی ہے سیر فقیروں کی اور یہی فریاد زمیں پہ بیٹھ گئے سوتے آسمان دیکھا^۱۔
 ادھر مدینہ طیبہ کی ترکی پولیس جنگ عظیم کی وجہ سے اور برطانوی رعایا ہونے کی وجہ
 سے سارے ہندوستانیوں کو شہ کی نظر سے دکھتی تھی۔ اور اس خاندان پر تو حاسدین کی
 ریشہ دوانیوں اور دشمنوں کی کارروائیوں کی وجہ سے خصوصی نگرانی تھی۔ مزید یہ ہوا کہ
 انہی دنوں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور مولانا خلیل احمد صاحب قدس اللہ سرہما
 اسی گھر میں رونق افروز ہوئے۔ ان حضرات کی زیارت، ملاقاتوں اور علمی و روحانی
 استفادے کے لیے ہر قوم اور ہر ملک کے عوام و خواص پر مشتمل ایک خلقت ٹوٹ پڑی
 اس غیر معمولی ہجوم و اجتماع پر بھی پولیس کو شک گذرا۔ ادھر ایک معمولی سا بہانہ اور ہاتھ
 آگیا۔ حضرت شیخ الہند کے خدام میں بعض حضرات مدینہ طیبہ سے واپس ہوئے توجہ سے
 آنے جانے والوں کے ہاتھ طول و طویل خطوط اور تفصیلات اردو زبان میں حضرت کی
 خدمت میں روانہ کیں۔ سرکاری طور پر عربی اور ترکی زبانوں کے علاوہ کسی زبان میں
 اور سرکاری ڈاک کے علاوہ کسی اور ذریعے سے رسل و رسائل کی سخت ممانعت تھی۔
 سو، اتفاق سے بعض خطوط اور کئی کئی صفحات پر مشتمل تفصیلات حکومت کے ہاتھ لگ گئیں۔
 ان میں کوئی قابل اعتراض بات تھی یا نہیں مگر شبہ و بدگمانی کے لیے بہانہ ضرور ہاتھ آگیا
 تھا۔ ترکی حکومت کمزور تو ہو رہی رہی تھی۔ جزیرہ عرب میں ہر جگہ اس کے پیرا کھڑے
 تھے۔ اسی عالم میں اس نے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دو صاحبزادوں
 مولانا سید احمد صاحب اور مولانا سید محمود احمد صاحب کو گرفتار کر لیا۔ خاندان کے بیشتر
 افراد پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ ایک جوان بیٹا اور نوخیز پوتا چند دن پہلے
 قید ہو کر سمندر پار بھیجے جا چکے تھے۔ اب کسی نہ کسی طرح ٹوٹے ہوئے حوصلے اور زخم خوردہ
 دل کے ساتھ بوڑھا باپ دو بیٹوں کی مدد سے کچے کھچے بچوں اور عورتوں کی دیکھ بھال کر رہا
 تھا۔ یہ تینوں بھی بے خطا و بے قصور پکڑے گئے تو حضرت شیخ الاسلام کی اہلیہ ثانیہ، ان کا
 ایک ڈیڑھ سالہ بچہ اشفاق احمد پہلی اہلیہ کی گیارہ سالہ بچی زہرا مولانا سید احمد صاحب
 کی دوسری اہلیہ، مولانا سید محمود احمد صاحب کی دوسری اہلیہ اور مولوی صاحب کی چوتھی

اہلیہ کل چار بیمار اور ضعیف عورتوں اور دو بچوں کا اللہ کے سوا کوئی آسرا اور سہارا نہیں رہ گیا۔ مخلصین اور خیر خواہوں نے بہت دوڑ دھوپ کی۔ حکومت کو یقین دلایا کہ یہ غریب الیاز مخلص اور باخدا لوگ ہیں ان کو سیاسیات یا ملکی معاملات سے کوئی دل چسپی یا تعلق نہیں ہے۔ مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ باپ اور دونوں بیٹے پاہ جولان ترکی کے شہر ایڈریا ناپول میں نظر بندی کے لیے روانہ کر دیئے گئے۔ مولوی صاحب اپنی سب سے بڑی تمنا پوری ہو جانے پر زندگی کی ساری مصیبتیں صبر و شکر کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ عزیز دولت پا کر انھوں نے دنیا کی ساری دولتوں سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ اسی دیار کے لیے آپ نے اپنا عزیز دیار ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا تھا۔ جب سے دیر اقدس پہ جبیں سائی نصیب ہوئی تھی، قدم باہر نہیں نکالا تھا کہ کہیں سرکار کے قدموں سے عمر بھر کے لیے دوری نہ ہو جائے۔ آج جب آپ کو قید کر کے مدینہ سے لے چلے اور ناخن کو گوشت سے جدا کرنے لگے تو زندگی میں پہلی بار مظلوم دل کا خون ہو گیا اور مجبور روح تڑپ اٹھی۔

تھے ننھے مصوم بچوں، کمزور بیمار اور ضعیف العمر عورتوں کو بے یار و مددگار کس دل سے چھوڑا۔ راستے کے لیے کیا انتظام ہوا اور کیا زاورا د ملا۔ دورانِ مسافرت کیا کیا حالتیں پیش آئیں اور سفر کیسے کیسے گذرا۔ یہ تفصیلات لکھتے اور بتلانے کے بس کی نہیں ہیں۔ مختصر یہ کہ ایڈریا ناپول پہنچے تو شدید سردی تھی۔ رگوں میں خون منجمد اور ہاتھ پاؤں شل ہوئے جاتے تھے۔ مولوی صاحب گرم ملک میں پیدا ہوئے اور ساری عمر گرم ہی ماحول میں گذاری تھی۔ عسرت اور تنگدستی کے عالم میں بھی اولاد اور بچے قدم قدم راحت رسانی اور خدمت گذاری کے لیے ایک ایک پاؤں پر کھڑے رہتے تھے۔ اب جبکہ مصائب و آلام نے جسمانی قوت مداخلت بالکل ہی ختم کر دی تھی۔ اس غریب الوطنی، نظر بندی، قید و بند اور بے سرو سامانی کو برداشت نہ کر سکے۔ حکومت نے ان قیدیوں کے قیام کا انتظام شہر سے دور خیموں کے ایک کیمپ میں کیا تھا۔ اور تین اشرفی ماہواری کس گزارے کے لیے مقرر کی تھی۔ اول تو یہ رستم بہینہ بھر کے لیے ویسے بھی ناکافی تھی۔ اور پھر زوال پذیر حکومت کے سگے کی قیمت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ ایک اشرفی پیسوں کے بھاؤ میں چلتی تھی۔ ایسے میں گذر اوقات

کس طرح ہوتا ہوگا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور پھر خیمے تو معمولی سردی گرمی سے بھی بچاؤ نہیں کر سکتے۔ وہ تو سچ بستہ ہوا میں تھیں۔ برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی تھا اور کھلا ہوا میدان تھا۔ صبح چار بجے تہجد کے لیے اٹھنا اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے میں نفلیں پڑھنا ایک ستر بہتر برس کے بوڑھے بیمار اور کمزور انسان کی طاقت سے باہر ہو گیا اور نمونہ کا شدید حملہ ہوا۔ حکیم ڈاکٹر دوا علاج تو دور کی باتیں تھیں، معمولی آرام اور غذائیں بھی میسر نہ ہو سکیں۔ اور ایڈریانوئل پہنچنے کے ایک ماہ بعد آپ مالک حقیقی سے جا ملے اور وہیں کی خاک میں پیوندِ زمیں ہو گئے۔

مولوی صاحب نہایت فہیم ذکی ذہین اور الوالعزم انسان تھے۔ اگر حالات کچھ بھی مساعدت کرتے تو، بڑے متبحر اور محقق عالم ہوتے۔ خاندانی مزاج اور موروثی مذاق کی بنا پر تصوف، معرفت اور اشغالِ روحانیہ سے آپ کو طبعی اور قلبی تعلق تھا۔ اگرچہ حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کی نگاہ گہر بار سے بڑی حد تک فیضیاب ہوئے تھے اور ذکر و شغل اور سلوک میں ترقی حاصل کی مگر حضرت کی طرف سے آپ کو خلافت و اجازت نہیں تھی۔ آپ کے وصال کے بعد خواب دیکھا کہ شاہ صاحب نے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ صاحبزادوں کو تصوف و معرفت کی راہ پر گامزن کرنے کیلئے آپ نے پوری کوشش اور اہتمام کیا۔ اور بیٹوں کو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے بیعت ہونے کی تاکید کرتے رہے۔ باوجود مشکلات اور تنگدستی کے صاحبزادگان کو مدینہ طیبہ سے بارگاہِ رشیدی میں تربیت روحانی اور تزکیہ باطنی کے لیے ہندوستان روانہ فرمایا اور جب واپسی میں کچھ دیر ہوئی تو حضرت قطب عالم کو معروضہ لکھا ”سید احمد اگر کسی قابل ہو گیا ہو تو اس کو اجازت دے کر بھیج دیں مجھ کو اس کی ضرورت ہے اور اگر کسی قابل نہیں ہو تو بہتر ہے کہ آپ کی چوکھٹ پر سر مار کر وہیں مر جائے۔“ اس پر حضرت گنگوہی بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مولوی سید احمد کے والد چونکہ سلوک اور طریقت سے واقف ہیں اس لیے اس کی قدر اور منزلت جانتے ہیں۔ پابندی شریعت،

اتباعِ سنت، تقویٰ اور توجہ الی اللہ کا بے حد اہتمام فرماتے تھے۔ اوراد و وظائف، مراقبہ و مجاہدہ پر آخر تک نہایت درجہ پابندی سے قائم رہے۔ ”اتباعِ سنت اور التزام جماعاتِ خمسہ وغیرہ میں باوجود ضعف اور پیرانہ سالی انتہائی کوشاں رہتے تھے۔ سخت سردیوں اور سخت گرمیوں میں بھی اس طرح اوقات کی پابندی فرماتے تھے کہ ہم نوجوان اس سے عاجز رہتے تھے، دنیاوی معاملات میں بھی آپ کا نظم و ضبط پابندی اوقات اور با اصول زندگی قابلِ تعریف تھی۔ گھر میں ہر کام کے لیے اوقات اور ہر وقت کے لیے مختلف کام اور افراد مقرر تھے۔ فرزندگان، بہویں اور گھر کے دوسرے افراد ان کے اصول و ضوابط کی پوری طرح پابندی کرتے تھے۔ راقم الحروف نے حضرت مولانا سید محمود احمد صاحب کی اہلیہ مرحومہ سے ان کی با اصول زندگی کے احوال سنے۔ وہ فرماتی تھیں کہ گھر کا کوئی فرد مقررہ ضوابط اور قواعد کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ بہوؤں کو بڑے اہتمام سے کفایت شعاری، جفاکشی اور امور خانہ داری کی تربیت دیا کرتے تھے۔ اپنے گھروں کی تعمیر میں خود بہ نفس نفیس اور صاحبزادوں نے جس طرح گارا بنانے، سامان اٹھانے، اینٹیں پاتھنے، روڑے جمع کرنے، کنویں اور گڑھے کھودنے کا کام کیا اور پھر ایک دو روز ہفتے دو ہفتے اور مہینے نہیں بلکہ مسلسل دو سال تک یہ مشقتیں برداشت کر کے آخر کار عمار پوری کر کے ہی دم لیا یہ معمولی عزم و ارادے اور عام قسم کے آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ستر پچھتر برس کی عمر میں بھی گھر کی معمولی ضروریات، ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی مرمت، چارباہوں کے پٹی پائے، بیڑھیاں پٹے اور کھونٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیا کرتے تھے۔ بیٹے باصرا مشقت برداشت کرنے سے منع کرتے تھے مگر فرماتے تھے کہ وقت اور زندگی دونوں دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں۔ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مولوی صاحب کو عملیات اور تعویذوں کا شوق، تجربہ اور مہارت تھی۔ ضرورت مند لوگوں کا علاج بھی کرتے تھے اور سلب مرض کا عمل بھی کرتے تھے۔ مختلف بزرگوں کے علاوہ آپ کے مرشد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے آپ کو عملیات کی بیاضوں اور مجموعات کی اجازت خصوصی مرحمت فرمائی تھی۔ علمی موضوعات میں اردو، فارسی، برج

بھاشا، ہندی، حساب اور ریاضیات میں آپ کی استعداد نہایت اعلیٰ اور مسلم تھی۔ ریاضیات کے مشکل سے مشکل مسائل منٹوں میں اور انگلیوں پر حل کر دیا کرتے تھے۔ زبانوں میں آپ کی قابلیت اور مہارت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ آپ تینوں زبانوں میں بلخ، برجستہ اور پُراثر غزلیں، نظمیں اور قصائد کہتے تھے۔ اُس زمانے میں آج کی طرح رسائل و جرائد تو شائع نہیں ہوتے تھے مگر شاعری کے گلدستے اور مجموعے نکلتے تھے اور اس میں آپ کا کلام بھی شائع ہوا ہے۔ آج سے تقریباً سو برس پہلے کے یہ اشعار فن شاعری کی کسوٹی پر پورے اُترتے ہیں۔ جو حضرات اودھی زبان اور اس کی شاعرانہ انفرادیت سے واقف ہیں وہ آپ کی شاعری میں تشبیہ، استعارات اور حسن محاکات کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں فارسی اور اردو میں بھی سادگی، برجستگی اور اثر انگیزی قابلِ غور ہے۔ انقلابِ زمانہ اور بار بار کی نقل و حرکت کے سبب آپ کا سارا کلام ضائع ہو گیا۔ ورنہ قدیم طرز اور زبان کا ایک سرمایہ ہوتا۔ چند اشعار بطور نمونہ درج ذیل ہیں۔

ایں جمالِ حسنِ عالم سوزِ تو ایں رخِ پُر نور دلِ افروزِ تو
کرد بسملِ صد ہزاراں جبرئیل ناوکِ مرثگانِ سینہ دوزِ تو

اے بہارِ باغِ رضواں کوئے تو بلبلِ سدرہ اسیرِ موئے تو
سجدہ ریزاں آمدہ سویتِ حبیب اے ہزاراں کعبہ در ابروئے تو

جان و دلِ رامی بردیکِ آنِ تو این چہ حسنِ است اے عجائبِ شانِ تو
سخت از دردتِ حبیبِ ارچہِ عجب اے با جبرئیل شد قربانِ تو

چار و ناچار جو محفل سے تری جاتے ہیں حسرتِ درخ و تعلق ساتھ دہ لے جاتے ہیں
جاں سے جانا ہے ترے پاس سے جانا جانا جیتے جاتے ہیں مگر مردہ ہوئے جاتے ہیں
ایک ہم ہی رہے اس بزم میں باقی ساتی لوگ میخانے سے پی پی کے چلے جاتے ہیں

اس حبیب دل خستہ پہ بھی ہو جائے نظر
درد مندوں کو دو آپ دیئے جاتے ہیں

یہ کیسا رنگ ہے مجھ کو کہاں یہ دل بھانا ہے
کہاں ڈھونڈوں کہ ہر جاؤں جتن کوئی نہیں بنتا
کہوں میں کیا چلی کیدھر برہ کی آگ دل بھستر
بہت دن بیتے اے سکھیونہ پایوں درس پیتم کا
مدینہ ہوز میں پر یا کہ ہو عرش بریں اوپر
میں عاجز بے نوابندی کنیز ک زاد سے کمتر
دل و جان بیچ کر بھی مجھ کو وہ سرمہ لگانا ہے
بصارت تیز کرتی ہے حبیب اس کوچہ کی مٹی

حضرت گنج مراد آبادیؒ کے فراق میں بروگ

کون تبھا مورا جیا بو رانا
کہہ برہا ہیا سابلے بانا
کوسوامی موری بانھ گہنیا
کہاں گیو مورے کنور کھنیا
کہہ مٹھون توہے ڈھونڈن جاؤں
کت پائوں سرچرن ناؤں
تم بن کو مورا پیر ہریا
تم بن کو مورا پیر ہریا
کون کاج مورا جو بن بارا
جو چھٹ گیو کھنیا رتنا رانا
کون دیس مولے جو گی چھائے
کہہ کارن مولے رنگ نہ لائے

شاعری کی طرف آپ کا ایسا میلان نہ تھا جیسا عام طور پر شعرا کو ہوتا ہے۔ تعلق
مع اللہ، عشق رسول اللہ اور پیر و مرشد کی محبت میں قلبی کیفیات و جذبات مرتب شکل
میں زبان پر آجاتے تھے اور یہی آپ کی شاعری کا سرمایہ تھا۔

خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں

آپ کی تاریخ پیدائش ہمیں محفوظ نہیں ہے۔ مگر حضرت شیخ الاسلام نے

انقلاب ۱۸۵۷ء سے چار پانچ برس پہلے کی پیدائش لکھی ہے۔ اور اسارت مالٹا ۱۹۱۷ء کے کچھ دن بعد آپ کا وصال ہوا ہے۔ اس طرح کچھ کم یا زیادہ ستر برس کی عمر پائی۔ آپ نے تمام زندگی جیسی مشکلات، شائد، محرومیاں، آلام اور مصائب پورے صبر و شکر اور توکل علی اللہ کے ساتھ برداشت کیے اور رضائے باری تعالیٰ اور احیائے سنت و شریعت کی راہوں میں جس طرح ثابت قدم رہے اور جیسے جیسے خاصانِ خداوندی کے لیے مخصوص ابتلا، آزمائش میں پورے اترے، ان کے پیش نظر عجب نہیں کہ آج جو آپ کی اولاد کو اور خاندان کے ہر فرد کو عزت، مقبولیت، راحت اور دینی و دنیوی نعمتیں نصیب ہیں۔ یہ آپ کی مقبولیت عند اللہ ہی کے طفیل ہوں۔

مولوی حبیب اللہ صاحب کے پانچ صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ دو بچیاں زینب اور نسیم زہرا اللہ داد پور ہندوستان ہی میں چار برس اور ڈیڑھ سال کی عمر میں ذخیرہ آخرت ہوئیں۔ ایک صاحبزادی پانچ بھائیوں اور باپ کے ساتھ مدینہ طیبہ آئیں۔ ان سب حضرات کے تفصیلی حالات آئندہ صفحات میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مولوی شاہ سید حبیب اللہ صاحب ہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس الشریف کے اس بیان کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔

”والد صاحب سبحان الدعوات بہت زیادہ تھے۔ ایسے بہت سے واقعات پیش آئے تھے کہ جس نے ان کو نہ پایا یا جس کے واسطے انہوں نے بدعا کی، وہ پینے نہیں پایا۔ رحمۃ اللہ ورضی عنہ وارضاه۔ واقعہ یہی ہے کہ والدین مرحومین میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں جمع کر دی تھیں وہ بہت کم لوگوں میں اجتماعی طور پر پائی جاتی ہیں“^۱

ابونا ابّ لوكان للناس كلهم (ب) مثله اغناهم بالمناقب .
(ترجمہ : ہمارے والد ایسے عظیم انسان تھے کہ اگر سب کو ایسے ہی باپ مل جائیں تو لوگ بڑائیوں اور

نصیلتوں سے مالا مال ہو جائیں۔)

مولوی صاحب کے پڑدادا سید نور اشرف اور آپ کی اہلیہ کے پڑدادا سید تراب علی مرحومین حقیقی بھائی اور شاہِ مدن کے صاحبزادگان تھے۔ آپ کی اہلیہ کا سلسلہ نسب مندرجہ ذیل ہے۔

نور النساء بنت سید اکبر علی بن سید مخدوم بخش بن تراب علی بن سید شاہ مدن (مرحومین) سید شاہ مدن کے بعد اوپر تک شجرہ ایک ہے۔

مولانا سید صدیق احمد صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ

آپ مولوی سید حبیب اللہ صاحب مہاجر مدنی کے سب سے بڑے اور پہلے فرزند تھے۔ ۱۲۸۸ھ مطابق ۱۸۷۱ء میں بمقام ٹانڈہ فیض آباد (اودھ) پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد اور والدہ سے حاصل کی۔ اُردو، فارسی اور قرآن پاک ناظرہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مقامی مڈل اسکول میں داخل ہوئے۔ اُس زمانے میں ان اسکولوں کی تعلیم اس قدر معیاری اور مکمل ہوتی تھی کہ آج کے ڈگری کالج کا معیار بھی اس درجے کو مشکل سے پہنچتا ہے۔ آپ کو فائنل امتحان میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی اور پورے صوبے میں اول آئے۔ اُسے سرکاری اسکول اور گورنمنٹ کے امتحان میں ایسی امتیازی حیثیت سے پاس ہونے پر انگریزی کالج میں داخلے، تعلیمی وظیفے اور آئندہ ترقیات کے امکانات بہت روشن ہو گئے۔ اسکولوں کے ذمہ داران اور محکمہ تعلیم کے افسران نے خوشی کا اظہار کیا، آئندہ کے لیے مختلف مشورے دیئے۔ اور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ مگر اولاد کے لیے مولوی صاحب کا پروگرام اسلامی تعلیم اور دینی خدمت تھی اس لیے دنیوی تعلیم کا سلسلہ یہیں پر منقطع ہو گیا۔

بیس سال کی عمر میں ۱۳۰۵ھ میں آپ کی شادی قصبہ شہزاد پور تحصیل اکبر پور میں کر دی گئی۔ آپ طبعی اعتبار سے بہت مغلوب الغضب اور سخت مزاج تھے۔ کسی بات پر باپ سے

اختلاف رائے ہوا۔ باپ نے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ آپ فوراً نکل گئے اور سیدھے دیوبند پہنچ کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ کے خصوصی تلامذہ اور مقرب خدام کے زمرہ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت مدرسہ دیوبند حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ کے زیر اہتمام تھا اور اس مدرسے میں مطبخ وغیرہ کا انتظام شروع نہیں ہوا تھا۔ اس لیے آپ کا کھانا حضرت شیخ الہند کے دو لنگہ سے مقرر ہوا اور قریب کے ایک مکان میں قیام کا بندوبست ہوا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت نے خصوصی شفقت یہ فرمائی کہ مدرسے کے اسباق کے علاوہ کچھ درس خاص طور پر پڑھائے۔ دورانِ تعلیم آپ نے اپنے دو چھوٹے بھائیوں مولانا سید احمد صاحب اور مولانا حسین احمد صاحب کو بھی وہیں بلا لیا اور حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ دیوبند سے فراغت کے بعد آپ حضرت قطب عالم مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ آپ کا اپنا رجحان حضرت شیخ الہند سے بیعت کا تھا۔ مگر حضرت نے گنگوہ حاضر ہونے کا مشورہ دیا اور خود بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے والد اپنے پیرومرشد حضرت گنج مراد آبادی سے بیعت کرنا چاہتے تھے۔ عرصہ تک اس بارے میں بذریعہ مراسلت اصرار و اعذار کا سلسلہ رہا۔ آخر کار والد نے اجازت دی اور آپ حضرت گنگوہی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد بلند شہر، سیوہارہ اور امر وہہ وغیرہ مقامات پر تدریسی خدمات دے رہے تھے کہ اچانک آپ کے والد اور خاندان کے دوسرے افراد نے مدینہ طیبہ ہجرت کر جانے اور وہیں قیام کے مقصد سے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے والد سے بہت عرض و معروض کی کہ میری تربیت باطنی اور تعلیم روحانی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ مگر والد کا فیصلہ اٹل تھا۔ آپ نے اپنے پیرومرشد سے بھی شکایتاً عرض کی مگر انھوں نے بھی یہی فرمایا کہ باپ کی اطاعت ضروری ہے۔ ایسا ہی ہے تو کچھ عرصہ بعد واپس آجانا اور مقامات سلوک پورے کر لینا۔

چنانچہ ۱۳۱۶ھ مطابق ۱۸۹۹ء میں اہلیہ اور ایک صاحبزادہ وحید احمد بھمبر چار سال کے ساتھ والد اور خاندان کی معیت میں مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ طیبہ حاضر

ہو کر درس و تدریس، ذکر و شغل کے ساتھ گزراؤقتات کے لیے کھجوروں کی تجارت اور ضروری اشیائے خورد و نوش کی دوکان میں مشغول رہے۔ خاندان کا گذران اسی تجارت پر تھا اور اس میں سارے چھوٹے بھائی آپ کے شریک و مساعد تھے۔ ان سارے مشاغل اور مصروفیتوں کے باوجود آپ کے دل سے قطب عالم حضرت گنگوہی کے پاس حاضری کی ترغیب کم نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران چھوٹے بھائی مولانا حسین احمد کے نام حضرت کا گرامی نامہ آیا جس میں ان کو حاضری کا حکم دیا گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کو تو باپ نے مالی حالات اور معاشی ضروریات کی بنیاد پر اجازت دینے سے گریز کیا۔ مگر مولانا صدیق احمد کی آتش شوق اس خط سے اور بھی بھڑک اٹھی اور ایک دن بغیر کسی تیاری اور سامان کے ساٹھ یا ستر روپیہ زاد راہ کے طور پر ساتھ لے کر چیکے سے حج کے لیے جانے والے رابع کے ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ رات کو دیر تک گھر نہیں آئے تو گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ آخر میں کمرے سے ایک پرچہ ملا جس میں روانگی کی اطلاع اور سفر کی تفصیل لکھی تھی۔ اس اطلاع سے یلگوند اطمینان ہوا مگر باپ کو پھر بھی پریشانی لاحق رہی۔ سامان سفر ساتھ نہ تھا۔ راستے میں تنہائی تھی۔ مزاج میں استقلال اور جفا کشی بھی کم تھی۔ ان امور کا خیال کر کے والد صاحب نے حضرت شیخ سے فرمایا کہ ”اصل میں بلاوا تو تمہارا تھا اور روانہ وہ ہو گئے اس لیے اب تم بھی رخت سفر باندھو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کو راستے میں تنہائی کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔“

ادھر مولانا کو راستے کی تکلیفوں اور سفر کے شائد نے ابتدا ہی میں گھبرا دیا۔ جدہ پہنچے تو فوری طور پر ہندوستان کے لیے کوئی جہاز بھی نہ ملا۔ وہاں جہاز کے انتظار میں غیر یقینی مدت تک قیام بھی اُن پر شاق گذرا۔ چنانچہ والد کو خط لکھا کہ میں اپنے کپے پر پشیمان ہوں۔ آگے سفر کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ حج کر کے واپس آ رہا ہوں۔ مولوی صاحب بڑے متقل مزاج اور اولوالعزم انسان تھے۔ منجھلے بیٹے مولانا حسین احمد سے فرمایا کہ فوراً روانہ ہو اور صدیق احمد کو واپسی سے باز رکھو۔ جب ارادہ کر ہی لیا تو اپنے مرشد کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں۔ فاذا عن امت فتوکل علی اللہ۔ حضرت

شیخ جدہ سے پہنچے تو معلوم ہوا کہ بڑے بھائی حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ جا چکے ہیں۔ حضرت بھی مکہ حاضر ہوئے۔ مولینا چھوٹے بھائی کو پا کر بہت خوش ہوئے اور دونوں بھائی نعمت حج سے فیضیاب ہوئے۔ اور حج کے بعد جدہ پہنچ کر بڑی مشکلوں اور دقتوں کے بعد ہندوستان پہنچے۔ وہاں دونوں صاحبان حضرت قطب عالم کے دربار میں مشاغل سلوک تصویف میں مشغول ہو گئے۔ ڈیڑھ ماہ بعد حضرت جھنگی نے دونوں بھائیوں مولینا صدیق احمد اور مولینا حسین احمد صاحب کو ۱۳۱۹ھ مطابق ۱۹۰۱ء کے اوائل میں خلعت اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اس سفر اور ان واقعات کی تفصیل حضرت شیخ قدس اللہ سرہ العزیز کے واقعات میں آگے پیش کی جا رہی ہے۔ ۱۳۲۰ھ میں دونوں صاحبان مدینہ واپس ہوئے۔ دوکان اور تجارت تو آپ لوگوں کی غیبت میں جاری نہ رہ سکی تھی۔ اس لیے اب مختلف ملازمتوں کے ساتھ حرم پاک میں درس و تدریس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ اس کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے بیعت اور اصلاح و ارشاد کا سلسلہ شروع کیا یا نہیں؟۔ خلافت کے وقت آپ کی عمر کم و بیش تین برس کی تھی اور اس کے بعد کل بارہ تیرہ برس بقید حیات رہے۔ اس لیے خیال یہ ہے کہ بیعت و ارشاد کا مشغلہ آپ نے نہیں شروع کیا۔ پہلی اہلیہ سے آپ کے دو صاحبزادے وحید احمد اور حمید احمد پیدا ہوئے۔ موخر الذکر صرف تین سال کی عمر میں ذخیرہ آخرت ہوئے۔ اور اہلیہ ۱۳۲۵ھ میں بڑے لڑکے وحید احمد کو چھوڑ کر دق و سل میں مبتلا ہو کر راہی ملک عدم ہوئیں۔ آپ کا دوسرا عقد بریلی کے ایک مہاجر سید فرزند علی صاحب کی صاحبزادی سے ہوا مگر ڈیڑھ سال بعد زچگی میں ان کا بھی انتقال ہو گیا اور بچہ بھی فوت ہو گیا۔ تیسرا عقد بنارس کی ایک بیوہ سے ہوا۔ ان سے ایک بچہ پیدا ہوا مگر کچھ ہی عرصہ زندہ رہا اور پھر ماں بیٹے دونوں جنت میں جا بسے۔ آپ کی چوتھی شادی ڈاکٹر رفاقت علی کی صاحبزادی اور مولینا عبدالحق صاحب مدنی کی بہن سے ہوئی۔ ان سے بھی ایک بچہ ہوا جو کم سنی میں ہی فوت ہوا اور احسن کار ۱۳۳۰ھ مطابق ۱۹۱۱ء میں کل اکتالیس برس کی عمر گزار کر خود بھی اکلوتے بیٹے وحید احمد کو

بیتیم کر کے اور بوڑھے باپ اور سعادت مند اور محبت کرنے والے بھائیوں اور بہن کو رونا چھوڑ کر جنت البقیع کی جنت میں جا سوئے۔ (انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حق تعالیٰ نے آپ کو ذہانت، ذکاوت، علم و عمل، تعلق مع اللہ، تصوف اور اشغال روحانیہ سے بڑا دافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کو اپنے مشائخ حضرت شیخ الہندؒ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سے غایت تعلق تھا۔ یہ حضرات بھی آپ کی جانب خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ ہجرت کی نیت سے جب آپ دیوبند سے رخصت ہونے لگے تو حضرت شیخ الہندؒ اسٹیشن تک پیادہ پار رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت بیعت دینے وقت خلعت عطا فرمائی اور اپنے ہاتھوں سے دستارِ خلافت سر پر رکھی۔ یہ معمولی اعزاز اور شرف نہیں تھا۔ ان اولیاء کرام کی وہ شان تھی جن کے بارے میں کہا گیا ہے "آنانکہ خاک را بنظر کمیہا کند۔ ان اوصاف خصوصیات کے ساتھ آپ کے مزاج میں شدت اور غصہ بہت تھا۔ راقم الحروف سے مولانا سید محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح توہم سے بات کرتا ہے سوالات کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، اس طرح ہم لوگ بڑے بھائی صاحب کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے۔ گھر میں شخص اُن سے ڈرتا تھا یہاں تک کہ میاں بھی ان کے مزاج کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ "بڑے بھائی صاحب بہت سخت تھے اور خوب مارا کرتے تھے۔ مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی کے خلفاء کے ضمن میں اپنی کتاب تذکرۃ الرشید میں اچھا تذکرہ کیا ہے،

"حضرت مولانا الحاج المولوی صدیق احمد صاحب ہاجر مدنی مدفوضہ: آپ کا پہلا وطن

موضع اللہ داد پور تحصیل ٹانڈہ ضلع فیض آباد ہے۔ حسینی سید ہیں۔ ہندوستان میں

اٹھارہ یا انیس پشت گزار کر ۱۳۱۶ھ میں اپنے والد مولوی حبیب اللہ صاحب

کے ہمراہ جو مولانا فضل رحمن صاحب کے خلیفہ راشد ہیں، مدینہ الرسول کو ہجرت

لے نقش حیات، ج ۱، ص ۵۶۔ ۵۷ ایضاً، ص ۲۳۔ ۲۴ حضرت شیخ نے نقش حیات میں اس امر کا ذکر

نہیں فرمایا ہے مگر عام طور پر مشہور یہی ہے۔ (مولف)

فرمائے۔ دیوبند میں تعلیم و دنیا سے فارغ ہو کر اوائل ۱۳۱۲ھ میں امام ربانی سے بیعت ہو کر کئی سال مجاہدات اور ریاضت نفس میں مصروف رہے۔ آخر کار ۱۳۱۵ھ میں شوق میں مغلوب ہو کر اہل و عیال سے اطلاع کے بغیر جنس کتاب و حصول فیضان گنگوہہ مراجعت فرمائی اور نسبت سلسلہ سے مالا مال ہو کر پڑھتے اور گریہ و وجد کے روزانہ مزے لیتے ہیں۔ صبر و استقامت کا پوچھنا ہی کیا۔ جبکہ اہل مدینہ کی متوکلانہ گذران سے ہر مسلمان واقف ہے۔ امتحاناً بہتیری بلاؤں میں جھڑ جھڑائے گئے۔ مگر جب پختہ اترے تو خادم نواز آستانہ عالیہ سے اب ان کو کوئی علیحدہ کرنے والا نہیں۔ حرم محترم میں درس بھی دیتے ہیں اور دولتِ غنا سے مالا مال ہیں۔

آپ کے اکلوتے صاحبزادہ مولانا وحید احمد مدنی مرحوم ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۸۹۴ء میں بمقام مانڈہ پیدا ہوئے۔ ۴ سال کی عمر میں خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ وہاں گورنمنٹ اسکول میں عربی اور ترکی زبانوں میں تعلیم مکمل کی۔ حضرت شیخ الاسلام نے اپنی سوانح میں ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے :

”وحید احمد مرحوم اس وقت ترکی مدرسہ میں پڑھتا تھا اور علوم جدیدہ اور ترکی زبان میں اچھی طرح ماہر ہو چکا تھا۔ عربی کی تعلیم بھی ایک درجہ تک حاصل کر چکا تھا مگر وہ قابل اطمینان نہ تھی۔ میرے سفر ہندوستان اور وہاں تین برس تک قیام کی وجہ سے اس کی تعلیم میں بہت خلل پڑ گیا تھا۔ بڑے بھائی صاحب مرحوم (اس کے والد) اس کی تعلیم و تربیت پوری طرح نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے دوسرے نکاحوں اور سویلی ماؤں کے معاملات کی وجہ سے نیز ان کے مغلوب الغضب اور زیادہ سخت ہونے کی بنا پر اس کو طبعی طور پر اپنے والد سے لگاؤ نہیں تھا۔ بلکہ مجھ سے اور والد مرحوم سے اس کو زیادہ تعلق تھا۔ اس بنا پر والد صاحب مرحوم نے اس کو ترکی اسکول میں داخل کر دیا تھا مگر

وہاں کے لوگوں کی صحبت میں اس کے اعمال و اخلاق پر نیک تر متحسن اثر پڑ رہا تھا۔ وہ طبعی طور پر نہایت ذہین تھا۔ زبان ترکی اور فنون جدیدہ راجستھ میں وہ اپنے درجوں میں ممتاز رہتا تھا مگر علوم جدیدہ اور فلسفہ طبیعیات اور یورپین فیشن کا جو زہریلا اثر مذہب کے خلاف اہل اسکول اور کالجوں پر پڑتا ہے اس سے وہ بھی سموم ہو رہا تھا۔ اس لیے والد صاحب مرحوم کا ارشاد ہوا کہ اس کو دیوبند لے جا اور دارالعلوم دیوبند میں علوم عربیہ کی تکمیل کرائیے۔

۱۳۱۳ھ کی ابتدا میں آپ چچا (حضرت شیخ) کے ساتھ دیوبند تشریف لائے اور حضرت اقدس شیخ الہندؒ قدس سرہ کی خصوصی نگرانی، تربیت اور شاگردی میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ۱۳۲۳ھ میں جب حضرت حجج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ بھی ہمراہ کاب مراجعت فرمائے وطن (مدینہ) ہوئے۔ یہاں حضرت شیخ الہندؒ گرفتاری کے گئے تو آپ بھی ان حضرات کی معیت میں قید کر کے مالٹا روانہ کیے گئے۔ گرفتاری کے وقت ایسی صورتیں ممکن تھیں کہ آپ قیدیوں کی اس جماعت سے الگ کر لیے جاتے۔ مگر اپنے چچا اور اساتذہ حضرت شیخ الہندؒ کی ہمراہی سے الگ ہونا آپ نے کسی حالت میں پسند نہیں کیا۔ حضرت شیخؒ نے اسارت مالٹا کے حالات میں آپ کے متعلق لکھا ہے کہ گرفتاری کے بعد بیان دینے کے بارے میں سب کو پریشانی تھی۔ خصوصاً وحید بالکل نو عمر اور ناتجربہ کار تھا مگر حضرت شیخ الہندؒ کی برکت اور خدا کے فضل و کرم سے سبھوں کے بیانات تعتریباً متفق ہوئے۔

مالٹا کی قید کے زمانے میں آپ انگریزی، فرانسیسی اور جرمن زبانیں سیکھتے رہے اور اس کے ساتھ حضرت شیخ الہندؒ سے علوم دینیہ اور عربی بھی پڑھتے اور مطالعہ کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی فارغ اوقات میں آپ مختلف قوموں کے قیدیوں سے ملتے اور ان کے ساتھ تبادلہ خیالات بھی کرتے تھے۔ آپ کے مشغل کے بارے میں حضرت نے تذکرہ کیا ہے ”وحید نے ابتدا ہی سے اجنبی زبانوں کی طرف توجہ کی اور اولاً فرانسیسی اور پھر جرمنی

زبان کو سیکھا۔ پھر جب دیکھا کہ پانسہ جنگ پلٹ گیا ہے تو انگریزی کی طرف متوجہ ہوا۔ مختلف فنونِ عربیہ خصوصاً حدیث اور تفسیر کی چند کتابیں اس سفر میں اس نے مولینا سے برہیں لیں۔ ۱۹۲۰ء میں جب رہائی ہوئی تو آپ ان اولیاءِ کرام کی معیت میں دیوبند آگئے اور مدرسہ دیوبند میں معین مدرس مقرر ہوئے۔ اسی زمانے میں آپ کی شادی اپنے والد کی ماموں زاد بہن، زوجہ سید فاروق احمد صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی۔ دیوبند سے آپ بمبئی چلے گئے اور اپنی زباں دانی اور ذہانت کی بنیاد پر کسی اخبار کے عملہ ادارت میں ملازم ہو گئے۔ بمبئی کا قیام راس نہ آیا تو واپس آگئے اور بہار شریف پٹنہ صوبہ بہار میں مدرسہ عزیزہ وقف بی بی صفرا سیٹھ میں مدرس ہو گئے۔ وہاں حدیث، تفسیر اور فقہ کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ عربی ادب پڑھاتے رہے اور عوام و خواص میں ادیب صاحب کے لقب سے مشہور رہے۔ زباں دانی میں آپ کو خاص ذوق اور ملکہ تھا۔ عربی، فارسی، انگریزی، ترکی، فرانسیسی، جرمن، ہندی، اردو، پشتو اور بنگالی وغیرہ بول اور لکھ پڑھ سکتے تھے۔ ہفت زباں مشہور تھے اور لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ ایک آدمی بیک وقت اتنی زبانیں کس طرح یکساں مہارت اور قدرت کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ "عربی، اردو، فارسی، ہندی، انگریزی، پشتو، بنگالی اور کچھ دوسری زبانیں احباب کی مجلسوں سے۔ اس طرح ہفت زباں نہیں بلکہ وہ زبان ہو گئے تھے۔" بعض اوقات خاص طور پر حالتِ سفر میں آپ کی ملاقاتیں انگریزوں اور دوسرے غیر ملکی لوگوں سے ہوتی تھیں۔ وہ جس ملک کے ہوتے تھے اسی میں آپ گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ چونکہ لباس وضع قطع اور ظاہری تراش و تراش میں حد درجہ سادگی پسند تھے اس لیے راقم الحروف کو ایسے بعض مواقع یاد ہیں کہ ایک معمولی سی شکل و شمائل کے ہندوستانی سے

اپنی زبان، انگریزی، فرنچ یا ترکی سن کر وہ لوگ بے حد خوش ہوتے تھے اور بڑے احترام و تواضع سے پیش آتے تھے۔

شعر و ادب کا بڑا استہرا اور اعلیٰ مذاق تھا۔ مختلف زبانوں میں ہزاروں شعر اور ادب پارے برنوک زبان یاد تھے۔ بڑے نڈر، جری اور بے باک تھے۔ کسی سے کسی مصلحت کی بنا پر دہنایا سمجھنا تو جانتے ہی نہیں تھے۔ جو بات حق جانتے تھے اسے برملا کہتے تھے۔

”حوادث و مصائب سے کیلئے والا انسان خون و دہشت سے نا آشنا۔ صاف گو، صاف دل، نہایت پابند مگر نہایت آزاد، اصول کا پابند مگر تکلفات سے آزاد۔ نہ واسکٹ نہ شیر وانی، نہ عیانہ قبا، صرف کرتے پاجامہ زیب تن کرتے میں جیب نہیں، جیب کا کام نیچے کے ذرتے، رونق مجلس، پُر زور مقرر، جید عالم مگر وضع و قطع طالب علمانہ، فقر و فاقہ میں بھی ہشاش بشاش، خالی ہاتھ مگر دل کا تو نگر بیٹھ

مدرسہ عزیز یہ گورنمنٹ برطانیہ کی ماتحتی اور کنٹرول میں تھا۔ اس وقت کے بادشاہ جارج پنجم کی سلور جوہلی کے موقع پر مدرسہ میں بڑا جشن، تقریبات اور عام جلسہ ہوا۔ جس میں ذمہ داران مدرسہ نے مدح خوانی کی تقریریں کی اور مبارک بادی کے ریزولیشن پاس کیے۔ مولانا نے ان تقریبات میں شرکت اور جلسہ میں تقریر کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ اگر حکومت برطانیہ کی فرمانبرداری بھی ملازمت کی شرط ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند کی تربیت اور صحبت فیض رحمت نے آپ کو مکمل سیاسی فہم و بصیرت عطا کر دی تھی۔ حجاز میں قیام، سامراج کی انسانیت سوز اور اسلام کش چالوں کے مشاہدہ و تجربہ اور مالٹا کی اسارت میں مختلف قوموں کے لیڈروں سے تبادلہ خیالات نے آپ کے قلب و دماغ کو تحریت، مساوات اور انسانیت کی اسپرٹ سے معمور کر دیا تھا۔ ہندوستان میں آپ متحدہ قومیت کے حامی اور انڈین نیشنل

کانگریس کے سپاہی تھے۔ تقریر و تحریر کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ کی سیاسی تقریریں خاص طور پر مقبول تھیں اور مختصر سی مدت میں کافی مشہور ہو گئے تھے۔ کچھ دن جیسے ہوتے تو بعید نہیں تھا کہ ہندوستان کی تاریخی شخصیتوں میں شمار ہوتے۔ راقم الحروف نے بعض اہل الرائے حضرات سے سنا کہ حضرت شیخ الاسلام کو اپنی جدوجہد میں مولانا وحید احمد سے بہت کچھ توقعات اور امیدیں تھیں۔ مختصر یہ کہ عمر بھر کی محرومیوں اور گردنوں کے بعد جب چین کے چند سانس لینے کا موقع نصیب ہوا تو شفیق چجانے زبانی وطن ٹانڈہ میں نہایت اعلیٰ درجہ کا قیمتی اور وسیع مکان بھتیجے کے لیے تعمیر کرایا۔ مگر مقدر کا لکھا پورا ہو کر رہا۔ پورے چھ ماہ بھی اُس مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔

شوال ۱۳۵۶ھ مطابق نومبر ۱۹۳۷ء میں بہار شریف سے بیمار ہو کر آئے اور ۱۳ دن نمونہ میں مبتلا رہ کر رمضان شریف کا چاند دیکھنے کے چند گھنٹوں کے بعد پانچ ننھے ننھے بچوں کو یتیم اور اہلیہ کو بیوہ کر کے اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ دنیاوی حوادث اور صدقات کو برداشت کرنے میں پہاڑ کی طرح ثابت و صابر تھے۔ اس صدمے کو بھی بے مثال صبر و شکر کے ساتھ جھیلا۔ مگر پھر بھی کہیں کہیں خلاف عادت و مزاج کچھ نہ کچھ اظہار ہو ہی گیا۔ تفصیل تو حضرت ہی کے بیان میں۔ تاہم دو اقتباسات اس موقع پر مناسب ہیں۔ حضرت نے بھتیجے کی بیوہ کو لکھا:

”تمہارے رنج و غم کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ مگر تم مجھے دیکھ کر صبر کرو۔ اب یہ وقت تھا کہ وہ مجھے اپنے ہاتھوں بیوند زمین کرتا۔ مگر میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔“

اپنے ایک مخلص خادم مولانا وحید الدین صاحب سابق ناظم دفتر جمعیتہ علماء ہند کو تحریر فرمایا:

”خواب کی تعبیر ظاہر ہے۔ عزیزم مولوی وحید احمد کی دائمی مفارقت میرے لیے معمولی تکلیف نہیں ہے۔ وہ میری پرورش میں بچپن سے رہا تھا۔ اُس

کو اپنے والد مرحوم سے اتنا تعلق نہیں تھا جتنا مجھ سے تھا۔ وہ ننھے ننھے
۴ بچے چھوڑ کر اور اپنی اہلیہ کو بیوہ چھوڑ کر چلا گیا۔ ذلک تقدیر العزیز
العلیم۔

بہر حال آپ حضرات دعواتِ صالحہ سے امداد فرماتے رہیں۔
ننگِ اسلاف

حسین احمد غفرنا،
نئی سرک سلہٹ۔ ۱۱ رمضان ۱۳۵۶ھ

مولانا وحید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تین لڑکے اور دو لڑکیاں چھوڑیں۔ بڑا
(راقم الحروف) فرید احمد ہے۔ اس کی شادی حقیقی ماموں سید توکل حسین صاحب کی
لڑکی سے ہوئی ہے۔ اس کے چار لڑکے اور ایک لڑکی ہے۔ بڑا لڑکا عمید الوحیدی ڈاکٹر
ہے۔ اس کی شادی مراد آباد میں ڈاکٹر مولینا بدر الدین الحافظ پروفیسر آن عربک بنارس
ہندو یونیورسٹی بنارس کی صاحبزادی سے ہوئی ہے اور اس کے ایک بچہ خالد الوحیدی
ایک سچی عائشہ الوحیدی ہے، تیسرا علی الوحیدی ہے۔ دوسرا حسین احمد الوحیدی ثانویہ
علمی پاس کر کے تجارت میں باپ کا دست راست ہے۔ اس کی شادی حقیقی پھوپھی رضیہ
سلمہا کی لڑکی سے ہوئی ہے۔ تیسرا لڑکا فواد الوحیدی بھی ثانویہ علمی پاس کر کے تجارت میں
باپ کا قوت بازو ہے۔ اس کی شادی حقیقی چچا سعید الوحیدی سلمہ کی لڑکی یاسمین سے ہوئی
ہے۔ اس کے دو بچے عمار اور معاذ ہیں۔ چوتھا لڑکا صدیق الوحیدی سلمہ ثانویہ کا
طالب علم ہے۔ اس کی شادی ماموں کی لڑکی سے ہوئی ہے اور ایک لڑکا عمر ہے۔ لڑکی
رعنا الوحیدی سلمہا کی شادی حقیقی پھوپھی کے لڑکے خالد جاوید سے ہوئی ہے۔ اس
کے تین بچے ہیں۔ سلمہ اللہ دعا فایم اللہ۔

مولانا وحید احمد کے دوسرے لڑکے ڈاکٹر رشید الوحیدی کا قیام جامعہ ملیہ دہلی
میں ہے جہاں وہ اسلامک اسٹڈیز میں ریڈر ہے۔ اس کی شادی حقیقی ماموں سید

مشتاق احمد صاحب کی لڑکی سے ہوئی ہے۔ نہایت متقی یا بند شریعت صاحب تصانیف ہے۔ اس کے پانچ لڑکے ہیں۔ بڑا سدا الوحیدی رومی جس کا ایک بچہ، عمیر اور ایک بچی مُزنی ہے، دوسرا وحیدی غزالی، تیسرا فہد الوحیدی رازی، چوتھا حبیب الوحیدی سعدی اور پانچواں سید احمد الوحیدی جامی، ایک بچی فاطمہ رشید الوحیدی زویا، سب ابھی بچکے ہیں اور زیرِ تسلیم ہیں۔

مولینا کا تیسرا لڑکا ڈاکٹر سعید الوحیدی جدہ میں مقیم ہے۔ اس کی شادی بھی حقیقی ماموں سید توکل حسین صاحب کی لڑکی سے ہوئی ہے۔ اس کے دو بچے اجل و فیصل اور ایک بچی یاسمین الوحیدی ہیں۔ دونوں بچے زیرِ تعلیم ہیں۔

مولینا کی ایک لڑکی صفیہ بیگم نیرہ سلہا کی شادی پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی ڈاکٹر کٹر ذاکر حسین اسلامک انسٹیٹیوٹ جامعہ ملیہ سے ہوئی۔ اس کے دو لڑکے ڈاکٹر عماد الحسن آزاد فاروقی پروفیسر و صدر اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ دہلی اور دوسرے ڈاکٹر علاء الحسن آباد فاروقی سائنسٹ سی میپ (CINMAP) لکھنؤ ہیں۔ ایک لڑکی ڈاکٹر عطیہ بیگم تاروقی اور دوسری ڈاکٹر عرفی فاروقی ہے۔ سب شادی شدہ اور صاحبِ اولاد ہیں۔

دوسری لڑکی رضیہ بیگم سلہا کی شادی ڈاکٹر عنایت اللہ منظر اعظمی پروفیسر ڈیپارٹمنٹ آن اردو جموں یونیورسٹی سے ہوئی۔ اس کے چار لڑکے خالد جاوید، طارق، شکیب اور صہیب ہیں اور چار لڑکیاں شاہانہ، فوزانہ، سعدانہ اور دردانہ ہیں سلم اللہ جمیعاً

حضرت مولینا سید احمد صاحب مہاجر مدنی مئیس مدرسہ علوم شرعیہ مدینہ منورہ

آپ مولوی شاہ سید حبیب اللہ صاحب کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ ۱۲۹۳ھ مطابق ۱۸۷۶ء میں قصبہ بانگر موضع اناؤ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم زمانے کے دستور کے مطابق گھر ہی پر ہوئی۔ اس کے بعد گورنمنٹ مڈل اسکول ٹانڈہ میں تسلیم حاصل کی۔ اور مڈل اسکول کے امتحان میں رارے صوبے میں امتیازی شان کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ ۱۳۱۵ھ میں آپ کے بڑے بھائی مولینا صدیق احمد صاحب آپ کو اپنے ساتھ دیوبند لے گئے۔ وہاں مدرسہ دیوبند میں پڑھنے کے ساتھ ہی حضرت

شیخ الہند جسے خصوصی طور پر روحانی اور علمی اور اخلاقی استفادہ اور تربیت حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ حضرت قطب عالم گنگوہیؒ سے بیعت ہوئے اور اپنے والد ماجد کو مع پورے خاندان کے مدینہ طیبہ ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا۔ سارے گھر اور خاندان کی مخالفت کے باوجود صرف آپ ہی ہجرت کی تجویز کے موافق اور مؤید تھے۔ بلکہ ظاہری طور پر صرف آپ ہی اس تاریخی ہجرت کا سبب بنے۔ ۱۳۱۶ھ میں خاندان کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور درس و تدریس کے ساتھ اشتغال تصوف و سلوک میں مصروف ہو گئے۔ معاش اور ضروریات کے لیے تجارت اور دوکانداری کا پیشہ اختیار کیا۔ ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۹ء میں تزکیہ باطن اور اشتغال روحانیہ کی تکمیل کے لیے اپنے مرشد کی خدمت میں گنگوہ تشریف لائے اور تین برس تک خانقاہ میں مقیم رہ کر حضرت گنگوہی کے وصال کے بعد مراجعت فرمائے وطن (مدینہ طیبہ) ہوئے۔ یہاں آ کر حرم پاک میں درس و تدریس اور بعض تدریسی ملازمتوں میں مشغول رہے۔ ۱۳۳۵ھ مطابق ۱۹۱۶ء کے قریب آپ کو والد اور چھوٹے بھائی کی معیت میں حکومت ترکی نے گرفتار کر کے ریڈر یا نوپل روانہ کر دیا۔ وہاں سے واپس آئے تو ۱۳۴۲ھ مطابق ۱۹۲۳ء کے قریب آپ نے مدینہ طیبہ میں قرآن و سنت کی خدمت اور مدینۃ الرسول کے یتیم و مفلس اور غریب الوطن بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسۃ العلوم الشرعیہ لیتامیٰ مدینۃ المنورہ کی بنیاد رکھی۔

یہ مدرسہ قائم تو اسی بے سروسامانی کی حالت میں اور توکل علی اللہ کی بنیادوں پر کیا گیا تھا جس سے مولینا خود دوچار تھے۔ مگر انتھک جدوجہد، اخلاص و للہیت، بے غرضی و حسن تدبیر نے مدرسہ کو بہت جلد تعمیر، معیار اور ترقی کے اعلیٰ مدارج سے ہمکنار کر دیا۔ بہت سی خصوصیات و محاسن کے ساتھ مدرسہ کی ایک امتیازی شان آج تک نمایاں ہے کہ یہ بارگاہِ نبوی کی چوکھٹ سے بالکل ملا ہوا اور باب النساء اور باب جبریل سے بالکل متصل قائم ہے۔ آج تک اس کے صدر دروازے پر ۱۹۰۵-۱۹۰۶ء کے درمیان یہ مدرسہ حرم پاک میں ملا دیا گیا اور اب حرم سے دور واقع ہے۔

قائم کردہ "سید احمد فیض آبادی" نمایاں حروف میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں حدیث، تفسیر، فقہ، نحو صرف اور ادب عربی وغیرہ کی معیاری اور اعلیٰ تعلیم تو ہوتی ہی تھی، اس کے ساتھ خصوصیت یہ تھی کہ حضرت مولینا نے دنیاوی ضرورت کے مضامین تاریخ، جغرافیہ، بنیادی سائنس، حساب وغیرہ بھی داخل نصاب کیے تھے اور ان سب مضامین پر جدید تعلیمی اصولوں اور طریقہ تدریس کے مطابق اپنا نصاب اور کتابیں تیار کرائی تھیں اور طبع کرائی تھیں۔ تعلیمی، علمی اور درسی خدمات کے ساتھ مدرسہ میں صنعت و حرفت سکھانے کا ایک شعبہ قائم تھا جس میں نہایت نفیس، حسین، قیمتی اور فنی چیزیں اور سامان مدرسہ کے بچے اپنے ہاتھوں سے اور اپنی طبعی صلاحیت کے مطابق بناتے تھے۔ مقامات مقدسہ کے مناظر، تاریخی آثار، نقشے، کتبات، امثال، حکم چمچے، پتھریاں، پلیٹیں، پیالے اور بہت سی دوسری چیزیں۔ اعلیٰ درجہ کی دھاتوں، قیمتی لکڑی، مینت کاری، کٹ ورک، دلاویز و جاذب نظر منحل و حریر کے ذریعہ ایسی فنکاری و مہارت اور شوق سے بنائے جاتے تھے کہ قدر دان حضرات اور تاجر صاحبان منہ مانگی قیمتیں دے کر خریدتے تھے۔ اس طرح یتیم اور نادار طلباء میں عزت نفس، خود اعتمادی اور معاشی استغنا کے قابل قدر جذبات پرورش یاتے تھے۔

جو بچے خالص علمی و تعلیمی مزاج و مذاق کے تھے ان کو تحریر، تقریر، انشا پر دازی، تصنیف، صحافت وغیرہ کی تربیت دی جاتی تھی۔ حضرت مولینا کا لگایا ہوا یہ پودا جب گھنیر اور سایہ دار درخت ہو گیا تو سیکڑوں بلکہ ہزاروں نونہالانِ مدینۃ الرسول اس کی حیات آفریں چھاؤں میں دم لے کر تازہ دم ہو کر آگے بڑھے اور اعلیٰ مدارج و مناصب تک پہنچے۔ بعض فضلاء مدرسہ حکومت کی وزارتوں پر فائز المرام ہوئے۔ بہت سے بڑے بڑے گریڈ کے افسر ہوئے۔ بڑی تعداد علماء، دینی رہنما اور معلمین و مدرسین کی نکلی۔ کچھ حضرات ممتاز انشا پرداز، اخبار نویس، مصنف اور صحافی بن کر چلے۔ یہ سب حضرات صفِ اول کے انسانوں میں شمار ہوئے اور ان میں ایک صفت قدر مشترک رہی کہ جہاں بھی رہے، جس حیثیت میں بھی رہے، انھوں نے دین، ملک اور بنی نوع

انسان کی خدمت کو مقصدِ زندگی قرار دیا۔ حضرت مولانا خاموش تعمیری، مقصدی اور بنیادی کام کرنے والوں کا بہترین اور قابلِ تقلید نمونہ تھے۔ نہ آپ کی عوام میں روایاتی انداز میں شہرت ہوئی۔ نہ جلسے اور جلوس نکلیے۔ نہ نعرے اور مجمعے لگے۔ مشیخت، جبہ و دستار اور حلقہ و خانقاہ کی رسوم و قیود سے کوسوں دور آپ ایک سادہ طبیعت، درویش مزاج اور معصوم صفت انسان تھے۔ غریبوں اور محتاجوں کے گھروں پر خود کھانا پہنچاتے تھے۔ کمزوروں، بیواؤں اور معذوروں کا سودا سلف خود خرید کر لاتے تھے۔ مسافروں، مہانوں اور نوواردوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کھلاتے تھے۔ یتیموں، لاوارثوں اور تربیت و تعلیم کے ضرورت مندوں کو اعلیٰ مستقبل اور مقصدی زندگی کے لیے تیار کرتے تھے۔ بس یہ آپ کے عالمانہ، زاہدانہ اور صوفیانہ مشاغل تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود حسن اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے خلیفہ مجاز تھے مگر زندگی بھر کسی کو مرید نہیں کیا۔ معمولی شرعی باجامہ یا نصف ساق کی لنگی، گھٹنوں سے نیچا لمبا کرتہ، معمولی سی مولویانہ ٹوپی اور کندھے پر رومال، یہ آپ کا لباس اور وضع تھی۔ شکل و شمائل دیکھ کر کوئی مشکل سے یقین کر سکتا تھا کہ یہ فقیر بے نوا ایسا عالی دماغ، مدبر اور بے مثال معلم و مربی ہو سکتا ہے۔

حضرت کے سارے شاگردوں کا احاطہ تو مشکل ہے مگر چند مشہور شاگردوں کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:

(۱) فضیلۃ الشیخ الاتاذید حبیب محمود احمد صاحب صدر مجلس اوقاف مدینہ طیبہ و

مہتمم مدرسہ علوم شرعیہ

(۲) فضیلۃ الشیخ الاتاذید عبدالقدوس الانصاری فرحوم سکر یہی مجلس وزرا سابق و

مدیر مجلہ المہنل مدینہ منورہ

(۳) معالی الشیخ محمد عمر توفیق وزیر مواصلات المملكة العربیہ السعودیہ

(۴) اتاذید عبدالحمید عنبر فرحوم مفتش مرکزی وزارتہ مالیہ وعضو مجلس شوریٰ بالمملکہ

(۵) اتاذید عبداللہ ابن الشیخ محمود السوتی امام مسجد نبوی مدینہ منورہ

اور یہ وہ تلامذہ ہیں جن سے راقم الحروف کو ملنے، بات کرنے اور حضرت مولانا سید احمد صاحبؒ کا تذکرہ سننے کا موقع ملا ہے۔ یہ حضرات جب اپنے اتاد حضرت مولانا سید احمد صاحبؒ کا تذکرہ کرتے ہیں تو آئندہ ہو جاتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اپنے حقیقی باپ کا تذکرہ کر رہی ہے۔ مولانا کے خاندان کے کسی فرد سے ملتے ہیں تو نہایت احترام، رعایت اور اہتمام ملحوظ رکھتے ہیں اور گفتگو میں نام کے بجائے سید صاحب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور مورخ، محقق اور عالم مولانا عبدالقدوس الانصاری مذکور بڑے اونچے درجے کے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ مختلف کتابوں کے مصنف تھے اور تیس برس سے آخر عمر تک ماہوار رسالہ ”المنہل“ کے ایڈیٹر رہے۔ بہت دنوں تک سعودی عرب کی مرکزی گورنمنٹ میں سکرٹری کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ مولانا کے خصوصی شاگرد تھے اور اپنے اتاد کی سیرت پر عربی زبان میں ایک مفصل کتاب ”السید احمد الفیض آبادی“ تالیف فرمائی ہے۔ اس میں حضرت مولانا سید احمد صاحبؒ کی مجمل سوانح عمری، ان کی سیرت اخلاق و صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی علمی اور تعلیمی خدمات، سادہ مزاجی اور تواضع و انکسار کی تفصیل بیان کی ہے۔ مدرسہ علوم شرعیہ کی مختصر تاریخ لکھی ہے اور جن اعیان و مشاہیر نے مدرسہ کا معائنہ کیا تھا ان میں سے چند کی رائیں اور تفصیل لکھی ہے۔ ایسے چند اسما کا تذکرہ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے :

حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر علوم رحمۃ اللہ
 رئیس القضاة عبداللہ بن حسن آل الشیخ
 محمد طاہر الدباغ ڈائرکٹر جنرل آف ایجوکیشن
 معالی عبداللہ السلیمان وزیر الیہ الملکۃ سابقاً
 عبداللہ افضل معاون نائب جلالتہ الملک
 عبدالرؤف حبان رئیس مجلس معارف مصر

محمد طلعت باشا حرب جنرل منیجر جنگ مصر
ڈاکٹر محمد حسین میکیل منسٹران ایجوکیشن مصر
شکری بیک القوتلی صدر جمہوریہ شام

حضرت مولینا کی وفات پر جن حضرات نے اخبارات نے اور جرائد نے مقالات، تعزیتی افتتاحیات اور مرثیے لکھے تھے ان کو بھی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ سارے مضامین اور مرثیے تاثیر اور فصاحت و بلاغت کے بہترین نمونے ہیں۔ مگر ان کا نقل کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے تاہم بطور نمونہ ایک دو سطور لکھ دینا دل چسپی سے خالی نہ ہوگا۔ استاذ احمد رضا جوحو المترجم ادارۃ البرق والسبید نے بہت اثر انگیز اور طویل مقالہ لکھا۔ اس کی دو ایک سطریں درج ذیل ہیں :

”رحمك الله ايها الاب الراحل وغفر ذنبك۔ لم تنتفوه

قبل اليوم بائتي حسنة من حسناتك۔ لانك كنت تبغض هذا
وكننا نحافظ على رضاك۔ ولكن اليوم.... وقد اصيبت في جوار ربك
اليوم۔ قد قبرت كل الضغائن التي تتعلق بشخصك اليوم ولم تبق
سوى الحقيقة وحدها مجسمة فهل نسيمر على السكوت الذي
عودتنا عليه۔ كلا۔ فلا طاقة لنا على ذلك۔
بأسمرا ولعلك الابناء الذين كنت تحرص على
راحتهم۔ باسم اولئك ايها الاب الجليل۔ اقف على هذا المنبر
المتواضع۔ ابكي فقد انك المولود“

یہ پورا تعزیت نامہ پڑھ کر لکھنے والے کی طرح پڑھنے والی کی آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نظم میں جو مرثیے لکھے گئے، ان میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہم مدرسہ شاہی مراد آباد کا مرثیہ نہایت بلیغ پر اثر اور فصیح ہے۔ چند شعر اس کے بھی ملاحظہ فرمائیں :

قف يا البقيع وجدد ذكر من مسا
واذرع الدمع على تلك الرفات أسمى

عساك تبصر من تحت الثرى دفنت
 هذا هو السيد المغبوط في خلقي
 يولى الجميل بلامتي ولا كدٍ
 في كل فتي تروى الانهار جاريةً
 ذاك التقى النقى السيد العلم
 عظامه وهو في الاحشاء قد رساء
 قد زانه لم يكن فظاً ولا شر ساء
 ويكرم الضيف هشاً قط ما عسواء
 تروى العطاش على حافاتهما النساء
 الشهم الذي لوريزل بالحق موقنساء

کتاب سوانحی ادب، تاریخ اور تاثیر کے اعتبار سے بہت مفید اور دل چسپ ہے مگر افسوس ہے کہ اب نادار الوجود ہے۔ پرانے مکتبات میں کہیں کہیں کوئی نسخہ موجود ہے اور اب اگر موجود بھی ہو تو اُس سے دل چسپی رکھنے والے کہاں سے آئیں گے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کے تلامذہ اور عقیدت مند زیادہ تر اپنے الشکر کو پیارے ہوئے۔ ایسی ایسی ہزاروں کتابیں ہوں گی بلکہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ قیمتی اور مفید، جو اب مرور ایام کی تہوں میں دفن ہو کر ختم ہو چکی ہیں۔ دیکھیے حضرت مولانا کا قائم کردہ یہ شجر سایہ دار مدرسہ علوم شرعیہ بھی کب تک وقت کی دست و برد سے محفوظ رہتا ہے۔ مولانا کی پہلی شادی آپ کے ماموں سید تفضل حسین صاحب کی صاحبزادی سے ماٹھہ میں ہوئی تھی۔ اُن سے کئی بچے ہوئے مگر سب ایام طفولیت میں ہی ذخیرہ آخرت ہوئے۔ ۱۳۱۸ھ میں اہلیہ بھی اللہ کو پیاری ہوئیں۔ دوسری شادی ڈاکٹر رفاقت علی مرحوم کی صاحبزادی اور مولانا عبدالحق مدنی مرحوم کی بہن سے ہوئی۔ ان سے بھی جو بچے پیدا ہوئے وہ صغیر سن میں داغ مفارقت دے گئے۔ تیسری شادی مدینہ طیبہ ہی میں ہوئی۔ ان سے آپ کی اکلوتی بیٹی عائشہ مرحومہ پیدا ہوئیں۔ ۱۳۵۹ھ مطابق ۱۹۴۰ء کے رجب کے چہینے میں آپ بیمار پڑے۔ ضعیف اور کمزور تو پہلے ہی سے تھے، اس پر مسلسل جدوجہد، دن رات کی محنت اور خلقِ خدا کی خدمت میں متواتر بے آرامی نے جسم و جان کو بالکل گھلادیا تھا۔ بیمار ہوئے تو حالت گرتی ہی چلی گئی۔ کئی عوارض بخار، نزلہ، دمہ اور قلب کی تکلیف نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا۔ بھائی حضرت شیخ الاسلام سے ملاقات اور آخری دیدار کے لیے بے حد بے چین رہتے تھے۔

حضرت نے حتی الامکان جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کی مگر آج کل کی طرح ہوائی جہاز کے سفر تو تھے نہیں کہ ناشتہ کر کے دہلی سے چلو اور دوپہر کا کھانا مدینہ طیبہ میں ہو۔ اس وقت تو دیوبند سے کراچی تک ٹرین کا چار روز کا سفر، اور پھر پندرہ دن کراچی سے جدہ اور پھر جدہ سے دو دن میں مدینہ طیبہ۔ غرض بہت عجبات اور جلدی کی گئی پھر بھی دیر ہو ہی گئی اور حضرت مولینا بھائی کے پہنچنے سے پہلے حسرت دیدار دل میں لیے ہوئے شوال کے مہینے میں (۱۹۴۰ء) مالکِ حقیقی سے جا ملے۔ رحمہ اللہ رحمۃً واسعہ۔ صاحبزادے عائشہ مرحومہ کی شادی حقیقی چچا حضرت شیخ الاسلام کے صاحبزادے مولینا اسعد مدنی صاحب سلمہ اللہ سے کی گئی۔ مرحومہ نہایت نیک، بے نفس، بے زبان، صابر و شاکر اور اطاعت گزار سچی تھی۔

آخر عمر میں کئی برس تک ہندوستان رہنے کے بعد مدینہ طیبہ واپس آئی۔

یہاں اُس کا پہلا اور آخری بچہ احمد سلمہ

میں تولد ہوا۔ اس کی پیدائش کے تھوڑے ہی عرصہ بعد طفل شیرخوار کو اللہ کے سہاے پر چھوڑ کر محروم و نامراد دنیا سے رخصت ہو گئی اور دکھوں سے نجات پا گئی۔ اللہ جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کا بچہ احمد جو حضرت شیخ مدنی کے صاحبزادے مولینا اسعد صاحب کا فرزند ہے۔ مدینہ طیبہ ہی میں تعلیم و تربیت پا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ بہت ذہین، قوی الحافظہ اور محنتی نوجوان ہے، عربی تو اس کی مادری زبان ہے۔ انگریزی میں بھی معقول قابلیت کا مالک ہے۔ مکہ مکرمہ کے ایک ہاجر خاندان میں اس کی شادی ہوئی ہے۔ پہلے تو گورنمنٹ سعودی عرب کے مختلف شعبوں میں ملازم رہا۔ اب جدہ کے ایک بینک بنک الجزیرہ کی ایک شاخ کا منیجر ہے۔ اور مادام تحریر اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ خدا صحت، عافیت اور اطمینان کے ساتھ عمر طویل نصیب فرمائے اور اولاد کی نعمت سے مالا مال کئے آمین۔

صاحبزادہ مولانا سید جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

آپ مولوی صاحب کے چوتھے صاحبزادے تھے۔ ۱۳۰۳ھ مطابق ۱۸۸۴ء میں بمقام ٹانڈہ ضلع فیض آباد تولد ہوئے اور ۱۴ برس تک ہندوستان ہی میں اُردو، فارسی، ریاضی وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد والدین اور خاندان کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ یہاں سرکاری مدرسہ رشیدیہ میں داخل ہوئے اور فطری ذہانت، حوصلہ مندی اور شوق کی بدولت تعلیمی میدان میں بہت جلد نمایاں ترقی حاصل کی۔ اور نہ صرف اپنی کلاس بلکہ پورے اسکول کے صفِ اول کے طلباء میں شمار ہوئے۔ تمام عبوری امتحانات اور فائنل امتحان میں اول درجہ میں کامیاب ہونے کی وجہ سے آپ کو اسکول اور حکومت کی ایک خصوصی تقریب میں گورنر مدینہ نے ”باش صنف“ کا اعزاز اور تمغہ عطا کیا۔ گورنر اس وقت عثمان پاشا تھے اور زمانہ عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید مرحوم کا تھا۔ سید جمیل احمد صاحب کی قابلیت، لیاقت اور اعلیٰ کامیابیوں کی بنا پر حکومت ترکیہ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالخلافہ اتانبول بھیجے جانے والے طلباء میں آپ کا انتخاب کیا اور ان طلباء کو بڑے تڑک و احتشام کے ساتھ ترکی روانہ کیا گیا۔ ان کی آمد کی اطلاع دارالخلافہ کو بذریعہ تار دی گئی حکومت ترکیہ یوں بھی حرمین شریفین کے رہنے والوں کا بہت اعزاز و اکرام کرتی تھی۔ پھر یہ تو فخر اور اعلیٰ صلاحیتوں سے بھر پور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زونہال تھے۔ دارالخلافہ نے ان کے احترام اور توقیر میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ فوجوں کی سلامی، بینڈ باجے اور جلوبس کے ساتھ پورے شان و شوکت سے ان کا استقبال کیا گیا۔ صاحبزادہ صاحب پہلے ہی سال کے امتحان میں سارے کالج میں اول درجہ سے پاس ہوئے اور نمایاں کامیابی پر آپ کی عزت و توقیر پہلے سے دگنی ہو گئی۔ ان حالات اور ترقیات کو دیکھتے ہوئے ماں باپ اور خاندان کے علاوہ غیروں کو بھی قوی امید تھی کہ آپ بہت جلد غیر معمولی مدارج تک پہنچیں گے مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جانے کے بعد دوسرے

ہی سال کی تعلیم کے دوران آپ بیمار ہوئے، کچھ دن ترکی ہی میں علاج ہوا مگر افاتہ کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ مجبوراً مدینہ طیبہ واپس آ گئے اور مرض دق و سل تجویز ہوا۔ اور آخر تقدیر کا لکھا سامنے آیا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے کچھ ہی دنوں بعد ۱۳۲۲ھ (۱۹۰۴ء) میں بوڑھے باپ اور بھائیوں کو اور بہن کو چھوڑ کر راہی ملکِ عدم ہو گئے۔

پھول تو دو دن بہا رجاں فزا دکھلا گئے
حسرت اُن غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مر جھا گئے

صاحبزادی ریاض فاطمہ مرحومہ

آپ مولوی صاحب کی اکلوتی صاحبزادی تھیں۔ ۱۳۰۵ھ مطابق ۱۸۹۹ء میں بمقام ٹانڈہ پیدا ہوئیں اور گیارہ برس کی عمر میں خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئیں۔ ۱۳۲۲ھ میں بعمر تیس برس اپنی والدہ کے حقیقی بھتیجے سید تصدق حسین صاحب مرحوم کے لڑکے سید فاروق احمد کے ساتھ بیاہی گئیں اور مدینہ طیبہ ہی میں مذکور داماد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ مولوی صاحب نے ان کے والدین سے اس ارادے کا اظہار کر دیا تھا کہ فاروق احمد کی تعلیم و تربیت مدینہ طیبہ میں مکمل ہو جائے۔ پھر چاہیں تو یہاں رہیں ورنہ ہندوستان واپس چلے جائیں گے مگر قسمت سے وہ سال بھر کے اندر ہی چپکے سے کچھ نقد اور سامان لے کر ہندوستان چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ایک بچی تولد ہوئی اور ان کے والدین نے اپنی بہو اور پوتی کو ہندوستان بلانے پر بہت اصرار کیا۔ مگر داماد کی بے مروتی اور بے تعلقی کے پیش نظر مولوی صاحب نے صاحبزادی کو بھیجنا پسند نہ کیا۔ کیسی نہ کسی طرح صبر و شکر کے ساتھ گذر کرتی رہیں۔ مگر ان کے جانے کے تین سال بعد تپ دق میں مبتلا ہو کر سال ڈیڑھ سال تک بیمار رہیں۔ اور ۱۳۳۵ھ میں ۵ سالہ بچی کو چھوڑ کر اپنے مولیٰ سے جا ملیں۔ ان کے انتقال کے بعد بچی بھی ماں کی جدائی برداشت نہ کر سکی۔ اور کچھ ہی دنوں بعد ماں کے پہلو میں جاسوئی۔ اِنَّا لِلّٰہِ

وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

صاحبزادہ مولانا سید محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

آپ ۱۳۰۵ھ مطابق ۱۸۹۱ء میں بمبہ شوال ٹانڈہ میں تولد ہوئے۔ آٹھ برس کی عمر میں خاندان کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ پہلے تو خاندانی رواج کے مطابق گھر ہی میں عربی، اردو، حساب، قرآن وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اور پھر مدینہ طیبہ کے سرکاری اسکول اور کالج میں عربی، ترکی، ریاضیات اور دوسرے مروجہ علوم کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد آپ شریف حسین کی حکومت میں باش کاتب کے عہدے پر ملازم ہوئے۔ جب ملک عبدالعزیز آل سعود کی حکومت آئی تو آپ جدہ میں رجسٹرار یعنی کاتب عدل کے عہدے پر مقرر ہوئے۔ لیکن حضور اور حضور کے دیار کی محبت آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ جدہ کا قیام راس نہ آیا۔ مدینہ طیبہ میں تبادلہ نہیں ہوا تو آپ نے ملازمت سے استعفیٰ دیا۔ مدینہ طیبہ آ رہے اور تجارت کا مشغلہ اختیار کیا۔ خدا نے بہت سی خوبیوں کے ساتھ آپ کو فہم و فراست، استقلال، مسلسل جدوجہد، قناعت، توکل اور تدبیر جیسی صفات سے خصوصی طور پر نوازا تھا۔ تجارت کے لیے یہ صفات کامیابی کی ضمانت ہیں چنانچہ آپ نے نہ صرف تجارت بلکہ بہت جلد صنعت و حرفت میں بھی ترقی کی اور اپنا ایک ممتاز مقام پیدا کر لیا۔ فرنیچر اور لکڑی کے سامان کا ایک کارخانہ قائم کیا اور نہایت قابل اور ماہر افراد کے ذریعے اس کو بڑی ترقی دی۔ برون کی نیکٹری لگوائی اور تمام شہر میں برون کی سپلائی کا نظام بنایا۔

جائدادیں اور عمارتیں خریدیں۔ وسیع اور زرخیز باغات لگوائے۔ ان میں عظیم شان کوٹھیاں اور سوئمٹنگ پولز بنوائے۔ ان میں پالتو مویشی، گائے، بکریاں، دنبے وغیرہ پالے اور ان کے ساتھ ہی چھوٹا سا زو جیکل شعبہ بھی بنایا جس میں ہرن، چیتل، بارہ سنگے، پہاڑے، شتر مرغ، پہاڑی بکرے، زبیرا، طوطا، مینا، مور اور چمپانزی وغیرہ پال کر باغ کی دلفریبی میں اضافہ کیا۔ لوگ دور دور سے اس پر فضا ماحول میں کچھ

وقت گزارنے کے لیے آتے تھے اور حضرت مولینا بڑی فراخ دلی سے ان کی راحت کا انتظام رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ اطراف عالم سے آئے ہوئے مشاہیر، امراء، وزراء، ملوک اور روسا، کی ہمانداری ان باغات میں کرتے تھے۔ مرحوم شاہ سعود تخت شاہی پر متمکن ہونے کے بعد پہلی بار جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو حضرت مولینا نے اپنے بڑے باغ میں بادشاہ وقت کا استقبال کیا اور اس تقریب میں ایک سفید مور کا جوڑا سنہرے پنجرے میں تحفہ پیش کیا۔ اس موقع پر بادشاہ مرحوم نے آپ کو ایک بہترین قیمتی اور بہت بڑی امریکن کار کرئیسر انعام میں بخشی۔ اراکین دولت اور بادشاہ کو آپ کی اصابت رائے، دیانت، امانت، اخلاص اور تدبیر پر ایسا اعتماد تھا کہ بڑے بڑے معاملات میں آپ کی رائے کو وقعت دی جاتی تھی۔ چنانچہ آپ حکومت کی مختلف مجالس اور اداروں کے ممبر رہے۔ حق تعالیٰ نے آپ میں ایسی غیر معمولی صفات، خصوصیات اور صلاحیات جمع کر دی تھیں جن کے تفصیلی تذکرے کے لیے ایک کتاب درکار ہے۔

راقم الحروف اپنے تجربے اور فہم کی حدود میں عرض کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے فہیم، ذکی، ذہین، محتاط، مندبّر، منتظم، متواضع، سلیم الطبع، باوقار، مستقل مزاج، صائب الرائے، مردم شناس، منسکب مزاج، پابند اوقات اور منظم اشخاص بہت کم دیکھے ہیں۔ آپ کا ہر عمل، ہر اقدام اور گفتگو کا ہر لفظ مرتب اور منظم ہوتا تھا۔ پہلے سے سوچے سمجھے بغیر نہ کوئی کام کرتے تھے اور نہ کوئی بات منہ سے نکالتے تھے چنانچہ روزمرہ کی زندگی میں کوئی وقت بیکار اور کوئی گفتگو بے مقصد نہیں ہوتی تھی مجمع میں مجلس میں، انفرادی بات چیت میں، اجتماعی گفتگو میں، حویلی میں، مردانخانے میں عرض ہر موقع پر نہایت بخیدگی، مسانت، وقار اور کم گوئی کے ساتھ رہتے تھے، صرف ضرورت کے وقت بولتے تھے اور وہ بھی صرف بقدر ضرورت بولتے تھے۔ گفتگو میں نہ ایک لفظ کی کمی کی جاسکتی تھی اور نہ اضافے کی گنجائش ہوتی تھی۔ علمی اصطلاح میں جامع مانع اور خیر الکلام، بات کرتے تھے۔ صائب الرائے ایسے تھے کہ بڑے بڑے صاحب اثر و نفوذ

لوگ آپ کے مشوروں سے مستفید اور کامیاب ہوتے تھے۔ وضع کے بے حد پابند تھے۔ نہ کسی سے ایسے تعلقات رکھتے تھے جو احتیاط اور وقار کی حدود سے باہر ہوں اور نہ کسی سے معاندت و مخالفت رکھتے تھے۔ بعض حضرات سے روزمرہ کی ملاقاتیں مقرر تھیں بعض حضرات سے ہفتہ میں ایک دن ملتے تھے۔ بعضوں سے سال کے سال عید بقرعید پر ملتے تھے۔ ان اوقات کی بہت پابندی فرماتے تھے۔ حرم پاک میں جماعت سے نماز کی بہت پابندی فرماتے تھے۔ ایک بار راقم الحروف سے فرمایا کہ اگر اوقات کی پابندی میں تھوڑا سا بھی تاہل ہو جائے تو نماز اور جماعت میں خلل واقع ہوتا ہے اس لیے مجبوراً میں فلاں معاملے میں کچھ زیادہ وقت نہیں دے سکا۔

حرکات و سکنات میں، شکل و شمائل میں، گفتگو اور لب و لہجے میں، عادات و خصائل میں، کھانے پینے میں حتیٰ کہ زبان اور الفاظ میں اپنے بڑے بھائی حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ سے بے حد مشابہ تھے۔ بعض اوقات یہ خیال ہوا کہ ممکن ہے میرا یہ احساس خاص ربط و تعلق کی بنا پر ہو۔ مگر ایک موقع پر مولینا ابوالحسن علی الندوی مدظلہ نے راقم سے اپنے اسی مشابہہ اور احساس کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ میں اکثر اسی شوق میں ان سے ملنے جاتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت کے پاس بیٹھا ہوں۔ شاید یہ فرمایا تھا کہ میں مولانا کی ایک ایک بات اور حرکت غور سے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ حضرت کی کمال مشابہت نظر آتی ہے۔ موصوف نے جو نصیحتیں، قہائشیں اور حکمتیں مجھ سے فرمائیں، ان میں سے کچھ سپرد قلم کر دینے کو جی چاہتا ہے کہ شاید نوجوانوں اور عام قارئین کے لیے مفید ہوں۔ اس لیے کہ مجھے ان سے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ مجھ سے سعودی عرب میں قیام پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی حد تک تم ارادہ کر لو کہ اب یہاں سے نہ جاؤ گے۔ اگر کوئی قانونی مجبوری پیش آجائے تو مجبوری ہے مگر اپنے عزم میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ۔ ایک موقع پر مجھے نصیحت فرمائی کہ کبھی کسی سے ایسی بے تکلفی اور عام حدود سے زیادہ تعلقات مت بڑھاؤ کہ کسی وقت

رنج اور تلخی کی نوبت آئے اور جس حد تک تعلقات ہو جائیں ان کو آخر حد تک نبھادو۔ کبھی کسی کے ساتھ مخالفت اور سخت کلامی سے پیش نہ آؤ۔ تسامح اور عفو و درگزر سے پیش آؤ۔ اور اگر کسی سے مخالفت پیش ہی آجائے تو بغیر تلخی پیدا کیے ہوئے خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ کسی تیسرے آدمی کو بلکہ خود اُسے بھی پتہ نہ چلے کہ تم اجتناب و اعراض کر رہے ہو۔ ادفع بالاتی ہی احسن۔ ایک موقع پر فرمایا ہمیشہ اپنے مقاصد میں خاموشی سے لگے رہو۔ لوگوں سے اپنے معاملات کے تذکرے، اظہار و اعلان سے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ استعینوفی امور کعبالکتمان۔ ایک بار فرمایا کہ ایک ایک منٹ اپنے قیمتی مشاغل میں خرچ ہونا چاہیے، لایعنی باتوں، مجالس اور کاموں سے بہت گریز کرنا چاہیے۔ ایک بار کہا کہ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، کام کرتے ہو اور جس گھر یا شہر میں رہتے ہو اس کی خوشنودی اور رضا جوئی کا خیال رکھنا چاہیے۔ دارہ انت فی دارہ۔ تجارت کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے ہر مشغلہ میں انسان کو انسان پر اعتماد اور بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ صرف تجارت ایسا مشغلہ ہے اس میں ستم ترا اعتماد اور توکل اللہ پر ہوتا ہے اور وہی سب سے بہتر وکیل ہے۔ نفع المولوی ونعم النصیر۔ ہر بات اس طرح سمجھاتے تھے کہ دل میں اتر جاتی تھی اور ہر نظریے کو قرآن، حدیث یا امثال و حکم سے مبرہن کرتے تھے۔

ایک بار میں نے عرض کیا کہ آپ آٹھ برس کی عمر میں ہندوستان سے آئے اور فرماتے ہیں کہ آنا مجھے خواب کی طرح یاد ہے اور زبان آپ ایسی بولتے ہیں کہ لگتا ہے اسی سال ہندوستان سے آئے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ہمیشہ اردو بولی جاتی رہی اور بہت دنوں تک رہن سہن بھی وہی رہا۔ مگر وقت کے ساتھ طور طریق بدل گئے۔

آپ کی پہلی شادی بریلی کے ایک ہاجر خاندان میں ہوئی تھی۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پہلی اہلیہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی مراکش کے ایک ہاجر خاندان میں ہوئی۔ انہی نے آپ کی تین صاحبزادیاں اور اکلوتے مشہور و معروف صاحبزادے عالی جناب فضیلۃ الشیخ السید حبیب محمود احمد صاحب مدظلہم تولد ہوئے۔ سید حبیب صاحب

کی ولادت ملک شام میں ۱۳۳۸ھ میں اس وقت ہوئی جب خاندان کی جلاوطنی کے بعد خواتین اور بچے شام میں قیام پذیر تھے۔ آپ کی مکمل تعلیم مدرسہ علوم شرعیہ میں حضرت مولانا سید احمد صاحب کی زیر نگرانی ہوئی۔ بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ حضرت نے آپ کو اپنی حقیقی اولاد کی طرح پرورش کیا اور تعلیم و تربیت دی۔

آپ مدرسہ علوم شرعیہ کے مدیر و مہتمم ہیں۔ حکومت کے مختلف شعبوں اور مجالس کے ممبر ہیں۔ مجلس اوقاف مدینہ طیبہ کے صدر اور سعودی عرب کی اوقاف اعلیٰ کے ممبر ہیں۔

اس وقت مولوی حبیب اللہ کی اولاد میں اور خاندان میں سب سے بڑے اور سرپرست آپ ہی ہیں اور اپنے اس منصب کو نہایت کشادہ دلی اور فراخ حوصلگی کے ساتھ ایک حقیقی مربی کی طرح نبھا رہے ہیں۔ حق تعالیٰ اوصحت و عافیت اور اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ آپ کا سایہ دماز فرمائے۔ آمین۔

آپ کی شادی مدینہ طیبہ ہی میں ہوئی ہے اور آپ کے تین صاحبزادے اور تین بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑے ڈاکٹر سید احمد حبیب محمود سلمہ ہیں۔ آپ کی شادی مدینہ طیبہ ہی میں ہوئی ہے جس سے ایک صاحبزادہ میاں خالدہ ہیں اور دو بچیاں فاطمہ اور خلود ہیں۔

دوسرے صاحبزادے میاں سید محمد حبیب ہیں، انھوں نے جرمنی سے جیولوجی میں ایم ایس سی کیا اور اب پٹرولیم منسٹری میں اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ تیسرے صاحبزادے میاں سید عدنان حبیب سلمہ ہیں۔ مولانا سید حبیب صاحب کی تین صاحبزادیاں ہیں۔

ان کے علاوہ مولانا سید محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تین بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی محترمہ ناجیہ صاحبہ کی شادی جدہ کے ہاجر خاندان کے قاضی فضل اللہ صاحب کے صاحبزادے قاضی مسعود صاحب سے ہوئی ہے۔ دوسری بیٹی محترمہ آسیہ سلمہ ہیں۔ ان کی شادی بنگلہ دیش کے ہاجر ڈاکٹر عبدالمنان صاحب سے ہوئی ہے تیسری صاحبزادی محترمہ ذکیہ سلمہ ہیں ان کی شادی پوزنیہ صوبہ بہار کے ایک ڈاکٹر محمد نسیم

صاحب ہا جبرہ مدینہ طیبہ سے ہوئی ہے۔ اللہ سب کو خیریت و عافیت سے رکھ کر دارین کی مسرتیں، سعادتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین

الحمد للہ کہ بیاسی برس تک نہایت کامیاب زندگی گزار کر، تمام فرائض دینی و دنیوی سے فراغت پا کر اور حیاتِ ستعار کا ایک معتد بہ حصہ دنیائے دنی سے کنارہ کشی کے بعد حق تعالیٰ کی یاد اور عبادت میں گزار کر حضرت مولانا محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۶۳ء میں معمولی بخار میں مبتلا ہوئے اور کل تین چار دن کی علالت کے بعد نہایت اچھے حالات میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اپنے مالکِ حقیقی سے جا ملے اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ رحمہ اللہ، وحمۃ واسعہ

اہلاً وسہلاً مرحباً

عَلَامَةُ اِقْبَالِ سَمِيلِ مَرْحُومِ

لے سایہ ات بال ہما خوش آمدی خوش آمدی
 لے شمع ایوانِ حرم اے سروستانِ حکم
 لے خازنِ اربابِ حق اے ہبیطِ انوارِ حق
 سرگردہ اربابِ دین سر دفترِ اہلِ یقین
 لے مستشارِ موتمن لے مقتدائے مستحق
 لے قائمِ فیض کہن اے نطلِ محمودِ الحسن
 لے یوسفِ کنگانِ ما با داذایتِ جانِ ما
 لے رایۃِ فتحِ میں لے آیتِ علمِ یقین
 اے کنزِ اخبارِ نبی مقبولِ سرکارِ نبی
 اے نازشِ خاکِ وطن لے مزجِ اربابِ فن
 آئینہٴ فیضِ ازل گنجینہٴ علم و عمل
 از مقدمتِ دل شاد شد ویرانہٴ ام آباد شد
 دلہا تہ اقدام تو و دروز بانہا نام تو

ایں گلشنِ علم و ہنر شد از قدمتِ مفتخر
 گوید ہمیں نور الہدیٰ خوش آمدی خوش آمدی

لہ یہ نظم ۱۹۳۲ء میں مدرستہ الاصلاح سرانے میر ضلع عظیم گڑھ میں حضرت کی تشریف آوری کے موقع پر پڑھی گئی۔
 ”صحیح زبان میں اتنی صحیح مدح صحیح موقع پر صحیح شخص کے لیے شاعری کے عالم میں بہت کم دیکھنے میں آئی
 ہے“ (مولانا عبد الماجد دریا آبادی، ہفتہ وار ”سچ“ ۲۰ مئی ۱۹۳۲ء)۔ ”واقعی نفیس ہے اور لطف
 یہ کہ سلیس ہے۔ گویا سہلِ ممتنع ہے۔ میں نے نقل کر لی ہے“ (حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ۲۲۲)۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ

ولادت اور ابتدائی تعلیم و تربیت ۱۸۴۹ء تا ۱۸۹۱ء

آپ مولوی سید حبیب اللہ صاحب کے منجھلے صاحبزادے تھے۔ ۱۲۹۶ھ مطابق ۱۸۴۹ء میں قصبہ بانگر موصلع اناؤ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ نامی جرائع محمد رکھا گیا جس سے تاریخ پیدائش نکلتی ہے۔ بہت بچپن میں اپنے والد کے تبادلے کے ساتھ ٹانڈہ چلے آئے جو مدینہ طیبہ کے قیام سے پہلے آپ کا آبائی اور اصل وطن تھا۔ ابتدائی تعلیم اور تربیت اپنے گھر ہی پر ہوئی۔ اس زمانے کا یہی دستور تھا۔ بچے کو سب سے پہلے گھر میں قاعدہ بغدادی، آمد نامہ، حمد باری، خالق باری، گلستان، بوستاں اور قرآن پاک حساب وغیرہ پڑھاتے تھے۔ حضرت نے بھی اُردو، حساب، فارسی اور قرآن کی تقریباً مکمل تعلیم گھر ہی پر حاصل کی اور اس کے بعد مڈل اسکول میں داخل ہوئے۔ تربیت کے معاملے میں بھی اُس وقت کا طور طریق آج سے بالکل مختلف تھا۔ حضرت کی تربیت بھی والدین کی شدید نگرانی اور قید و بند میں ہوئی۔ کھیلنے کو دینے، دوستوں سے ملنے جلنے اور باہر گھومنے پھرنے کی تھوڑی سی آزادی اور بے فکری کے دن جو ہر انسان کو بچپن کے چند لمحوں کے لیے نصیب ہوتے ہیں وہ حضرت کو کبھی نہیں مل سکے۔ آنکھ کھولتے ہی اور ہوش آتے ہی آپ نے فرائض، ذمہ داریوں

اور پابندیوں کا بوجھ سر پر محسوس کیا۔

”مجھ کو ہوش و حواس جب آئے تو میں نے اپنے آپ کو مانڈہ میں پایا۔ بانگر مٹو بالکل یاد نہیں۔ والدین مرحومین کو اولاد کی تعلیم و تربیت کا بہت زیادہ زور اور غیر معمولی خیال تھا اور اس کے لیے والد مرحوم بہت زیادہ سختی کرتے تھے۔ ہر سچے کو جبکہ وہ چار برس کا ہو جاتا تھا پڑھنے لکھنے کے لیے بٹھا دیتے تھے اور نہ پڑھنے اور یاد نہ کرنے اور کھیلنے پر خوب مارتے تھے۔ اس لیے مجھ کو کھیلنے کا موقع صرف چار برس کی عمر تک ملا ہے۔ جب اس عمر کو پہنچا تو گھر میں والدہ مرحومہ کے پاس قاعدہ بغدادی اور اس کے بعد سپارہ پڑھتا تھا۔ صبح ساڑھے نو بجے تک تو یہ قید اور پڑھانی گھر میں ہوتی تھی اور ساڑھے نو بجے کھانا کھا کر والد مرحوم کے ساتھ اسکول میں جانا پڑتا تھا۔ اسکول الشہداد پور سے تقریباً ایک میل یا کچھ زائد دوری پر ہے۔ اسکول کی تعلیم میں بھی اس زمانہ میں مدرسین خوب مار پیٹ کرتے تھے۔ اس وقت مجھ کو درجہ آٹھ میں داخل کیا گیا (اس زمانہ میں درجوں کی ترتیب اس طرح تھی، ٹرل کلاس کو اول درجہ کہا جاتا تھا اور سب سے نیچے کا درجہ اٹھواں کہلاتا جاتا تھا) چار بجے شام تک اسکول میں قید رہنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد والد صاحب مرحوم کے ساتھ گھر آنا ہوتا تھا۔ گھر پر بھی سخت قید تھی۔ باہر نکلنا، گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا، اس کی بالکل اجازت نہ تھی۔ اور اگر کبھی غفلت دیکھ کر یا والد صاحب کی غیبت میں موقع پا کر نکل جاتا تھا تو جب پتہ چلتا تھا تو سخت مار پڑتی تھی۔ ایک بکری بھی والد صاحب نے اچھی نسل کی پال رکھی تھی۔ اسکول جاتے اور آتے ہوئے اس کو اور اس کے بچوں کو ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ چونکہ اسکول کا احاطہ بڑا تھا تو وہ لائبریری میں باندھ دی جاتی تھی اور دن بھر اسی طرح چرتی رہتی تھی اور

دیگر اوقات فارغہ میں یا تعطیل میں اس کو اور اس کے بچوں کو مکان کے قریب
 چرانا پڑتا تھا (اس طرح یہ سنت نبوی علیہ السلام ادا کرنی پڑتی تھی) گاؤں
 میں میرا ہم عمر لڑکا ماموں زاد بھائی جواد حسین مرحوم تھا۔ موتہ باکر اس کے ساتھ
 کوئی کھیل کھیلتا تھا۔ صرف دو گھروں میں ہم آزادی کے ساتھ جاسکتے تھے
 ایک تائے صاحب مرحوم کے یہاں اور دوئم ماموں افضل حسین مرحوم کے
 گھر میں، مگر چونکہ تائے صاحب کے یہاں کوئی ہم عمر لڑکا نہ تھا، اس لیے
 وہاں جانا بے سود ہوتا تھا۔ جواد حسین مرحوم کے یہاں بھی کھیلنے کی اگر خبر
 ہو جاتی تھی تو مار پڑتی تھی۔ بہر حال ایام طفولیت میں صرف گولی کھیلنے کی
 نوبت آئی اور وہ بھی چھپ لگ کر۔ آزادی کے ساتھ وہ بھی نصیب نہ
 ہوا۔ گانوں میں بعض ہم عمر لڑکے اور بھی تھے۔ مگر ان کے گھروں میں جانے
 کی اجازت نہ تھی۔ بھائی سید احمد مرحوم اور میں اُپرا تلی کے تھے اس لیے
 وہ ہمیشہ کاٹ کرتے تھے (جیسے کہ نظر تا اُپرا تلی کے بھائیوں کی عادت
 ہوتی ہے) وہ طبعی طور پر ابتدا سے سلیم الطبع تھے کھیل کود کی طرف بہت
 کم رغبت کرتے تھے اور والدین مرحومین کی منشا کے مطابق زیادہ رہتے
 تھے۔ چھوٹے بچوں کی خبر گیری میں والدہ مرحومہ کی بہت زیادہ امداد کرتے
 تھے۔ میں جب کبھی غفلت دیکر کھیلنے کے لیے نکل جاتا تھا تو وہی تلاش
 کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے اور وہ گوشمالی کرتے ہوئے لا کر والد صاحب
 کے سامنے پیش کر دیتے تھے اور پھر مار پڑتی تھی۔ الحاصل آٹھ برس اس
 طرح وطن میں قیام رہا اور اس میں پانچویں سیدارے تک والدہ مرحومہ
 سے اور پانچویں سے آخر تک والد مرحوم سے قرآن شریف ناظرہ پڑھنا
 ہوا۔ اس کے بعد آمد نامہ، دستور الصبیاں، گلستاں کا کچھ حصہ مکان پر
 پڑھنا ہوا۔ اور اسکول میں دوئم درجہ تک پڑھنا ہوا۔ اس وقت اسکول

میں فنون اور کتب بہت زیادہ تھیں، تمام اقسام حساب و جبر و مقابلہ تک، مساحت اور اقلیدس مقالہ اولی، تمام جغرافیہ عمومی و خصوصی، تاریخ عمومی و خصوصی، مساحت عملی (تسخیر، جریب وغیرہ سے زمین ناپ کر باقاعدہ نقشہ بنانا) تحریر، املا، شکست لکھنا اور پڑھنا، اُردو کورس وغیرہ سب اس عمر میں پوری طرح یاد اور مشق کر چکا تھا اور ہر چیز میں اس قدر جہارت ہو چکی تھی کہ از بزر بخوبی جواب دے سکتا تھا۔ جبکہ تیرھواں سال عمر کا شروع ہوا اور بھائی سید احمد صاحب مرحوم اُردو ٹل پاس کر کے ذیقعدہ ۱۳۰۵ھ مطابق ۱۸۹۱ء میں دیوبند بھیج دیے گئے۔ بڑے بھائی صاحب پہلے سے وہاں پڑھتے تھے اور ان کی کتابیں آخری تھیں۔ جب وہ شادی ہو جانے کے بعد جانے لگے تو بھائی سید احمد صاحب بھی ان کے ساتھ کر دیے گئے۔ اب ہم مکان پر اس حیثیت سے آزاد ہو گئے کہ ہم کو ڈھونڈ کر گھروں میں سے نکال لانے اور والد صاحب کے سامنے پیش کر دینے والا کوئی نہیں رہا۔ طبیعت میں کھیل کود کا شوق تھا ہی۔ جہاں والد صاحب مرحوم نے کسی کام کو یا کسی کو بلانے کے لیے بھیجا تو اس کو انجام دیا اور ناموں صاحب مرحوم کے مکان میں گھس گئے اور جو احیاء مرحوم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ وہاں ہر ایک ہم سے محبت سے پیش آتا تھا اور ہماری اس مظلومیت پر کہ ہم کو کھیلنے کا موقعہ نہیں دیا جاتا ہے تیلی کے بیل کی طرح دن رات لکھنے پڑھنے میں لگا رہنا پڑتا ہے، ہم سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس وجہ سے والد صاحب کو سخت کلفت پیش آئی۔ اگرچہ مارا پینا بھی بہت زیادہ مگر بے سود معلوم ہوا۔ دو چار دن مار پیٹ کا اثر رہا، پھر وہی کھیل کا شوق سوار ہوا۔ بالآخر والد صاحب مرحوم نے طے کر لیا کہ اس کو یہاں نہ رکھنا چاہیے اور دیوبند ہی بھیج دینا چاہیے۔ چنانچہ تین ہینہ بھائی صاحبوں کی روانگی کے گزرنے کے بعد جناب منشی

فیروز الدین صاحب بٹالوی کے ساتھ دیوبند پہنچ دیا۔^۱

اس تحریر سے چند باتیں واضح ہوئیں اور یہ وہ بنیادیں ہیں جن کا حضرت کی آئندہ زندگی پر اثر پڑا ہے۔ باوجود شوق اور میلان طبع کے آپ کو بچپن کے دل چپ کھیل کود سیر و تفریح اور قصہ کہانی وغیرہ کا موقعہ کبھی نہیں ملا۔ صرف ایک کھیل گولی کا موقعہ ملا، وہ بھی اس قدر کم مدت کے لیے کہ آپ کی زندگی میں کھیل کود کا خانہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ضبطِ نفس اور خواہشات پر قابو کی مشق اور عادت اگر یہیں سے بڑگئی ہو تو تعجب نہیں ہے۔

اسکول میں، محلے میں، قصبے میں، گاؤں میں اور خاندان میں غرض ہر جگہ بچوں کو ہجولیوں، ہم عمروں اور ہم مذاقوں کی ایک فوج مل ہی جاتی ہے۔ کیسی کیسی دوستیاں، سیر و تفریح اور شرارتیں ہوتی ہیں۔ بعض دوستیاں عمر بھر باقی رہتی ہیں اور بعض کے اثرات زندگی بھر نمایاں رہتے ہیں۔ حضرت کے بچپن میں ایسے تعلقات اور دوستی کا کوئی خانہ نہیں رہا۔ صرف ایک ماموں زاد بھائی کے ساتھ کچھ دن کھیلنے کا موقع ملا۔ اور وہ بھی اتنا کہ نہیں کے برابر۔ کیا خبر ہے کہ والدین کی نیتوں اور مزاجوں کے زیر اثر تعلق مع اللہ اور پابندی اوقات فی سبیل اللہ کی ابتدا، یہیں سے ہو گئی ہو۔ بچپن میں اور پھر انیسویں صدی کے بچپن میں آٹھ دس برس کی عمر تک بچوں کو اول تو پڑھنے کے لیے بٹھایا ہی کم جاتا تھا۔ زمینداروں اور شرفاء کے گھرانوں میں یہ مقولہ مشہور تھا کہ ”ہمارے بچوں کو کیا نوکری کرنی ہے کہ پڑھا کر ان کی ننھی ننھی جانیں ہلکان کر آئیں“ اور یہ جانیں بچپن برس کی عمر تک ننھی ہی ننھی رہتی تھیں اور اگر حسن اتفاق سے بچے کسی مولوی صاحب، میاں جی یا گرو جی کے پاس (ماسٹر صاحب کی اصطلاح بہت بعد کی ایجاد ہے) بیٹھ بھی گئے تو برس چھ مہینے تو ان کو عادت ڈلوانے ہی میں خرچ ہو جاتے تھے۔ اور پھر دو تین برس بعد جا کر اس قابل ہوتے تھے کہ درجہ بندی کے سلسلے میں داخل ہو سکیں مگر حضرت بارہ برس کی عمر میں پورا قرآن، گلستاں تک فارسی، اُردو، جغرافیہ، تاریخ، میتھیٹکس

۱۔ نقشِ حیات، ج ۱، ص ۲۳۔ منشی صاحب ٹالہ (پنجاب) کے رہنے والے فیض آباد کلکٹری میں ملازم تھے فیض آباد سے ان کے وطن کارا سہا پور ہو کر جاتا ہے۔ دیوبند سہا پور سے بالکل قریب ہے۔

الجزا۔ اقلیدس۔ انشانگاری۔ رقعات نویسی وغیرہ کی تعلیم نہ صرف یہ کہ پوری کر چکے تھے بلکہ ہر مضمون میں امتیازی اور اعلیٰ قابلیت کے مالک تھے۔ اور مزید یہ کہ مڈل تک تعلیم پوری کر چکے تھے۔ شاید اسی تربیت اور نشوونما کا اثر تھا کہ تمام عمر حضرت نے تعلیم۔ تعلیم۔ درس و تدریس اور مدرسہ و کتاب کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھا اور حدیث و قرآن کی خدمت ہی میں جان، جان آفریں کے سپرد کر دی، اور اگر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ان تمام درسی اور تعلیمی مشاغل کے ساتھ یہ بچہ گھر کی ذمہ داری بھی کسی نہ کسی درجے میں اٹھائے ہوئے تھا۔ ماں اور باپ کی خدمت اور تعمیل احکام میں بھی حاضر رہتا تھا اور تھوڑی سی فراغت اور وقت مل جاتا تھا تو بکریاں چرانے لے جاتا تھا۔ تو خیال ہوتا ہے کہ زندگی بھر حضرت کی شخصیت میں تواضع، منکسر مزاجی، بے نفسی، بے غرضی اور جذبہ خدمت کی جو صفات اور عناصر غالب رہے، یہ بچپن کی اسی معصومانہ ریاضت کا نتیجہ رہے ہوں گے۔ چند مہینے اور رہ جاتے تو اسکول کی تعلیم اور مڈل کا امتحان امتیازی شان سے پاس کر لیتے۔ مگر باپ کو تو دینی، اسلامی اور عربی تعلیم دینی مقصود تھی۔ چنانچہ تیرھواں سال شروع ہونے ہوتے گھر بار، ماں باپ، عزیز و اقارب وطن اور اہل وطن سب کو چھوڑ کر دیوبند سدھار گئے۔

دیوبند میں طالب علمی ۱۸۹۱ء تا ۱۸۹۷ء -

ماہ صفر کے پہلے ہفتے میں حضرت دیوبند پہنچے۔ دونوں بڑے بھائی پہلے ہی حضرت شیخ الہندؒ کے آستانے کے سامنے ایک مکان میں مقیم تھے۔ بڑے بھائی مولانا صدیق احمد صاحب حضرت شیخ کے خصوصی خادم اور عزیز شاگرد تھے۔ حضرت بھی بھائیوں ہی کے ساتھ حضرت شیخ کے سایہ عاطفت میں سکونت پذیر ہوئے۔ عربی کی تعلیم علماء، صلحاء، اولیاء، ائمہ کے مجمع میں حضرت شیخ الہندؒ مولانا محمود حسن صاحب اور مولانا خلیل احمد صاحب کے مبارک ہاتھوں سے شروع ہوئی۔ یہ ایک نو عمر لڑکا اچانک ماں باپ،

گھربار اور وطن سے جدا ہو کر کالے کوسوں دور چلا جائے تو اس کی دل شکستگی اور پڑمردگی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ حضرت تو صرف بارہ برس کے تھے اور پیدائشی کمزوری، طبیعی خاموشی اور ڈبلے پتلے ہونے کی وجہ سے اپنی اصل عمر سے دو ایک برس کم ہی لگتے تھے۔ اُس پر مزید یہ کہ دونوں بھائی سُخت گیر اور سُخت مزاج تھے چنانچہ ”دیوبند پہنچنے کے بعد وہ ضعیف سی کھیل کود کی آزادی جو کہ مکان پر تھی، وہ بھی جاتی رہی، دونوں بھائی صاحبان اور بالخصوص بڑے بھائی صاحب سب سے زیادہ سُخت تھے، خوب مارا کرتے تھے۔ والد صاحب مرحوم ممکن ہے کہ ان کو مارتے وقت یا بعد میں کچھ شفقت آجاتی ہو مگر یہاں تو وہ بھی نہ تھی۔ بہر حال اس تقید اور نگرانی نے مجھ میں علی شغف زیادہ سے زیادہ اور لہو و لعاب کا شغف کم سے کم کر دیا۔ فوجہم اللہ و جازاہم احسن الجزاء علیہ

ایک منحنی، کمزور، خاموش، کم آمیز، گرد و پیش سے بے خبر سچہ اتنی چھوٹی عمر میں گھر سے الگ کر کے کالے کوسوں دور بھیج دیا گیا تھا جس عمر میں بچے ایک ایک پل ماں باپ کے لاڈ پیار سے مالا مال رہتے ہیں۔ اس لیے ہر چھوٹا بڑا حضرت سے شفقت و محبت کا برتاؤ کرتا تھا اور جب اس عمر میں آپ کی قابلیت، حساب، تاریخ، جغرافیہ، اُردو، فارسی، پاکیزہ تحریر، بختہ خط، انشا پردازسی، پابندی اوقات، ذمہ داری، سنجیدگی اور علمی ذوق و شوق کے جوہر کھلتے تھے تو لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ تحریر کی پاکیزگی، حساب میں مہارت اور خط و انشا کی سچنگی کی وجہ سے عام طور پر لوگ اور پردہ نہ ہونے کی وجہ سے خاص طور پر خواتین آپ سے کتابیں پڑھوا کر سنتی تھیں، تحریریں نقل کرواتی تھیں، خطوط لکھواتی تھیں اور حساب و کتاب درج کرواتی تھیں۔ حضرت شیخ الہند کی اہلیہ محترمہ حضرت کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ فرماتی تھیں۔ اور اپنے بچوں کی طسرح خیال رکھتی تھیں۔

”اگر چہ تیرھواں سال عمر کا شروع ہو چکا تھا مگر جسم اس قدر ڈبلا پتلا اور بے ستہ تھا کہ کوئی دیکھنے والا یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی عمر گیارہ سال سے زیادہ ہے اس وجہ سے مجھ پر وہاں شفقت زیادہ کی گئی۔ وہاں معتد

دور کے نو عمر اور چھوٹے طالب علم عموماً نہیں جاتے تھے اور چونکہ میں تحسیر و حساب وغیرہ سے بخوبی واقف تھا، خط بھی فی الجملہ اچھا تھا اس لیے اساتذہ کے یہاں خانگی خطوط اور خانگی حسابات کی خدمت اور گھروں میں جانا اور پردہ کا نہ کیا جانا وغیرہ کا سلسلہ کئی برس تک جاری رہا۔ بالخصوص حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ (رحمہما اللہ) بہت زیادہ شفقت فرماتی تھیں۔ مستور آتی منشی مشہور ہو گیا تھا۔

دیوبند میں عربی تعلیم کی ابتدا ہوئی تو ابتدائی دو چار کتابیں بڑے بھائی مولانا صدیق احمد صاحب سے پڑھیں مگر اس کے بعد باقی ابتدائی اور بہت سی متوسط اور اعلیٰ کتابیں حضرت شیخ الہندؒ نے بنفس نفیس بڑی توجہ اور شفقت کے ساتھ پڑھائیں۔ حضرت کے اساتذہ پر نظر ڈالیں تو متعدد حضرات، اکابر اس فہرست میں نظر آتے ہیں۔ مگر شروع سے آخر تک تعلیم، تربیت، نصاب تعلیم اور کتابوں پر غور کریں تو یہ حقیقت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آپ کی علمی تربیت اور تعلیمی ترقی شروع سے آخر تک شیخ الہندؒ کی نگرانی، توجہ اور تلمذ میں مکمل ہوئی۔ یہ اعزاز اور منصب دیوبند یا حضرت شیخ الہندؒ کے کسی اور شاگرد کو نصیب نہیں ہوا۔ اپنی خصوصیات صلاحیت اور صفات کے بارے میں ایک لفظ لکھنا اور ذکر کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس مضمون کو سننا بھی حضرت نے عمر بھر گوارا نہیں کیا۔ اس لیے یہ تو کیسے کہتے کہ جوہر قابل کی پیشانی پر نوشتہ تقدیر دیکھ کر حضرت شیخ الہندؒ نے میری تعلیم و تربیت اپنے ہی ہاتھوں مکمل فرمائی۔ مگر نفس واقعہ تو کسی نہ کسی طور پر لکھنا ہی پڑا۔

”حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مدرسِ اول تھے۔ اور ان کے پاس طلبہ کی بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھیں۔ ابتدائی کتابیں ان کے پاس نہ ہوتی تھیں۔ اور نہ ہو سکتی تھیں مگر چونکہ حضرت رحمۃ اللہ کے حقیقی بھتیجے منشی حبیب حسن صاحب ہماری جماعت میں تھے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے بوجہ ان کی والدہ کے فوت ہو جانے اور قرابتِ قریبہ کے بہت زیادہ انس تھا اور اس وجہ سے بھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم یتیموں پر بہت زیادہ شفقت تھی اور بڑے

بھائی صاحب خدمت میں غیر معمولی حاضری دیتے اور امور خدمت انجام دیتے رہتے تھے اس لیے رعایت خاصہ فرماتے رہے۔ اور مندرجہ بالا ابتدائی کتابیں بھی مجھ کو پڑھائیں اور اکثر کتابیں خارج اوقات مدرسہ میں پڑھائیں۔

حضرت کا حافظہ سچپن ہی سے قوی تھا۔ ذہانت بھی حق تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اور اسباق اور تعلیم پر حضرت پوری طرح توجہ بھی فرماتے تھے۔ مگر اندازہ ہوتا ہے کہ جن عوامل نے سونے کو کندن بنا دیا وہ والدین مرحومین کا مکمل اہتمام، بڑے بھائیوں کی نگرانی اور تربیت اور حضرت شیخ الہندؒ کی خصوصی توجہات عالیہ اور تلذذ تھا جس کا اثر یہ ہوا کہ طالبی میں اس نو عمری کے دور میں حضرت نے اپنے اوقات ضائع نہیں کیے بلکہ وقت کا ہر لمحہ پوری طرح حصول علم میں خرچ کیا۔ دینی علوم میں طلبہ کو اتنا طویل وقفہ نہیں ملتا جتنا دنیاوی تعلیم میں خرچ ہوتا ہے اور حضرت کو تو مشکل سے کل چھ ساڑھے چھ برس کا وقفہ ملا۔ اسی میں ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی، عام مطالعہ بھی کیا، استعداد بھی بہم پہنچائی اور فقہ، تفسیر اور حدیث کی آخری کتابیں بھی حروف بصر پر پڑھیں اور ان تمام کامیابیوں میں بڑا درجہ کلاسوں اور اسباق میں پابندی کے ساتھ حاضری، پوری توجہ اور فوق و شوق کے ساتھ درس کو سمجھنے اور انشراح صدر کے ساتھ مضامین کو ذہن نشین کرنے کا رہا۔ ساری محنتیں ہوں اور اسباق میں حاضری کی پابندی نہ ہو تو طالب علم کی کامیابی بڑی حد تک مشتبہ رہتی ہے۔ حضرت نے مواظبت اور اسباق کی پابندی کا خصوصی اہتمام رکھا۔ اور دورانِ درس مضامین عالیہ کو ذہن نشین کر لینے کی پوری کوشش کرتے رہے۔

”کتابوں کا پوری طرح مطالعہ کرنا، اور سبق پڑھنے کے بعد کتاب کو دیکھنا

یا تکرار کرنا بہت کم ہوا۔ البتہ اس کا ہمیشہ التزام کیا کہ اسباق میں حاضری

ضرور دیتا رہا۔ اور حتیٰ الوسع مقام درس میں سبق سمجھ لینے کی پوری جدوجہد کرتا تھا۔

اور اصل واقعہ یہ تھا کہ اسباق اتنے مسلسل اور طویل تھے کہ ان کے بعد کسی مطالعہ

مراجہ اور پڑھائی کا موقع ہی نہیں ملتا تھا اور اسی مشکل کے حل کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ سبق کے دوران ہی اس پر مکمل عبور حاصل کر لیا جائے۔ اس پابندی اور

جدوجہد نیز اسباق پر مکمل توجہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو تعلیمی ترقی سالوں میں حاصل ہوتی ہے وہ حضرت نے مہینوں میں حاصل کر لی اور اساتذہ و اکابر کی خصوصی توجہات کا مرکز بن گئے۔ اسلامی دینی درسگاہوں کے اساتذہ ویسے بھی طلباء عزیز کو اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں۔ پھر وہ زمانہ تو تعلیمی اعتبار سے خیر القرون کا زمانہ تھا۔ اساتذہ و اکابر بھی ایسے تھے جو کتابوں سے زیادہ طالب علم کو روحانی فیض اور قلبی توجہ سے مالا مال کرتے تھے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ”آنانکہ خاک را بنظر کیا کنند“ اور طلباء بھی ایسے تھے کہ اپنے اساتذہ کی خدمت، ادب، احترام اور اکتسابِ فیض کے لیے جان قربان کر دینے کو تیار رہتے تھے۔ ہر چند کہ حضرت نے اپنی اس تعلیمی محنت اور اکابر کی خصوصی توجہات کا تذکرہ معمولی الفاظ میں کیا ہے۔

”اور اس طرح بہت سے اسباق خارج اوقات میں عصر بعد، مغرب

بعد، عشا بعد ہوتے رہے جن کی وجہ سے مجھ کو جلد ترقی کرنے کا موقع

ملتا رہا اور اپنے ہم سبقوں کو نیچے درجات میں چھوڑ کر اگلی جماعتوں

اور کتابوں میں شمول کا امتیاز حاصل کیا اور اس شغف اور پابندی

کو دیکھ کر اساتذہ کرام نے بھی اپنی عنایتیں زیادہ سے زیادہ مبذول فرمائیں۔“

مگر اصحابِ علم خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایام طالب علمی میں اور ایسی نوعمری میں حضرت نے کس طرح اپنی زندگی اور شب و روز علم کے لیے وقف کیے ہوں گے۔

یہ تفصیل تو ایامِ تعلیم کے نام دنوں میں پڑھنے، مطالعہ کرنے اور مضامین کو سمجھنے

کے بارے میں تھی۔ مگر امتحانات کے زمانے میں دن و رات کا ایک گھنٹہ بھی پڑھنے اور

مطالعہ کرنے کے علاوہ کسی دوسرے شغلہ میں خرچ نہیں ہوتا تھا۔ سونا، الٹنا اور آرام

کرنا تو حضرت نے بڑھاپے میں بھی کبھی نہ جانا، وہ توجو انی بلکہ لڑکپن کا زمانہ تھا۔ پورے

چوبیس چوبیس گھنٹے مطالعہ، پڑھنے اور یاد کرنے میں خرچ فرماتے تھے۔ عربی مدارس

میں طلباء کا مقصد چونکہ علم حاصل کرنا ہوتا ہے اور امتحان میں کامیابی کی حیثیت ثانوی

ہوتی ہے اس لیے ان میں اہم موضوعات (IMPORTANT) اور کامیابی کے لیے

خاص عنوانات یا مفاتیح (KEYS) کی کمزوریاں اور غلطیاں پوری طرح سرایت نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت امتحان سے پہلے کئی کئی مرتبہ کتابیں اور نصاب پر پوری طرح عبور اور قابو حاصل کر لیتے تھے۔ اور یہ اسی طرح ممکن ہو سکتا تھا کہ دن رات سوائے پڑھنے کے اور کوئی کام نہ کیا جائے۔

”میں نے ایام امتحان میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کو کتاب ابتدا سے آخر تک مطالعہ کرتا تھا۔ اور تمام رات میں صرف ایک گھنٹہ یا اس سے بھی کم سوتا تھا۔ نیند کو دور کرنے کے لیے مکین چائے کا انتظام کرتا تھا۔ جب بھی نیند غالب آتی تھی اس چائے کو پیتا تھا جس سے گھنٹہ دو گھنٹہ کو نیند جاتی رہتی تھی“

اس بے مثال محنت، توجہ اور جدوجہد کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت امتحانات میں اعلیٰ درجہ میں کامیابی حاصل فرماتے رہے۔ ہر چند کہ اس کامیابی کا مقابلہ موجودہ طریقوں کے امتحانات میں کامیابی سے کیا جانا پوری طرح صحیح نہیں ہے۔ تاہم فہم عام کے لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت امتحانات میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن سے پاس ہوتے رہے۔ اور پوری تعلیمی زندگی میں (TOPPER) رہے۔ اگرچہ اصل اہمیت اس علمی شغف اور ذوق ہی کی تھی جس کی بنیاد پر طالب علمانہ زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی غیر علمی دل چسپی میں صرف نہیں ہوا۔ تاہم مندرجہ ذیل الفاظ حضرت کے علمی مزاج کی طرف ایک اشارہ ضرور کرتے ہیں۔

”اس طریقہ پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھ کو تحریری امتحان کی مشکلات پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد بجز اللہ کسی کتاب میں فیل ہونے کی نوبت نہیں آئی بلکہ اپنی جماعت میں اکثر امتیازی نمبر حاصل کرتا رہا۔“

خیال رہے کہ مذکورہ کسی سچتہ کار بڑی عمر کے طالب علم کی مسلسل محنت، انتھک جدوجہد اور علمی شغف کا نہیں بلکہ ایک نو عمر نندہ سولہ برس کے ناسمجریہ کار لڑکے کا ہے جو صرف اپنے حوصلے، شوق اور علمی میلان کی بدولت ہر امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبروں سے پاس

ہوتا تھا۔ کامیابی کے نمبر اور پاس ہونے کا معیار بھی قابل غور ہے۔

”اگر کوئی طالب علم غیر معمولی استعداد والا ہوتا تھا تو اس کو سخن میں سے نام نہ نمبر بھی دیتا تھا جو کہ اعلیٰ درجہ کے نمبروں میں سے سمجھا جاتا تھا۔ بجز اللہ اس زمانے میں ایکس ایکس، بائیس بائیس اور تیئیس تیئیس بھی متعدد کتابوں میں نمبر آتے رہے۔ اس کے بعد اراکین مدرسہ نے امتحانی اور تعلیمی ضرورتوں کی بنا پر اس قاعدہ میں تبدیلی کی اور ادنیٰ درجہ کا کامیابی کا چالیس اور متوسط درجہ پینتالیس اور اول درجہ پچاس مقرر کیا۔ اس تغیر کے بعد امتحانات میں کیا دن، باون، تریپن اور صدرا میں پچھتر نمبر حاصل کیے گئے۔“

عام حالات میں طالب علم کو الگ الگ مضامین سے دل چسپی ہوتی ہے کسی کو ادب اور لغت سے تعلق ہوتا ہے کسی کی طبیعت فقہ کی جانب مائل ہوتی ہے۔ کوئی منطق و فلسفہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہر عالم اپنے میلان کے مطابق مخصوص مضامین میں ترقی کرتا ہے۔ حضرت نے بھی دور طالب علمی میں اپنے رجحانات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس تفصیل سے حضرت کے اس مخصوص علمی رجحان کا اندازہ ہوتا ہے جس میں آپ کی عمر گزری ہے:

”ابتداء میں مجھ کو منطق اور فلسفہ سے بہت شغف رہا۔ پھر علم ادب سے شغف ہو گیا۔ مقامات حریری، اور دیوانِ متنبی اور سبغہ معلقہ کے قصائد کے قصائد اور عبارتیں کی عبارتیں از بر یاد ہو گئی تھیں۔ پھر علم حدیث سے شغف ہو گیا اور پہلے دونوں شغفوں میں کمی آگئی اور علم حدیث کے انہماک ہی میں دور طالب علمی ختم ہو گیا۔“

انہماک اعمالِ بانحوائیم، چنانچہ ساری زندگی حضرت نے علم حدیث پڑھنے پڑھانے اور اس خدمت میں بسر کی۔ مشاغل دوسرے بھی تھے۔ اوقات اور کاموں میں بھی خرچ ہوتے تھے مگر حتیٰ یہ ہے کہ اپنے قصدِ ادارے اور مزاج کے اعتبار سے حضرت اپنی بیاسی برس کی عمر کا ایک ایک لمحہ صرف آقائے نامدار صلی اللہ وسلم کی سنت اور شریعت ہی خدمت کی کرتے کرتے حبانِ جان آفریں کے سپرد کی۔

بارہ برس کی عمر میں دیوبند پہنچے تھے اور چھ ساڑھے چھ برس تک وہاں تعلیم حاصل کر کے کل ۱۹ برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر سندِ فیصلت حاصل کی۔ اس مختصر سی مدت اور چھوٹی سی عمر میں کیا پڑھا، کتنی تعلیم ہوئی اور کیا حاصل کیا، یہ بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ اپنی سوانح میں بیان فرمایا ہے:

”غرض یہ کہ ان مختلف علوم و فنون کی یہ سرسٹھ کتابیں جو سترہ فنون سے متعلق

ہیں، ساڑھے چھ برس کی مدت میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔“

لیجیے رسمی اور ظاہری تعلیم اور سبق و کتاب اور درس گاہ و مدرسہ کی پوری زندگی قریب قریب ختم ہو گئی۔ پڑھنے میں کتنی محنت کی۔ حصولِ علم کے لیے کیسے کیسے رات دن ایک کیے۔ کتابیں اور اسباق کس کس طرح از بر یاد کیے، اس کا مشق نمود از خورارے تو مذکورہ بالا سطور میں گذر رہی چکا ہے۔ لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھ لیجیے کہ طالبِ علمی اور ایسی سخت طالبِ علمی میں راحت، آرام، کھانے پینے، دلداری و حوصلہ افزائی کے کیا کیا سامان ہیسا تھے۔ طالبِ علمی کے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی عشرت اور بادشاہت ایک طالبِ علم کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ مسلسل تین مہینہ، چھ مہینہ یا بہت زیادہ ہوا تو نو دس ماہ کے بعد گھر جاتا ہے۔ وہ خوشی، مسرت اور دولت بتلانے کی چیز نہیں ہے۔ جن کو یہ بادشاہت نصیب ہوئی ہے وہی اس کا مزہ جان سکتے ہیں۔ دوسری مسرت امیرِ نعمت ایک طالبِ علم کے لیے فرصت کے اوقات میں اپنے ذرائع کے مطابق کھانے پینے ناشتے یا چائے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے جس سے تھوڑی دیر کے لیے غربت و مجوزی کا غم غلط ہوتا ہے اور طالبِ علم پڑھنے کے لیے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ حضرت کی طالبِ علمی میں ان خوشیوں اور مسرتوں کا کتنا گذر تھا، یہ بھی ملاحظہ ہو۔

”اگرچہ میرے اور بھائی سید احمد صاحب مرحوم کے مصارف دارالعلوم دیوبند تحمل کرتا تھا مگر والد صاحب مرحوم اخراجاتِ زائدہ کے لیے ایک ایک روپیہ ماہوار ضرور بھیجا کرتے تھے اسی طرح ایامِ تعطیل سالانہ میں دیوبند سے وطن تک آمد و رفت کا خرچ بھی تحمل کرنا پڑتا تھا اور اس وجہ سے دوسرے

سال مکان جانا ہوتا تھا ۱۱

ہر چند کہ ایک روپیہ ماہوار کی قیمت آج سے سو سال پہلے بہت ہوتی ہوگی۔ پچاس سال پہلے کی بات تو راقم الحروف کو یاد ہے۔ دیوبند میں اعلیٰ درجے کا دودھ ایک آنے کا سیر بھر ملتا تھا۔ چار آنے کی سیر بھر بہترین شکر ملتی تھی۔ ایک پیسے کی دو پڑیاں چائے کی ملتی تھیں جو کئی وقت کے لیے کافی ہوتی تھیں۔ فیض آباد تک ریل کا کرایہ ڈھائی روپیہ تھا۔ اس سے بھی پچاس سال پہلے کی قیمتیں اس سے آدھی تو یقیناً رہی ہوں گی۔ تاہم ایک طالب علم کی زندگی میں مختلف قسم کی ضروریات کے لیے ایک روپیہ کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ راقم الحروف نے کئی بار حضرت سے سنا کہ ”ہمارے میاں ہم کو ایک روپیہ ماہوار دیا کرتے تھے اور اسی میں ہم کو سارے خرچ پورے کرنے ہوتے تھے“ اور اس سارے خرچ میں دھوبی، نائی، موچی، درزی، کپڑے، جوتے، چارپائی، چٹائی، بستر، سحاف، گدے، چائے، ناشتہ، دوا، علاج، کبھی کبھی ایک آدھ پیسے کی کوئی مٹھائی کھٹائی، چراغ بتی، ایک دو برتن، ڈاکیہ غرض بھی کچھ شامل ہوگا۔ ڈاکیہ کا بھی ایک مستقل اور ماہوار خرچ تھا۔ راقم الحروف کے زمانے میں ہر ماہ منی آرڈر پر ایک آنہ ڈاکیہ کا مقرر تھا۔ حضرت کے وقت میں دو پیسے تو ضرور ہی رہا ہوگا۔ اس موقع پر ایک دل چسپ جملہ معترضہ نوکِ قلم پر آ رہا ہے۔ دیوبند سے واپسی کے عرصہ دراز کے بعد راقم ایک بار مادر علی کی زیارت کے لیے دیوبند حاضر ہوا تو ایک ضعیف العمر شخص نے راستے میں سلام و مصافحہ کیا اور فرمایا کہ آپ کا منی آرڈر ہے۔ پہلے تو میں چونک گیا۔ دوسرے ہی لمحہ پہچان گیا کہ مدرسے میں ہمارے حلقے کا ہر دل عزیز پرانا ڈاکیہ ہے۔ وہی لمحہ، وہی بان اور وہی آواز کانوں میں آئی تو خود بخود اس کے فوراً بعد والا جملہ جو ہمیشہ ناگفتہ رہا کرتا تھا سمجھ میں آ گیا۔ یہ ڈاکیہ اب رٹائر ہو کر تنگ دستی کی زندگی گزار رہا تھا اور دیوبند کے طلبائے قدیم جو آتے رہتے تھے ان سے حسنِ طلب کا یہ انوکھا طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ مختصر یہ کہ ایک روپیہ کی قیمت اس وقت زیادہ ہی رہی ہوگی مگر اخراجات اس سے بہت زیادہ تھے۔ اور یہ جو بچھلی سطور میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے مصارف دارالعلوم دیوبند تحمل کرتا تھا اس کا مطلب کوئی تعلیمی وظیفہ یا قابلیت کی بنیاد پر کوئی ماہوار امداد نہیں بلکہ صرف دو وقت کا کھانا ہے۔

اب سے کچھ عرصہ پہلے مدارس عربیہ کا قاعدہ تھا کہ ان کے طلباء، شہر کے اہل خیر کے یہاں کھانا کھاتے تھے اور وہ لوگ پورے اعزاز و تکریم کے ساتھ طلباء کی خدمت کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے فخر و مباہات گردانتے تھے۔ بیشتر اکابر و اسلاف اہل علم نے اسی طرح اپنی طالب علمی کے ایام بسر کیے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، حضرت مولانا اشرف علی صاحب، حضرت مولانا رشید احمد صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور دوسرے اہل علم کے لیے کم و بیش اسی قسم کے انتظامات تھے۔ حضرت کے لیے بھی مدرسہ دارالعلوم سے اسی طور پر کھانا مقرر تھا۔

”ہم یتیموں بھائیوں کا بھی اُس زمانے میں دارالعلوم کی طرف سے کھانا مقرر کیا گیا۔ چنانچہ میرا کھانا حضرت مولانا حافظ احمد صاحب خلیفہ الصّدق مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہا کے یہاں اور بڑے بھائی صاحب کا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور بھائی سید احمد صاحب دوسری جگہ مقرر ہوا جب تک میں دیوبند میں رہا تقریباً تمام مدت اقامت میں میرا کھانا حضرت حافظ صاحب موصوف ہی کے در دولت پر رہا۔ جزا ہم اللہ خیر الجزاء علیہ“

وہ زمانہ مدرسہ دیوبند کے ابتدائی دور کا تھا۔ نہ دارالاقامہ کا انتظام تھا نہ مطبخ تھا، نہ بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ چند گوشہ نشین اہل درد اور اہل اللہ جمع ہو گئے تھے اور مسجدوں اور گھروں پر اسباق و تعلیم شروع ہو گئی تھی۔ مدرسے کے طلباء کی پہلی جماعت جو فائز التحصیل ہوئی تھی، وہی اس وقت مدرسین اور مہتمم تھے، خود حضرت شیخ الہند جو مدرس اول اور شیخ الحدیث تھے، وہ مدرسہ دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم تھے۔ حضرت کی تحریر سے اس وقت کے مدرسے کا نقشہ سامنے آجاتا ہے:

”میں جب دارالعلوم میں داخل ہوا تو اہتمام جناب حاجی عابد حسین صاحب مرحوم کا تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد جناب منشی فضل حق صاحب مرحوم مہتمم مقرر کیے گئے اور حضرت حاجی صاحب مذکور الصدر بمنزلہ صدر مہتمم و رکن

مجلس شوریٰ ان کے نگہبان ہو گئے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مہتمم مقرر ہوئے۔ اور پھر بعض وقائع کی بنا پر غالباً ۱۳۱۲ھ میں مولانا الحافظ احمد صاحب خلف الصدق حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہما اللہ تعالیٰ مہتمم مقرر ہوئے اور تاحیات یعنی ۱۳۲۷ھ تک عہدہ اہتمام پر رونق افروز رہے۔ ان کے زمانہ اہتمام میں دارالعلوم نے بہت زیادہ ترقی کی۔

دیوبند کی طالب علمی کے حالات کافی تفصیل کے ساتھ سامنے آگئے۔ اس سے زیادہ تفصیل بتلانے والے تقریباً سبھی لوگ اب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ جلّ جلالہ ان اساتذہ کی بھی فہرست ملاحظہ فرمائیں جن سے حضرت نے پڑھا ہے اور کتاب فیض کیا ہے۔ افسوس ہے کہ ڈل اسکول کی تعلیم کے اساتذہ کا کوئی حال نہیں معلوم ہو سکا مگر قیاس ہے کہ اُس کا زیادہ تر حصہ آپ کے والد صاحب مرحوم نے پڑھایا ہوگا اس لیے کہ وہی اُس اسکول کے صدر مدرس تھے جہاں حضرت نے ڈل اسکول کی تعلیم حاصل کی تھی۔ فہرست ملاحظہ ہو۔

(۱) والد مرحوم مولوی شاہ حبیب اللہ صاحب
قاعدہ بغدادی۔ قرآن پاک۔ اُردو۔ فارسی۔
حمد بازی۔ آمد نامہ۔ دستور الصبیان۔ گلتاں۔
اور والدہ ماجدہ

حساب۔ جغرافیہ، تاریخ، الجبرا وغیرہ
دستور المبتدی۔ زراوی۔ زنجانی۔ مراح الاصلاح۔
قال اقول۔ مرقات۔ تہذیب۔ شرح تہذیب۔
قطبی تصدیقات۔ قطبی۔ مفید الطالبین۔
نفعیہ الیمن۔ مطول۔ ہدایہ اخیرین۔ ترمذی
شریف۔ بخاری شریف۔ ابوداؤد۔ تفسیر
بیضاوی۔ تھیۃ الفکر۔ شرح عقائد نسفی۔
حاشیہ خیالی، موطا امام مالک۔ موطا امام محمد

(۲) حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن
صاحب قدس الشہرہ

(۳) مولانا ذوالفقار علی صاحبؒ (دالراجہ)
- شیخ الہند

مسلم شریف - نسائی شریف - ابن ماجہ - سبعة مجلہ
حمد اللہ - صدر - شمس بازغہ - توضیح تلویح -
تصریح -

(۴) مولانا عبدالعلی صاحبؒ مدرس دوم
دارالعلوم

(۵) مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

پنج گنج - صرف میر - نحو میر - مختصر معانی -
مسلم العلوم ملاحسن - جلالین شریف -
ہدایہ اولین -

سہانپوری مدرس دارالعلوم دیوبند
(۶) مولانا حکیم محمد حسن صاحب مرحوم
مدرس دارالعلوم دیوبند

شرح جامی بحث فعلی - کافیہ - ہدایۃ النحو -
مینۃ المصلیٰ - کنز الدقائق - شرح دستاویز -
شرح مائتہ عامل - اصول الناشی -

(۷) مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب
مرحوم مدرس دارالعلوم

نور الانوار - حسامی - قاضی مبارک شہناز ترمذی -
میرزا ہد رسالہ - میرزا ہد - ملا جلال -
خلاصۃ الحساب - رشیدیہ - سراجی -

(۸) مولانا غلام رسول صاحب بغوی مدرس دارالعلوم
(۹) مولانا منبعت علی صاحب

شرح ملا جامی بحث اسم -
مقامات بحریری - دیوان مبتنی -
میزان الصرف - ایسا نحو جی -

(۱۰) مولانا محافظ احمد صاحب مرحوم

(۱۱) مولانا حبیب الرحمن صاحب

(۱۲) بڑے بھائی صاحب مرحوم

اس فہرست میں دو اسماء گرامی اور ہیں جن سے حضرت نے کتاب علم و انوار و
برکات حاصل کیے ہیں مگر ان کا تعلق حضرت کے قیام مدنیہ طیبہ سے ہے اور اسی باب میں
ان کا تذکرہ مناسب رہے گا۔ آخر کار طالب علمی کا مختصر سا زمانہ نہایت محنت اور انتہک
جدوجہد کے ساتھ گزار کر اعلیٰ درجہ کی کامیابیاں حاصل کر کے اور اساتذہ خصوصاً

حضرت شیخ الہندؒ کی دعاؤں سے الامال ہو کر اٹھارہ آئیس برس کا نوجوان حسین احمد سرکار دو عالمؒ کے قدموں میں بیٹھ کر درسِ قرآن و حدیث دینے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ عظیم ترین اتاذ اپنے عزیز ترین شاگرد کو وداع کرنے کے لیے کم و بیش دو میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے اسٹیشن تشریف لائے اور رخصت کرتے ہوئے آخری لمحات میں قرآن، حدیث اور دین و شریعت کی تبلیغ، تدریس اور نشر و اشاعت میں زندگی وقف کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اتاذ کا یہ شفقت آمیز برتاؤ شاگرد کے لیے بڑے شرف، اعزاز اور فخر و مباہات کی بات تھی۔

”ادا خورشعبان ۱۳۱۶ھ میں جبکہ ہم یتیموں بھائی دیوبند سے آخری طور پر روانہ ہوئے تو نجلہ رخصت کرنے والوں کے خود حضرت شیخ الہندؒ قدس اللہ سرہ العزیز بھی ساتھ ساتھ اسٹیشن دیوبند تک پیدل تشریف لائے تھے۔ راستے میں پُر زور طریقے سے ہدایت فرمائی کہ پڑھنا نہ سہرگز نہ چھوڑنا، چاہے ایک ہی دو طالب علم ہوں۔ اس لیے تعلیمی مشغلہ کا خیال بہت زیادہ ہو گیا تھا۔“

یہاں پر دیوبند کی طالب علمی کا دور ختم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ سچیت طالب علم کے دیوبند کا قیام بھی منقطع ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت کی طالب علمی کے دو مختصر دور اور بھی ہیں جو آئندہ صفحات میں آ رہے ہیں۔

شادی خانہ آبادی

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی چار شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی ۱۳۱۲ھ میں ہوئی، جب حضرت کی عمر کل سولہ برس کی تھی اور دیوبند کی طالب علمی کو چار سال گذر چکے تھے تاہم شادی کے وقت آپ دیوبند ہی میں بسلسلہ حصولِ تعلیم مقیم تھے فیض آباد اور اعظم گڑھ کی عین سرحد پر شاہراہ عام سے ایک یا دو فرلانگ کی دوری پر شرفا کا ایک گاؤں قتال پور

ہے۔ وہاں پر شیخ کفایت اللہ صاحب (رحمہم) صاحب ثروت و مقدرت بزرگ تھے۔ اودھ میں بلرام پور ایک ریاست تھی۔ اس زمانے کی ریاستیں ایک چھوٹا سا ملک شمار ہوتی تھیں۔ ان کے سربراہوں کو بڑی رعایتیں، اختیارات اور اقتدار حاصل ہوتا تھا۔ سپاہی پیادے، کارندے، چوکیدار، رکابدار، منصرم وغیرہ کی ایک فوج ریاستوں میں موجود رہتی تھی اور لاتعداد ہتھیار اور اسلحہ رکھنے کی آزادی ہوتی تھی۔ ان میں بلرام پور بھی ایک بڑی ریاست تھی۔ اس کے گدھی نشین راجہ کہلاتے تھے اور ان کو سات خون معاف تھے۔ شیخ صاحب موصوف اسی ریاست میں دیوان اور معتمد کے عہدے پر متمکن تھے اور ان کا زیادہ تر قیام اودھ کے دارالسلطنت لکھنؤ میں بلرام پور ہاؤس میں رہتا تھا۔ بہن اور بہنوئی کے انتقال کے بعد شیخ صاحب نے اپنی بھانجی کو گود لے لیا تھا اور بڑے لاڈ و پیار سے بچھی کی پرورش کی تھی۔ انہی صاحبزادی صاحبہ سے حضرت کی پہلی شادی ہوئی تھی اور برات بڑے طہنراق کے ساتھ ٹانڈے سے قال پور گئی تھی۔

لکھنؤ میں اس وقت جھوئی ٹولہ کے حکیم عبدالعزیز صاحب مرحوم کا بڑا نام اور شہرہ تھا اور آپ کا مطب مزج عوام و خواص تھا۔ شیخ صاحب موصوف نے اپنے داماد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم صاحب کی خدمت میں رکھ کر طب پڑھانی چاہی۔ مگر حضرت کے والد ماجد نے یہ تجویز منظور نہ کی اور فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں حسین احمد کو گھسوٹے پر سوار کرنے کے بعد گدھے پر سوار کراؤں۔ اس کو وقت کے مشہور اکابر علما کرام کی خدمت میں رکھ کر علوم دینیہ کی حدیث کی قرآن کی فقہ کی اور علم ادب کی تعلیم دے دی گئی ہے، اس سے بڑھ کر کون سی تعلیم ہو سکتی ہے۔ حضرت کے سفر مدینہ کے وقت شیخ صاحب نے بچھی کے لے جانے پر کچھ اعتراض کیا۔ مگر حضرت کے والد ماجد کے فیصلے کے آگے کسی کی پیش نہ گئی۔ ان اہلیہ کی وفات ۱۳۲۶ھ میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ انھوں نے ایک بچھی زہرام حومہ جو ۱۳۲۳ھ میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئی تھی، چھوڑی۔ وہ والدہ کے انتقال کے بعد چودہ برس کی ہو کر ۱۳۳۴ھ میں دمشق میں اللہ کو پساری ہوئی۔ ان سے ایک بچھی پہلے بھی پیدا ہو کر مدینہ طیبہ میں صغریٰ میں ذخیرہ آخرت ہو چکی تھی۔ جعلہما اللہ ذخراً واجراً و رحمہم اللہ

بیعت و ارادت

دیوبند سے تعلیمی فراغت کے بعد حضرت کے والد ماجد کا ارشاد ہوا کہ کسی مشید کامل سے بیعت و ارادت کا تعلق ہو جائے۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ تینوں بڑے صاحبزادے حضرت گنج مراد آبادی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے زبانی بھی اپنی خواہش کا اظہار فرماتے رہے اور تعطیلات میں دیوبند سے واپسی پر تینوں صاحبان کو گنج مراد آباد کی حاضری سے حکماً مشرف کراتے رہے۔ بڑے صاحبزادے مولینا صدیق احمد صاحب نے جب حضرت گنگوہی سے بیعت ہونے کی اجازت چاہی تو والد ماجد نے اپنے ہی پیر و مرشد سے بیعت ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ باپ بیٹے میں عرصہ تک اس بارے میں سوال و جواب اور خط و کتابت ہوتی رہی۔ آخر کار اجازت دے دی اور مولینا صدیق احمد صاحب حضرت گنگوہی سے بیعت ہو گئے۔ والد ماجد کے علاوہ حضرت شیخ الہند نے بھی مولینا صدیق احمد صاحب سے ارشاد فرمایا کہ اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو حضرت گنگوہی کی خدمت میں لے جاؤ اور بیعت کرادو اب تعلیم سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بدعتی پیر کے معتقد ہو کر اُس سے وابستہ ہو جائیں۔ حضرت رحمۃ اللہ پہلے ہی ذہنی، قلبی، روحانی اور علمی طور پر حضرت شیخ الہند سے وابستہ ہو چکے تھے۔ ان کے علاوہ نہ کسی کے لیے دل میں جگہ تھی اور نہ کسی سے تعلق منظور تھا۔ بڑے بھائی نے جب حضرت گنگوہی سے بیعت ہونے کے لیے فرمایا تو برجستہ جواب دیا کہ ”میں تو حضرت شیخ الہند ہی سے بیعت ہوں گا“ اس لیے کہ علم، روحانیت، اخلاق عالیہ، شرافت، مروت، عزم و استقلال، اخلاص و لہیت، بے نفسی و بے غرضی، جرات و حمیت، عزیمت و شہامت میں ان کا کوئی ثانی نہیں نظر آتا۔

”واقعہ یہ تھا کہ اگرچہ ایام طالب علمی میں بارہا حاضری کی نوبت آچکی تھی

مگر حسن عقیدت اور محبت کا تعلق حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہی سے تھا۔
 بچپن سے ان کی خدمت میں رہنا ہوا تھا اور ابتدائی کتابوں سے لے کر
 آخری کتابوں تک کا اکثر حصہ انہی سے پڑھا رہا تھا۔ مضامین علیہ اور
 اخلاق عالیہ اور اعمالِ صالحہ کے مشاہدات حاصل ہوئے تھے۔ حضرت
 ایسے الطاف و کرم فرماتے تھے جو کہ اولاد کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے
 پوری وابستگی انہی سے تھی۔ حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ کو بہت بڑا
 عالم ضرور جانتا تھا مگر قلبی تعلق ایسا نہ تھا اور نہ طریقت کا کامل
 سمجھتا تھا۔

مگر بڑے بھائی نے فرمایا کہ حضرت شیخ الہندؒ اپنے تلامذہ، متعلقین، معتقدین اور
 مقربین کی ہر طرح تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ مس خام کو کندن اور ذرے کو آفتاب بنادیتے
 ہیں۔ نظر فیض اثر سے خاک کو کیما بنادیتے ہیں۔ یہ سب کچھ بے مگر مد نہیں کرتے۔ میں
 نے خود اپنے لیے بہت کوشش کی مگر قبول نہیں فرمایا اور حضرت گنگوہیؒ کے دامن سے
 وابستہ ہونے کا حکم دیا۔ "تم دونوں کے لیے بھی ان کا یہی ارشاد ہے۔"

حضرت شیخ الہندؒ کے انکار کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی اور پھر حکم صادر ہوا
 تو بالکل ہی مجبوری ہو گئی اور "بادلِ ناخواستہ ہم دونوں وہاں (گنگوہ) حاضر ہوئے"
 مولانا حبیب الرحمن صاحب دیوبندی (مرحوم) نے یہ کہہ کر پیش کیا کہ مولوی صدیق احمد
 صاحب نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں مولوی سید احمد اور مولوی حسین احمد کو بیعت
 ہونے کے لیے بھیجا ہے، وہ حاضر ہیں۔ حضرت گنگوہیؒ آسانی سے کسی کو داخلِ سلسلہ
 نہیں کرتے تھے۔ خاص طور پر علماء اور فضلاء کو بیعت کرنے میں بہت پس و پیش فرماتے
 تھے کہ طلبِ صادق اور مناسبتِ قلبی کے بغیر بیعت و ارادت سے کماحقہ فیض نہیں
 پہنچتا۔ مگر ان دونوں حضرات کو بلا تامل بخندہ پریشانی بیعت کر لیا۔ یہ تفصیلات اس
 واقعہ کی تھیں کہ بیعت کے کیا دواعی تھے۔ کیا محرکات تھے۔ حضرت کا قلبی رجحان کیا تھا۔

ذہنی طور پر کس شیخ کے دامن سے وابستہ تھے، کس کے فیوض و برکات سے مالا مال تھے اور کس سے مرید ہوئے۔

اس کے بعد یہ حقیقت قابل ملاحظہ ہے کہ ظاہری طور پر حضرت رحمۃ اللہ کی روحانی اور باطنی تربیت حضرت گنگوہیؒ کی بارگاہ میں کتنے دن تک اور کس حد تک ہوئی؟ حضرت نے اپنے اس عالی مرتبت مستر شہ کو تعلیم و تربیت روحانی کے لیے اپنے عالی مرتبت شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ کے سپرد فرمایا اور خود کچھ تعلیم و تلقین نہیں فرمائی۔

”حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمایا مگر کچھ تلقین نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے بیعت تو کر لیا، اب تم مکہ معظمہ جا رہے ہو وہاں حضرت (حضرت قطب عالم حاجی امداد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز) موجود ہیں ان سے عرض کرنا وہ ذکر تلقین فرمادیں گے۔“

یہ ظاہری تعلیم و تلقین کی بات تھی۔ اس کے ساتھ ہی شیوخ کامل کی اصل تربیت و توجہات عالیہ باطنیہ کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ جن کے اثرات رشتہ عقیدت و ارادت استوار ہوتے ہی طالبین حق پر ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت اگرچہ بیعت ہوئے ہی گنگوہ سے واپس آگئے مگر بیعت اور توجہات شیخ کے آثار پہلے ہی دن سے نمایاں ہونے شروع ہو گئے اور ساتھ ہی رویائے صالحہ مبشرہ کی نعمت ملی۔ آپ نے یہ خواب اپنے شیخ کو لکھے تو جواب آیا کہ انشاء اللہ منزل مقصود کو پہنچو گے۔ حضرت نے تحریر فرمایا ہے ”اگرچہ بیعت بادلِ ناخواستہ ہوئی تھی مگر اس کے آثارِ مبارکہ میں نے اپنے اندر اسی دن سے محسوس کئے۔“ اس کے فوراً بعد حضرت اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سفر کا مفصل حال پیچھے گزر چکا ہے۔

مدینہ طیبہ کا قیام۔ درس و تدریس اور اشغالِ روحانیہ

حجاز پہنچے تو حضرت بیس برس کے ہو گئے تھے۔ اس عمر میں آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں حاضری تھی۔ حضرت گنگوہی نے بیعت تو فرمایا تھا مگر تربیتِ روحانیہ اور تزکیہ و تعلیم کے لیے اپنے مرشد حضرت حاجی صاحب کے سپرد فرمایا تھا۔ حضرت جب حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے غیر معمولی توجہ اور عنایت کا معاملہ فرمایا، اشغال و اعمال کی تعلیم دی اور حکم دیا کہ روزانہ میرے پاس حاضر ہو کر ذکر و شغل اور ادراد و وظائف میں مشغولیت اختیار کرو۔ حضرت جتنے دن مکہ مکرمہ میں رہے حاجی صاحب کے دربار میں حاضری اور ان کے فیوض و برکات سے مستفید ہوتے رہے اور آخر میں جب مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے تو مرشد کامل کے فیض سے مالا مال ہو چکے تھے۔ حضرت حاجی صاحب کی زندگی کے یہ آخری ایام تھے۔ اہل اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنی نسبتِ باطنی اور دولتِ معرفت باصلاحیت طالبینِ حق کو منتقل کرنے میں نہ صرف یہ کہ تامل نہیں کرتے بلکہ ایک حد تک اہل دل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حضرت شیخ نے رخصتی کی اجازت چاہی تو حاجی صاحب نے باجسیمِ نم اجازت دی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اور دعائیں خاص الحاح و زاری اس نکتہ پر فرمائی کہ بارِ آہا ان مسافروں کو امتحان کے ہر ابتلاء سے محفوظ فرمانا۔ دعا کے بعد ضعف، کمزوری اور بیماری کے باوجود اٹھ کر کھڑے ہوئے اور سینے سے لگا کر سر پر دستِ شفقت رکھا اور فرمایا کہ جاؤ تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ حضرات ادب و احترام سے خاموش رہے تو فرمایا کہ کہو کہ ہم نے قبول کیا۔ یہ واقعہ اس حیثیت سے اہم ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ بیعت حضرت گنگوہی سے ہوئے اور تعلیم و تربیت حضرت حاجی صاحب کے دربار میں شروع ہوئی اور چند ہی دنوں کے بعد اس مقام پر فائز ہو گئے جس کے بعد ایک مسترشد خود اصلاح دارشاد کے منصب پر

فائز ہو جاتا ہے۔ یہاں سے رخصت ہونے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں حضرت کو اجازت بیعت و خلافت ہو گئی تھی۔ اس کی تفصیل اگلے صفحات میں آرہی ہے۔ حضرت حاجی صاحب سے ملاقات اور ان کی توجہات کا واقعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں۔

”ہم دونوں بھائی (سید احمد اور راقم الحروف) نے عرض کیا کہ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ہم کو بیعت تو کر لیا تھا مگر یہ فرمایا تھا کہ تلقین ذکر حضرت سے حاصل کر لینا۔ تو آپ نے پاس انفاس کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ روز صبح کو آکر یہاں بیٹھا کرو اور اس ذکر کو کرتے رہو۔“

حضرت ذیقعدہ ۱۳۱۶ھ کی ۲۵ تاریخ کو مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تھے۔ کم و بیش ایک ہفتہ حج و عمرہ کی مشغولیت، سفر اور انتظامات میں ضرور لگ گیا ہوگا۔ حج سے فارغ ہو کر ذی الحجہ کی ۲۵ کو مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس طرح حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں کل تین ہفتوں کی حاضر باشی اور اشغالِ روحانیہ کا موقع مل سکا۔ وہ بھی اس طرح کہ حضرت نے ایک دن یا ایک لمحہ بھی اکتسابِ فیض سے غفلت نہیں برتی۔ طوافِ قدم کے فوراً بعد حاضر ہوئے اور روانگی سے چند گھنٹے پہلے رخصتی سلام عرض کیا۔ حضرت حاجی صاحب اس وقت بہت ضعیف ہو گئے تھے اور مریدین و منتسبین سے صرف صبح کو ملاقات فرماتے تھے مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے تو خاص طور پر ظہر کے بعد شرف باریابی بخشا ”جب قافلہ حجاج اخیر عشرہ ذی الحجہ میں مدینہ منورہ کو روانہ ہونے لگا تو خلافتِ معمول بعد از ظہر ہم تینوں کو حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت نے بہت شفقت فرمائی۔ سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ہم نے سکوت کیا تو فرمایا کہ کہو ہم نے قبول کیا۔ ہم نے حسب تلقین عمل کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ نے دعا فرمائی۔ ہم نے رخصتی مصافحہ کیا۔“

تعلیم سے فراغت اور بیعت کی فضیلت کے بعد حضرت کا یہ پہلا اشغالِ روحانی تھا جس کی ابتدا عین عالم نوجوانی میں حضرت حاجی صاحب کی تعلیم و تلقین سے ہوئی۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۱۶ھ مطابق سن ۱۹۰۶ء میں محرم کی ابتدائی تاریخوں میں مدینہ طیبہ باریاب ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش انیس یا بیس برس کی تھی۔ اگرچہ آپ نے مدینہ طیبہ میں قیام فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا اور سارے انتظاماتِ معاش و معیشت اور تعظیم و تعلم کے مکمل ہو گئے تھے مگر ہجرت کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ والدین کی خدمت اور معیشت کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور مدینہ طیبہ کے فیوض و برکات سے بہرہ ور ہونے کے لیے تا بہ حد امکان وہاں کے قیام کا ارادہ تھا:

”بہر حال ہم میں سے کسی نے بھی سوائے حضرت والد صاحب مرحوم کے

ہجرت کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ صرف قیام کا ارادہ تھا۔ مگر والد صاحب مرحوم

کو اکیلا چھوڑ کر آنا نہ والدہ ماجدہ مرحومہ کو گوارا ہوا اور نہ اور کسی کو۔ سب

نے یک زبان ہو کر کہا کہ جب تک آپ زندہ ہیں ہم یہاں ہی رہیں گے۔

مگر رہنے کے ساتھ سب سے بڑا سوال معاش اور گذر اوقات کا تھا۔ ہندوستان

میں رہنے والے بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر عربی تعلیم حاصل کر لی جائے تو

عرب ممالک میں رہنا بسا اور اعلیٰ مناصب تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ اس قسم

کی امیدیں پوری حد تک پوری نہیں ہوتیں۔ حضرت کے والد ماجد مرحوم کو کبھی اس قسم کی

توقعات رہی ہوں تو بعینہ نہیں ہے۔ مگر بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ مسبب الاسباب پر

بھروسہ کر کے معاش کے اسباب خود ہی تلاش کرنے ہوں گے۔“ (والد صاحب کا)

یہ بھی خیال تھا کہ چونکہ میں نے اولاد کو عربی پڑھائی ہے اس لیے وہاں پر ان کی ملازمتیں

بھی آسانی ہو جائیں گی مگر ملازمتوں کا سلسلہ تو خیالی خام ابتداء ہی میں ٹکرائے۔ ان

حالات میں حضرت نے اپنی معاشی زندگی کی ابتدا تجارت جیسے شریف اور سنت نبوی

کے مطابق پیشے سے کی۔ اس سلسلے میں سائے بھائیوں کو حسب استطاعت و صلاحیت

باری باری دوکان پر بیٹھنا اور دوسرے کام کرنا پڑتے تھے۔ حضرت کا کام صرف

اس قدر تھا کہ اپنی باری یا ڈیوٹی کے اوقات میں دوکان پر بیٹھیں۔ کاروباری انتظامات

اور مال کی فراہمی وغیرہ سے آپ کو زیادہ تعلق نہیں تھا۔ ”تھوک مال کی خرید بڑے بھائی مولینا صدیق احمد صاحب مرحوم کرتے تھے۔ ان کو اس کا شوق بھی تھا اور ہارت بھی جلد حاصل ہو گئی تھی۔ دوکان پر میں اور بھائی سید احمد صاحب مرحوم باری باری بیٹھے تھے، تجارت اور دوکانیں تو چلتے ہی چلتے چلتی ہیں۔ برسوں دن درات ایک کرنے پڑتے ہیں۔ عرصہ دراز تک حوصلہ اور بے جگری کے ساتھ صبر و انتظار کے امتحانات دینے پڑتے ہیں تب کہیں جا کے کامیابی اور سرخ روئی کی شکل نظر آتی ہے حضرت کا خاندان بڑا تھا۔ اخراجات بھی کثیر تھے اس لیے کوئی اضافی آمدنی بھی ضروری تھی۔ صرف تجارت کی ابتدائی بک خرامی پر گذر اوقات مشکل تھی چنانچہ آپ نے مدینہ طیبہ کے کتب خانوں میں نادر کتابوں کے نقل کرنے کا مشغلہ بھی شروع کیا۔ حضرت کا خط نہایت پاکیزہ تھا۔ اردو بھی بہت خوبصورت لکھتے تھے اور عربی تحریر بھی بہت دیدہ زیب ہوتی تھی۔ لکھتے تو نب اور فادٹن پین ہی سے تھے مگر ایک ایک حرف چن چن کر ایسا ٹانک دیتے تھے جیسے کسی خطاط نے کلمک سے نسخ اور نستعلیق لکھی ہو۔ مدینہ طیبہ کے دو کتب خانے مکتبہ شیخ الاسلام معارف حکمت اور مکتبہ محمودیہ بڑے قدیم اور مکمل کتب خانے ابھی کچھ دنوں پہلے تک قائم تھے۔ کتابوں کی اہمیت اور افادیت کی بنا پر بہت سے مقامی اور ممالک اسلامیہ کے غیر مقامی لوگ بغض کتابیں اجرت پر نقل کرواتے تھے۔ چنانچہ کچھ دنوں تک یہ پاکیزہ اور علمی مشغلہ بھی حضرت کے لیے منجملہ اسباب ظاہری شمار ہوا۔

”تھوڑے عرصے میں تجربے سے معلوم ہوا کہ اس طریقہ (تجارت) سے اگرچہ آمدنی ہے مگر گراہیہ دوکان اور دیگر مصارف منہا کرنے کے بعد آمدنی اتنی نہیں ہو سکتی جو کہ روزمرہ کے اخراجات کو کافی ہو سکے۔ اس لیے میں نے سلسلہ کتابت علی الاجرت شروع کر دیا۔“

درباری سے اکتسابِ علومِ نبویہ

تجارت اور کتابت تو وسائل اور اسبابِ معاش کے فریضہ کے طور پر اختیار کیے تھے

لیکن ابھی علم کی پیاس باقی تھی بلکہ کتاب و حکمت کے چشمہ آب حیات پر پہنچ کر تشنگی اور بھی تیز ہو گئی تھی اس لیے روحانی اشغال و ریاضت و عبادت اور درس و تدریس کے ساتھ مزید تعلیم حاصل کرنے کا مشغلہ بھی جاری رکھا۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں ایک مشہور اتاڈ ادب مولانا عبدالجلیل برادہ صاحب موجود تھے۔ حضرت نے ان سے ادب عربی کی کچھ کتابیں پڑھنی شروع کیں۔ اسباب معاش کی مصروفیتوں، عبادت و ریاضت میں انہماک اور درس و تدریس کے مشاغل کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کے لیے بھی وقت نکال لینا معمولی سطح کے انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔

”باقی اوقات میں مشاغل سلوک اور درس و تدریس کا سلسلہ میں نے جاری کر لیا تھا۔ نیز چونکہ ادبیات میں بعض کتابیں باقی رہ گئی تھیں اس لیے مدینہ منورہ کے مشہور اور معرادیب الشیخ آفندی عبدالجلیل برادہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شام کو کچھ ادب کی کتابیں ہم تینوں بھائی بڑھتے تھے۔“

مدینہ طیبہ میں حضرت کی طالب علمی کا یہ ایک ظاہری رخ تھا۔ دوسرا رخ حضور اکرم صلی اللہ وسلم سے باطنی اور روحانی اکتساب علم کا تھا جس میں حضرت نے ذات اقدس صلی اللہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی۔ یہ امر علمائے اہل سنت و الجماعت کے نزدیک مسلم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ وسلم اپنے جسد مبارک کے ساتھ بقید حیات اور برقرار ہیں۔ بہت سے علمائے حق نے اس امر کی تائید بھی کی ہے کہ حق تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب نفوسِ قدسیہ کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عالم بیداری میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوں۔ بہر حال اتنی بات تو مسلم ہے کہ ایک اُمّتی کے لیے ذات اقدس سے اکتساب فیضانِ ہر وقت ممکن ہے۔ دربارِ نبوی میں حاضری کے وقت ایک عامی، عاصی، جاہل اور غافل مسلمان بھی غیر معمولی فیوض و برکات سے مشرف ہوتا ہے جیسے جیسے وہ دیارِ نبوی کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ قلب و نظر اور روئیں روئیں میں عشقِ محمدی کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ لمحہ بہ لمحہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرورِ کائنات کے حضور میں

حاضر ہو رہا ہے اور رعب و ادب کے مقام پر موجود ہے۔ ادویاء اللہ اور صلحا و اتقیا کی ایسے مبارک موقع پر کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اس کا علم و اندازہ اصحابِ باطن ہی کر سکتے ہیں۔ ایک پیش پا افتادہ ظلم و جہول کے لیے یہ تذکرہ کیسے ممکن ہے۔

آنکھوںِ الٰہی جیون کا تماشہ دیکھئے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

حضرت رحمۃ اللہ کو بھی اس مقام پر اور ان کیفیات و جذبات کے درمیان سرور کائنات صلی اللہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ شہنشاہِ کونین نے فرمایا جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے فقیر نے جھولی پھیلا دی کہ علومِ الہیہ اور برکاتِ نبویہ کا طلبگار ہوں۔ قرآن و سنت کا علم چاہتا ہوں۔ رحمۃ للعالمین نے فرمایا کہ تجھے ہم نے قرآن و سنت کے علم سے مالا مال کیا۔

”مکہ معظمہ سے روانہ ہونے کے بعد جو تجھے روزِ جب قضیہ سے رابغ کو قافلہ

جا رہا تھا رات میں اونٹ پر سوتے ہوئے خواب میں دیکھا کہ جناب

سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ میں قدموں میں گر گیا

آپ نے میرا سر اٹھا کر فرمایا کیا مانگتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو کتا ہیں

پڑھ چکا ہوں وہ یاد ہو جائیں اور جو نہیں پڑھی ہیں ان کو سمجھنے کی

قوت پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ تجھ کو دیا۔

اس واقعہ اور خواب سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضرت نے ایک طرف تو

اپنی زندگی ابتدائے شباب اور زمانہ طالبِ علمی ہی سے اسلام اور علومِ اسلامیہ کے لیے

وقف کر دی تھی۔ ان کو زندگی میں ایسا موقع نصیب ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ وسلم نے

زندگی کی سب سے بڑی خواہش اس یقین دہانی کے ساتھ دریافت فرمائی کہ جو مانگو گے ملے گا۔

اور انہوں نے اپنی سب سے بڑی آرزو حصولِ علومِ الہیہ بتلائی۔ دوسری بات یہ واضح ہوئی

کہ حضرت نے طلبِ علم کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ وسلم سے براہِ راست فیض حاصل

کیا۔ یہ واقعہ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ اس کے بعد مسلسل اسی قسم کے انعامات دورانِ

قیامِ مدینہ طیبہ میں پیش آتے رہے۔ مگر تاریخی ثبوت کے لیے دو چار ہی پیش کیے جاسکتے

ہیں۔ جن کا ذکر حضرت نے خود فرمایا ہے :

”دیکھا کہ میں باب السلام سے (مسجد نبوی کا سب سے بڑا دروازہ جو مکہ بجانب غرب واقع ہے) مسجد میں داخل ہوا اور حجرہ مطہرہ کی طرف جا رہا ہوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر ایک کرسی پر رونق افروز ہیں۔ قبلہ کی طرف آپ کا چہرہ مبارک ہے۔ میں داہنی طرف سے حاضر ہوا۔ (باب السلام مسجد نبوی میں قبلہ رو ہونے والے کے لیے داہنی جانب پڑتا ہے) جب میں بالکل قریب پہنچا تو آپ نے مجھ کو چار چیزیں عطا فرمائیں ان میں سے ایک علم ہے، باقی تین اشیا کو نہیں جانتا کہ کیا تھیں۔“

اس موقع پر بھی یہ حقائق واضح طور پر سامنے آتے ہیں کہ دنیا میں علوم الہیہ و علوم نبویہ کے علاوہ کسی طرف حضرت کو بھی توجہ اور رغبت نہیں رہی اور یہ علوم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ وسلم سے براہ راست حاصل ہوئے۔

یہ دو واقعات خواب کے تھے۔ مگر اسی طرح کے ایسے واقعات بھی ہیں جن میں حضرت نے دربار نبوی میں اس طرح زانوئے ادب تہہ کیے ہیں اور استفادہ کیا ہے جیسے ایک شاگرد اپنے اساتذ کی خدمت میں طلب علم کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے :

”ایک مرتبہ ہدایہ اخیر میں میں ایک مسئلہ ایسا آگیا کہ بہت غور و فکر اور حوشی شروح کے مطالعہ سے بھی حل نہیں ہو سکا۔ سخت عاجز ہو کر حجرہ مطہرہ نبویہ پر حاضر ہوا اور بعد سلام و درود (مسئلہ مطلوبہ) عرض کیا، تھوڑی ہی دیر میں سمجھ میں آگیا۔“

حضرت کو حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین، علوم اور طریقہ استدلال سے خاص عقیدت اور نسبت تھی اور کبھی کبھی طالبین علم کو ان کے مطالعہ کی تاکید فرماتے تھے مگر حضرت مولانا قاسم صاحب کی کتابیں فہم عام سے کسی قدر بالاتر ہیں اور مضامین دقیق ہیں اس لیے بعض اوقات مطالعے میں دقت پیش آتی ہے۔ حضرت نے ان علوم کا

مذکورہ فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ اثنائے مطالعہ بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں؛
 ”ایک روز بہت غلبۂ شوق ہوا اور ان علوم کے حاصل ہونے کی رغبت اس قدر
 زیادہ ہوئی کہ مواجہہ شریفہ نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ
 میں حاضر ہو کر بہت رویا۔ اور ان علوم کے حاصل ہونے کی استدعا اور درخواست
 کرتا رہا۔ اور اپنی بے بضاعتی اور جہالت کا شکوہ بھی کیا۔ دیر تک اسی حالتِ گریہ
 میں رہ کر واپس ہوا تو چند قدم ہی چلا تھا کہ یکایک قلب میں واقع ہوا۔
 لا تقنطون من رحمة اللہ علیہ

مذکورہ بالا حالات و واقعات سے حضرت کی سواخ کا ایک تابناک پہلو یہ بھی سامنے
 آتا ہے کہ آپ کے اساتذہ کی فہرست میں حضور اکرم صلی اللہ وسلم کا نام نامی بھی باعثِ شرف و
 افتخار ہے اور اس کے ساتھ مدینہ طیبہ کے ایک انسان مولانا عبدالجلیل صاحب برادرہ کا
 نام بھی شامل ہے اور زمانہ تعلیم دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے ساتھ ختم نہیں ہوا تھا
 بلکہ اس کا سلسلہ مدینہ طیبہ تک ممتد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی ذہن
 میں رکھیں کہ طلب علم کا سلسلہ یہاں بھی انتہا کو نہیں پہنچتا ہے۔ بلکہ اصل طالبِ علمی ماٹا
 کے قید خانہ میں ختم ہوئی ہے جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں پیش کی جا رہی ہے۔

اشغال روحانیہ اور سلوک و تصوف

حضرت نے ذکر و شغل اور روحانی ریاضت کی ابتداء میں الطائفہ حضرت
 قطب العالم حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ العزیز کی نگرانی اور تعلیمات کے
 مطابق مکہ مکرمہ میں آخر ذی قعدہ ۱۳۱۶ھ میں کی لیکن سفر حج اور روانگی مدینہ طیبہ
 کی وجہ سے حاجی صاحب کی جسمانی صحبت کم و بیش ایک ماہ کے اندر ہی ختم ہو گئی۔
 مدینہ طیبہ پہنچ کر معاشی اور علمی مشاغل کی بنا پر ذکر و شغل کا سلسلہ تھوڑے عرصہ کے لیے
 منقطع رہا اور اسی دوران حاجی صاحب کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے سلوک

تصوف کے اشغال حضرت حاجی صاحب کے تلقین کردہ طریقوں سے دوبارہ شروع کیے۔ اب آپ کے سامنے دو ہی مشاغل تھے۔ دن کے بیش تر حصے میں حرم پاک میں تعلیم دیتے تھے اور باقی اوقات ذکر و شغل میں صرف فرماتے تھے۔ سلوک و تصوف میں بظاہر تین مشاغل حضرت نے اختیار فرمائے تھے۔ پس انفاس کی مشق کرتے تھے۔ ذکر باجمہر کرتے تھے اور مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ اوراد و وظائف ان کے علاوہ تھے۔ جن کی تلقین مشائخ کبار لازمی طور پر کیا کرتے ہیں۔ ان اشغال اور مجاہدات کے دوران بڑی بڑی کیفیات اور برکات قلب پر وارد ہوتی رہیں اور ساتھ ہی رویاے صالحہ کے ذریعے قبولیت اور فضیلت کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ خوابوں کا تذکرہ تو کسی آئندہ موقع پر آئے گا مگر بحالت بیداری جو کیفیات پیش آئیں ان میں سے ایک واقعہ حضرت کے ذہنی اور مزاجی رجحانات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک روز عبادت و ریاضت میں مشغول حضور اکرم صلی اللہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ آپ کا ذات و شخصیت بجائے حسین احمد کے رشید احمد گنگوہی کے سراپا میں تبدیل ہو گئی۔ اس امر کا اس درجہ یقین ہو گیا کہ ایسا محسوس ہوا کہ حسین احمد معدوم ہی ہو گئے۔ معاملہ چونکہ بیداری کا تھا اس لیے بے حد گجبرائے اور بار بار اپنے جسم کو تکلیف پہنچائی اور ہاتھوں کو دانٹوں سے کاٹا کہ اگر حسین احمد کا وجود ہوگا تو تکلیف کا احساس بھی ہوگا۔ دو گھنٹہ یہ کیفیت رہی اس کے بعد زائل ہو گئی۔ یہ تفصیل آپ نے اپنے مجددوم پیر و مرشد کو تحریر فرمائی۔ حضرت گنگوہی نے لکھا کہ یہ حالت فنا فی الشیخ ہونے کی ہے۔ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ ان کو تمام عمر اپنے اکابر، مشائخ، اساتذہ اور اسلاف امت سے غائت درجہ کا تعلق رہا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت کے سارے اشغال روحانیہ اور مجاہدات حضرت حاجی صاحب کے تلقین کردہ تھے۔ کیونکہ آپ کے پیر نے کوئی مشغلہ تعلیم نہیں فرمایا تھا :

”ان مشاغل نے اس قدر مشغول کیا کہ ذکر پر کوئی مداومت نہ ہو سکی حضرت

قطب عالم قدس اللہ سرہ العزیز (حاجی صاحب) کے وصال کے بعد شوق پیدا ہوا کہ تعلیم کردہ ذکر پر مدامت کی جائے۔ چنانچہ حرم محترم (مسجد نبوی) میں بیٹھ کر پاس انفاس کیا کرتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت قطب عالم گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز سے محبت اور تعلق قلب میں بڑھنا شروع ہوا۔ اور محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح بعض درخت جلد جلد بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس طرح حضرت گنگوہی کی محبت بڑھ رہی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق پر ان کا تعلق بہت بڑھ گیا حالانکہ حضرت شیخ الہند کا تعلق کم نہیں ہوا بلکہ اپنی حالت پر ہی قائم رہا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد سلسلہ چشتیہ قدس اللہ سرہم کی نسبت کے آثار ظاہر ہونے لگے اور گریہ کی حالت طاری ہونی شروع ہو گئی۔ اس اثنا میں رویاے صالحہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت خواب میں بجزرت ہونے لگی۔ نیز ذکر کی وجہ سے جسم میں بے اختیاری حرکات بھی ہونے لگیں۔ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام میں چونکہ لوگوں کا مجمع ہر وقت رہتا ہے اس لیے ایسا وقت مقرر کیا جس میں کم سے کم مجمع رہے۔ وہ وقت آفتاب نکلنے سے ایک گھنٹہ بعد کا تھا۔ چنانچہ روزانہ ایسے وقت میں ناشتہ کر کے با وضو مسجد شریف میں داخل ہو کر تھیۃ المسجد ادا کر کے مواجہہ شریف (قبر مبارک کے سامنے کی وہ جگہ جو کہ چہرہ مبارک کے سامنے ہے) میں حاضر ہوتا ادا اب و الفاظ شرعیہ زیارت کے بعد جس قدر ممکن ہوتا الفاظ صلوٰۃ و سلام بجا لا کر پھر مسجد شریف میں جہاں جگہ خالی پاتا وہاں بیٹھ کر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ (جس قدر جی لگتا تھا) ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ مگر جب آثار ذکر جسم پر زیادہ ظاہر ہونے لگے تو لوگوں کی شرم کی وجہ سے شہر کے باہر جنگل میں جانے لگا۔ مسجد شریف کی مشرقی جانب جدھر بقیع شریف ہے (مدینہ منورہ کا مقبرہ)

آبادی نہیں ہے، اُدھر نکل جاتا تھا اور کبھی مسجد الاجاہہ میں (یہ مسجد مشہور ہے) اور اب بالکل جنگل میں واقع ہے۔ یہاں پر بعض ادعیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول ہوئی ہیں) اور کبھی اسی کے قریب کھجوروں کے جھنڈوں میں تنہا بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا تھا۔ اسی حالت پر ایک مدت گذری۔

مکہ مکرمہ میں کم و بیش ایک ماہ تک حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ذکر و شغل فرما کر مدینہ طیبہ حاضری کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور اس کے کم از کم چھ ماہ بعد ہی مدینہ طیبہ میں دوبارہ اشغال روحانیہ شروع ہو سکے ہوں گے۔ ذی قعدہ ۱۳۱۸ھ کو ہندوستان کا سفر پیش آیا جس کا ذکر اگلے صفحات میں آ رہا ہے۔ اس طرح تخمیناً کل ڈیڑھ برس مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں حضرت نے سلوک و تصویف کے مشاغل میں گزارے۔ اس مدت میں دو ماہ کا عرصہ جو گنگوہ میں حضرت گنگوہی کی خدمت میں خلافت و اجازت سے پہلے گزارا اور ملائیس تو خلافت سے پہلے کل مدت ریاضت و مجاہدات و ذکر و شغل ایک سال اور آٹھ ماہ ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام مشاغل حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی تعلیمات اور تلقین کے مطابق ہوئے ہیں۔

مدینہ طیبہ میں درس و تدریس

حضرت نے درس و تدریس کا مشغلہ مدینہ طیبہ اور حرم نبوی میں ۱۳۱۷ھ کی ابتدا سے شروع کیا تھا اور یہ سلسلہ ۱۳۳۵ھ کی ابتدا تک متعدد بار اسفار ہندستان کی بنا پر منقطع ہوتے رہنے کے ساتھ جاری رہا۔ ان مدتوں کی تفصیل آئے گی۔ اس جگہ تعلیمی و تدریسی مشاغل کی ابتدا اور ابتدائی دو سال کے حالات کا بیان مقصود ہے۔ پچھلے صفحات میں گذر چکا ہے کہ حضرت کے والد ماجد نے اپنی اولاد کو دین اور علوم دینیہ کے لیے وقف کر دینے کی نیت کر لی تھی۔ اور خود ذاتی طور پر حضرت نے اپنے لیے علمی زندگی کو حیات متعار کا سب سے بڑا مقصد قرار دے لیا تھا۔ ان حقائق کے

ساتھ ہی آپ کے استاد، مرشد اور مخدوم حضرت شیخ الہند نے وداع کرتے ہوئے یہ تاکید فرمائی تھی کہ کسی حالت میں درس و تدریس کا مشغلہ ترک نہ کرنا۔ مذکورہ قلبی اور ذہنی تقاضوں کے ساتھ کچھ خارجی اسباب بھی جمع ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں اور مسجد نبوی میں درس و تدریس کا مشغلہ تو جاری رہتا ہی تھا اور بہت سے عربی اور حجازی اساتذہ طالبان علم کو فیضیاب کراتے تھے۔ مگر حضرت نے ابتدائی مضامین سے جب اپنے درس کی ابتدا کی تو طلباء اور عوام طالبان علوم کا رجحان آپ کی طرف بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہوا۔ خدا ہی کو علم ہے کہ اس مقبولیت عامہ کے اسباب کیا رہے ہوں گے مگر اندازاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی فطری بے نفسی، بے غرضی، تواضع، خوش خلقی کے ساتھ عالم اسلام کے منفرد اور ممتاز اساتذہ سے حاصل کردہ تبحر علمی اور طریقہ تدریس کا بہت حد تک دخل رہا ہوگا۔ اس بارے میں صحیح بات تو اس وقت کے کسی شاگرد رشید ہی سے معلوم ہو سکتی تھی۔ مگر صد افسوس کہ راقم المحروف کو جب ان حضرات کی صحبت نصیب تھی تو ایسی قیمتی معلومات کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کا شعور نہ تھا اور اب جب کسی قدر ہوش آیا تو شاگرد اور استاد سبھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ لاجار اور مجبور ہو کر حضرت کے بیان پر اکتفا کرنی پڑتی ہے جس میں طبعی تواضع و انکسار کی بنا پر مقبولیت کی اصل کیفیت یقیناً محذوف رکھی گئی ہے تاہم اس تفصیل سے ایک عام انداز لگانا مشکل نہیں ہے۔ ”مدینہ منورہ پہنچنے پر بعض طلباء، ہندوستانی اور عرب بعض کتابوں کی تدریس کے خواستگار ہوئے۔ اگرچہ عربی زبان میں عرصے تک کتابیں پڑھنے کی نوبت آئی تھی مگر بولنے کی مشق نہ تھی۔ اس لیے اشکال کا سامنا ہوا۔ یہ اشکال معمولی نہیں ہوتا۔ اہل زبان اور خصوصاً اہل زبان عربی کسی غیر اہل زبان کی فضیلت، فوقیت اور علیت کے سامنے زانوئے ادب تہہ کر دیں۔ یہ غیر معمولی قابلیت اور تبحر علمی کے بعد ہی ممکن ہے۔ دوسری زبان یعنی عجمی زبانوں کی تقریر و تفہیم میں وہ روانی، فصاحت، سلاست اور بلاغت بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے جس کے اہل عرب عادی ہیں تاہم ہندوستانی

علماء کی تحقیق، تہجد و دعوتِ علمی کا اعتراف سب ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے: ”مدینہ منورہ میں پہلے ہی علمائے ہند کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ حضرت شیخ محمد عبدالنصاری سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد حضرت شاہ عبدالغنی نقشبندی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رد لوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد اسحاق صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے پایے کے علماء گذرے تھے۔ ان کی اعلیٰ استعداد انتہائی قابلیت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا“

ایسے ماحول میں حضرت نے ابتدائی کتابوں سے تدریس کی ابتدا کی۔ اور بہت تھوڑے عرصے میں عربی تقریر اور تفہیم پر بھی قدرت حاصل کر لی اور ہندوستان کے علماء گرامی کی روایت اور طریقے کے مطابق ابتدائی کتابوں کی تدریس سے بھی فراغت حاصل کر لی۔ لکھا ہے کہ ”اس (تدریس) سے مجھ کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ابتدائی کتابیں صرف و نحو و فقہ وغیرہ کی محفوظ ہو گئیں اور دوسرے یہ کہ زبان (عربی) صاف ہو گئی۔“ مدینہ طیبہ میں اہل عرب علماء کے بڑے مشہور و معروف حلقہ ہائے درس ہوتے تھے۔ جوق و جوق عوام و خواص بروانہ دار ان اسباق میں حاضر ہوتے تھے کسی نہ کسی درجے میں یہ طریقہ اور روایت اب بھی باقی ہے۔ ان کامیاب اور مقبول درسگاہوں یا حلقہ ہائے علوم میں ایک نوخیز، نوجوان، سبزہ آغا، ہندوستانی اور خالص طالب علمانہ شان کا عالم داخل ہو کر تعلیم دینا شروع کرے تو طبعی اور فطری طور پر معاندانہ اور معاصرانہ نگاہیں اٹھتی ہی ہیں اور پھر جبکہ علم دنیا کی سب سے بڑی دولت مانی گئی ہے اور تفاخر و تنافس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ”اہل علم میں عموماً اور اہل حجاز میں خصوصاً حسد اور رقابت کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی عالم آتا ہے تو اس کی طرف آنکھیں بہت اٹھتی ہیں اور تنقیدی معاملات اکثر پیش آتے ہیں۔“ حضرت کے ساتھ بھی مدینہ طیبہ میں مخالفت اور حسد کے حالات پیش آئے مگر اس ابتدائی دور میں غالباً حضرت نے اس طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ ویسے بھی حضرت کا مزاجی انداز یہ تھا کہ فضول باتوں

سے گریز کرتے ہوئے مکمل مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ چنانچہ پہلی بار مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران دو برس تک صرف صرف و نحو اور فقہ وغیرہ کی کتابیں مستقل مزاجی اور خاموشی کے ساتھ پڑھاتے رہے۔ ۱۳۱۸ھ کے آخر میں جب گنگوہ تشریف لے گئے تب یہ سلسلہ منقطع ہوا اور وہاں سے واپسی پر اعلیٰ کتابوں کی شہرت اور مقبولیت کے ساتھ تدریس شروع ہوئی۔ افسوس کہ تذکرہ میں کتابوں کے نام نہیں تحریر فرمائے ہیں اور صرف یہ لکھا ہے کہ ”ہمارا گوشہ گمنامی میں ایک ایک دو طالب علموں کو پڑھانا اور ابتدائی کتب نحو و صرف و فقہ وغیرہ سے اشتغال رکھنا بہت مفید ہوا۔ ۱۳۱۸ھ شوال تک اسی طرح ابتدائی کتابیں مختلف فنون کی دو دو چار چار طالب علموں کو پڑھاتا رہا۔ حلقات درس و تدریس میں کوئی امتیازی شان پیدا نہیں ہوئی۔ امتیازی شان ہوئی یا نہیں؟ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہم کو ماہ بینوں کی نظر میں تو یہی دین و دنیا کی بڑی دولت ہے کہ مدینہ طیبہ میں علم دین پڑھانے کا موقع نصیب ہو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر فقہ اور شرع کا درس دینے کا شرف حاصل ہو طلباء علوم دینیہ، اللہ کے مہمان فرشتوں جیسے انسان اکتساب فیض اور علمی استفادہ کے طلبگاریوں اور اس پورے عرصے میں اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں نازل ہوتی رہی ہوں۔ بہر حال اس ابتدائی دور میں ۱۳۱۶ھ کے آخر سے ۱۳۱۸ھ کے آخر تک عربی کی ابتدائی کتابیں زیر درس رہیں اور اس کے بعد ہندوستان کا سفر پیش آیا۔

ہندوستان کا پہلا سفر اور خلافت و اجازت ۱۳۱۸ھ تا ۱۳۱۹ھ

حضرت اپنی ریاضتوں، مجاہدات اور قلبی کیفیات کی تفصیل حضرت گنگوہی کی خدمت میں لکھ کر بھیجتے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی روئے صالحہ سے بھی مطلع فرماتے رہتے تھے۔ شوال ۱۳۱۸ھ میں حضرت گنگوہی کا والا نامہ صادر ہوا کہ ہرچیز کہ مدینہ طیبہ میں حاضری دین دنیا کی بڑی سعادت ہے اور یہ وہ دیا رہے کہ جہاں پر دن و رات رحمتوں اور

برکات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ پھر بھی اگر اس وقت تم کسی طرح کچھ دنوں کے لیے گنگوہ آجاؤ تو اچھا ہو۔ یہ حکم پا کر حضرت نے ہندوستان کے سفر کا ارادہ فرمایا اور الدین مرحومین اور بھائی صاحبان سے اجازت طلب کی۔ گھر کے بھی لوگ آپ کی عبادت ریاضت اور روحانی حالات اور روز افزوں ترقیات سے واقف تھے اس لیے اجازت دینے میں کسی عذر کا سوال پیش نہیں آیا۔ مگر زادراہ اور ضروریات سفر کے لیے اخراجات کا سوال مشکل تھا اور گھر کے مالی حالات اس کے متحمل نہیں تھے کہ اتنا بڑا سفر اختیار کیا جائے۔ اس لیے والد صاحب مرحوم نے سکوت اختیار فرمایا۔ مگر گنگوہ شریف سے ہلاوے کا بڑے بھائی مولانا صدیق احمد صاحب پر بڑا اثر پڑا اور ان کی آتش شوق بھڑک اُٹھی چنانچہ وہ بغیر کسی سے بتلائے ہوئے مختصر سامان اور تھوٹے سے اخراجات لے کر چپکے سے عازم سفر ہو گئے۔ گھر والوں کو دوسرے دوسرے روز ایک تحریر کے ذریعے ان کی روانگی کی اطلاع ملی۔ تو والد صاحب نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اصل بلا داتو تمہارے لیے آیا تھا مگر وہ روانہ ہو گئے۔ اب جس طرح بھی ہو تم روانہ ہو اور جدہ میں جا کر ان کے ہمراہ ہو جاؤ۔ ان کے پاس اخراجات بھی کم ہیں اور طبعی طور پر وہ تکلیفیں اور مشکلات برداشت کرنے کے عادی نہیں ہیں اس لیے تم راستے میں ان کو سہارا دینا۔ اس سفر کی دل چسپ داستان حضرت نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ اس میں حضرت کا اسلوب بیان بھی قابل ملاحظہ ہے :

”۱۳۱۸ھ شوال میں والا نامہ گنگوہ شریف سے وارد ہوا کہ اگرچہ وہاں سب کچھ ہے مگر بہتر ہوتا کہ تو ایک ہینے کے لیے گنگوہ آجاتا۔ چونکہ والد صاحب مرحوم اور بھائی صاحبان میری مشغولی ذکر اور بعض رویا وغیرہ سے واقف تھے ادھر اس والا نامہ سے بھی واقف ہو گئے تھے اس لیے جبکہ میں نے اس والا نامہ کے مضمون کی وجہ سے سفر کی اجازت طلب کی تو والد صاحب نے بجز قلت خرچ اور کوئی عذر نہیں فرمایا اور یہ واقعی تھا کیونکہ اس مدت میں سرمایہ تقریباً قریب الختم ہو چکا تھا۔ اس لیے مجبوراً سکوت کرنا اور سفر سے باز

رہنا پڑا۔ مگر بڑے بھائی صاحب کو (مولانا صدیق احمد صاحب مرحوم) جو کہ تمام کاروبار تجارت اور ضروریات کو انجام دینے والے تھے اور ہندوستان سے روانگی پر جبکہ حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز سے انھوں نے اپنے ذکر و شغل میں ناکامی کی شکایت کی تھی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا تھا کہ اب تو چلے جاؤ پھر وہاں سب کو چھوڑ کر چلے آنا۔ یہ مقولہ یاد آگیا اور ان کی اس شش شوق بھروک اٹھی اور انھوں نے خفیہ طور پر انتظام کرنا شروع کر دیا۔

ماہ ذیقعدہ میں جبکہ ایک قافلہ مدینہ منورہ سے رابع کو روانہ ہو رہا تھا اس کے ساتھ چھپ کر بارادہ ہندوستان روانہ ہو گئے اور اپنے ساتھ ساٹھ یا ستر روپے لے گئے۔ گھر میں جب دن بھر نہیں آئے تو تلاش ہوئی۔ ان کے کمرے میں ایک تحریر لٹکی ہوئی پائی گئی جس میں انھوں نے اپنے ارادے وغیرہ کا تفصیلی ذکر کیا تھا۔ اس پر مطلع ہونے کے بعد حضرت والد صاحب مرحوم نے مجھ کو فرمایا کہ اب تو بھی جا، تجھ کو تو وہاں سے طلب کیا گیا تھا مگر وہ روانہ ہو گئے ہیں خرچ کے نہ ہونے کی وجہ سے میں متوقف تھا ان کو راستہ میں تنہائی کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ چنانچہ انھوں نے زادراہ کا انتظام کر دیا۔ بھائی صاحب مرحوم رابع سے بادبانی جہاز پر جدہ پہنچے۔ راستے میں تکلیف زیادہ ہوئی۔ طبیعت میں استقلال اور جفاکشی کم تھی، تنہائی بھی تھی۔ جدہ میں کوئی جہاز ہندوستان جانے والا نہ ملا۔ دو چار روز جدہ میں رہ کر پریشان ہو گئے اور والد صاحب مرحوم کو مفصل خط لکھا کہ اب میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں اور چونکہ حج کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے حج کر کے واپس آ جاؤں گا۔ والد صاحب مرحوم عزائم کے بہت سخت تھے ان کو ناگوار ہوا اور مجھ سے کہا کہ تو جا کر ان کو واپسی کے ارادے سے باز رکھ۔ اور تم دونوں ہندوستان کو روانہ ہو جاؤ۔ مجھ کو بھی تقریباً ساٹھ روپے سفر خرچ کے لیے عطا فرمائے اور مال لانے والے قافلے میں جبکہ وہ مال پہنچا کر واپس مینع البحر کو جا رہا تھا تاجروں کے ذریعے پشت شتر کرایہ کر کے روانہ کر دیا۔ اگرچہ قوافل مینع سے پانچ یا چھ دن میں آتے ہیں مگر یہ خالی اونٹ تھے مختصر راستوں سے پہاڑوں میں ہوتے ہوئے رات دن چل کر دو یا تین دن میں مینع پہنچ گئے۔ اتفاق سے خدیوی ڈاک کا جہاز جدہ جانے والا آیا ہوا تھا فوراً اس پر سوار ہو گیا اور اگلے روز

جدہ پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بھائی صاحب گھبرا کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور یہی معلوم ہوا کہ ایک جہاز بمبئی سے آیا ہوا ہے اور وہ بمبئی واپس ہونے والا ہے۔ میں نے اس کو غنیمت کبریٰ سمجھ کر یہ چاہا کہ میں جلد سے جلد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں بھائی صاحب مرحوم سے پہلے پہنچ جاؤں ان کو اس جلد بازی اور چھپ کر چلے آنے کی سزا دے دوں۔ اس کا ٹکٹ چالیس روپے میں خرید لیا اور ایک خط مکہ معظمہ میں بھائی صاحب کو اور ایک مدینہ منورہ میں والد صاحب مرحوم کو تفصیلی خط لکھ دیا اور اپنی روانگی کی اطلاع دے کر جہاز میں سوار ہو گیا مگر ایک روز کے بعد ہی بمبئی سے تار آ گیا کہ جہاز بمبئی نہ آئے بلکہ جدہ ہی میں ٹھہرا ہے۔ حج کے بعد حجاج کو لے کر واپس ہو اس بنا پر ایک یا دو دن جہاز میں رہنے کے بعد جدہ واپس آنا پڑا۔ یہ تاریخیں اور خذیقہ کی ٹھیس۔ ٹکٹ کے روپے واپس لے کر اب یہی ضروری معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ روانہ ہو کر نعمت حج اور رفاقت بھائی صاحب مرحوم کا شرف حاصل کیا جائے۔ چنانچہ والد صاحب مرحوم کو اطلاع دے دی اور چونکہ خرچ کم تھا اور اسباب بھی زائد نہ تھا یہ کم ذمی الحجہ کو شام کے وقت پیدل مکہ معظمہ روانہ ہو گیا۔ قرب حج کی وجہ سے راستے میں پیدل جانے والوں کی کثرت تھی۔ آخر شب میں سحر پہنچ کر کچھ آرام کیا اور پھر دن بھر چل کر مکہ معظمہ پہنچا۔

بھائی صاحب مرحوم میرے خط اور جہاز کی خبر سے سخت پریشان اور پشیمان ہو گئے تھے اس واقعے سے بہت خوش ہوئے۔ بفضلہ تعالیٰ اداے مناسک حج سے فارغ ہو کر جب جدہ پہنچے تو کرایہ جہاز کی کس ۶۵ روپے تھا۔ ہم دونوں کے پاس مصارف حج اور مصارف مکہ معظمہ کی وجہ سے اس قدر مقدار باقی نہیں رہ گئی تھی جو اس وقت کے دخانی جہازوں کے کرایہ کے لیے کافی ہو سکے۔ اگرچہ حج پیدل ہی دونوں نے کیا تھا، قیام بھی مولانا شفیع الدین صاحب کے پاس تھا مگر خورد و نوش وغیرہ کے مصارف میں اس قدر خرچ ہو چکا تھا کہ ہر ایک کے پاس چالیس چالیس روپے تقریباً باقی تھا۔ جہاز کے کرایہ کی کمی کا انتظار کیا گیا مگر کم نہ ہوا اور وہ روانہ ہو گیا۔ پھر دوسرا جہاز آیا۔ اس کا بھی کرایہ اس قدر گراں تھا، وہ بھی روانہ ہو گیا۔ اب سحر اس کے کوئی صورت نہ تھی کہ

یا تو جدہ میں ہیندہ دو ہیندہ ٹھہرا جائے اور آخری جہاز کا جب وقت آئے تو مساکین کے ساتھ روانہ ہوں جو کہ قلتِ حجاج کی وجہ سے یقینی نہ تھا۔ یا مدینہ منورہ واپس ہو جائیں یا بادبانی کشتیوں میں مسقط یا مکلا یا عدن کو روانہ ہو جائیں اور وہاں سے کراچی یا بمبئی کو دفائی جہازوں پر روانہ ہوں۔ مگر جدہ کا خرچ پہلے امر کی اجازت نہ دیتا تھا۔ وقت بھی ضائع ہوتا تھا۔ دوسرا مقصد کے بالکل مخالف تھا۔ تیسرے امر پر بھائی صاحب راضی نہ ہوتے تھے کیوں کہ رابع سے جدہ تک وہ بادبانی کشتی ہی میں آئے تھے اور اس میں ان کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی تھی بلکہ وہ تقریباً ارادے کو توڑ چکے تھے۔

جدہ میں ہم سینوں کی رباط (مسافر خانہ) میں مقیم تھے۔ ایک شخص مستری غلام محمد مرحوم امر سر کے باشندہ، وہ بھی ہندوستان جانا چاہتے تھے اور قلتِ خرچ کی وجہ سے دفائی جہاز میں سفر نہ کر سکے تھے۔ میں نے اور انھوں نے تیسرے امر پر بھائی صاحب مرحوم کو بمشکل آمادہ کیا اور ایک بڑی کشتی مسقط جانے والی باددانی جس کو بغلہ کہتے ہیں حاصل کی۔ مبلغ دس روپیہ فی کس اس کا ٹکٹ لیا۔ جب چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر (کیوں کہ بغلے اپنی بڑائی کی وجہ سے وسط سمندر میں رہتے ہیں) دہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بغلہ چھوٹ گیا مجبور ہو کر واپس ہوئے۔ اب بھائی صاحب مرحوم اور بھی مخالف ہو گئے مگر ایک دوسرے بغلے کا پتہ چلا اس کے لیے مشکل تمام بھائی صاحب کو آمادہ کیا۔ انھوں نے اس کو یہ مشکل اس شرط پر قبول کیا کہ اگر یہ بغلہ نہ ملا تو پھر ضرور بضرور مدینہ روانہ ہو جائیں گے مگر خدا کے فضل سے یہ بغلہ مل گیا اور ہم اس پر اسی کر ایے میں سوار ہو گئے۔ یہ بغلہ بحرین کے تاجروں کا تھا وہ کبجوریں لے کر آئے تھے اور ان کو فروخت کر کے نیزج سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے۔ اس میں تقریباً ایک سو بیس مسافر تھے۔ کچھ رباحی (خارجی) مسقط کے باشندے تھے۔ تقریباً ستر یا اسی بنگالی حجاج تھے اور میں شخص ہم ہندوستانی تھے اور دس پندرہ کشتی بان بحرین کے تھے۔ چونکہ ہوا قدرے مخالف تھی۔ اس لیے بغلے کو وسط سمندر میں کشتی بان نہیں چھوڑتے تھے بلکہ کنا لے کنا رے پر جلاتے تھے اور چونکہ اس دریا میں کنارے پر پہاڑیاں پانی میں زیادہ ہیں اس لیے رات

کو ٹھہر جاتے تھے اور دن بھر چلا تے تھے۔ پندرہ دن میں عدن کے قریب پہنچنا ہوا، مگر وہاں پر ہوا بالکل مخالف ملی اس لیے مکملہ (باوجودیکہ دخانی جہاز سے صرف ایک دن کی مسافت ہے) پندرہ دن میں پہنچنا ہوا۔

خلاصہ یہ کہ جدہ سے ایک مہینے میں مکملہ پہنچنا ہوا۔ باوجودیکہ ہم نے احتیاطی طور پر کافی خورد و نوش کا سامان لے لیا تھا مگر سب ختم ہو گیا جس کی وجہ سے کشتی والوں سے چال و غیرہ قرض لیتے تھے اور پھر مکملہ پہنچ کر ان کو ادایا گیا۔ مکملہ پہنچنے تک مخالف ہوا کی وجہ سے بغلہ میں حرکت بہت زیادہ ہوتی تھی اس لیے بھائی صاحب مرحوم اور مٹری غلام محمد صاحب کو چکر اورتے بہت آتی رہی، سائبان نہ ہونے کی وجہ سے سایے کی بھی تکلیف رہتی تھی۔ مگر مکملہ سے ہوا موافق ملی تو کشتی بانوں نے بغلہ کو وسط سمندر میں ڈال دیا۔ رفتار بھی خوب تیز ہو گئی اور رات دن چلنا ہوا اس لیے سات دن میں مسقط پہنچ گئے۔ حرکت بھی ایسی نہیں ہوئی جس سے متلی یا چکر یاتے ہوتی۔ مجھ کو چوں کہ بحری سفر میں چکر نہیں آتا، اس لیے اس سفر میں کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی۔^{۱۱} یہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بغلہ میں دیکھے ہوئے ایک خواب کا تذکرہ فرمایا جو اسی باب کے آخر میں بیان ہو رہا ہے اور اس کے بعد سفر نامے کی تفصیل اس طرح جاری ہے۔

”مسقط کے قریب ہی ایک آبادی مطرح ہے اس میں صرف اہل سنت و جماعت رہتے ہیں مگر مسقط کی زیادہ تر آبادی اباضیوں (خوراج) کی ہے اگرچہ حکومت دونوں جگہ سلطان مسقط ہی کی ہے جو کہ اباضی ہے اس لیے بغلہ والوں نے مطرح میں ہی ہم کو آرا کیوں کہ وہ سب سنی شافعی تھے، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ڈاک کا جہاز کراچی جانے والا ایک روز پہلے جا چکا ہے۔ اب چھ سات دن کے بعد جائے گا۔ اس لیے وہاں سات دن ٹھہرنا پڑا۔ انگریزی عہدیدار کسٹم کا ہندوستانی مسلمان تھا اس نے جگہ دے دی۔ وہاں قیام کیا گیا اور ساتویں دن جب جہاز آیا تو دو روپیہ فی کس پر کراچی کا ٹکٹ لے کر اس پر

سوار ہو گئے اور ایک دن رات سفر کرنے کے بعد کراچی پہنچنا ہو گیا۔

ڈیڑھ مہینے سے کچھ زیادہ وقت میں یہ سفر طے ہوا۔ ربيع الاول کا وسط ہو چکا تھا۔ ہمارے پاس جو کچھ نقد تھا وہ اس قدر خرچ ہو چکا تھا کہ سہارن پور کا ٹکٹ لینے کے بعد راستے میں کھانے پینے کے لیے صرف تین چار آنے باقی رہ گئے تھے۔ مگر جب ہم نے ڈاک گاڑی پر بیٹھنا چاہا تو ٹکٹ کلکٹر نے روک دیا اور کہا کہ اسباب زائد ہے اس کو وزن کراؤ۔ ہم نے دکھلایا کہ وزن زیادہ نہیں ہے گاڑی کا وقت قریب ہے جانے دیجئے۔ مگر اس نے نہ مانا۔ تلوآنے اور بعض غیر ضروری چیزوں کے پھینکنے میں اس قدر دیر لگ گئی کہ گاڑی چھوٹ گئی۔ بالآخر دوسری بسخر گاڑی میں روانگی ہوئی جو کہ لاہور تک نہیں جاتی تھی۔ اس لیے اُس نے راستے میں چھوڑ دیا اور وہاں ایک شب پڑا رہنا پڑا اور جو چند آنے کھانے کے ہمارے پاس تھے وہ بھی خرچ ہو گئے۔ اگلے دن ڈاک گاڑی میں روانگی ہوئی تو کھانے کا کچھ سامان نہ تھا۔ بالآخر مطرح سے کچھ مسقط کے حلویے کے ڈبے ہم نے خریدے تھے ان کو مسافروں کے ہاتھ فروخت کر کے روٹی کھائی۔ آخر شب میں گاڑی سہارن پور پہنچی چونکہ ہمارے پاس مدینہ منورہ کی کھجوریں اور دیگر تبرکات تھے اور کھجوروں پر جنگی لگنی ضروری تھی پیسے پاس نہ تھے اس لیے میں مع اسباب سٹیشن کی مسجد میں ٹھہر گیا اور بھائی صاحب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مرحوم کی خدمت میں اس لیے چلے گئے کہ وہاں سے کچھ پیسے لاکر جنگی والوں کو دے دیئے جائیں۔

اس سفر کی تفصیلات کوئی آنکھوں سے دیکھ سکتا تو کلیجہ منہ کو آجاتا۔ جدہ میں کشتیوں میں سوار ہو کر بیچ سمندر میں جہاز پر سوار ہونا پھر دو دن کے بعد مع سارے اسباب و سامان کے اتر کر واپس آنا، پھر ٹکٹ کے پیسوں کی واپسی کے لیے دو دن تک دوڑ دھوپ کرنا، جدہ سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر حاضری دینا، قلت مصارف کی حالت میں حج کے مناسک ادا کرنا، ان شدائد اور مسائل کا اندازہ سن کر یا پڑھ کر کہاں تک کیا

جاسکتا ہے۔ حضرت نے اس سفر کے حالات اگرچہ کافی تفصیل سے لکھے ہیں مگر آج کے زمانے میں جب دو چار گھنٹوں میں انسان جہدہ سے دلی پہنچتا ہے اور سردی گرمی، بھوک، پیاس، ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ اُس وقت کی تکالیف، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مہینوں کشتی کے سفر، بھگسا دینے والی گرمی میں پیدل مکہ مکرمہ اور حج کی قطع مسافت، ہفتوں ہفتوں بھوکے پیاسے ریل اور جہاز کے انتظار کے شائد اور ابتلا و آزمائش کی سختیوں کا اندازہ مشکل نہیں سے کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سفر مکمل طور پر راہِ سلوک اور طریقِ معرفت و روحانیت کا ایک سفر تھا۔ صاحبِ بصیرت اور صاحبِ دل حضرات کے لیے ان واقعات سے حضرت کے خلوص، للہیت، بے نفسی، بے غرضی، عزم و ارادہ، عزیمت و شہامت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔

سہارن پور سے بڑے بھائی تو گنگوہہ روانہ ہو گئے۔ مگر حضرت پہلے دیوبند حاضر ہوئے۔ دیوبند حاضری سے یہ مقصد تو تھا ہی کہ مادرِ علمی اور اساتذہ کرام بالخصوص حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ کی زیارت سے شاد کام ہوں۔ مگر اصل مقصد یہ تھا کہ پیر و مرشد کی خدمت میں دیوبند سے پیادہ پا چل کر حاضر ہوں اور اس طرح حاضر ہوں کہ پھر اطمینان سے رہ سکیں اور جلد واپسی کا کوئی تقاضہ پیش نہ آئے۔

”میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے دیوبند حاضر ہوں، اس کے بعد وہاں سے گنگوہہ شریف کا قصد کروں گا۔ جو ہدایا وہاں کے حضرات کے ہیں وہ بھی پہنچا دیئے جائیں گے اور ان کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر با اطمینان گنگوہہ شریف میں قیام ہو سکے گا۔ گنگوہہ شریف کے لیے جو تبرکات عامہ تھے، وہ بھائی صاحب اپنے ساتھ لے گئے۔ مگر حجرہ شریفہ کا غبار، مسجد شریف کی کھجوریں (اس زمانے میں صحیح مسجد نبوی میں بھی چند درخت کھجوروں کے تھے) اور بعض خصوصی تبرکات میرے ہی پاس تھے چونکہ حجرہ مطہرہ نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے خاص خدام جن کو آغاوات کہتے ہیں مجھ سے پڑھا کرتے تھے اس لیے خصوصی تبرکات مجھ کو حاصل کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ میں اول دیوبند گیا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ کرام

سے شرفِ ملاقات حاصل کیا۔ میری ایک غرض اس میں یہ بھی تھی کہ میں حضرت مرشدِ قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں تنہا اور پیادہ پا حاضر ہوں۔

مدینہ طیبہ سے حضرت کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے دو ماہ تک خیرِ خبر نہ پا کر حضرت گنگوہی کی خدمت میں عریضہ ارسال کیا تھا کہ صدیق احمد اور حسین احمد آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملنے سے پریشانی ہے۔ چنانچہ حضرت گنگوہی بھی منتظر تھے۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب حاضر ہوئے تو حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تم دونوں کے لیے ایک ایک جوڑہ کپڑوں کا تیار کر لیا ہے۔ مولوی حسین احمد صاحب بھی آجائیں تب دونوں کو ایک ساتھ ہی دوں گا۔ چنانچہ حضرت اس طرح حاضر ہوئے کہ ”دیوبند میں ایک دن قیام کر کے ظہر کے بعد پیدل روانہ ہوا اور چونکہ گرمیوں کے دن تھے اس لیے راتوں رات چل کر صبح کو دوس بجے گنگوہہ شریف پہنچا۔ اپنی نالائقی اور تن پروری اور راہِ طریقت میں کسل مندی وغیرہ کی وجہ سے شرمندگی اور خجالت کا اثر بہت قوی تھا، اس لیے راستے میں برابر گریہ طاری رہتا تھا۔ اور صدیقِ حضوری بارگاہ میں کشاں کشاں قدم بڑھا رہا تھا۔ بالآخر حاضر خدمت ہوا۔ اور شرفِ ملاقات سے فیضیاب ہوا۔ بہت زیادہ شفقت فرمائی اور وہ دونوں جوڑے عنایت فرمائے۔“

حضرت گنگوہی نے دونوں بھائیوں کو اپنا خاص ہمان بنایا اور مراقبہ ذاتِ بحتِ تعلیم فرمایا۔ عصر بعد جب حضرت گنگوہی کی مجلس عام ہوتی تھی اس وقت حضرت مجلس میں حاضر رہ کر تعلیم فرمودہ مراقبہ پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ تک جاری رہا۔ اور اس عرصے میں حضرت عبادت و ریاضت میں ہمہ وقت مشغول رہے۔ گویا اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ان کے تلقین کردہ ذکر و شغل کا موقع اجازتِ بیعت و خلافت سے پہلے حضرت کو صرف ڈیڑھ ماہ تک ملا۔ راہِ طریقت و مقاماتِ روحانیت کے اسرار و رموز تو اہل اللہ ہی خوب جانتے ہیں اور وہی اس عالم کے معاملات

کا فیصلہ کر سکتے ہیں مگر حضرتؒ کے بچپن سے لے کر اس وقت تک کے حالات پیش نظر رکھیں تو ہم ظاہر بینوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ پیدائشی طور پر صلاحیت قابلیت اور عریضیت سے بہرہ ور تھے۔ اس پر آپ کے والد ماجدؒ کی تربیت اور شدت اور بھائی صاحبان کی توجہ اور محنت نے سونے پر مزید سہاگے کا کام کیا لیکن جس چیز نے اس سونے کو گندن اور ذرہ کو آفتاب بنایا۔ وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات روحانیہ اور فیوضات علمیہ تھیں۔ چنانچہ جس وقت آپ ہندوستان سے روانہ ہوئے ہیں اسی وقت اخلاقی روحانی، قلبی، ذہنی اور علمی طور پر کامل ہو چکے تھے۔ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی خصوصی توجہات اور ان کے تلقین فرمودہ اعمال کی بنیاد پر اس قدر جلد اعلیٰ روحانی مقامات پر فائز ہو جانا اس کی واضح علامتیں ہیں۔

مقدر کی بات تھی کہ حضرت حاجی صاحب کا وصال ہو گیا۔ ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ اُن کی نگرانی اور تربیت کے تحت مقامات سلوک و تصوف طے کرنے کے بعد حضرت کو انہی سے خلافت اور اجازت نہ مل جاتی۔ تاہم حاجی صاحب کے دربار سے حضرت کو براہ راست جو منصب عطا ہوا اس کا کچھ اندازہ اس خواب سے ہوتا ہے جو حضرت نے تحریر فرمایا ہے ” اسی سحری سفر میں (مدینہ طیبہ سے گنگوہہ شریف آنے ہوئے جس سفر کی تفصیل ابھی گزری ہے) میں نے ایک شب کو خواب میں دیکھا کہ حضرت قطب عالم حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مکہ معظمہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ توجو کھجوریں مدینہ منورہ کی دے گیا ہے اس کو اگر تقسیم کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو آپ کے لیے لایا ہوں۔ میرے یہاں تو ان کی دوکان ہے تو فرمایا کہ نہیں تو ان کو تقسیم کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ ہندوستان میں کھجوریں کن دفتوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس خواب کو میں نے گنگوہہ شریف پہنچ کر جب حضرت مرشد قدس اللہ سرہ العزیز سے ذکر کیا تو فرمایا کہ تجھ کو حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے یہاں سے اجازت ہو گئی ہے میرے یہاں سے بھی ہو جائے گی۔“

اجازت و خلافت کے بارے میں رویائے صالحہ اور مکاشفات روحانیہ کا کیا درجہ ہے؟ راقم الحروف اس باب میں کچھ عرض کرنے سے قاصر ہے۔ مگر یہ انشراح صدر کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت گنگوہیؒ جیسے عارفِ ربّانی اور واقفِ اسرارِ نبہانی کی تصریح و تثبیت کے بعد اس امر میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت کو ہندوستان پہنچنے سے قبل ہی پہلی خلافت براہِ راست دربارِ امدادی سے عطا ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت گنگوہ تشریف لائے ہیں تو ملاقات کے فوراً بعد پیر و مرشد کے دربار سے خلعت عطا ہونا اور یہ وضاحت فرمانا کہ میرے یہاں سے عنقریب خلافت ملے گی۔ اس حقیقت کی بین دلیل ہے کہ حضرت مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے ہی رشد و ہدایت کے درجے پر فائز ہو چکے تھے۔ چنانچہ بہت تھوڑے عرصے یعنی کم و بیش دو ماہ کے بعد باضابطہ اجازت اور دستارِ خلافت عطا ہوئی۔ مختصر یہ کہ مدینہ طیبہ سے طلبی کا جو حکم صادر ہوا تھا، وہ صرف اسی غرض کے لیے تھا۔

”ایک روز عشاء کے بعد دوسرے خدام کے ساتھ میں بھی حضرت (حضرت گنگوہیؒ) کا بدن دبا رہا تھا، میں پشت کی طرف تھا۔ دباتے دباتے آنکھ جھپک گئی تو دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ چالیس دن گزرنے کے بعد مقصود حاصل ہوگا۔ اس تاریخ کے ٹھیک چالیس دن گزرنے پر عصر کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی صاحب مرحوم سے فرمایا کہ اپنے اپنے عمامے لے آؤ۔ بھائی صاحب لے آئے۔ حضرت نے ہر ایک کے سر پر اس کا عمامہ باندھ دیا۔ جس وقت حضرت رحمۃ اللہ میرے سر پر عمامہ باندھ رہے تھے مجھ پر زور دار گریہ طاری تھا اور اپنی کم مانگی اور خجالت کا شدید احساس تھا۔ اس کے بعد بھائی صاحب سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیسی دستار ہے؛ بھائی صاحب نے عرض کیا دستارِ فضیلت ہے۔ فرمایا کہ نہیں دستارِ خلافت ہے۔ میری طرف سے تم دونوں کو اجازت ہے۔“

حضرت کی عمر اس وقت ۲۳ برس کی تھی۔ اس نوعمری میں پیری اور خلافت کا خیال بھی شاید ہی گزرا ہو۔ خلافت اور اجازت بیعت حضرت کا مقصود نہیں تھا اور اوپر کی سطور میں جو تذکرہ آیا ہے کہ فلاں وقت مقصود حاصل ہوگا، اس کا مقصد بھی خلافت نہیں ہے بلکہ

اصل صرف رضائے باری تعالیٰ ہے۔ حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ "میں نے (حضرت گنگوہی کی خدمت میں) عرض کیا کہ میں کسی دنیاوی مقصد یا نفسانی غرض سے نہیں آیا۔ میرا مقصد بجز طلب ذات حق سبحانہ، اور کوئی نہیں ہے۔ ارشاد ہوا تھا کہ ایک پہننے کے لیے تو یہاں آجا اس لیے حاضر ہوا ہوں، میں کوئی دوسرا مقصد نہیں رکھتا بلکہ مگر خلافت و حقیقت ایک ولی کامل کی جانب سے مقبولیت عند اللہ اور صلاحیت و تقویٰ کی کسی حد تک تصدیق و تائید ہوتی ہے اس لیے اس کو مقصود سے تعبیر کیا ہے۔ ورنہ اصل واقعہ یہ ہے کہ خلافت عطا ہونے کے بعد حضرت پر انکار و تواضع کی وجہ سے تاسف اور خجالت کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔" مجھ پر اس وقت سخت صدمہ تھا اور بار بار روتا تھا کیونکہ اپنی ناقابلیت، نامرادی اور بد حالی مشاہد تھی۔ اس صدمہ کا اثر گفتار و رفتار وغیرہ پر ظاہر تھا۔ پھر یہ کہ خلافت کے بعد حضرت کی رغبت تھی کہ اشتغال سلوک و تصوف میں مزید سلاسل کے مقامات بھی طے کیے جائیں۔

پچانچہ پیر و مرشد سے عرض کیا کہ سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک بھی طے کرنا چاہتا ہوں۔ مگر حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ جو تعلیم میں نے دی ہے وہ بالکل آخری ہے اسی میں جدوجہد کر کے پیر مرید سے بڑھ جائے یا مرید پیر سے بڑھ جائے۔

اس باب میں اپنی کیفیات کا تذکرہ فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ اثنائے سلوک میں انوار، مکاشفات، الہامات وغیرہ بالکل پیش نہیں آئے۔ ہاں یہ بہت پیش آیا کہ اپنے سامنے بزرگ کامل یا تیز روشنی کی ایک ایک دو دو شمعیں بیداری و نیم خوابی کی حالت میں ہر جگہ مدینہ منورہ میں ہندوستان میں اور بعد میں احمد آباد جیل وغیرہ میں دیکھتا رہا جس سے حضرت مرشد قدس اللہ سرہ العزیز اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوض و برکات سے استفادے کا اندازہ ہوتا تھا۔ یہ خلافت کے بعد اچانک اس حالت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بار بار نماز میں اور ذکر و شغل کی حالت میں کائنات بالکل تنگ معلوم ہوتی تھی اور اس قدر گھبراہٹ پیش آتی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ نماز توڑ کر بھاگ جاؤں۔

حضرت سے عرض کیا تو فرمایا کہ کلید شریف حاضر ہو۔ چنانچہ ہم دونوں بھائی کلید شریف اور دیوسند وغیرہ گئے۔ یہ اس سفر کے بعد تقریباً پندرہ روز گنگوہ میں قیام کر کے حضرت اپنے وطن ٹانڈہ وغیرہ تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد حجاز مقدس اور مدینہ منورہ کے لیے واپس ہو گئے۔ ربیع الثانی ۱۳۱۹ھ کی ابتدا میں گنگوہ پہنچے تھے اور سوال ۱۳۱۹ھ کی ابتدا میں واپسی کے لیے روانہ ہو گئے گویا چھ یا سات مہینے ہندوستان میں قیام رہا۔

دوسری بار مدینہ طیبہ کی واپسی اور درسِ حدیث

۱۳۲۰ھ تا ۱۳۲۶ھ
۶۱۹۰۱ تا ۶۱۹۰۸ھ

اپنے پیرو مشد کی خدمت میں رہنے کی پیاس ابھی کبھی نہیں تھی مگر گھر اور خاندان کے حالات اور والد ماجد مرحوم کا اصرار اس کا متقاضی ہوا کہ کل سات ماہ ہندوستان میں قیام کے بعد حضرت مدینہ طیبہ واپس ہو جائیں۔ اس مختصر سے وقفے میں سے بھی کل تین ماہ قطب العالم حضرت گنگوہی کی صحبتِ بابرکت میں گزرا، باقی وقت دیوبند، امر وہہ اور وطن ماون (فیض آباد) کے اسفار میں لگ گیا۔ سوال ۱۳۱۹ھ کی آخری تاریخوں میں مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے اور حج و عمرہ وغیرہ کی برکات سے مشرف ہوتے ہوئے ۱۳۲۰ھ کے شروع میں مدینہ طیبہ کی حاضری دوبارہ نصیب ہوئی۔

”بد قسمتی نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایسے اسباب و عوارض پیش آ گئے جنہوں نے قیام نہ کرنے دیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ گھر والوں پر مدینہ منورہ میں سخت عسرت کا حال گزر رہا تھا۔ والد صاحب کے بھی تقاضے آتے تھے جن کی بنا پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد واپسی کا ارشاد فرمایا۔“

”حضرت نے درج بدل اپنے اعزہ کے عطا فرمائے جن سے مدینہ منورہ تک واپسی کی صورت ہو گئی۔ اس زمانے میں بمبئی اور کراچی کے بندر بند تھے۔ پور بندر سے حجاج کی روانگی مقرر ہوئی تھی۔ غالباً ابتدائی سوال میں

جہاز روانہ ہوا۔ ذیقعدہ کی ابتدا میں جدہ پہنچا اور پھر بعد از حج ابتداء

۱۳۲۰ھ میں مدینہ منورہ پہنچنے کا شرف حاصل ہوا۔

مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد تدریس اور اسباق کا مشغلہ شروع فرمایا۔ طالبین علوم اسلامیہ

اور شنکان حدیث و قرآن کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ اور حضرت

رحمۃ اللہ نے قدرے قلیل آرام اور بشری ضروریات کے لیے گنجایش چھوڑ کر شب و روز کا سارا

وقت قال اللہ وقال الرسول کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حتیٰ کہ مشاغل طریقت اور

سلوک و تصوف کے لیے بھی وقت پوری طرح فارغ نہیں رہا۔ روزانہ چودہ پندرہ

اسباق پڑھاتے تھے اور تعطیل کے ایام میں بھی آرام نہیں فرماتے تھے۔ تفسیر، حدیث،

معانی و کلام، فقہ، ادب اور عقائد کی وہ کتابیں جو بڑھو بڑھا چکے تھے وہ تو تھیں ہی مگر

ایسے علوم اور کتابیں بھی زیر درس رہیں جن کے مطالعے اور پڑھنے کا موقع اس سے پہلے

نہیں ملا تھا گویا صحیح معنوں میں اس مصرعے کا مصداق ہو گئے:

”پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے“

اس زمانے کی علمی جدوجہد کا تذکرہ حضرت ہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے:

”اس مدت میں طلبہ میں کافی شہرت ہو چکی تھی۔ ابتدائی کتابیں بھی صاف

ہو چکی تھیں۔ عربی تقریر کی مشق بھی اچھی طرح ہو گئی تھی۔ اس لیے طلبہ کا

ہجوم زیادہ ہوا۔ ضروری تھا کہ کچھ وقت مشاغل طریقت کے لیے روزانہ

مقرر کیا جاتا اور اس میں تعلیم فرمودہ اشغال کو انجام دیا جاتا۔ مگر بد قسمتی

سے جب بھی اس کے لیے بیٹھتا تھا تو ہجوم خواہر و احادیث نفس و

غلبہ قوم سے پریشان ہر جاتا تھا۔ ادھر طلبہ کے ہجوم نے اس پر مجبور

کر دیا کہ جس قدر بھی ممکن ہو ان کو تعلیم کے لیے اوقات دیئے جائیں۔

معاشی ضروریات اور خاندان کی کفالت کے مسائل کا حل بھی ضروری تھا اس لیے

ایک مدرسے میں مدرسہ کی ملازمت بھی اختیار کی جس کی تنخواہ پچیس روپیہ ماہوار مقرر ہوئی۔

مگر اصحابِ علم اور طلباء کے اصرار پر ملازمت کی تدریس سے جو وقت خالی بچتا تھا

اس کا ایک ایک منٹ حرم نبوی کے دروس میں خرچ کرتے تھے۔

”چونکہ طلباء کا ہجوم ہوا اس لیے خارج از مدرسہ اوقات میں حرم محترم نبوی میں پڑھانے لگا۔ صبح کی نماز کے بعد، عصر بعد، مغرب بعد بلکہ عشاء بعد بھی مختلف علوم و فنون کی کتابیں شروع کرا دیں۔“

جو کتابیں ہندوستان میں متداول نہیں تھیں اور جن سے اس سے پہلے تعلق نہیں رہا تھا ان کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔

”بہت سی ایسی کتابیں جن کو ہندوستان میں پڑھایا نہیں جاتا ہے اور مدینہ منورہ، مصر، اتانبول وغیرہ میں وہ داخل نصاب ہیں وہ بھی پڑھانی پڑیں۔ مثلاً اجزیہ، وحلان، کفر اوی، الفیہ، ابن عقل، شرح الفیہ ابن ہشام (نحو میں) شرح عقود النحان، رسالہ استعارات، رسالہ وضعیہ للقاضی عقدہ وغیرہ (معانی و بیان میں) بدلیعہ ابن حجر (بدلیع میں) نور الايضاح ملتقى الابجر ورد وغیرہ (فقہ) شرح مجمع الجوامع للسبکی و شرح مستفی الاصول و رقات و شرح منتهی الاصول وغیرہ (اصول شافعیہ و مالکیہ میں) مسامرہ شرح مسامرہ شرح طوابع الانوار جوہرہ وغیرہ (عقائد میں) الفیہ اصول الحدیث بیقونیہ و دیگر رسائل اصول حدیث میں۔“

اسی طرح فرائض اور منطق وغیرہ کے متعدد رسائل اور کتابیں جن کو یہاں سنا بھی نہ تھا پڑھانا پڑا۔ چونکہ نفس فن میں ان فنون سے مناسبت تھی اس لیے کچھ دشواریاں پیش نہیں آئیں۔ جن کتابوں کو یہاں (ہندوستان میں) پڑھا تھا خواہ تفسیر کی یا حدیث معانی کلام فقہ یا اصول وغیرہ کی، ان کی بھی بارہا نوبت آئی اور بحمد اللہ نہایت کامیابی کے ساتھ یہ دروس جاری رہے۔“

یہ چودہ چودہ اور پندرہ پندرہ اسباق کی ریاضت اور مجاہدہ صرف پڑھانے اور سبق کی تقریر کرنے ہی پر ختم نہ تھی بلکہ ان اسباق کے لیے مطالعہ اور تحقیق تیار اور

ترتیب بھی کرنی پڑتی تھی۔ یہ مطالعہ اور تیاری ایک تو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کی ہوتی ہے جن کو ایک ہفتہ میں چھ یا سات پیپر پڑھ لینے پڑتے ہیں۔ (بیس پیپر لینا سبق پڑھانے سے بالکل مختلف چیز ہے) اور جو ایک ورق پر یا کاپی پر کچھ نوٹ لکھ کر لاتے ہیں اور اسی پر ایک لکچر دیتے ہیں مگر ایک مطالعہ اور سبق کی تیاری حدیث، تفسیر، فقہ اور معانی و بیان کے قدیم علماء، اور اساتذہ کی ہوتی تھی۔ جس میں موضوع اور علم متعلقہ کے سارے ہی مالہ و ما علیہ مستحضر کرنے پڑتے تھے اور کئی کئی کتابیں، شروح اور حواشی کا مراجعہ کرنا پڑتا تھا۔ حضرت نے اپنے اسباق کی تیاری کے بارے میں تحریر فرمایا ہے :

”میں نے حافظہ کی تقویت کے لیے علمائے خیر آباد کا طریقہ اختیار کیا تھا کہ نفس

کتاب یا شرح یا حاشیہ سبق پڑھاتے وقت سامنے نہ رکھتا تھا بلکہ ہر طالب علم

کی قرأت عبارت کے بعد مسائل پر تقریر کرتا تھا اور سمجھاتا تھا۔ گھر پر کتاب

اور اس کی شرح اور حواشی خوب دیکھ کر مسائل کو منضبط کر کے جاتا تھا۔“

اسی سلسلے میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں :

”اس امر کا التزام تھا کہ کوئی کتاب بلا مطالعہ اور بغیر شروح و حواشی پر پوری

طرح نظر ڈالے بغیر نہ پڑھائی جائے۔ اسی وجہ سے دن درات میں تقریباً

ساڑھے تین گھنٹہ سونا ملتا تھا باقی اوقات مطالعہ یا تدریس یا ضرورت

بشریہ وغیرہ میں صرف ہوتے تھے۔“

ان علمی اور تدریسی مشاغل کے ہجوم میں، ایسی عابدانہ اور زاہدانہ زندگی کے

درمیان میں اور ایسے تبحر علمی اور مشیخت کے درجات پر فائز ہوتے ہوئے بھی گھر بار، اہل

خاندان اور والدین ماجدین کی روزمرہ خدمات بھی اپنے ہاتھوں انجام دینی پڑتی تھیں۔

مگر یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ علماء، ہوں یا محدثین ہوں، فضلا ہوں یا مفسرین ہوں

انسانی ضروریات، اہل و عیال کی فرمائشات اور گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ تو سبھی کو

اٹھانا پڑتا ہے۔ تاہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ والدین یا اہل خاندان کی جو خدمات انجام

دیتے تھے وہ بڑی بے مثال اور عظیم الشان خدمات تھی۔

جس وقت حضرت حرم نبوی میں حدیث و تفسیر قال اللہ وقال الرسول کا سبق پڑھا رہے تھے عین اسی وقت میں حضرت کے والد ماجد گھر کی تعمیر میں مصروف تھے۔ حالات کی تنگی کی بنا پر ایسی فراخی میسر نہ تھی کہ تعمیری ضروریات میں مستریوں، راجوں اور مزدوروں کی تعداد بقدر ضرورت مہیا کی جاتی۔ مجبوراً گھر والوں کو بھی کام میں لگنا پڑتا تھا۔ چنانچہ والد ماجد مرحوم جب مجبور ہوتے تھے تو حسین احمد کو بھی مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بلاوا بھیجتے تھے۔ کام بھی کوئی نگرانی یا پاسبانی یا حساب و کتاب کا نہیں تھا بلکہ وہ بیٹا جو مدینہ طیبہ کے اعیان علماء میں شمار ہونے لگا تھا جو حرم پاک میں طلبا و فضلا کو قال اللہ اور قال الرسول کا درس دیتا تھا جو مستقبل قریب میں شیخ الاسلام اور مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے پر فائز ہونے جا رہا تھا۔ باپ کے حکم کی تعمیل میں اینٹیں پاتھنے کے لیے، گارا بنانے کے لیے، مٹی ڈھونے کے لیے اور پتھر اٹھانے کے لیے بحال خندہ پیشانی اور بہ صد طیب خاطر درمیان درس سے یہ کہہ کر اٹھ جاتا تھا کہ اب مزدوری کا کام کرنا ہے اس لیے باقی سبق انگلی فرصت میں ہوگا اور یہ جذبہ بطور خاص قابل صد آفریں ہے کہ اس کے برملا اظہار و اعلان میں ادنیٰ جھجک اور ہچکچاہٹ نہیں تھی۔

"بسا اوقات مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا پڑھاتا ہوتا تھا اور آدمی آتا کہ والد حسب بلاتے ہیں۔ طلبہ کو رخصت کر کے حاضر ہوتا تو فرماتے کہ مٹی اٹھانے والا یا اینٹیں ڈھونے والا مزدور آج نہیں آیا۔ تم اس کام کو انجام دو۔ بہ مجبوری تمام دن یہ کام انجام دینا پڑتا تھا اور تمام اسباق کو معطل کرنا پڑتا تھا۔ بسا اوقات ایک ایک دو دو ہفتہ اسباق معطل کر کے تمام اوقات اسی تعمیری خدمات میں صرف کرنا پڑا۔ بڑے بھائی صاحب اور دوسرے بھائیوں اور بچوں کو بھی ایسا کرنا پڑتا تھا مگر میں سب سے زیادہ مضبوط اور نوجوان تھا اس لیے مجھ پر نزلہ زیادہ گرتا تھا۔ چھوٹے بھائی جمیل احمد مرحوم اور

محمود احمد بھی اگر اپنی تعلیمات سے فارغ ہوتے تھے تو وہ بھی یہ کام انجام دیتے تھے۔ گھرا بانانا۔ گارا ڈھونا۔ اینٹیں پاتنا۔ اینٹیں معماروں تک پہنچانا۔ پانی بھرنے (گارے کے لیے) وغیرہ تمام ضروریات عمارت ہم لوگ انجام دیتے رہے۔

شروع شروع میں جب ہندوستان سے دوسری مرتبہ آمد ہوئی تو درہ شمسہ باغ میں مدرسہ کی ایک ملازمت بھی مل گئی تھی جس کی تنخواہ پچیس روپیہ ماہوار ملتی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ ان طلباء کو جن کے لیے مدرسہ میں اخلاہ ممکن نہیں تھا حرم پاک میں اسباق پڑھاتے تھے۔ مدرسہ کی ملازمت کا میدان تو محدود ہی رہا مگر حرم نبوی کے تلامذہ کا حلقہ روز افزوں وسیع اور مقبول ہوتا گیا۔ مدینہ طیبہ کے مقامی طلباء کے ساتھ دوسرے اسلامی ممالک کے نوجوان اور مجبین علم و فضل جوق در جوق زمرہ تلامذہ میں شامل ہونے لگے۔ یہاں تک کے دوسرے تمام اساتذہ اور شیوخ کے مقابلہ میں حضرت کا حلقہ تلامذہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔

"علوم میں جدوجہد کرنے والے طلبہ کا ہجوم اس قدر ہوا کہ اور علما اور مدرسین کے حلقہ ہارے دروس میں اس کی مثال نہیں تھی۔ بعض بعض علما ایسے بھی تھے کہ ان کے یہاں پہلے پہل رجوع بہت زیادہ تھا مگر بعد میں کم ہو گیا اور ان کے طلباء بھی میرے یہاں آنے لگے۔"

حق تعالیٰ نے مقبولیت، شہرت، عزت اور علمیت کا ایسا درجہ عطا فرمایا تھا تو اس خاندان کا وجود لوگوں کی خاص طور پر علما اور مدرسین اور اعیان کی نگاہوں میں کھٹکنے لگا۔ کچھ تو اس لیے کہ ایک ہندوستانی اور غیر ملکی خاندان جو ابھی چند دنوں پہلے وارد ہوا تھا اور کل تک گناہ اور مفلوک الحال تھا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے مدینہ الرسول میں عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا اور زیادہ تر اس لیے کہ ایک نوجوان نو عمر ہندی عالم ایسا بڑھ گیا کہ عوام و خواص اس کو عرب کے علما پر بھی فوقیت دینے لگے چنانچہ یہ لوگ مختلف طریقوں سے معاندت اور مخالفت کے درپے ہو گئے۔ حضرت کے اخلاقی فضائل اور مناقب میں ایک بڑی فضیلت یہ تھی کہ تمام عمر کبھی کسی معاند، حاسد اور

دشمن کے خلاف نہ کبھی کوئی اقدام کیا، نہ زبان کھولی اور نہ کبھی کوئی توجہ کی۔

”جس طرح بہت بڑی جماعت مجبین اور ارباب عقیدت کی پیدا ہوگئی اسی طرح ایک جماعت حاسدین اور رقبا کی بھی پیدا ہوگئی۔ اس میں غیر علمی ہندوستانیوں اور غیر ہندوستانیوں کی وہ جماعت بھی جو محض اس بنیاد پر بغض رکھتی تھی کہ اس خاندان کو اس قدر مقبولیت اور وقعت کیوں حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ اگرچہ میرے طرز عمل اور اکابر کے اتباع اخلاق و اعمال اور تواضع کی وجہ سے ان کی کامیابی کی صورتیں منصفہ ظہور میں نہیں آسکیں مگر پھر بھی ان کے دلوں میں حسد کے زخم ہرے ہوتے رہے۔“

یہ مخالفتیں، عداوتیں اور رقابتیں ابھی تک اندر ہی اندر سلگ رہی تھیں۔ اس لیے کہ حضرت کے اخلاق حسنة تواضع اور انکساری اور حلم و بردباری نے لوگوں کو کھل کر سامنے آنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ مگر اسی درمیان ایک ایسا موقع پیش آگیا جس نے لوگوں کی ریشہ دوانیوں کو طشت از بام کر دیا۔

۱۳۲۴ء میں مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور اپنی ایک تالیف ”حسام البحرین“ پر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے علماء اور اہل رائے حضرات کی تصدیق و تائید چاہی۔ اس تالیف میں ہندوستان کے اکابر علماء، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوری، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ علیہم پر مختلف قسم کے اتہامات اور تکذیب و تکفیر تھی۔ جھوٹے، بد عقیدہ اور خلاف ایمان اقوال اور عبارتیں ان حضرات اکابر کی جانب منسوب کی گئی تھیں اور اس کے بعد ان پر حکم لگایا تھا۔ معاندین اور حاسدین نے حضرت کے خلاف کارروائی اور سازش کا یہ موقع غنیمت جانا اور خان صاحب موصوف کے ساتھ اس سازش میں شریک ہو گئے کہ پہلے ان کے خلاف فتویٰ تکمیل ہو جائے پھر یہ بات سامنے لائی جائے گی کہ یہی لوگ

مولانا حسین احمد صاحب کے اساتذہ اور شیوخ ہیں بمنسوبے میں یہ بات بھی طے کی گئی کہ اگر مولانا حسین احمد صاحب کو اس کارروائی کا پتہ چل گیا تو ساری ایکم خاک میں مل جائے گی اس لیے کہ تمام اعیان اور ذمہ داران و علما تصدیق و تائید سے اس بنا پر انکار کر دیں گے کہ فیصلۃ الشیخ الاستاذ البکیر الفاضل الاجل السید حسین احمد المدنی جیسے باحدا ولی اللہ اور متبحر عالم کے شیوخ اور اساتذہ ہرگز غلط عقائد کے حامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ ساری سرگرمی نہایت خفیہ اور پوشیدہ رکھی گئی مگر جیسے ہی دو چار علماء کے سامنے خانصاحب کا رسالہ پیش ہوا۔ انھوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے رسالے کا اس کے مضامین کا اور حضرات اکابر کا تذکرہ کر دیا۔ اور حضرت نے فوراً پورا اہتمام توجہ اور وقت خرچ کر کے علماء مدینہ پر خاں صاحب کے رسالے کی حقیقت واضح کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے دستخط کر دیے تھے ان میں اکثر نے خاں صاحب سے مطالبہ کیا کہ ان کا نام حذف کر دیا جائے اور جنھوں نے نہیں کیے تھے انھوں نے رسالے پر کوئی توجہ نہیں کی۔ اس واقعے کے بعد ہی حضرت نے اپنا پہلا رسالہ خاں صاحب اور ان کی جماعت کے بارے میں تالیف فرمایا جس کا نام "الشہاب الثاقب علی المتسرق الکاذب" ہے۔ مسئلہ کی، عقائد کی اور اتہامات اور ان کے جوابات کی صحیح تفصیل و تحقیق تو حضرت کی اس تالیف ہی میں طے کی مگر واقعے کا ہلکا سا خاکہ آپ حضرت کی تحریر سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

"مولوی احمد رضا خاں صاحب بعد از حج مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کی آمد پر یہ زخمی جماعت (مخالف ہندوستانیوں وغیرہ کی) ان کے ارد گرد جمع ہو گئی اور ہمدردی بڑھتی ہوئی وجاہت اور رفعت سے جو خطرات ان کو اپنے عقائد اور خیالات کے متعلق اور اپنی اپنی پوزیشنوں کے بارے میں نظر آ رہے تھے پیش کیا۔ نیز یہ کہا کہ رسالہ حمام البحرین کے خلاف اگر حسین احمد نے کوشش کی تو کامیابی نہ ہو سکے گی اور سبھی عظیم الشان مقصد مولوی احمد رضا خاں صاحب کا تھا یعنی یہ کہ اس رسالے کی تصدیق علماء مدینہ کر دیں اس لیے مشورہ ہوا کہ بڑے بڑے حکام سیاسی اور مذہبی سے ملاقات اور تعارف کرایا جائے اور ان کی

خدمات میں نذرانے پیش کیے جائیں وسائل مہیا کیے جائیں اور متعدد رسائل مولوی صاحب موصوف کے پیش کر کے ان کی علمیت سے مرعوب کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس فیض آباد کے خاندان کو شہر بدر اور جلا وطن کر دیا جائے۔ اس مضمون کے تحت پوری تفصیل، علما، کے عقائد کا تفصیلی تذکرہ اور خاں صاحب کے اتہامات اور ان کے جوابات بڑے شرح و بسط کے ساتھ لکھ کر آخسر میں تحریر فرمایا ہے :

”اس فتنہ پر یہ کوشش بڑے زور سے عمل میں لائی گئی تھی کہ انہی حضرات کے تلامذہ اور تبعین حسین احمد اور اس کے برادران وغیرہ ہیں لوگوں نے کہا کہ آج تک ہم نے کوئی بات ان سے خلاف طریقہ اہل سنت والجماعت نہیں دیکھی تو یہ جواب دیا کہ وہ چھپاتے ہیں اور رفتہ رفتہ وہ سب لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ اس برہمکنڈہ کو سید سلیم مرحوم کابلی کے ذریعہ جو کہ عثمان پاشا والی مدینہ منورہ کے یہاں رسوخ کامل رکھتا تھا عثمان پاشا موصوف تک پہنچایا گیا مگر پول کھل جا۔ نے اور عنایت ایزدی کے شامل حال ہو جانے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ وسلم کی برکات نے ان کو ناکام کیا اور بھگدائے ہمارا کوئی بال بیکا نہ کر سکے، کچھ عرصہ تک ہندوستانی مجاہدین اور بعض ان کے ہمنواؤں میں کچھ نمایاں سچتی رہیں، مخالفتیں بھی لوگ کرتے رہے مگر میرا حلقہ درس بڑھتا ہی رہا۔ قبولیت عامہ اہل مدینہ اور اہل علم و فضل میں روز افزوں ہوتی رہی اور مخالف اشخاص کو ناکامی کے ساتھ ذلت کا بھی سامنا ہوتا رہا۔ اگرچہ ہم نے کبھی کسی سے انتقام اور توہین کا معاملہ نہیں کیا۔ مگر منتقم حقیقی کی سبکدوشی کھلی ہوئی تھیں دو تین ہی سال میں تمام مخالفین کا قلع قمع ہو گیا۔ واللہ الحمد المنہ۔“

قیام مدینہ طیبہ کے اسی دور میں ۱۳۲۶ھ میں حضرت کی پہلی اہلیہ تپ دق میں مبتلا ہو کر انتقال فرمائیں۔ کل چودہ برس ان کی رفاقت رہی اور مرحومہ اپنی یادگار ایک صاحبزادی

زہرا ہر تین برس چھوڑ گئیں۔ انانسہ وانا الیہ راجعون تعلیم تدریس مطالعہ تحقیق اور علمی مشاغل کے لیے حضرت کو جو ذہنی اور دلی سکون و طمانیت میسر تھی اس حادثے کی وجہ سے وہ سب درہم برہم ہو گئی۔ بچی کی پرورش کا سوال ایسا مسئلہ بن گیا جو بروقت بے چین کرنے لگا۔ بالآخر عقدِ ثانی کا فیصلہ کیا گیا، مگر اپنے کفو، خاندان اور بود و باش سے باہر خصوصاً عربی خاندانوں میں شادی کرنا مسائل اور مشکلات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھانے کے مراد تھا۔ موجودہ زمانے کی نیشنل اہل خواتین بہایت شاندار کثیر المصارف شوقین مزاج اور آرام پسند ہوتی ہیں۔ ہندوستانی خواتین میں جو قناعت، جزیسی، سادگی، کفایت شعاری اور تحمل و برداشت ہے۔ وہ دوسرے سارے ہی ممالک کی خواتین میں کم یا بے ہے۔ اصل نسل، خاندان، خون، ہڈی وغیرہ کا جو لحاظ و اہتمام شادی بیاہوں میں ہندوستان میں کچھ عرصہ پہلے تک رکھا جاتا تھا اس کا غیر ممالک میں کوئی سوال نہیں ہوتا۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ہندوستان جا کر وہیں عقدِ ثانی کیا جائے۔

”عرب کی عورتیں بہ نسبت ہندوستانی عورتوں کے زیادہ تر آزاد اور مصارف میں زیادہ تر وسعت پذیر ہیں۔ ان کی خوش خوراک اور خوش پوشی کی فضول خرچیاں معمولی آمدنی سے پوری ہونی مشکل ہوتی ہیں۔ پھر آئے دن رشتہ داروں بالخصوص عورتوں کا آنا جانا۔ قیلہ (پکنک) اور اجتماعات کرنا اور ان کے مصارف کا بار گراں اٹھانا معمولی بات نہ تھی۔ ہندوستانی مجاورین بھی وہاں کی عادات سے کم و بیش متاثر ہو گئے ہیں۔ بڑے بھائی صاحب مرحوم اور عزیزم محمود سلمہ کے نکاحوں سے شجرہ ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں کفو کا ملنا بھی سخت مشکل تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر ہندوستان کا سفر کرنے اور یہاں کفو میں عقد کرنے کا حکم والد صاحب نے نافذ کر دیا۔“

حضرت کو بڑی آرزو تھی کہ ایک بار پھر اپنے شیخ اور اساتذہ حضرت شیخ البند کی

خدمت میں ایک معمولی طالب علم کی طرح زانو سے ادب تہہ کرنے کا موقع نصیب ہو۔ مگر اس خواہش کی تکمیل کی کوئی شکل سامنے نہ تھی۔ نہ معاشی حالات اس کی اجازت دیتے تھے اور نہ والد ماجد سے بلا کسی مقبول وجہ اور شدید مجبوری کے حصول اجازت کی درخواست پیش کی جاسکتی تھی۔

”میری اس زمانہ میں عین خواہش تھی کہ اب جبکہ کتب درسیہ اور مضامین عالیہ علم کلام و فقہ و اصول حدیث و تفسیر وغیرہ کے مستحضر ہو چکے ہیں اور فنی کتابوں پر عبور حاصل ہو چکا ہے کسی طرح حضرت استاذ الاساتذہ، اس المحققین مولانا شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز تک باریابی ہو جائے تو اپنے اشکالات کو حل کرنے اور کتب حدیث کے دوبارہ پڑھنے کا شرف حاصل ہو مگر اس تمنا کے پوری ہونے کے اسباب مہیا نہ تھے۔ اس حادثہ کے واقع ہونے اور والد صاحب مرحوم کے اس حکم سے آرزوؤں کا باغ سرسبز ہو گیا۔“

اور حضرت ۱۳۳۶ھ کے آخر میں ہندوستان روانہ ہو گئے۔ ۱۳۳۰ھ کی ابتدا میں دوسری بار مدینہ طیبہ کی حاضری ہوئی تھی اس طرح اس بار کل سات برس کامل شب و روز دربار نبوی کی درباری اور حرم پاک میں حدیث و قرآن کی مدرسے کا شرف نصیب ہوا۔
ذات فضل اللہ، یوتیہ من یشاء۔

ہندوستان کا دوسرا سفر ۱۳۲۴ھ تا ۱۳۲۹ھ

دوبارہ طالب علمی، دیوبند کی مدرسے، دستار بندی اور نکاح ثانی

یہ سفر شیخ احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں ہوا جو بڑے مخلص، ولی اللہ اور صاحب حال بزرگ تھے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وطن مالوٹ فیض آباد میں ٹاٹ شاہ کی مسجد میں مدرسہ احمدیہ حنفیہ قائم کر کے دین و شریعت کی خدمت انجام دیتے تھے۔ اسی مدرسے میں

حضرت شیخ الہندؒ کے مشہور و محبوب شاگرد و عالم دین حضرت مولانا ضرغام الدین رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش پچاس سال تک قرآن و سنت کی روشنی پھیلاتے رہے۔ حضرت بمبئی سے بذریعہ ٹرین جھانسی اور دہلی ہوتے ہوئے دیوبند پہنچے۔ دلی مقصد چونکہ حضرت شیخ الہندؒ سے استفادہ و استفادہ تھا اس لیے آتے ہی اساتذہ کے اساتذہ ترمذی اور بخاری میں شریک ہو گئے۔ مدینہ طیبہ کا مشہور و مقبول شیخ الحدیث، حرم نبوی میں قرآن و سنت کا مدرس العلم عرب و عجم کے ہزاروں تشنگانِ علوم الہیہ کا اساتذہ دنیائے اسلام اور مسلمانانِ عالم کے ایک بڑے حصے کا مقصد و مطاع آج پھر مدرسہ دیوبند میں اپنے محبوب اساتذہ کی درسگاہ میں ٹاٹ کے بورے پر ایک مبتدی طالب علم کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ اس دوسری طالب علمی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عرصہ دراز تک حدیث و تفسیر، فقہ و عقائد وغیرہ مضامین پڑھانے کے بعد بہت سے ایسے مسائل اشکالات اور سوالات سامنے آئے تھے جن کے متعلق مکمل بحث و تحقیق کی ضرورت تھی اور یہ مقصد حضرت شیخ الہندؒ ہی کے ذریعے حل ہو سکتا تھا۔

”مدینہ طیبہ سے میں سیدھا دیوبند پہنچا اور ترمذی شریف اور بخاری شریف کے درس میں شریک ہو گیا اور بالالتزام ان دونوں کتابوں کو پھر پڑھا۔ مسائل پر پوری بحث کیا کرتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ اس مرتبہ غیر معمولی توجہ فرماتے تھے اور خلافتِ عادتِ تحقیقی جوابات نہایت وضاحت سے دیتے تھے۔“

اس زمانے میں بھی مدرسہ دیوبند تعلیمی اور تنظیمی اعتبار سے بڑے انتشار اور کمزوریوں کا شکار تھا۔ فاضل اور متبحر علماء و مدرسین کی کبھی کمی تھی اور نظم و ضبط بھی متزلزل ہو رہا تھا۔ مولانا محمد یعقوب کا وصال ہو چکا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب مدرسہ کے اہتمام کو چھوڑ کر حجاز ہجرت کر گئے تھے۔ مولانا سید احمد دہلوی صدر مدرس مدرسہ کے حالات سے بیزار ہو کر مستعفی ہو گئے تھے۔ کبھی حضرت حاجی عابد حسین صاحب مقرر ہوتے تھے کبھی منشی فضل حق کو ہتم بنایا گیا۔ پھر مولانا محمد منیر صاحب مقرر ہوئے اور آخر میں مولانا حافظ احمد صاحب مقرر ہوئے۔ اس رد و بدل اور تغیر و تحول کے عرصے کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا اور

تعلیمی سرگرمیاں بھی بہت متاثر ہو رہی تھیں۔

ان حالات میں حضرات اکابر دیوبند حضرت شیخ الہند مولانا حافظ احمد صاحب اور مولانا حبیب الرحمن ہمدانی وقت مدرسہ کی فلاح و بہبودی اور اصلاح و ترقی کی فکر میں سرگرداں رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا حافظ احمد صاحب نے شیخ الہند سے عرض کی کہ اگر کسی طرح مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا عبید اللہ سندھی وغیرہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی مدرسہ میں آجاتے تو دارالعلوم کی علمی ترقی بڑے اعلیٰ پیمانے پر پہنچ جاتی۔ اتفاق سے اس تجویز کے بعد حضرت رحمۃ اللہ کی دیوبند تشریف آوری اور اسباق مذکورہ میں شرکت اور فراغت کا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ باتفاق رائے آپ کا تقرر مدرسہ دیوبند کی مدرسہ پر چوبیس روپیہ ماہوار پر کر دیا گیا اور یہ طے ہوا کہ اگر حضرت مدینہ طیبہ چلے جائیں تو جب بھی واپس آئیں گے بدستور مدرسہ کے مدرس شمار ہوں گے اور از سر نو تعین و تقرر کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ مدرسہ دیوبند اور ہندوستان میں حضرت کا پہلا منصب تھا جو آخری عمر تک باقی رہا۔

۱۳۲۷ھ شوال میں مجھ کو تدریس کا حکم دیا گیا۔ جلسہ اہل شوریٰ نے حضرات ہتھمیں رحمہما اللہ کی خواہش اور تجویز کو پاس کر دیا کہ حسین احمد کو بالفصل ہماہرہ چوبیس روپیہ ماہوار مدرسہ کر دیا جائے اور اس کے بعد جب بھی وہ مدینہ منورہ سے ہندوستان واپس آئے اس کو بغیر تحریری اجازت از مجلس شوریٰ مدرسہ کیا جائے چنانچہ مجھ کو متعدد اسباق اور کئی کتابوں کے لیے گئے۔

مدینہ منورہ میں رہ جانے، بس جانے اور توطن اختیار کر لینے کے بعد حضرت کی ہندوستان واپسی کے ظاہری اسباب تو آئینہ واقعات سے آپ اخذ کر لیں مگر باطنی سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ امت کے اکابر نے تاحیات آپ کو دارالعلوم دیوبند اور اس کے واسطے سے ہندوستان میں علمی دینی اور مذہبی خدمات کے لیے اس موقع پر مقرر کر دیا تھا۔ دینی اور علمی خدمت کا شرف ہونے کے ساتھ حضرت کو بڑی دولت یہ

میترا سہائی کہ شب و روز سفر حضر سوتے جاگتے اور جلوت خلوت میں اپنے محبوب، مرتی، اتا زاد و شیخ کی خدمت اور ملازمت کی سعادت نصیب ہوئی حتیٰ کہ قیام بھی حضرت ہی کے آستانے پر مقرر ہوا۔

تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جس میں میری تو میرا بوجھنا کیا آسماں میرا زمیں میری عین اسی زمانے میں مدرسہ دیوبند کا جلسہ دستار بندی طے پایا۔ یہ اپنی نوعیت اور مخصوص طرز کا عظیم الشان جلسہ تھا۔ اس میں ہزاروں فضیلت مآب علماء جو مدرسہ سے فارغ ہو چکے تھے، شریک ہوئے اور ان کی دستار بندی کی گئی۔ اس کی شان و شوکت انتظام و انصرام اور کیفیات و کارروائیوں کی تفصیل کا یہاں موقع بھی نہیں ہے اور خارج از بحث بھی ہے۔ مگر اتنا تذکرہ یہاں اس لیے کیا گیا کہ جلسے کے انتظام میں حضرت کے ذمہ یہ خدمت کی گئی کہ طلباء کو تقاریر اور خطاب کے لیے تیار کریں اور خود بھی اپنے مواعظ حسنہ سے حاضرین کو مستفیض کریں۔ چنانچہ جب نو عمر اور نوجوین طلباء نے اعلیٰ درجہ کی فصیح و بلیغ اُردو اور عربی زبان میں تقریریں کیں تو سننے والے دنگ رہ گئے اور لاکھوں انسانوں کے مجمع میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ سوئی گر جائے تو آواز سنائی دے۔ طلباء اور کئی علماء کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آقائے نامدار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر فرمائی اور پھر اسی مجمع میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود حسن صاحب نے اپنے محبوب شاگرد اور روحانی فرزند کے سر پر اپنے ہاتھوں سے دستارِ فضیلت باندھی۔ ان کے علاوہ دوسرے علماء نے بھی اپنی جانب سے دستاریں اور عمامے پیش کیے۔ ان تمام علمی اور روحانی مشاغل میں تین سال گزر گئے۔ ہندوستان آنے کا مقصد تقریباً پورا ہو چکا تھا۔

والد ماجد کا حکم عقد ثانی بھی اس طرح پورا ہوا کہ اپنے خاندان میں تو کوئی اپنی لڑکی کو ہمیشہ کے لیے سمندر پار بھیجنے پر رضامند نہیں ہوا۔ مگر حسن اتفاق سے بچھراؤں ضلع مراد آباد کے ایک بزرگ حکیم غلام محمد صاحب اس شرط پر اپنی صاحبزادی کے ساتھ

رشتہ کرنے پر تیار ہو گئے کہ اول تو برات میں تمام اکابر اور علماء دیوبند تشریف لائیں۔ دوسرے یہ کہ رخصتی کے دو ایک سال بعد دلہن کو ہندوستان لا کر سب سے ملاقات کرائی جائے۔ دوسری شرط تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آسان تھی مگر اپنی برات میں صرف شادی کی شرکت کے لیے اپنے اساتذہ اور شیوخ کو زحمت دینا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ مگر اس شرط کے لیے آپ کے روحانی باپ اور اساتذہ شیخ الہندؒ نے فرمایا کہ میں اپنی ذمہ داری پر یہ شرط منظور کرتا ہوں۔ سب کی خوشامد کر لوں گا اور سب کو برات میں لے چلوں گا چنانچہ اکابر امت اور کبار علماء پر مشتمل یہ برات زامدانہ اور فقیرانہ شان سے پچھراؤں تشریف فرما ہوئی اور ۱۳۲۶ھ کے آخر میں حضرت کا دوسرا عقد منعقد ہوا۔ دلہن بھی رخصت ہو کر حضرت شیخ الہندؒ کے دولت کدہ پر آماری گئیں اور مدینہ طیبہ واپسی تک اسی آستانے پر قیام رہا۔ اب والد مرحوم اور دوسرے اہل خاندان کو حضرت کی جدائی شاق گذرنے لگی تھی۔ خود حضرت کو بھی مدینہ منورہ اور سرکارِ دو عالم کے قدموں میں حاضری کے شوق نے بے چین کیا۔ ارض مقدس کے طلباء اور علماء کا تقاضہ بھی سلسل تھا۔ اتفاق سے الہ آباد کے جناب عبد الباقی خاں صاحب مرحوم نے حضرت سے اپنے والد کے حج بدل کے لیے عرض کیا۔ چنانچہ ۱۳۲۹ھ کے آخر میں بمبئی سے ایک آسٹریں جہاز میں اڑ سٹھ روپیہ کرایہ دے کر دس دن کا سفر کر کے پورٹ سعید تک آئے۔ یہاں چھ دن تک دوسرے جہاز کا انتظار کیا جس سے جیفا تک آئے۔ اُس زمانے میں جیفا اسرائیل کے قبضے میں نہیں تھا۔ جیفا سے ٹرین میں سوار ہو کر کل اٹھارہ دن کا سفر طے کر کے مدینہ طیبہ کی خاک پاک کا سرمہ لگایا اور اس بار ہندوستان میں کم و بیش تین سال قیام رہا۔

مدینہ منورہ کا تیسرا قیام ۱۳۲۹ھ ۱۳۳۱ھ

اگرچہ ہندوستان میں اس بار قیام طویل اور غیوبت کا وقفہ زیادہ ہو گیا تھا مگر حضرت کی شہرت اور مقبولیت میں روز افزوں ترقی رہی۔ چنانچہ واپسی کے بعد فوراً

دوس اور ابراق کا سلسلہ شروع ہو گیا اور قرآن و سنت کی خدمت پہننے سے زیادہ محنت اور مصروفیت کے ساتھ جازبی ہو گئی۔ اب آپ کا شمار حجاز کے گبار علماء اور مشائخ میں کیا جانے لگا تھا۔ اُس زمانے کے ارباب حکومت اور ذمہ داران نظم و نسق بھی حضرت کے علم و فضل کے معترف و معقد ہو گئے تھے۔ ایسا اندازہ ہونے لگا تھا کہ اب حضرت کو اور اہل خاندان کو مدینہ طیبہ میں استراحت و استیصال کے ساتھ رہنا اور مشائخ ثلثہ میں آزادی کے ساتھ مشغول رہنے کا موقع نصیب ہو گیا ہے۔ مگر اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے پورے خاندان کی تہمتی بوٹی اجڑ میں پھر بلا کر رکھ دیں۔ حضرت کے بڑے بھائی مولانا صدیق احمد صاحب خاندان کے تمام معاملات اور ضروریات کی بڑی حد تک ذمہ داری اٹھاتے تھے۔ والد ماجد رحمۃ اللہ بھی معاملات میں ان کی رائے اور اقدامات پر اعتماد اور اطمینان فرماتے تھے۔ نتیجے کے طور پر گھر کے سبھی افراد اپنے اوقات معمولات اور مشغولیات میں فارغ البالی کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ شیت ایزدی اور مصلحت خدانہی سے ۱۳۲۰ھ میں کل بیالیس برس میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اناتھروانا الیہ راجون مرحوم نے ایک بارہ تیرہ برس کا بچہ وحید احمد اپنی یادگار چھوڑا۔ اب حضرت کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئیں۔ جیم جینجا پہلے ہی سے آپ کی تربیت اور نگرانی میں تھا۔ اب بمکمل ذمہ داری آپ ہی کے سر آ گئی۔ اسی درمیان میں ایک الجھن اور بھی پیش آئی کہ آپ کے دوسرے خسر حکیم غلام محمد صاحب نے ایفاء شرط اور اپنی عاجزادی کے سلسلہ ہندوستان کا مطالبہ کر دیا۔ موعود اس وقت حج کے لیے آئے ہوئے تھے، ان سے کافی عرض و معروض کی گئی اور مجبوریاں بیان کی گئیں مگر وہ نہیں مانے اور آئندہ ۱۳۲۱ھ میں حضرت کو تین برس تک مدینہ طیبہ میں مقبوتر قیام کے بعد میری بلوہندوستان کا سفر اختیار کرنا پڑا۔

ہندوستان کا تیسرا سفر ۱۳۲۱ھ

یہ سفر حجاز ریلوے کے ذریعے ہوا۔ قافلے میں اہلیہ کے علاوہ سال بھر کے صاحبزادے

الطاف احمد اور نوح عمر یتیم بھتیجے وحید احمد بھی ساتھ تھے جو حضرت شیخ الہندؒ کی خدمت میں حصول علم کے لیے جا رہے تھے۔ ٹرین کے ذریعے فلسطین کی بندرگاہ حیفا تک پہنچے پھر ان کا انتظام حکومت حجاز نے کیا تھا اور قیمت سرکاری خزانے سے ادا کی گئی تھی۔ حیفا اس وقت اسرائیل کی نہیں بلکہ فلسطین کی بندرگاہ تھی اور یہودیوں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا وطن تھا۔ یہاں سے بمبئی تک بحری جہاز کا سفر پچھن روپیہ فی کس کرانے میں ہوا۔ بمبئی سے اہلیہ کے وطن پچھراؤں کے سفر میں صاحبزادے الطاف احمد بیمار ہو گئے۔ بچہ کے چہرے ہرے سے اقبال مندی، ذہانت اور صحت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ ٹرین میں خواتین نے بڑے پیار سے گود میں لیا، کھلایا اور تعریفیں کیں۔ بعض خواتین نے کہا کہ یہ بچہ شکل و شبابت سے ہندوستانی بچہ نہیں معلوم ہوتا۔ شیت خرد اندی کہ الطاف یہاں پہنچے ہی بیمار ہوئے اور پھر جتنے دن رہے بیمار ہی رہے۔ اس لیے حضرت اس مرتبہ زیادہ دن قیام نہ کر سکے اور جتنے دن رہے پریشانی اور اضطراب میں رہے۔ چنانچہ اسی سال کے آخر میں بھتیجے وحید احمد کو حضرت شیخ الہندؒ کی خدمت میں چھوڑ کر مع اہل و عیال کے چوتھی مرتبہ مدینہ طیبہ واپس ہو گئے اور مصارف سفر اس بار بھی مع بدل کے ذریعے پورے ہوئے۔

مدینہ طیبہ کا چوتھا اور آخری دور۔ سیاسی شعور اور سرگرمیوں کی ابتدا ۲۵-۱۳۲۱ھ

اب تک حضرت کی زندگی کی تمام سرگرمیاں اور جوش و خروش، تعلیم و تعلم اور روحانی اشغال و تصوف تک محدود تھا۔ مگر مدینہ طیبہ میں اس مرتبہ قیام کے دوران آپ نے دنیائے اسلام کے حالات اقوام عالم کے سیاسی داؤ بیچ اور مسلمانوں کے مستقبل پر ایک قلب حساس کے ساتھ نظر ڈالی۔ دنیا کے تمام اسلامی ملک جن سے اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں اور خاص کر سرمایہ دار اور سامراجی جماعتیں خائف رہتی تھیں اور جہاں اسلام کا جھنڈا نہ صرف لہراتا رہتا تھا بلکہ اس کے سایے سے سادھی غیر مسلم دنیا متاثر و فیضیاب ہوتی جا رہی تھی اور جہاں اللہ اور رسول اللہ کا نام ذرہ ذرہ پر

شب دروز بلند ہوتا تھا، وہ سارے علاقے اور ممالک ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنے جا رہے تھے اور ان پر استعماری مکرو فریب کے پنجے مضبوط ہو رہے تھے۔ عدن اور اس کے اطراف کے سارے علاقے برطانیہ کے ماتحت ہو گئے تھے۔ فلسطین اور قبلہ اول پر انگریز فتح حاصل کر چکے تھے۔ ترکی کے بہت سے صوبوں بلغاریا، رومانیہ، قبرص، بلقان وغیرہ سامراجی سازشوں کا شکار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ نہر سوئز کو برطانیہ نے خرید لیا تھا اور مصر اور سوڈان برطانیہ کے پنجہ افتداری گرفت میں آچکے تھے۔ شام اور لبنان میں ہزاروں مسلمان عوام و خواص ذبح کیے گئے اور اب یہ اسلامی ممالک فرانس اور برطانیہ کے رحم و کرم پر تھے۔ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی اور وہاں کے عوام و خواص سسک سسک کر توہین و ذلت اور مظلومی کی زندگی گزار رہے تھے۔ حجاز پر انگریزوں کی ریشہ دوانیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں اور شریف حسین خلافت سے بغاوت کر کے خود بادشاہ بننے کی سازشیں کر رہا تھا اور برطانیہ کے ہاتھوں کھلونا بن چکا تھا۔ یہ سارے زخم عالم اسلام کے جسم پر ناسور بن کر رس رہے تھے کہ ۱۹۱۴ء میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی سلطنتِ ترکیہ اور خلافتِ عثمانیہ نے اس جنگ میں جرمنی کا ساتھ دیا اور اتحادیوں یعنی برطانیہ، فرانس وغیرہ کے خلاف جہاد کیا۔ برطانیہ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو جو اس کے ماتحت تھے ترکی اور خلافتِ عثمانیہ سے لڑنے پر مجبور کیا۔ حریت پسندوں اور غیرت مند افراد و اجتماعات کو یہ آخری چوٹ برداشت نہ ہو سکی۔

ان حالات اور واقعات کی تاریخ و تحقیق کوئی پڑھے تو آنکھیں خون کے آنسو رو دیں اور کلیجہ منہ کو آجائے اور کوئی لکھے تو برسوں کی محنت اور ہزاروں صفحات کی تحریر و تسمیہ بھی کافی نہ ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ نے بہت سی باتیں اور حقیقتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں آپ کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ پہلے عالم اسلام پر چاروں طرف سے ضرب کاری بڑی تھی۔ اپنے دور اقتدار اور سامراج کی فریب کاریوں اور مظالم کے تذکرے اور آنکھوں دیکھے حالات آپ نے بزرگوں سے براہ راست سنے اور سمجھے تھے اقتصادیات، ریاضیات

اور تاریخ سے مناسبت اور طبعی دل چسپی ہونے کی بنا پر مسلمانوں کے شاندار ماضی کی داستانیں ان کی معاشی اور اقتصادی ترقیاں اور ان کے اعداد و شمار اور حقائق آپ کے دل پر نقش کا لہجہ تھے۔

”جبکہ میں اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھ کو تاریخ اور جغرافیہ سے خصوصی دل چسپی پیدا ہوئی اور ہندوستان کی پرانی تاریخی عظمتوں اور جغرافیائی قدرتی ہمہ گیر برکتوں نے نہایت گہرا اثر کیا۔ اور پھر اہل ہند کی موجودہ بے کیوں کا اثر روز افزوں ہوتا رہا۔ طالب علمی کے زمانے میں اس احساس میں ترقی بھی ہوتی رہی۔ اس زمانے کے ختم ہونے پر مجھ کو آزاد ممالک عرب، مصر، شام وغیرہ کی سیاحت اور قیام کی نوبت آئی اس نے مجھ کو وطن کی محبت میں اور زیادتی پیدا کر دی اور اس احساس کو نہایت قوی کر دیا کہ آزادی کس قدر ضروری چیز ہے اور بغیر آزادی کے کسی ملک کے باشندے کس قدر بے بس اور اپنے ملک کی قدرتی فیاضیوں سے محروم ہوتے ہیں۔“

ہوش آتے ہی حضرت شیخ الہندؒ جیسے مجاہد آزادی، انقلاب پسند مفکر اور سیاسی رہنما کی فکری ذہنی اور روحانی توجہات خصوصیت کے ماتحت تربیت پائی تھی۔ اس کے فوراً ہی بعد خلافت اسلامیہ کے مرکز سرزمین حجاز میں قیام کا موقع پیش آیا اور اقصائے عالم کے علماء، مفکرین اور فضلا سے ملاقات اور تبادلہ خیالات اور واقعات و حالات کے براہ راست مطالعہ و مشاہدہ کی نوبت آئی۔ چنانچہ اس بار دوران قیام اگرچہ بظاہر حسب معمول اپنے علمی روحانی اور تدریسی معمولات میں مشغول رہے مگر ساتھ ہی احساس اور غیور دل و دماغ میں اندر ہی اندر احساس اور درد مندی کا لاوا پکنا شروع ہو گیا۔

حضرت کے حلقہٴ درس میں عالم اسلامی کے زیادہ تر ملکوں کے نوجوان شریک تھے۔ آپ کے خیالات، احساسات اور جذبہٴ اسلامی کا اثر بلا کسی قصد ارادے کے

بھی ان پر بڑا لازمی اور فطری بات تھی مگر اس کے علاوہ بھی حضرت اسلامی دنیا کی حالت زار پر توجہ دلا کر ان کی ذہنی تربیت و تعمیر کرتے تھے۔ مبصر، سوڈان، ترکی، الجزائر اور افریقہ کے مختلف مسلمان نوجوان جذباتِ حریت اور قومی و ملی احساسات سے بہرہ ور ہو چکے تھے۔ اس سلسلے کی ساری تفصیلات، افراد و اشخاص کے حالات اور اس وقت کے پورے واقعات کا جوئے شیر تو کسی فرما دیں گے بس کی بات ہے تاہم حضرت کے رجحانات کا اندازہ کرنے کے لیے ایک واقعہ بھی کافی ہو سکتا ہے۔

الجزائر کے سپہ سالار و مجاہد آزادی اور اس ملک میں روحِ حریت کے بانی الشیخ عبدالمجید بن بادیس اس وقت حضرت کے حلقہ فیضانِ برکات میں شامل تھے۔ ان کے ہواخانہ نگار جناب ترکی رائج لکھتے ہیں۔ ” (مدینہ طیبہ میں شیخ بن بادیس) کے سابق شیخ الاستاذ حمدان مونیسی نے ان کو الجزائر سے ہمیشہ کے لیے ہجرت اور حجاز مقدس میں مستقل قیام کا مشورہ دیا۔ لیکن (جناب) شیخ حسین احمد الہندی نے اُس مشورے کے خلاف ان کو الجزائر واپس جانے کی نصیحت کی اور فرمایا کہ تمہارا واپس جانا ضروری ہے کیونکہ الجزائر تمہارے علم و عمل کا زیادہ مستحق و محتاج ہے۔ چنانچہ وہ شیخ موصوف کی حکمت آمیز نصیحت پر عمل پیرا ہو کر واپس چلے آئے اور حجاز میں قیام کا ارادہ ترک کر دیا۔ خود شیخ بن بادیس نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے ”مجھے یاد ہے کہ جب میں مدینہ طیبہ گیا تو اپنے شیخ اتاذ حمدان مونیسی سے اور اپنے دوسرے شیخ حسین احمد الہندی سے ملا۔ مقدم الذکر وطن سے قطع تعلق کر کے مدینہ طیبہ ہجرت کا مشورہ دیا اور موخر الذکر نے جو بڑے عالم ہونے کے ساتھ صاحبِ رائے بھی ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ وطن واپس جاؤ اور جس قدر ممکن ہو اسلام اور وطن کی خدمات انجام دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ حسین احمد الہندی ہی کے فرمانے کو پورا کیا۔“

اس بارے میں مجاہدِ ملت حضرت مولانا حفیظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

”عہدِ شباب کی بات ہے کہ وہ (مرد حق آگاہ) سید المرسلین رحمۃ اللعالمین کے

حرمِ اطہر میں درس و تدریس کے ذریعہ قال اللہ وقال الرسول کی خدمات انجام دیا کرتا تھا اور شرقِ اوسط، افریقہ، چین اور جزائرِ مشرقِ الہند کے کشمکشِ علوم

اور رہ نوردانِ طریقت و سلوک اس کے ظاہری و باطنی کمالات اور ملکات سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ مگر اس کی نگاہِ حقیقت آگاہ نے جب یہ دیکھا کہ حیاتِ ملی کس طرح مظلومیت کی قربان گاہ پر پھینٹ کی جا رہی ہے اور انسانیت کس طرح درد و کرب میں مبتلا ہے تب وہ خدماتِ ملی کے تنہا اس گوشہ پر قانع نہ رہ سکا، اس نے نہ صرف دنیائے اسلام بلکہ عالمِ اسلامی پر گہری نظر ڈالی۔ وہ نظر جو رحمتہ للعالمین کے جوار کے طفیل میں رحمت و شفقت، محبت و رافت اور ہمدردی و غم خواری کے جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی جس کی وسعت فرقہ واریت کی تنگنائیوں سے آزاد اور تخریب و گروہ بندی کے گرد و غبار سے پاک تھی۔

یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت کے قلب و نظر کی دنیا میں بے چینی، احساس و شعور میں سیاسی بیداری اور ہمت و حوصلہ میں عزم و ارادہ کی بنیاد پڑی۔ اب اسلاف و اکابر اور اساتذہ و مشائخ کی امانت کی اور مجاہدین ۱۸۵۷ء کے حقوق کی ادائیگی کا وقت آ پہنچا تھا۔ اسلام اور دنیائے اسلام کی بیخ کنی کرنے والوں کے خلاف اشتعال و انتقام کی چنگاری لودینے لگی تھی چنانچہ ایک خاموش عالمِ محدث مفسر ایک گوشہ نشین مدرس اور ایک روحانی و خانقاہی درویش میدانِ جہاد کا علمبردار اور آسمانِ سیاست کا شہسوار بن کر اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوا۔

در کفہ جامِ شریعت در کفہ ندانِ عشق ہر ہونہ کے نہ داند جام و ننداں باختن اس آہنی عزم و ارادہ اور سرفروشانہ فیصلہ کا تذکرہ حضرت ہی کی زبانی سننے چلیے۔

”اس جنگِ عظیم نے سوانحِ زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا یعنی سیاسیات سے میرا تعلق اور برطانوی سامراج کے مقابلے میں عزمِ انقلاب جس طرح میری علمی زندگی کا منبعِ فیض حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ العزیز تھے ایسے ہی سیاسی زندگی کا سرچشمہ بھی حضرت شیخ کے

افکار و خیالات اور وہ جذبات تھے جو عرصہ دراز سے حضرت شیخ کے سینہ پر نور اور ضمیر روشن میں پرورش پا رہے تھے اور جن کی چنگاریاں جنگ عظیم نے بھڑکا دی تھیں۔

اس موقع پر اتحادیوں نے ترکی کے خلافت ساز شیخوں اور ریشہ دوانیوں کی آخری حد تک پہنچا دیں تو خلیفۃ المسلمین نے جرمنی کے ساتھ معاہدہ کر کے برطانیہ و غمبہ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر اعلان جنگ کر دیا۔ ایک انگریزی اخبار "گرانک" نے خلیفۃ المسلمین کی تصویر شائع کی جس میں وہ جہاد کے فتویٰ کا اعلان کر رہے ہیں اور اس پر یہ عنوان دیا کہ "سلطان جہاد کا اعلان کر رہے ہیں ترکی خود ہی اپنی موت کا فتویٰ دے رہا ہے" اس اعلان پر تمام دنیا کے مسلمانوں اور عالم اسلام میں ایک آگ لگ گئی اور وہ جماعتیں اور مسلم ملک جو اتحادی طاقتوں کے دامن سے وابستہ یا ان کے زیر اثر نہیں تھے دامے درمے قدمے سختی جہاد میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور پوری ہندوستانی حریت پسند قوم برطانیہ کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں بھی جوان فوجی اور والٹیر فوج میں بھرتی ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اس سلسلے میں مدینۃ الرسول کے ایک میدانِ مناخہ میں عظیم الشان اجتماع ہوا جس میں فریضہ جہاد اور قومی و دینی جمعیت وغیرت کی ہمت افزائی پر وعظ اور تقریریں کی گئیں۔ ایک مشہور مقبول اور ممتاز عالم دین اور محدثِ وقت کی حیثیت سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس اجتماع میں ایک بصیرت افروز اور شعلہ بار تقریر فرمائی۔ یہ بیانات میں حضرت کی عملی شمولیت کا پہلا دن اور زندگی کی پہلی سیاسی تقریر تھی انھی دنوں حضرت کے اکابر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور حضرت شیخ الہند مع اپنے رفقاء مولانا عمر یوگل صاحب، حکیم نصرت حسین صاحب، مولانا وحید احمد مدنی کے ہندوستان سے پہنچ گئے تھے۔ حضرت شیخ الہند جہاد آزادی کے مجاہد جنگِ افغانستان

اور یاغستان جانے کے لیے اور حکومت عثمانیہ سے اس محاذ کے لیے رسد اور اسلحہ حاصل کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ ان سب حضرات نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے دولت کدے پر قیام فرمایا۔ شیخ الہند مدینہ طیبہ میں اپنے مشن اور مقصد کے لیے کام کر کے مکہ مکرمہ واپس آئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا وحید احمد مدنی بھی مکہ مکرمہ کے اس سفر میں ہمراہ رہے۔ حضرت کا پروگرام یہ تھا کہ مکہ اور جدہ تک خدمات ضروریہ اور ہمراہی کا شرف حاصل کر کے مدینہ واپس چلے جائیں گے مگر نیرنگی تقدیر سے یہ روانگی مدینہ طیبہ سے آخری سفر ثابت ہوئی اور پھر مستقل قیام کی غرض سے تاحیات مدینہ طیبہ واپسی نہیں ہوئی۔ اس بار قیام میں حضرت کے اکلوتے صاحبزادے الطاف احمد جو ہندوستان ہی سے بیمار آئے تھے 'ذخیرہ آخرت' ہوئے اور اس مرتبہ کل چار برس تک قیام رہا۔ کل ملا کر کم و بیش پندرہ سال تک حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ وسلم کے قدموں میں درس و تدریس، روایت حدیث اور قال اللہ و قال الرسول کی خدمات کی انجام دہی کا فخر اعزاز اور سعادت نصیب ہوئی جو مندرجہ ذیل اجمالی نقشے سے ظاہر ہے۔

پہلا قیام	ابتدائے	۱۳۱۷ھ	تا انتہائے	۱۳۱۸ھ	دو سال
دوسرا قیام	"	۱۳۲۰ھ	تا	"	۱۳۲۶ھ
تیسرا قیام	"	۱۳۳۰ھ	تا	"	۱۳۳۱ھ
چوتھا قیام	"	۱۳۳۲ھ	تا	"	۱۳۳۵ھ

شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی

واقعات کے تسلسل کے لیے اس جگہ حضرت شیخ الہندؒ اور ان کی قربانیوں اور جنگ آزادی کا اجمالی تذکرہ اور تعارف مناسب ہے۔ حضرت دیوبند کے عثمانی خاندان کے فرزند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے روحانی اور علمی شاگرد و جانشین اور دارالعلوم دیوبند کے محدث اور صدر مدرس تھے۔ آج دیوبند کے نام سے اسلامی دنیا میں جو مکتب فکر و عمل اور تحریک رواں دواں ہے اس کا سرچشمہ مکمل طور پر آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ اس طرز دنیائے اسلام کے چہ چہ پر ہزاروں علماء، صلحاء، فضلاء اور دینی رہنماؤں کا سلسلہ فیض و برکات آپ ہی پر منتہی ہوتا ہے۔ آپ اگرچہ بظاہر ایک گوشہ گیر عالم دین اور بورینہ نشین درویش تھے مگر حقیقت میں اس کے ساتھ ہی وہ ایک انقلابی مفکر اور حریت پسند مجاہد تھے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں آپ کے اساتذہ اور مشائخ حاجی امداد اللہ صاحب، مولانا محمد قاسم صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہ نے میدان جنگ میں شمشیر بکھٹ مشرک ہو کر داد شجاعت دی تھی۔ اگرچہ بالکل وقتی طور پر یہ جنگ ملتوی ہو گئی تھی اور برطانیہ کی طرف سے ان مجاہدوں کے لیے پھانسی کی سزا کا فیصلہ ہوا تھا مگر ان حضرات نے اپنی طرف سے نہ شکست تسلیم کی نہ جنگ بند کی۔ کسی نہ کسی طرح روپوش ہو کر اپنی جانیں بچائیں اور علم جہاد کی امانت اپنے علمی روحانی اور سیاسی وارث محمود حسن کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ اب اسی وراثت کی حفاظت اور امانت کی ادائیگی کے لیے اساتذہ اپنے روحانی اور علمی فرزند حسین احمد کو تیار کر رہے تھے کہ جب تک فتح کامل نصیب نہ ہو جائے اور ہندوستان آزادی سے ہمکنار نہ ہو جائے، ۱۸۵۷ء کا علم جہاد سرنگوں نہ ہونے پائے اور جنگ آزادی پورے حوصلہ ہوشمندی اور جاں نثاری کے ساتھ جاری رہے۔ جنگ عظیم کا زمانہ ۱۹۱۴ء وہ زمانہ تھا کہ اس وقت تک ہندوستان کے کسی گوشے سے آزادی کامل

کی آواز نہیں اٹھ سکی تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس اس وقت تک ایک معتدل جماعت تھی جس کا نصب العین ہندوستان اور برطانیہ میں دوستی قائم کر کے آہستہ آہستہ حکومتِ برطانیہ کے زیرِ سایہ حکومتِ خود اختیاری قائم کرنا تھا۔ کانگریس برطانیہ کے ساتھ اور مہاتما گاندھی جنگ میں انگریزوں کے حامی تھے اور رینگوٹ بھرتی کر رہے تھے۔^۱

سر سید جو اس وقت مسلمانوں کے مصلحِ اعظم تھے، ان کی ساری سرگرمیوں کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ ”مسلمانوں کو انگریزی حکومت پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے، وہی ان کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے اور ان کو انتظامیہ میں بااثر نمائندگی عطا کر سکتی ہے۔^۲ سر سید کا منشا یہ تھا کہ مسلمان انگریز کی غلامی میں جکڑے رہیں، انگریز ہندوستان سے نہ جائیں،^۳ غلامی کے ایسے تاریک دور میں جب روشنی کی ایک ہلکی سی کرن بھی نہیں دکھائی دیتی تھی، شیخ الہند وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے ہندوستان کی مکمل آزادی کے لیے غور و فکر کر کے جدوجہد اور قربانی کا ایک لائحہ عمل تیار کیا۔ اور یہ فیصلہ کیا کہ ملک اور قوم کو مدرسہ و خانقاہ، تعلیم و تدریس اور دفتر و کتاب سے زیادہ آزادی، عزت، وقار اور سلامتی کی ضرورت ہے۔

چنانچہ حضرت نے پوری رازداری اور خفیہ طور پر سفر و مشور، مجاہدوں اور جاں بازوں کی ایک جماعت تیار کی جس میں ہندو مسلمان سکھ سب شریک تھے۔ ”اپنے مکان کے قریب ایک مستقل مکان کرایہ پر لے رکھا تھا جس کو کوٹھی کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے، اس میں حضرت کے غیر مسلم ہم خیال دوست اور رفقاء انقلاب ٹھہرا کرتے تھے۔ ان کو نہایت رازداری کے ساتھ ٹھہرایا جاتا تھا۔ اور حضرت اور ان کے درمیان مکمل تنہائی اور رات میں مشورے ہوتے تھے۔ یہ لوگ انقلابی ہندو اور سکھ ہوتے تھے۔ چونکہ معاملات نہایت رازداری کے ساتھ انجام پاتے تھے اور چونکہ ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک تحریک سے بالکل غیر متعلق تھے اس لیے ان لوگوں کے

۱۔ تحریکِ خلافت از قاضی عدیل عباسی، ص ۵۴

۲۔ سر سید کی ایک تقریر سے اقتباس بحوالہ تحریکِ خلافت از قاضی عدیل عباسی، ص ۵۸

۳۔ تحریکِ خلافت، ص ۵۸

نام اور پتے معلوم نہیں ہو سکے اور نہ کبھی تمتع اور تلاش کی نوبت آئی۔
اس میں شریک ہونے والے تمام حضرات کی پہلے پوری طرح جانچ کی جاتی تھی اور پھر
ان سے حلف و فاداری لے کر جہاد پر بیعت لی جاتی تھی اور ان کو ضروری ٹریننگ دی
جاتی تھی۔ تحریک دن بدن زور پکڑتی رہی اور اس کے برگ و بار پھیلنے لگے تو ایسے
خطرناک اوقات بھی آئے کہ لوگوں کو تشویش ہونی شروع ہوئی۔

”مولانا عبدالرحیم صاحب مرحوم رائے پوری نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت شیخ الہندؒ
لوگوں سے بیعت جہاد لے رہے ہیں، یہ تو بہت خطرناک امر ہے۔ انگریزوں
کو خبر ہوگی تو دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور مسلمانوں کا یہ دینی
اور علمی مرکز اجاڑ دیا جائے گا۔ چونکہ مجھ کو اس کی کوئی خبر نہ تھی اس لیے میں
نے لا علمی کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ میں خود حضرت شیخ الہندؒ سے پوچھوں گا۔
واقعہ یہی تھا کہ باوجودیکہ مجھ پر بہت زیادہ کرم فرماتے تھے مگر اس وقت تک
کسی کارروائی کی خبر نہیں کی گئی۔ مولانا خزیر گل صاحب نے حضرت شیخ الہندؒ
سے عرض کیا کہ حسین احمد کو بھی اس مشن میں شامل کرنا اور اپنی کارروائیوں
کی خبر دینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ صرف چند دنوں کے لیے ہندوستان آیا
ہے اس کو متوش مت کرو۔ میں نے رائے پور سے واپسی پر مولانا عبدالرحیم
صاحب کا مقالہ ذکر کیا۔ تو حضرت شیخ الہندؒ نے فرمایا کہ حضرت مولانا
محمد قاسم صاحب نانوتویؒ نے دعا فرمائی تھی کہ پچاس برس تک دارالعلوم
قائم رہے، سو بھجوانے پچاس برس گزر چکے ہیں اور دارالعلوم اپنی خدمات
باحسن و جود انجام دے چکا ہے۔ میں یہ جواب سن کر دم بخود ہو گیا اور
سمجھ گیا کہ حضرت کا اس امر میں بختہ خیال قائم ہو گیا ہے۔ اب اپنے ارادے
سے ٹل نہیں سکتے اور نہ کوئی ہٹا سکتا ہے۔“

حضرت شیخ الہندؒ نے اپنے محاذِ آزادی کے کئی مرکز دیوبند، دہلی، کراچی، دین پور شریف، چکوال، امرتسر وغیرہ ہندوستان میں قائم کیے اور ہر جگہ مختلف حضرات کی سربراہی میں تحریکِ آزادی کے لیے مجاہدین سے جہاد پر بیعت لی جا رہی تھی اور لوگ جوق در جوق تحریک میں شریک ہو رہے تھے۔ آزاد قبائل کے علاقہ یاغستان کو جدوجہد کا عملی مرکز مقرر فرمایا اور وہاں اپنے سپاہیوں اور قائدین مولانا سیف الرحمن، مولانا فضل محمود اور مولانا محمد اکبر صاحب کو ہندوستان سے روانہ کر کے برطانوی حکومت پر حملہ کے لیے مجاہدین کی تنظیم کا حکم دیا۔

۱۹۱۴ء کی جنگِ عظیم میں جب انگریزوں کی چیرہ دستیاں ہندوستانیوں اور مسلمانانِ عالم کے خلاف حد سے زیادہ تیز ہو گئیں تو حضرت شیخ نے اپنے خاص سپہ سالار حاجی صاحب ترنگ زئی کو مطلع کیا کہ اب مزید انتظار کا وقت نہیں ہے، فوراً مناسب وقت دیکھ کر طبلِ جنگ بجا دیا جائے۔ اس وقت تک مجاہدین کی فوج کافی طاقتور ہو چکی تھی چنانچہ حاجی صاحب موصوف کی قیادت میں برطانیہ کے کیمپوں پر حملہ بول دیا گیا اور باضابطہ جنگ جاری ہو گئی جس میں برطانیہ کو پے در پے جانی و مالی نقصان اور سپاہیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جنگ بغیر دوسرے ملکوں اور حکومتوں کے اتحاد، امداد اور سہائے کے کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، اس مقصد کے لیے حضرت شیخ نے پہلے ہی سے مختلف ملکوں افغانستان، ترکی، جرمنی وغیرہ کی طرف اپنے سفیر مولانا عبد اللہ سندھی، مولانا محمد میاں منصور انصاری، مولانا سیف الرحمن صاحب وغیرہ روانہ کر دیئے تھے۔ یہ حضرات حکومتِ برطانیہ سے چھپ کر بھیس بدل کر اور بڑے شائد اور آبلہ پائیاں برداشت کر کے اپنے اپنے مرکزوں پر پہنچ کر نہایت کامیابی کے ساتھ سرگرم عمل تھے۔

۱۔ نقشِ حیات، ج ۲، ص ۲۰۲۔

۲۔ ایضاً، ص ۲۱۰۔

۳۔ ایضاً، جلد ۲۔

حضرت کے ان سفیروں میں سے بعض حضرات نے راجہ ہند پر تاپ ، ڈاکٹر معتمد اس اور مرزا محمد علی وغیرہ سے مل کر کام کو بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ راجہ صاحب مذکور حضرت کے معتمد اور معتقد تھے۔ ان سب حضرات نے جنگ کو جاری رکھنے اور حکومتوں کی تائید و مدد حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کی موقتہ حکومت کی بنیاد ڈالی۔ راجہ صاحب اس کے صدر اور مولانا عبید اللہ سندھی وغیرہ اس کے ممبر تھے۔ بعض حکومتوں نے اس موقتہ حکومت ہند کی مکمل تائید و نصرت شروع کر دی تھی اور ادھر جنگ پوری ہوش مندی اور تدبیر کے ساتھ جاری تھی کہ حضرت شیخ الہند کے پاس یاغستان سے متواتر رپورٹیں موصول ہونے لگیں کہ رسا اور اسلحہ کی کمی کی وجہ سے محاذ جنگ کمزور پڑ رہا ہے۔ حضرت اس کی تدبیروں پر غور فرما رہے تھے اور خود یاغستان ، افغانستان اور ترکی کا پروگرام بنا رہے تھے کہ اچانک بہت خاص ذرائع سے ڈاکٹر مختار احمد صاحب انصاری اور حکیم عبدالرزاق صاحب انصاری وغیرہ کو اطلاع ملی کہ شیخ الہند کا پورا منصوبہ اور تحریک حکومتِ برطانیہ کے علم میں آ چکی ہے اور حکومت آپ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔

حقیقت میں شیخ الہند کا یہ کارنامہ اور پروگرام ہندوستان کے کسی بھی لیڈر اور قائد آزادی کے کارناموں سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی قرا نہیں دیا جاسکتا۔ حضرت کی اس تحریک کے تیس پینتیس برس بعد سبھاش چندر بوس نے بھی اسی سے ملتا جلتا پروگرام بنایا اور بھیس بدل کر افغانستان ہی کے راستے جرمنی وغیرہ نکل گئے اور آزاد ہند فوج قائم کی اور پھر اسی راستے میں ملک پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ان کو ہندوستان نے جو درجہ دیا اور جیسا نام اور احترام ان کا ہوا، وہ بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ راقم الحروف نے دلی کے لال قلعہ میں ایک کرسی دیکھی جس پر آزاد ہند فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے وہ بیٹھے تھے، وہ یادگار کے طور پر قلعہ کے میوزیم میں

رکھی ہوئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سبھاش اسی عزت و احترام کے مستحق تھے مگر ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ناقابلِ نظر اندازی ہے کہ شیخ الہند کی ذاتِ گرامی اُن سے زیادہ نہیں تو اُن سے کم قابلِ احترام نہیں ہے اور ان کا نام بھی تاریخ میں سنہرے حروفوں سے ثبت ہونے کا مستحق ہے۔ مگر زمانہ کی نیرنگی ملاحظہ فرمائیے کہ وہ آستانہ جہاں یہ تحریک پروان چڑھی تھی، جہاں ۱۸۵۷ء کے بعد جنگِ آزادی کی ابتدا ہوئی تھی، وہ مرکز جہاں ہندوستان کے بڑے بڑے سپاہیوں، سپہ سالاروں اور علماء و فضلاء نے زانوے ادب تہہ کیا تھا، آج ویران پڑا ہوا ہے۔ کسی کو یہ خیال نہیں گذرا کہ یہ دولت کدہ بھی قومی آثار میں ایک اہم یادگار کا درجہ رکھتا ہے۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں جہاں نہایت معمولی اور تیسرے درجے کے سپاہیوں کا تذکرہ بڑے الفاظ اور اہم عنوانات سے کیا گیا ہے۔ اس سپہ سالارِ عظیم اور آزادی کی جدوجہد کا سنگِ بنیاد رکھنے والے بطلِ جلیل کا نام تک نہیں ہے۔

بہر حال جماعت کو جب گرفتاری کا خطرہ لاحق ہوا تو یہ پلان بنایا گیا کہ حضرت شیخ حج کے ارادے سے حجاز روانہ ہو جائیں اور وہاں سے ترکی وغیرہ ہوتے ہوئے افغانستان اور یاغستان پہنچیں۔ چنانچہ بڑی رازداری اور حسن تدبیر کے ساتھ بمبئی ہوتے ہوئے آپ کا قافلہ ۱۶ ستمبر ۱۹۱۵ء کو حجاز کے لیے روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری مرحوم اس اسکیم میں دلمے دلمے قدمے سنبھلے اور ہر موقع پر نہ صرف یہ کہ شریکِ کار رہے بلکہ انہی کے مشوروں پر یہ قافلہ حق سرگرم سفر را۔ انڈین نیشنل کانگریس اس وقت تک گوپال کرشن گوکھلے، بال گنگادھر تلک، مسز اینی بسنٹ اور دادا بھائی نوروجی وغیرہ کی لیڈرشپ میں صرف کچھ سیاسی رعایتیں اور گورنمنٹ برطانیہ سے مہربانیوں کی طلبگاری تھی۔ ۲۸ سالہ محمد علی جناح قانونی قابلیت، ہوشیاری اور موقع شناسی کی بدولت بمبئی کے عوام و خواص میں بھی مقبول ہو رہے تھے، گورنمنٹ برطانیہ کے مخصوصین میں شمار ہونے لگے تھے اور کانگریس میں بھی لیڈرانہ مقام حاصل کر رہے تھے۔ مگر کون کانگریس؟ وہ نہیں جو مکمل آزادی کی طلبگاری تھی بلکہ صرف وہ جو حکومت

برطانیہ کی مہربانیوں کے لیے عرضی گزار تھی۔ گاندھی جی ابھی افریقہ ہی میں تھے، اور وہاں کے ہندوستانیوں کی عظیم اشان خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہی میں ایک خدمت یہ بھی تھی کہ برطانیہ اور حکومت برطانیہ کے لیے زنگر وٹ اور رضا کار بھرتی کر رہے تھے اور انگریز کے انعامات، تحفہ جات اور القاب سے بہرہ ور ہو رہے تھے۔ چار برس پہلے ۲۲ سالہ ابوالکلام آزاد نے اپنے اخبار "الہلال" کے ذریعے ملک میں ایسا صور پھونکا تھا جس سے سوئے ہوئے دماغ اور دل جاگ اٹھے تھے اور شیخ الہند نے فرمایا تھا کہ "الہلال نے ہمیں وہ فرض یاد دلایا جو ہم بھول چکے تھے۔" یہ تھا وہ ماحول جس میں چند سرفروشیوں کا یہ قافلہ ملک کی قربان گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ گورنمنٹ نے روانگی سے پہلے ہی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا تھا۔ مگر چونکہ حضرت کی روانگی حج کی خبر سے عام ہو گئی تھیں اس لیے ہر ہر قدم پر اور ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر ہزاروں انسانوں کا جم غفیر زیارت کے لیے اٹھ اڑتا تھا۔ اس لیے افسران متعلقہ نے مناسب نہ سمجھا کہ اس طرح علانیہ گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ بہتر یہ سمجھا گیا کہ جب ممبئی پہنچیں تو روک لیا جائے۔ خوش قسمتی سے گورنمنٹ ممبئی کو احکام اس وقت پہنچے جب بحری جہاز حضرت کو لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری بس پردہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اول تو احکامات تاخیر سے صادر ہوں اور جب صادر ہی ہو جائیں تو ان کے ارسال کرنے میں دیر کی جائے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے عدن کے گورنر کو احکامات بھیجے تو وہاں بھی تاخیر کی وجہ سے گرفتاری عمل میں نہ آسکی۔ اب عدن کے گورنر نے جدہ کو احکامات بذریعہ تاریخ بھیجے کہ جہاز پہنچے ہی پاکستان کو گرفتاری کے آرڈر مل جائیں گے۔ اس وقت حجاز حکومت نے یہ انتظام کیا تھا کہ حجاج کو بجائے جدہ کے جزیرہ سعد میں اتار کر یہاں سے مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ جدہ میں پاکستان کو احکامات ملے تو حجاج حکومت حجاز کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور اب گرفتاری بذریعہ معمولی وارنٹ نہیں بلکہ دو حکومتوں کے درمیان باضابطہ خط و کتابت ہی کے ذریعہ ہو سکتی تھی۔ حضرت کی نگرانی کے لیے حکومت برطانیہ کی سی آئی ڈی کا جو عملہ سفر کر رہا تھا حکومت ترکی نے حضرت

کے جاں نثاروں کی اطلاع پر جزیرہ سعد میں آتے ہی اس عملہ کو گرفتار کر لیا مگر پھر بھی کچھ افراد اس عملہ کے نظر انداز ہو گئے اور حضرت شیخ کے ساتھ لگے رہے۔

مکہ مکرمہ پہنچے ہی حضرت شیخ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور مختلف مقتدر اور بااثر افراد اور جماعتوں سے ملاقات کر کے ان کو اپنے مشن کی اہمیت سمجھائی۔ آخر میں سلطنت عثمانیہ کے گورنر حجاز غالب پاشا سے ملاقات کی اور ان کو اپنے کام کا نقشہ اور تحریک کی اہمیت سمجھا کر فرمایا کہ میں ترکی جانا اور انور پاشا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اس سلسلے میں ضروری سہولتیں اور اعانت ہتیا کریں۔ غالب پاشا نے مسئلہ کے بہر پہلو پر غور کر کے اور مکمل طور پر تبادلہ خیال کر کے عرض کی کہ ہم ہر طریقے سے تحریک کو بقدر امکان تقویت بہم پہنچائیں گے۔ اس نے ایک خط مدینہ کے گورنر بصری پاشا کو لکھا کہ حضرت شیخ الہند کا پورے احترام کے ساتھ استقبال کیا جائے اور ممکنہ سہولتیں ہتیا کر کے ان کو ترکی روانہ کیا جائے۔ دوسرا خط ترکی کے ڈیفنس منسٹر انور پاشا کو لکھا جس میں حضرت کا مکمل تعارف کرا کے لکھا کہ تحریک کو پوری تائید اور مدد ملنی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ غالب پاشا نے حضرت شیخ سے کئی ملاقاتیں کیں اور ہندوستان کی جنگ آزادی کا پورا نقشہ سمجھا کر اس نکتہ پر زور دیا کہ تمام ہندوستان کو من حیث المجموع آزادی کا لگانے کا نعرہ لگا کر اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہندوستانی عوام اور لیڈران برطانیہ اور سامراجی طاقتوں کے فریب میں مبتلا ہو کر ڈومینسٹکس وغیرہ قسم کی ناقص خود اختیاری پر مصالحت کر لیں۔ آپ ملک کے اندر رہ کر قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ ہم باہر سے جس قدر بھی ممکن ہوگی مدد کریں گے۔

مکہ مکرمہ کی اس مہم سے فارغ ہو کر حضرت مدنیہ منورہ تشریف لائے۔ یہاں آپ کے ساتھ صرف وہ رفقاء ہجر کا ب تھے جن سے ان ممالک میں کام لینا تھا۔ باقی حضرات کو آپ نے مختلف مراکز کے لیے ہدایات و تعلیمات دے کر واپس ہندوستان کے لیے روانہ کر دیا۔ مدنیہ منورہ میں آپ نے اپنے علمی و روحانی فرزند حضرت شیخ مولانا مدنی کے مکان پر قیام فرمایا اور پہلی فرصت میں حضرت کو تنہائی میں طلب فرما کر

تحریک کی پوری تفصیلات سے مطلع کیا۔ اس آخری بیعت کی تفصیل بھی حضرت مدنیؒ ہی کے قلم سے ملاحظہ کرنی ضروری ہے :

”میں اس وقت تک نہ مشن آزادی ہند میں شریک ہوا تھا نہ حضرت شیخ الہندؒ کی عملی سرگرمیوں سے واقفیت رکھتا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضرت شیخ الہندؒ نے ایک خصوصی مجلس میں مجھ کو اور مولانا خلیل احمد صاحب کو طلب فرما کر اپنے خیالات اور عملی کارروائیوں سے مطلع فرمایا۔ میں اس وقت تک فقط علمی جدوجہد میں مشغول تھا اگرچہ مدینہ منورہ میں اس سے پہلے جب کہ محاذ سونیر کے لیے تنظیمی عمل (والنیرس) کو بھیجا شروع کیا گیا تھا ترغیب جہاد پر تقریر کرنے کی نوبت آئی تھی اور اس سے متاثر ہو کر کچھ لوگ اس محاذ پر جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے گئے تھے مگر اس کے علاوہ عملی جدوجہد کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اب حضرت شیخ الہندؒ کے واقعات اور خیالات سن کر میں بھی متاثر ہوا اور مولانا خلیل احمد صاحب بھی۔ یہ وقت میری سیاسیات کی ابتدا اور بسم اللہ کا وقت ہے۔ اور یہی وقت

مولانا خلیل احمد صاحب کی ابتدائی شرکت کا ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ والفضاؤ۔“

اس گفتگو اور انہام تفہیم کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کی تحریک کے گویا باضابطہ ممبر ہو گئے اور جدوجہد میں عملی طور پر شریک ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت نے مدینہ طیبہ کے بااثر اور صاحب اختیار حلقہ میں حضرت شیخ الہندؒ اور ان کی جماعت اور تحریک کے لیے تائید، ہمدردی اور شرکت کے لیے فضا ہموار کی۔ اس کے بعد مدینہ کے گورنر بصری پاشا سے ملاقات کر کے ان کو جماعت کی اہمیت اور تفصیل سمجھائی۔ غالب پاشا کے خطوط دینے اور حضرت شیخ اور ہمراہیوں کے لیے ترکی کے سفر کے لیے سہولتوں کا مطالبہ کیا۔ پہلے تو بصری پاشا نے اس بنا پر تردد کیا کہ جنگ کا زمانہ ہے ہندوستان اور وہاں کی حکومت سلطنت عثمانیہ کی دشمن ہے۔ ممکن ہے ہندوستانیوں کا ترکی جانا مضر ثابت ہو مگر غالب پاشا نے مکہ مکرمہ سے دوبارہ تاکید لکھی اور بتلایا کہ حضرت شیخ الہندؒ اگرچہ ہندوستانی ہیں مگر یہ اور ان کی پوری جماعت برطانیہ اور اتحادیوں کے خلاف برسرِ پیکار ہیں چنانچہ بصری

پاشا نے تاخیر اور تعویق کے لیے حضرت شیخ سے معذرت چاہی اور کہا کہ جب اور جس وقت آپ ترکی روانہ ہونا چاہیں گے حکومت آپ کے سفر کا پورا انتظام کرے گی آپ سفر کی تیاری کریں اور پروگرام سے ہمیں مطلع کریں۔ عین اسی وقت یہ اطلاع ملی کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک کمانڈر اور ڈیفنس منسٹر جمال پاشا اور انور پاشا زیارت کی غرض سے مدینہ حاضر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ نے سفر کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا تاکہ ان دونوں صاحبان سے پہلے یہیں ملاقات کر لی جائے۔

یہ حضرات جمعہ کے روز نماز جمعہ سے کافی پہلے بذریعہ ٹرین مدینہ حاضر ہوئے۔ اسٹیشن پر اہل شہر کا ایک جم غفیر استقبال کے لیے موجود تھا۔ گورنمنٹ کی طرف سے باضابطہ جلوس کا انتظام تھا اور ان کی سواری کے لیے مشکلی گھوڑوں کی گاڑی تیار تھی مگر انھوں نے سواری سے انکار کر دیا کہ ہم سرکارِ دو عالم کے فقیر ہیں اور غلاموں کی طرح دربار میں حاضری دیں گے چنانچہ اسٹیشن سے حرم پاک تک دست بستہ نگاہ رو برو باادب بالملاحظہ حاضر ہوئے۔ ہمارے حضرت مدنی قدس اللہ سرہ نے راستے ہی میں اپنی تحریر پیش کی جس میں حضرت شیخ الہند سے تنہائی میں خصوصی ملاقات کا وقت مانگا گیا تھا۔ مقامی افسرانِ بالا پہلے ہی سے تائید و موافقت میں تھے چنانچہ اسی دن مغرب بعد حضرت شیخ اور مولانا خلیل احمد صاحب نے ان حضرات سے ملاقات کی اور پوری تفصیل و شرح کے ساتھ اپنی تحریک، اس کے مقاصد اور لائحہ عمل ان کے سامنے پیش کیے۔ انھوں نے ہر قسم کی اعانت، امداد اور تائید کا وعدہ کیا اور ایک خط ہندوستانی عوام کے نام اور دوسرا ترکی افسرانِ متعلقہ کے نام حضرت کے سپرد کیا۔ ہندوستان کے نام خط میں تمام ہندوستانی عوام کو جدوجہد آزادی پر مبارک باد دی گئی تھی اور یہ وعدہ تھا کہ ترکی حکومت ہر طرح ہندوستان کی آزادی کے مشن میں ان کے ساتھ ہے۔ اور جس وقت کسی مدد کی ضرورت ہوگی حتی الامکان حاضر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ تاکید تھی کہ آزادی کے مطالبہ کے لیے پوری ہندوستانی قوم کو متحد ہو کر صفت آرا ہو جانا چاہیے اور ترکی افسران کے نام خط میں یہ ہدایت

تھی کہ حضرت شیخ الحدیث پر مکمل اعتماد کیا جائے اور ان کو ہر قسم کی سہولت دی جائے۔ حضرت نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ہم لوگوں کا افغانستان اور یاغستان پہنچنا بہت ضروری ہے اس کے لیے انتظامات کر دیئے جائیں مگر ان حضرات نے فرمایا کہ روس نے ایران اور افغانستان کے درمیان قبضہ کر لیا ہے اس لیے اس وقت افغانستان جانا مشکل ہے۔

مفتی مدینہ شیخ نامون بری سے جمال پاشا اور انور پاشا نے خواہش کی کہ ہم علمائے مدینہ سے نصائح اور مواعظ حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر تنگی وقت کی بنا پر ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ شرفِ ملاقات حاصل کرنے سے معذور ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن صبح کو حرمِ اطہر میں علماء حرم کا ایک اجتماع ہوا جس میں حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ نے فضیلتِ جہاد پر ایک مبسوط تقریر فرمائی جو بہت پسند کی گئی اور حضرت کا شکر یہ ادا کیا گیا۔ مختصر یہ کہ افغانستان کے راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے یہ تجویز قرار پائی کہ مکران بلوچستان وغیرہ کے راستے سے یاغستان کا سفر کیا جائے اور انور پاشا کی تحریروں کی نقلیں تحریکِ آزادی ہندوستان کے سبھی مراکز کو روانہ کر کے انتظام کیا جائے کہ عام ہندوستانیوں تک یہ پیغامات پہنچیں۔ چنانچہ لکھنؤ کے صندوقوں کے تختوں کے درمیان یہ تحریریں جرّدی گئیں اور رفقاء کے ساتھ ان کو ہندوستان وغیرہ روانہ کیا گیا اور حضرت خود بعض رفقاء کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تاکہ روانگی سے پہلے غالب پاشا سے کچھ اور گفتگو اور معاملات کر سکیں۔ غالب پاشا اس وقت طائف میں مقیم تھے۔ اس لیے حضرت نے اپنے تین ہمراہیوں مولانا عزیز گل صاحب مدظلہم حضرت شیخ مدنی قدس سرہ اور مولانا حمید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ طائف کا قصد فرمایا۔ یہاں پہنچے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ شریف حسین نے حکومتِ ترکیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اہم فوجی مرکزوں پر حملہ کر دیا۔ طائف چاروں طرف سے محصور ہو گیا اور آمد و رفت کے سارے ذرائع سدود ہو گئے۔ بڑی بڑی مشکلوں اور تدبیروں سے حضرت کا قافلہ مکہ مکرمہ واپس ہوا اور ہندوستان روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ عین روانگی کے

وقت باغی شریف حسین کے ہر کارے اور پیادے حضرت شیخ الہندؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک اعلان پر دستخط کا مطالبہ کیا۔ اعلان میں درج تھا کہ ترکی کے تمام مسلمان اور ترک قوم کافر ہے۔ اور سلطنت عثمانیہ خلافت اسلامیہ کے منصب کی حقدار نہیں ہے اور شریف حسین نے ترکوں سے بغاوت کر کے نہایت ایسا نادرانہ اور جرأت مندانہ اقدام کیا ہے۔ حضرت شیخ نے اس اعلان پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگرچہ اس انکار کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں مگر میں دین اور دنیا اور شریعت کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ خطرہ شدید ہو گیا کہ شریف حسین اس کا بدلہ لے گا۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ مکہ مکرمہ سے ہندوستان واپسی کے لیے فوراً روانگی ہو جانی چاہیے۔ مگر روانگی سے پہلے ہی شریف حسین نے حضرت شیخ کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیئے۔

مکہ مکرمہ کے سرکاری شیخ الاسلام سے وہاں کے سربراہ درودہ حضرات نے بہت سفارش اور صفائی کی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے پاس گئے اور اپنے مرشد اور اتاد کو بچانے کے لیے اس کے ہاتھ چومے۔ شیخ الاسلام کچھ نرم بھی پڑا مگر شریف کے برطانوی نمائندے کرنل ولسن مقیم جدہ نے اصرار کیا کہ جس طرح بھی ہو مولانا محمود حسن اور ان کے سارے ساتھیوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ شریف کو برطانیہ کے ساتھ اپنی وفا داریوں کے صلے میں جزیرہ عرب کی بادشاہت عطا ہونے کا لالچ تھا۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ مولانا محمود حسن صاحب کو فوراً جدہ روانہ کیا جائے مگر اس عرصہ میں حضرت شیخ الہندؒ اور مولانا وحید احمد مدنی روپوش ہو کر کسی خفیہ جگہ پر منتقل ہو چکے تھے۔ شریف کی پولیس کے سپاہیوں نے شیخ کو نہ پایا تو حضرت شیخ مدنی قدس اللہ سرہ کو قید کر کے جیل خانہ میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ حکومت برطانیہ کی مخالفت کی سزا ہے۔ تاہم حق تعالیٰ کا خصوصی احسان یہ ہوا کہ حضرت کو اس جیل میں رکھا گیا جہاں کوئی تعذیب و تکلیف نہ تھی اور کھانے پینے اور رہنے کافی الجملہ آرام تھا۔ تلاش بسیار کے بعد بھی حضرت شیخ الہندؒ کا سراغ نہ لگا تو شریف نے حکم دیا کہ اگر مولانا محمود حسن نہ ملیں تو ان کے ساتھیوں کو گولی

ماری جائے اور ان کے مطوف کو کوڑوں سے پینا جائے اور معلیٰ سے محروم کر دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت شیخ الہند نے اپنے آپ کو شریف کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ الحمد للہ میں کسی گناہ میں نہیں بلکہ مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ جو گزرے گی، برداشت کروں گا۔ برسر اولاد آدم ہرچہ آید بگذرد۔ مگر اپنے رفقا کو کوئی گزند نہ پہنچے دوں گا۔ چنانچہ ۲۳ صفر ۱۲۲۵ھ اتوار کے دن رات کو عشا کے بعد حضرت شیخ الہند، مولانا عیر گل صاحب، مولانا وحید احمد مدنی اور حکیم نصرت حسین صاحب کو دو اونٹوں پر سوار کر کے جدہ روانہ کر دیا گیا۔ مولانا عیر گل صاحب تو حضرت کے خاص خادم اور تحریک جہاد کے سرگرم رکن تھے۔ پشاور کے رہنے والے تھے، دیوبند سے فارغ اور وہیں سے حضرت کے ساتھ آئے تھے۔ مگر حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہی سے ساتھ ہوئے تھے۔ حضرت شیخ کے شاگرد اور خادم تھے مگر تحریک جہاد کے بنیادی رکن نہیں تھے۔ لیکن مصیبت اور قید و بند میں اپنے شیخ سے جدا ہونا گوارا نہیں کیا اور ایسے ساتھ ہوئے کہ مالٹا ہی کی زمین پر ابدی نیند سو گئے۔ رحمۃ اللہ علیہ و برود اللہ مضجعا۔ صبح کو جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ کو علم ہوا کہ حضرت شیخ الہند سنگینوں کے پہرہ میں جدہ روانہ کر دیئے گئے اور وہ خود آٹھ دس روز میں رہا کر دیئے جائیں گے تو بیچین و مضطرب ہو گئے اور اپنے بعض مخلصین پر زور دیا کہ اگر حضرت کو قید کر کے کہیں بھیج دیا گیا تو خدمت کے لیے میری حاضری نہایت ضروری ہے اس لیے جس طرح بھی ہو مجھے خدمت میں بھجوا دیجیے۔ ان لوگوں نے تشریف سے کہا کہ اس جماعت کے ایک فرد کو چھوڑنا خطرناک ہے ممکن ہے سرکار برطانیہ کی خوشی میں کوئی کمی رہ جائے چنانچہ دوسرے ہی دن حضرت کو بھی خچر کی سواری پر جدہ روانہ کر دیا گیا۔ اور وہاں پوری جماعت کو ساتھ رکھا گیا۔ جدہ میں کم و بیش ایک ماہ تک قید رہے اور جیل کے بجائے ایک کمرہ میں رکھا گیا جہاں کوئی تکلیف نہیں تھی۔

مالٹا کے قیدی

عمریت کہ آوازہ منصور کہن شد^۹

من از سر نو زندہ کنم دار و رسن را

حضرت رحمۃ اللہ علیہ اب شیخ الہند کے مشن اور تحریک کے معتمد اور اہم ممبر تھے۔ شیخ نے مدینہ طیبہ میں سارے معاملات سمجھا کر آپ کو ہم میں شریک کر لیا تھا۔ باوجود اس کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا ارادہ حضرت شیخ الہند کی ہم کابی میں صرف جدہ تک آنے کا تھا۔ حکومت برطانیہ کو بھی حضرت کی گرفتاری مطلوب نہیں تھی۔ لیکن جب یہ اندیشہ ہوا کہ برطانیہ حضرت شیخ کو قید کر کے کسی دوسری جگہ پہنچانے والی ہے تو استاد کی خدمات اور راحت رسانی کے لیے حضرت رحمۃ اللہ نے اپنے آپ کو بھی قید کرانے کی پوری کوشش کی۔ اگر یہ کوشش اور خواہش نہ ہوتی تو ظاہری صورت حالات ایسی تھی کہ آپ رہا ہو کر مدینہ طیبہ واپس آجاتے۔

”مجھ کو قید خانہ میں (حضرت شیخ الہند کی گرفتاری وغیرہ کی) کوئی حالت صبح تک معلوم نہیں ہوئی۔ صبح کو جب احباب ملنے آئے تب سب کیفیت معلوم ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سید امین عاصم صاحب کے بھانجرا زادہ سید احمد جعفری آئے اور کہا کہ سید صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے تیسرے چھڑانے کے لیے بہت کوشش کی مگر چونکہ شریف بہت خفا ہے اس لیے کم از کم آٹھ دس دن تک تجھ کو قید خانہ میں رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا چونکہ میں مدینہ منورہ سے فقط مولینا کی خدمت کے لیے نکلا ہوں اس لیے مجھ کو خدمت میں رہنا ضروری ہے۔ اگر جدہ سے مولینا ہندوستان تشریف لے گئے تو

۹ اس باب کا پورا مضمون سفر نامہ اسیرانامہ مرتبہ حضرت شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ سے ماخوذ ہے۔

پھر میرے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں مجھ سے اعلیٰ اعلیٰ خدام موجود ہیں اور اگر کسی دوسری جگہ ان کو بھیجا گیا تو میرا ساتھ رہنا ضروری ہے اس لیے جس طرح بھی ممکن ہو مجھ کو مولانا کے پاس بھجوا دیجیے، آمین

یہ پانچ حضرات جدہ میں بہا، الدین سی، آئی، ڈی انسپکٹر کے مکان میں شریف مکہ کے سپاہیوں کی نگرانی میں نظر بند رہے۔ اور کم و بیش ایک ماہ تک زیر حراست قید رہنے کے بعد ۱۳ جنوری ۱۹۱۴ء مطابق ۱۸ ربیع الاول ۱۳۳۵ھ کو جدہ سے بذریعہ ایشیئم مصر کے لیے روانہ کر دیئے گئے۔ جہاز زیر حراست یا قید نہیں تھی بلکہ کسی قدر آزادی تھی۔ منگل کے روز ۱۶ جنوری کو جہاز سویز کی بندرگاہ پر ننگر انداز ہوا۔ وہاں اللہ کے ان شیروں اور اسلام کے مجاہد قیدیوں کا استقبال بندوقوں اور سینگینوں سے مسلح گوروں کی ایک گارڈ نے کیا اور ان کو اپنے جلیوں میں لے کر جس کو وہ پہرہ و حراست سمجھتے رہے، قریب کے کیمپ میں پہنچایا۔ کیمپ پر پہرہ کے لیے ہندوستانی سپاہی موجود تھے جنہوں نے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ دوسرے دن علی الصباح ٹرین کے تیسرے درجہ میں سوار کر کے گورے سپاہیوں کی پوری گارڈ کی حفاظت اور سینگینوں کے سایے میں یہ قافلہ قاہرہ کے لیے روانہ ہوا۔ اور اسی دن دو بجے قاہرہ پہنچا۔ قاہرہ اسٹیشن پر سب سے پہلے آپ حضرات نے باجماعت نماز ظہر ادا کی۔ چاروں طرف گوروں کا پہرہ تھا۔ منزل اور مستقبل نامعلوم تھا اور سروں پر بندوقوں اور سینگینوں کا سایہ تھا۔ اور درمیان میں اللہ کے پانچ غریب الوطن قیدی سپاہی اس کی بارگاہ میں سر بسجود تھے۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر روانگی میں اتنی دیر ہوئی کہ نماز عصر بھی وہیں ادا کی۔

اسٹیشن سے آپ حضرات کو قاہرہ کے ایک محلے حبیبیہ کے قید خانہ پہنچایا گیا۔ جیل میں داخلہ سے پہلے ملاشی کی گئی اور ساری چیزیں اور سامان مع اکیا سی

اسٹریٹنگ پاؤنڈ کے لئے لیے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان حضرات کو ایک عدالت کے سامنے بیان دینے کے لیے پیش کیا گیا جس کے تین ممبر تھے اور تینوں انگریز تھے۔ جن میں سے دو صاف اُردو بول رہے تھے۔ اس وقت تک سب کو یہ خیال تھا کہ یہ گرفتاری شریف حسین کی حکم عدولی اور اس کو باغی قرار دینے کی بنا پر ہوئی ہے۔ مگر بیان کے وقت جب دفتر کھلا اور ہر ایک کی علحدہ علحدہ فائلیں سامنے آئیں۔ تحریک آزادی غیر ممالک میں برطانیہ کے خلاف سرگرمیوں اور مکمل ایکٹم کے صحیح واقعات کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ تب یہ بات کھلی کہ حضرت شیخ الہند پر بغاوت اور حکومت ہند سے غداری کا الزام ہے اور اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ ان حضرات کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ وقت بڑا نازک تھا۔ وطن اور اہل وطن سے سات سمندر پار کی دوری تھی۔ مقدمات غیر جانب دار نہیں بلکہ دشمن عدالت کے سامنے تھے۔ کوئی ہمدرد غم گسار، مشیر یا وکیل میسر نہیں تھا۔ سوال قید و بند یا جیل خانہ کا نہیں بلکہ موت و زندگی اور پھانسی کا تھا۔ مگر اللہ کے شیروں کے لیے رو باہی ممکن نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند نے کمال بے اعتنائی، بے التفاتی اور بے جگرگی کے ساتھ مسکت اور الزامی جوابات دیئے۔ انگریز حکام نے ایک مولوی صفت، معمولی شکل و شمائل کے بوڑھے کمزور اور مریض یا بے جولاں قیدی سے یہ طرز بیان اور قوت استدلال کا ہے کوٹنا ہوگا۔ بیان ختم ہوا تو انھوں نے حیرت اوزناگواری سے کہا کہ شاید مولینا کو کبھی حکام سے ملنے اور ان سے معاملہ کرنے کا سابقہ نہیں پڑا ہے۔ فائلوں کی موجودگی اور تحریک کے خفیہ حقائق کے متعلق سوالات کی افتاد بالکل اچانک اور بے سان و گمان سامنے آئی تھی۔ ان میں سے کسی کو کبھی عدالت بالخصوص انگریز حکام سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ ان کے دل حکومت کی طرف سے نفرت اور عداوت سے پُر تھے۔ بعض حضرات ایسے بھی تھے جن کے بارے میں یہ خیال بھی تھا کہ افسران کوئی ناشائستہ بات کریں گے تو انھیں لڑنے میں بھی دریغ نہ ہوگا حضرت مولینا عریز گل صاحب مدظلہم نہایت بے باک اور سرریح الغضب تھے مولینا

وحید احمد مدنی نو عمر اور ناسمجربہ کا رتھے۔ اس لیے سب کو اور خصوصاً رئیس قافلہ کو یہ اندیشہ تھا کہ نہ جانے کس کی زبان سے کیا خلاف مصلحت و خلاف واقعہ بات نکل جائے کم از کم اتنا خطرہ تو قوی تھا کہ بیانات سب کے ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے مگر بیان ختم ہوئے اور دوسرے روز ہوا خوری کے لیے سب حضرات احاطے میں نکالے گئے تو حضرت شیخ کو پتہ چلا کہ ایسے یکساں اور نئے نئے جوابات دیئے گئے ہیں گویا سب سے مشورہ کر کے جوابات اور مضمون پہلے سے طے کر لیے گئے ہوں۔

حضرت مدنی کا بیان دو دن تک جاری رہا جو علمی، منطقی اور تاریخی حوالوں سے لبریز تھا۔ انسران نے برملا اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ مقدمہ کی کارروائی پھانسی کی سزا کی بنیادوں پر چل رہی تھی مگر بیانات نے فیصلہ کا رخ موڑ دیا ہے۔ یہ قیدی اکابر کال کو ٹھہریوں میں بند تھے جس میں روشنی اور ہوا کے لیے صرف ایک چھوٹا سا روشندان تھا۔ ہر کو ٹھہری پر سنگین پہرہ تھا اور کسی کو ان کے قریب سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان اذیتوں سے جسمانی اور نفسیاتی جو شدید گزرے وہ تو زبان و قلم کے بس کی بات نہیں مگر ظاہری طور پر اس امر میں شبہ کی بہت کم گنجائش رہ گئی تھی کہ حکم پھانسی ہی کا ہو گا اس لیے کہ ان کال کو ٹھہریوں میں وہی مجرمین لکھے جاتے تھے جن کو پھانسی دینی ہوتی تھی۔ مگر یہ صاحبان اپنے مولیٰ کی رضا پر راضی تھے اور کسی قسم کی گھبراہٹ بے چینی، جزع و فزع کا گذر بھی ان کے قریب نہ ہوتا تھا۔ ذہنی طور پر ہر فرد اس طرح تیار تھا گویا فیصلہ ہو چکا تھا بس وقت کا انتظار تھا۔ مولانا بزرگ صاحب اپنی کو ٹھہری میں بار بار یہ تجربہ کر رہے تھے کہ پھانسی میں کس قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی گردن اور گلے کو ناپتے تھے اور پھندا گلے میں ڈال کر تھوڑی بہت مشق کرتے تھے کہ وقت پر زیادہ تکلیف نہ ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف ایسرالٹائیس تحریر فرمایا ہے کہ ”ہم لوگ نو گرفتار تھے۔ قید و بند پابندی و گرفتاری سے ہمیں کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ سب لوگ نوجوان تھے۔ گھروں سے اعزہ و اقارب سے اور خاندان سے جدا تھے۔ دور دور کوئی نمونہ و غم خوار ہمدرد و غم گسار نظر نہ آتا تھا

ہم سب کو یقین یا کم از کم ظن غالب یہی تھا کہ ہمیں پھانسی ہونے والی ہے۔ مگر باوجود اس کے ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اضطراب، بے چینی، جزع و فزع رونادھونا قلق اور صدمہ تو بڑی باتیں ہیں کسی کے دل میں معمولی گھبراہٹ بھی نہ تھی۔ کسی وقت یہ خیال بھی دل میں نہ آتا تھا کہ کاش ہم مولینا کے ساتھ یا ان کے من اور تحریک میں شریک نہ ہوتے۔“ اسی طرح مصر میں ایک ماہ یا اس سے کچھ زیادہ قید لینے کے بعد ایک روز ایک برطانوی افسر خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت شیخ سے عرض کی کہ کل آپ لوگوں کو مالٹا روانہ کیا جائے گا، سفر کے انتظامات کر لیجیے۔ اسی دن اور قیدیوں کے انتظامات ہی کیا۔ دو چار کپڑوں، جاننازوں اور چند کتابوں کی گھڑیاں باندھ کر ہاتھوں میں لے لیں اور خاصانِ خدا کا قافلہ کوچ کے لیے تیار ہو گیا۔ ۱۶ فروری ۱۹۱۷ء کی صبح کو پانچ مجاہدین کی یہ فوج گورے سپاہیوں کی گارد کی نگرانی میں موٹر کے ذریعہ قاہرہ کے ریلوے اسٹیشن پہنچائی گئی اور تھمڑ ڈکلاس کے ایک ڈبہ میں اسکندریہ کے لیے روانہ ہو گئی اور اسکندریہ میں اسی طرح شدید پہرہ اور نگرانی کے درمیان جہاز پر سوار کر دیا گیا۔ جہاز میں آپ حضرات کو اوپر کے حصے میں ایک طویل و عریض کمرہ ملا جس میں بہت سے ترکی سپاہی قیدی بھی ہے۔ جہاز کے ذمہ داران نے حضرت شیخ سے کھانے کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ سے ہم صرف روٹی لے سکتے ہیں۔ سالن اور گوشت نہیں لیں گے۔ چنانچہ جہاز والوں نے ضروری سامان خورد و نوش ہتیا کر دیا، حضرت مولینا مدنی حکیم نصرت حسین صاحب اور مولینا وحید احمد رحمہما اللہ نے کھانا پکانے اور انتظامات کا چارج لے لیا۔

زمانہ جنگِ عظیم کا تھا۔ برہبر قدم پر جرمنی کی آبدوزیں برطانوی اور اتحادی جہازوں کے شکار کے لیے گھومتی پھرتی تھیں، آئے دن اتحادی جہازوں کی غرقابی کی خبر آ کر تھی اس لیے اس جہاز پر ریڈ کر اس کا نشان لگایا گیا اور ایک جنگی جہاز نگرانی کے لیے اس کے جلو میں روانہ کیا گیا۔ منٹ منٹ پر تمام جنگی قیدیوں کو بدایت دی جاتی تھی اور مشت کرائی جاتی تھی کہ سگنل ہونے ہی برہبر فولائف بیلٹ باندھ کر لائف بولس

کے پاس پہنچ جائے۔ حضرت شیخ الہند کے پاس مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے تبرکات ناخن کے تراشے اور بال وغیرہ تھے وہ آپ نے سب خدام میں تقسیم کیے کہ نہ جانے کب کس کا وقت آجائے تو سپاہانہ کے پاس کچھ تورہ جائے گا۔ جہاز کے قیدی وہ جنگی قیدی سپاہی اور افسران ترکی اور جرمنی افراد تھے جو اتحادیوں، برطانیہ وغیرہ کے خلاف اور خلافتِ عثمانیہ کے دفاع میں صفا آرا تھے۔ یہ لوگ جب ہندوستانی علماء، فضلاء، محدثین اور مشائخ کو اسی جرم اور اسی حیثیت میں قید دیکھتے تھے جس میں وہ قید تھے اور جب انھیں یہ تفصیل معلوم ہوتی تھی کہ یہ حضرات اسی ہندوستان کے رہنمایان ملک و ملت ہیں جس کے سپاہی عراق، ایران، شام، مصر وغیرہ میں خلافتِ عثمانیہ کے خلاف برسرِ پیکار ہیں تو ان کے سزا احترام و عقیدت سے جھک جاتے تھے اور وہ ان اکابر کے ہاتھ چوم چوم لیتے تھے۔ غرض پانچ شب درود کے متواتر بحری سفر کے بعد ۲۱ فروری ۱۹۱۶ء کی صبح کو جہاز مالٹا کے ساحل پر ننگر انداز ہوا۔

شام کو چار بجے تک دفتری کارروائی وغیرہ ہوئی ہوگی۔ چار بجے یہ حضرات اُٹائے گئے۔ حضرت شیخ الہند گھوڑے گاڑی پر روانہ ہوئے اور باقی حضرات سپاہیوں اور گارد کے جلوس میں پیدل روانہ ہوئے۔ یہ جنگی قیدی تھے۔ ان کی گرفتاری اتحادیوں کی کامیابی کی علامت تھی اس لیے بندرگاہ سے اسارت گاہ تک عوام، بچے، عورتیں دو روہ استقبال کے لیے کھڑی تھیں، جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا لوگ خوشی کے نعرے لگاتے اور ہوا میں جھنڈیاں لہرا کر اظہارِ مسرت کرتے تھے۔ اس طرح شہر کے درمیان سے گذر کر یہ جلوس اسارت گاہ تک پہنچا۔ یہ جگہ دراصل ایک بڑے مضبوط اور سنگی قلعے کا ایک حصہ تھی۔ اصل میں تو یہ قطعہ فوجی سیرکوں اور دفاتروں کے لیے مخصوص تھا مگر پہلی جنگِ عظیم میں جب خطرناک فوجی قیدیوں کے لیے کسی محفوظ قید خانہ کی ضرورت پیش آئی تو پورے قلعے کو فوجی جیل خانہ میں تبدیل کر دیا گیا اور کانٹے دار تاروں کے ذریعہ اس کو مختلف کیمپوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔

قیدی کیمپ کی تفصیلات

ان کیمپوں کے الگ الگ نام جرمن کیمپ، روگیٹ کیمپ، روم کیمپ، عرب کیمپ وغیرہ تھے۔ ان میں افسران، معمولی سپاہیوں، فوجی عہدہ داروں اور مختلف ممالک کے قیدی علیحدہ علیحدہ کیمپوں میں رکھے جاتے تھے۔ مسلمان فوجی اور سولین عموماً عرب کیمپ میں جگہ پاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی روگیٹ کیمپ میں بھی مسلمان ہی قیدی رکھے جاتے تھے۔ یہ کیمپ قلعہ سے باہر دروازہ سے ملحق قطعہ پر خیموں پر مشتمل تھا۔ مگر باورچی خانہ غسل خانہ اور پانی کے انتظامات سختہ عمارت میں تھے۔ بیت الخلا ٹین کے بنے ہوئے تھے۔ مگر قیام و سکونت کے جملہ انتظامات خیموں ہی میں تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ کا پورا قافلہ اسی روگیٹ کیمپ میں رونق افروز ہوا۔ ایک خیمہ حضرت شیخ الہند حضرت مدنی رح اور مولانا عزیز گل صاحب مظہم کی استراحت کے لیے مخصوص کیا گیا اور اس کے برابر کا دوسرا نسبتاً چھوٹا خیمہ حکیم نصرت حسین صاحب اور مولانا وحید احمد مدنی کے لیے مقرر کیا گیا۔ ہر چند کہ حکومت برطانیہ کی نظریں ان حضرات پر خطرناک حد تک سخت تھیں اور سی۔ آئی۔ ڈی کی رپورٹیں بھی ان میں سے بیشتر کے بارے میں شدید تھیں مگر کیمپ میں ان پر کوئی ایسی سختی نہیں تھی جس سے ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے، بڑھنے لکھنے اور میل ملاقات پر کوئی پابندی عائد ہوتی۔ ان حضرات کے ساتھ فوجی اور سیاسی قیدیوں جیسا باعزت برتاؤ کیا گیا اشیائے خورد و نوش دال، چاول، روٹی، گوشت، چائے، شکر، گھی، تیل سب حسب ضرورت حکومت کی طرف سے ہتھاکے جاتی تھیں۔

گوشت کے معاملے میں شروع شروع میں کسی قدر مشکل پیش آئی۔ اس لیے کہ جو گوشت ان کو اور سارے قیدیوں کو سپلائی کیا جاتا تھا وہ برف میں لگا ہوا کئی کئی برس پرانا اور منجمد (FROZEN) ہوتا تھا۔ قطع نظر اس کے کہ اس قسم کے گوشت کا مزہ بہت ناگوار اور بو بہت ناخوشگوار ہوتی ہے، عام طور پر اس کا ذوق صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے ان حضرات نے یہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ گورنمنٹ نے تو اس کو واپس لیتی تھی،

نہ کوئی متبادل انتظام کرتی تھی۔ چنانچہ بہت غور و خوض کے بعد یہ غیر مسلموں کے ہاتھوں
 فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اور ہفتہ میں دو بار مرغ، کبوتر، خرگوش یا پھل بازار سے منگا کر
 خورد ذبح کر کے پکاتے تھے۔ کیمپ میں زندہ جانور منگانا بالکل ممنوع تھا۔ جو لوگ
 تازہ گوشت کھانا چاہتے تھے ان کے لیے باہر ہی سے ذبح شدہ جانور آتے تھے مگر
 ان حضرات کے لیے خصوصی طور پر زندہ جانور منگانے اور اپنے ہاتھوں ذبح کرنے کی اجازت
 مل گئی تھی تاہم بڑی مشکل یہ تھی کہ یہ جانور اس کو روہ میں ایسے نایاب تھے کہ سونے کے
 بھاؤ ملتے تھے۔ دو یا تین روپے کا ایک کبوتر، چھ یا سات روپے کا ایک مرغ، چار
 پانچ روپے کا ایک خرگوش، چار یا پانچ روپے کی ایک سیر پھلی ملتی تھی۔

شر پچھتر برس پہلے کی قیمتیں آج کے حساب سے ہزاروں نہیں تو سیکڑوں
 روپے تک ضرور پہنچتی ہوں گی۔ چنانچہ بہت کفایت کے ساتھ یہ حضرات ہفتے میں
 صرف دو بار گوشت تناول فرماتے تھے۔ باقی دنوں میں دالوں اور ترکاریوں پر اکتفا
 کرتے تھے۔ سبز یوں، پھلوں، اشیائے خورد و نوش اور دوسری ضروریات کے لیے ان
 کیمپوں میں قیدیوں ہی نے حکومت کی نگرانی میں دوکانیں کھول رکھی تھیں جو امداد
 باہمی کے اصول کے تحت چلتی تھیں۔ دالیں وہاں دستیاب نہ تھیں، صرف مسورا اور
 مٹر کی دالیں ملتی تھیں لیکن کبھی کبھی ہندوستان سے بذریعہ پارسل مختلف دالیں مونگ
 ماش، ادھر اور بڑیاں وغیرہ پہنچ جاتی تھیں جس کو یہ حضرات بڑے شوق اور قدر سے
 نوش فرماتے تھے۔ کھانا پکانے اور اس کے متعلق انتظامات کے لیے ان حضرات کو
 کوئی خادم نہیں ملا تھا۔ اس لیے خود ہی انتظام کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ اس جماعت کے
 کھانے پکانے کا انتظام فی الجملہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہی فرماتے رہے۔ کبھی کبھی
 دوسرے حضرات بھی ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ مولانا عزیز گل اور حکیم نصرت حسین صاحب
 نے یہ خدمت اپنے اپنے ذمے لینی چاہی مگر حضرت نے صاف انکار فرمادیا کہ حضرت
 شیخ الہند کی خدمت ہی میری حاضری کا سبب ہے اس لیے آپ حضرات اس میں
 دخل نہ دین، خوڑ و نوش کے ان انتظامات کے علاوہ ان کیمپوں میں علاج و معالجہ

کے لیے دو ہسپتال تھے جن میں دیکھ بھال اور علاج کا معقول انتظام تھا۔ سنسر اور جملہ قواعد و ضوابط کی ماتحتی میں ڈاک کی سہولتیں بھی ہیا تھیں۔ نفاذ کی جگہ اٹریٹر اور کارڈ ہیا کیے جاتے تھے۔ مگر کارڈوں کی قیمت قیدیوں کو اپنے پاس سے ادا کرنی پڑتی تھی۔ ایڑوں کو آپس میں ملنے جلنے کی مکمل آزادی تو نہ تھی مگر اجازت طلب کرنے پر ایک سے دوسرے کیمپ نہیں جانے کی روزانہ ایک وقت مقررہ پر آسانی اجازت مل جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی قیدیوں کو تفریح، سیر اور مندر میں تیرنے اور غسل کرنے کی بھی اجازت آسانی سے مل جاتی تھی۔ نئے ذی منصب اور اعلیٰ افسران کی تفریح کے لیے گھوڑے گاڑیوں کا انتظام ہوتا تھا۔ اور بیمار و کمزور حضرات کے لیے بھی مخصوص گاڑیوں کا انتظام تھا۔ ان حضرات اکابر کے قافلے سے عام طور پر مولینا عزیز گل صاحب اور مولینا وحید احمد صاحب روزانہ تفریح کے لیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی حکیم نصرت حسین صاحب بھی جاتے تھے۔ حضرت شیخ الہندؒ صرف ایک بار اس تفریح میں تشریف لے گئے تھے۔

ان آسانوں کے ساتھ ہی قیدیوں کے لیے بعض انگریزی، عربی اور ترکی زبانوں کے مخصوص اخبارات بھی ہیا کیے جاتے تھے اور بعض نیوز ایجنسیوں کے تازہ بتازہ تار بھی ہیا کیے جاتے تھے جسے قیدی اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے عام جگہوں پر دیواروں پر آویزاں کر دیتے تھے۔ بہت سے قیدی اپنے طریقے سے شہر سے سامان منگا کر اور نگرہی لوہے اور کپڑوں کے سامان بنا کر تجارت بھی کرتے تھے۔ قیدوں کے اپنے اپنے ملک کی ہلال احمد اور صلیب احمد انجمنیں ان کے لیے ضروری سامان اور نقد بھی بطور ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔ ترکی کی انجمن کی جانب سے ہمارے حضرات اکابر رحمہم اللہ کو بھی ہدیہ اور نقد کی پیشکش کی گئی مگر حضرت شیخ الہندؒ نے انکار فرما دیا۔ بلکہ اٹے اس میں اپنی جانب سے چندہ دیا۔ قیدی اپنے طور پر کیمپ کے میدانوں میں نگرہی، ٹین اور ٹاٹ کے عارضی کمرے اور مکان بھی بنوا لیتے تھے اور سبزیوں اور پھولوں کی کھاریاں لگا کر خوبصورت چمن تیار کر لیتے تھے۔ جو قیدی کتاب و مطالعہ سے شغف رکھتے تھے وہ اپنے مطالعہ و تعلیم اور علمی مشاغل میں مصروف رہتے تھے اور مختلف زبانوں کی تسلیم حاصل کرتے تھے۔

مولانا وحید احمد صاحب نے یہیں جرمن اور فرنجی زبانیں سیکھی تھیں۔ موصوف عربی اور ترکی زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور انہی زبانوں کے ماحول و مدارس میں تعلیم و تربیت حاصل کی تھی اس لیے بہت سے عرب اور ترک قیدیوں کو حدیث شریف خصوصاً مشکوٰۃ شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہندؒ شب و روز کے بیشتر اوقات ترجمہ و تفسیر قرآن کی ترتیب حدیث شریف کی تدریس اور مشاغل روحانیہ میں صرف فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت کے دوسرے اکابر ہمارا ہی بھی زیادہ تر اوقات علمی روحانی مشاغل میں حشرچ کرتے تھے۔ رحمہم اللہ

مالٹا میں حضرت کے مشاغل

ایک ماہ تک روگیٹ کیمپ میں قیام کے بعد ان حضرات کے لیے عرب کیمپ میں منتقلی کے احکام آئے۔ روگیٹ میں عمارتیں نہیں تھیں اور خیموں میں گزارنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے شدید سردی سے بچاؤ کی کوئی مستقل تدبیر نہ تھی۔ مالٹا میں دن رات برقیلی ہوا میں چلتی تھیں۔ رات کو باوجودیکہ ہم اپنے اپنے کپڑوں کو پہنے ہوئے دو دو کبل اور ایک چادر اوڑھے ہوئے گدوں پر ایک کبل بچھانے ہوئے سوتے تھے مگر دو ڈھائی بجے رات کو شدت سردی کی وجہ سے نہ نیند آتی تھی اور نہ اٹھنے کی ہمت ہوتی تھی۔ صبح کے وقت مجبور ہو کر نماز کے لیے اٹھنا پڑتا تھا تو خیمے سے سرکانا ایک عذاب الیم کا سامنا ہوتا تھا۔ سرد ہوا کے اس زور کے پھیسڑے لگتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ جسم کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ عرب کیمپ میں تشریف آوری کے بعد پہنچنے کے بعد اور مکان میں قیام ہوا اور خیموں سے نجات ملی۔ تاہم مالٹا کی شدید سردی میں حضرت شیخ الہندؒ کے لیے چوبیس گھنٹے گرم پانی کا انتظام رکھنا ضروری تھا۔ دن میں تین مرتبہ

۱۔ مذکورہ حضرت مدنی، مولفہ مولانا راشد حسن عثمانی؟

۲۔ سیر مالٹا، حضرت رحمۃ اللہ، ص ۹۱

ناشتے میں اور صبح و شام کھانے کے بعد چائے بنتی تھی۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ملاقاتیوں اور دوسرے کیمپوں سے حضرت کی زیارت کے لیے آئے ہوئے قیدیوں کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام بھی کرنا پڑتا تھا۔ روزانہ علی الصبح ناشتہ تیار کرنا اور دونوں وقت کھانا پکانا کافی مشقت طلب مشغولیتیں تھیں۔ کھانا نکالنا لگانا اشیائے خورد و نوش کی فراہمی حساب کتاب اور اسی طرح کے بہت سے کام شدید مصروفیت کے متقاضی تھے۔

زن سارے کاموں کی ذمہ داری حضرت رح ہی نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ دوسرے ہمراہی، ساتھی اور مخلصین بہت اصرار و کوشش کر کے کچھ ہاتھ بٹا دیتے تھے مگر بنیادی طور پر حضرت نے یہ ذمہ داریاں اپنے ہی ذمہ رکھیں۔ ”چونکہ دیگر رفعتاء کھانا پکانے سے ناواقف تھے۔ علاوہ ازیں ان کو دیگر مشغولیتیں فرصت بھی نہ دیتی تھیں، پھر وہ مداومت بھی نہ کر سکتے تھے اور میرا ہمراہ ہونا فقط ادائیگی خدمت کی غرض سے تھا اس لیے تمام ضروری خدمتوں کو انجام دینا میرا فرض منصبی تھا۔ جس کے لیے میں نے مالٹا پہنچتے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا اور ہر کام کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ دوسرے رفعتاء نے بسا اوقات معارضہ کیا اور کاروبار کے بعض یا اکثر حصہ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ بعضوں نے نوبت مقرر کرنے کی خواستگاری کی مگر میں نے مخالفت کی اور یہی کہا کہ میرے فرض منصبی میں آپ لوگوں کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اور جب اپنا فرض منصبی اور ذمہ داری استاد کی خدمت ہی کو مقرر کر لیا تھا۔ تو خدمتیں صرف کھانے اور اس کے انتظامات ہی تک تو محدود نہ تھیں، پھوٹی بڑی بیسوں ضرورتیں ہر ہر قدم پر پیش آتی رہتی تھیں جن کو حضرت اپنے لیے فخر و سعادت کا باعث سمجھتے تھے اور پوری مستعدی سے انجام دیتے تھے۔

ان مصروفیتوں اور ذمہ داریوں کی انجام دہی کے ساتھ اس قید کی مغنم فرصت میں تین دیرینہ تمنائیں پوری کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ یہ تمنائیں اور پھر دیرینہ تمنائیں بھی قابل ملاحظہ ہیں۔ ”مالٹا میں داخل ہونے پر بلکہ ایسر ہونے کے زمانے ہی سے میری

تین آرزوئیں تھیں۔ ترکی زبان سیکھنا۔ قرآن شریف حفظ کرنا۔ باطنی اشغال میں ترقی کرنا۔ چنانچہ مالٹا پہنچ کر چند دن تو وہاں کے انتظامات وغیرہ میں خرچ ہو گئے۔ اس کے بعد نصف جمادی الاول سے اواخر شعبان تک پندرہ پارے یاد ہو گئے۔ گو یا فی ہفتہ سوا پارہ حفظ کا حساب ہو اور یہ مقدار اس حالت میں ہوئی کہ ”جو نیک فارغ وقت فقط ظہر کے بعد دو ڈھائی گھنٹہ یا اس سے بھی کم ملتا تھا، اس لیے زیادہ یاد نہیں ہو سکا۔“ ادھر پندرہ پارے حفظ ہوئے ادھر رمضان شریف کی برکات کا ظہور ہوا حضرت شیخ نے حکم دیا کہ یہ پارے جو حفظ ہوئے ہیں نوافل میں تراویح کے بعد سنائے جائیں۔ سب کی خواہش یہ رہی ہوگی کہ آدھا آدھا پارہ تراویح میں پڑھا جائے۔ مگر مقتدی صرف یہی اہل عربیت و عظمت اکابر ہی تو نہ تھے۔ ترکی، عربی، ایرانی، ہندوستانی ہر طرح کے نرم و گرم لوگوں پر مشتمل جماعت ہوتی تھی جن میں زیادہ تر حضرات کو چھوٹی چھوٹی سورتوں میں تراویح کی عادت تھی۔ چنانچہ حضرت نے یہ پندرہ پارے نوافل میں سنائے۔ عید کے بعد بقیہ پندرہ پاروں کے حفظ کا اہتمام کیا اور اس میں مشغول ہو گئے۔ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو کسی ہمہ شما کے ساتھ پیش آ جاتا تو دل و دماغ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا۔ عین اس وقت جب حضرت پوری توجہ سے حفظ میں مشغول تھے گھر کے خطوط ملے جن سے بیک وقت پانچ یا چھ افراد خاندان کی وفات کی اطلاع ملی۔ اس موقع پر دل کی جو حالت ہوئی ہوگی وہ تو کیسے معلوم ہو سکتی ہے مگر حفظ کی سرگرمی میں ایک منٹ کے لیے بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ ”رمضان شریف کے بعد پھر آگے یاد کرنا شروع کیا مگر اس مدت میں مدینہ منورہ کے واقعات، والد مرحوم کی خبر وحشت اثر اور جملہ کتبہ والوں کے رنج و دہرہ واقعات نے بہت تشویش پیدا کی تاہم بفضل خداوندی سے ماہ صفر تک پورا قرآن ختم ہو گیا۔“ اس کے بعد ترکی زبان کی طرف توجہ فرمائی۔ وہ وقت آج کے زمانے سے بالکل مختلف تھا۔ اس زمانے کی سیاست، حالات اور تہذیب و ثقافت بھی الگ تھی۔ ترکی زبان خلافت اسلامیہ کی اور عالم اسلام کی سیاسی و سرکاری و ثقافتی زبان تھی۔ دنیا کی

ایک عظیم ایمپائر کی زبان تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مدینہ طیبہ کی دفتری اور حکومتی زبان تھی۔ چنانچہ حضرت نے تھوڑے ہی دنوں میں اس میں بھی مہارت پیدا کر لی۔ اسی کے ساتھ روحانی اشغال میں بھی دن دنی رات جو گنی ترقی ہوتی رہی۔ غرض قید کا یہ زمانہ نہایت کامیابی کے ساتھ تین عظیم آرزوؤں کی تکمیل میں صرف ہوا۔ "خدا کے فضل و کرم سے دو اول کی (تمنائیں) تو ایک درجہ میں حاصل ہو گئیں مگر تیسرا مقصد باوجود صحبت شیخ کامل اور فراغ وقت کے اپنی بد نصیبی کی وجہ سے ناکام رہا۔

تہی دستاں قسمت را چہ سود از رہبرِ کامل

کہ خضر از آب حیواں تشنمی آرد سکت در آ

مگر تا ہم مجھ کو افضال خدا دندی اور بزرگوں کی جوتیوں کے طفیل اس باب میں بہت کچھ امیدیں ہیں۔"

یوں تو حضرت مدۃ العمر اپنے کو طالب علم کہتے اور سمجھتے رہے۔ مگر درحقیقت ظاہری طالب علمی کا دور جو چار یا پانچ برس کی عمر سے ناندھ میں شروع ہوا تھا، اب جا کر ماٹا میں قرآن پاک کے حفظ اور ترکی زبان پر عبور کے ساتھ ختم ہوا۔ اس جگہ وہ واقعہ ایک بار پھر یاد آتا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ میاں حسین احمد جو چاہو مانگ لو۔ ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ حضور علم اور صرف علم الہی کا طلب گار ہوں۔ بیاسی برس کی طویل زندگی میں یہی تمنائیں زندگی کی پہلی اور آخری تمنائیں رہی ہوں گی اس لیے کہ حضرت کی زندگی میں دنیاوی خواہشات، آرزوؤں، اور تمناؤں کا کوئی خانہ نہیں تھا۔ اللہ نے چاہا تو اگلے صفحات میں کہیں اس اجمال کی تفصیل عرض کروں گا۔ مختصر یہ کہ نوافل تہجد اور تراویح میں قرآن پاک سنانے اور دور کرنے کا جو مشغلہ ماٹا میں شروع ہوا تھا وہ زندگی کے آخر دن تک اسی ذوق و شوق کے ساتھ جاری رہا۔ اور اشغال روحانیہ اور اذکار احتساب و تزکیہ نفس کا جو طریقہ اس وقت شروع کیا تھا وہ آخر دم تک جاری رہا۔ ترکی زبان بھی تمام عمر بولتے اور سمجھتے رہے اگرچہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ رسم الخط دُنیا

سے اُٹھ ہی گیا اور اُس زبان کی اہمیت ختم ہو گئی۔

ایام اسیری میں صد مات

• قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہم دم
گرمی ہے جس پہ کل بجلی : وہ میرا آشاں کیوں ہو

حضرت جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تھے تو بھرا بھرا خاندان اور سبسا یا گھر چھوڑ کر نکلے تھے۔ سفر صرت دو چار دنوں کا اور انتظام مختصر سی جدائی کا تھا مگر مقدر کی بات کہ سفر طویل ہوتا گیا۔ گرفتاری ہوئی۔ مصر کی جانب روانگی ہوئی۔ سزا ہوئی۔ پھانسی کی خبریں گرم ہوئیں اور مالٹا کی قید و اسارت پیش آئی۔ استاذ کی قربت اور ان کی پدرانہ شفقت نے ہر شکل آسان اور ہر مصیبت قابل برداشت بنا دی تھی۔ قید و بند کی سختیاں مبر و شکر کے ساتھ بھیل رہے تھے۔ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ کوئی معمولی انسان ہوتا تو صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوٹ ہی جاتا۔ ایک دن بلا اندیشہ و گمان یہ اطلاع ملی کہ بوڑھے ضعیف باپ اور دو جوان بھائیوں کو حکومت ترکی نے قید کر کے ترکی روانہ کر دیا اور بچے اور کمزور عورتیں مدینہ طیبہ میں اکیلے ادبے سہارا رکھے۔ کیسی عجیب اور طرفہ نماشا بات تھی کہ وہ ترکی حکومت جس کے لیے یہ لوگ تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار تھے اسی نے حضرت کے بوڑھے باپ اور بھائیوں کو محض اس جرم میں قید کر لیا تھا کہ وہ اصلاً ہندوستانی تھے اور ہندوستان کی حکومت اور ترکی سے لڑائی تھی۔ برادقت آتا ہے تو روشنی بھی اندھیرا بن جاتی ہے۔

دوست دشمن می شود و صائب بوقت عاجزی

خون زخیم آہواں رہ می دہد صیتاد را

حضرت کے والد ماجد تو مدینہ ہی کی خاک میں پیوند زمین ہونے کی تمنا میں گھر بار

اعزہ اقربا اور وطن چھوڑ کر دیار حبیب میں آ رہے تھے۔ اب جو ان کو اس طرح پابند و مجبور

کر کے ترکی روانہ کیا گیا تو اُٹھ ہی جاتا ہو گا کہ اس طرح ناخن کو گوشت سے اور روح کو تن سے

جدرا کر دینے کی خبر سے حضرت کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ مدینہ میں تنہا اور بے یار و مددگار رہ جانے والوں میں بوڑھی سوتیلی والدہ، دو بیمار بھاد جیں، اہلیہ، ایک خورد سال صاحبزادے اور ایک نوعمر صاحبزادی تھیں جن کا اللہ کے سوا کوئی ظاہری سہارا نہیں رہ گیا تھا۔ تاہم یہ معلوم کر کے کچھ اطمینان ہوا کہ ”مولینا عبدالحق صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت مدینہ طیبہ ہی میں تھے اور بعد میں ہندوستان آکر مدرسہ شاہی کے ہتم ہوئے انھوں نے حتی الامکان خبر گیری اور امور ضروریہ کی انجام دہی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ یوں تو امید ہی کے سہارے مصائب کے پہاڑ کٹ جاتے ہیں مگر حضرت صبر و شکر اور راضی برضائے باری تعالیٰ کا نمونہ تھے۔ اس کے علاوہ ابھی اُمید کا ایک رشتہ برقرار تھا کہ کبھی تو یہ اندھیرے پھٹیں گے اُجالا نمودار ہوگا، ادھر ان چچا بھتیجیوں کو رہائی ملے گی اُدھر باپ اور بھائیوں کی بیڑیاں کٹیں گی تو بوڑھے اور کمزور باپ کی آنکھیں روشن اور کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ نوعمر و نوخیز بھتیجا وحید احمد جس نے آنکھ کھول کر دادا ہی کی ذات میں ماں اور باپ کی شفقت پائی تھی ایک ایک دن انتظار میں گزار رہا تھا کہ کب وہ لمحہ میسر ہو کہ اُبڑے ہوئے افرادِ خاندان پھر ایک جگہ مل بیٹھیں مگر یہ کسے معلوم تھا کہ ابھی عشق کے بڑے بڑے اور کٹھن امتحان باقی تھے۔

سونا ابھی کن دن نہیں ہوا تھا اور کچھ آخری آپنچوں کی کسر ابھی باقی رہ گئی تھی۔ عین اس وقت جب حضرت کا ایک ایک لمحہ قرآنِ پاک کے حفظ میں گذر رہا تھا، ایک دن کئی ہفتوں کی رُک کی ہوئی ڈاک ملی اور اس کے ہر خط میں کسی نہ کسی فردِ خاندان کی وفات کی خبر درج تھی۔ اس طرح ایک ہی وقت میں باپ، جواں سال سچی، بھونہار بیٹے، جان نثار بیوی، بیمار والدہ اور دو دو بھاد جوں اکٹھے سات افرادِ خاندان کی موت کی جانکاہ خبر ملی۔ دوسرے لفظوں میں دو بھائیوں کو چھوڑ کر پورا خاندان اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ موت تو برحق ہے۔ جس نے ماں کی گود دیکھی اُسے قبر کی آغوش دیکھنی ہی پڑتی ہے مگر جن حالات میں اور جس مجبور ماحول میں جس طرح یہ اطلاعیں ملیں انھیں برداشت کرنے کے لیے پہاڑ جیسا کلیجہ چاہیے تھا۔ یہ تو یاد نہیں کہ کس سے مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ

گھر میں بزرگوں سے راقم الحروف نے اُس وقت کی چشم دید کیفیت سنی ہے۔ غالب خیال یہ ہے کہ مولینا وحید احمد نے مانا سے واپسی پر اہل خاندان کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ ضرور کیا ہوگا کہ ظہر کی نماز کے بعد حضرت حسب معمول حفظ میں مشغول تھے کہ مولینا وحید احمد نے ڈاک لاکر دی۔ خدا کو ہی علم ہے کہ دل میں کیا خطرہ گذرا ہوگا کہ قرآن بند کیا اور خطوط پڑھنے شروع کیے۔ ہر خط کے ختم پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چہرے کا رنگ تغیر ہو گیا۔ غرض ایک ایک کر کے سارے خطوط ختم کیے۔ زیر لب انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور پھر ٹھیک اسی طرح جیسے دس منٹ پہلے مشغول تھے، دوبارہ حفظ میں مصروف ہو گئے۔ قرآن پاک کی حکایت 'اذا اصابتہم مصیبتہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون' کی اس سے اچھی تعبیر صحابہ کرام میں تو ضرور ہی ملتی ہوگی، آج کے زمانے میں تو نہ کانوں سے سنی نہ آنکھوں سے دیکھی۔ بھتیجا وحید احمد گھر والوں کی خیریت و حالات اور خوشخبریوں کے شوق و انتظار میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ مگر خط دیتے تو کیا کہہ کر دیتے اور بتلاتے تو کس کلیجے سے بتلاتے کہ جن پیاری اور شفیق ہستیوں کی خیر و خیر کے تم منتظر ہو وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوئیں اور جس گھر کے حالات تم سُننا چاہتے ہو وہ گھر سدا کے لیے اُجر گیا۔

کچھ دوسرے قیدی رفقاء

”مولینا مرحوم (شیخ الہند) کی صداقت، ان کی حقانیت، ان کی للہیت اور تقویٰ و طہارت، نے فقط احباب ہی کے دل پر سک نہ جمایا تھا بلکہ مخالف بھی ان کی وقعت دل میں بہت زیادہ رکھتا تھا اور معاملہ عظمت ہی کا برتا تھا۔ بڑے بڑے فوجی افسر جنرل اور کرنل میجر باوجود انگریز ہونے اور اس بات کو سمجھنے کے کہ مولینا ہمارے سیاسی امور میں مخالف ہیں اور ہماری موجودہ حکومت کو ہند میں نہیں چاہتے بلکہ ہندوستان کی آزادی کے خواہاں ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی خلافت کے دوست ہیں، جب مولینا کو دیکھ لیتے تھے تو نہایت تعظیم سے پیش آتے تھے ٹوپی اُتار لیتے تھے

اور بعض بعض تو بہت زیادہ جھک جاتے تھے۔^{۱۰}

قیدیوں میں مختلف مذاہب اور ممالک کے مسلمان، عیسائی، یہودی، یورپین، ترکی، عرب، افریقی، کالے گورے تقریباً تین ہزار افراد تھے۔ ان میں زیادہ تر فوجی افسران، کمانڈرس، جنرل، کرنل، ایفینٹ، عام سپاہی اور کچھ سویلین عام شہری بھی تھے مگر یہ سب اتحادیوں اور انگریزوں کے مخالف و معاند تھے۔ ”ذہنی ہنجیالی اور مصیبت نے سب میں ایسا رشتہ جوڑ دیا تھا کہ ہر ایک دوسرے پر جان نثار اور فدا نظر آتا تھا اور حقیقت میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا دم بھرتا تھا۔ وہاں پر ایک عجیب منظر دکھائی دیتا تھا۔ گویا کہ تفرقہ مذاہب و اقوام و اوطان عالم انسانیت سے بالکل اٹھ گیا ہے۔ انسانیت کے رشتہ اتحاد نے ایک دوسرے سے ایسا جکڑ دیا ہے کہ گویا ہر ایک دوسرے کا حقیقی بھائی اور رشتہ دار ہے۔ بڑے بڑے ذمی جاہت اور اعلیٰ عہدہ دار افسران دیکھتے تھے کہ اہم ترین فوجی قیدیوں اور خطرناک ترین سیاسی نظر بندوں کی جماعت میں چند سادھے سادھے، متواضع و منکسر راج، متقی و پرہیزگار علما صلحا کا یہ گروپ بھی شامل ہے اور اتحادیوں کا مخالف ہے اور اس کے خلاف حکومت برطانیہ کا تختہ الٹ دینے کی سازش کا الزام ہے تو ان کے تعظیم سے جھک جاتے تھے۔“ حضرت مولانا رحمۃ اللہ سے عموماً ہر قوم کے ذمی علم اور مقتدر لوگوں کو بہت زیادہ بہمردی تھی اور بہت تعظیم سے پیش آتے تھے۔ عید کے ایام میں مسلمانوں کے علاوہ جرمنی، اسٹریا وغیرہ ممالک کے مقتدر اور ذمی و جاہت لوگ ملنے اور مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے اور گلہ ستہ وغیرہ پیش کرتے تھے۔ پرنس جرمنی جو کہ غالباً قیصر جرمنی کا بھتیجا تھا اور آڈن جہاز میں بحری فوجی کپتان کے عہدے پر تھا اور جملہ جرمنی کے اسراء میں باعتبار مرتبہ یعنی شاہی خاندان ہونے کے بہت بڑی عظمت رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ عید کے دن مولینا کے پاس آتا تھا، چند منٹ بیٹھتا تھا اور چائے نوش کر کے چلا جاتا تھا۔ مولینا بھی دو چار مرتبہ اس کے یہاں نہایت مختصر طور پر

تشریف لے گئے۔ جب کبھی راستے میں مولینا اس کو نظر پڑ جاتے تھے تو دور سے ٹوپی اُتار کر اور سر جھکا کر سلام کرتا تھا!

مسلمان قیدیوں، شامیوں، ترکیوں، مصریوں وغیرہ کو اس مقدس جماعت سے قربت کے مواقع زیادہ حاصل تھے۔ ایسا، عقائد اور مذہب کی ہم آہنگی کی بنا پر ان لوگوں کو حضرت سے بہت زیادہ روحانی تعلق اور ذہنی عقیدت ہوئی تھی۔ شامی اور ترکی قیدی، وقت اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ خدمات کا اور استفادے کا موقع ملے۔ ان میں بہت سے حضرات شیخ الہند سے بیعت ہوئے اور برابر صحبت بابرکت میں حاضر باش رہے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے ڈاکٹر غلام محمد صاحب اور مسٹر سیدار حضرت کی خدمت میں حاضر باش ہوئے۔ غلام محمد صاحب پنجاب کے رہنے والے تھے اور مصر میں بود و باش اختیار کیے ہوئے تھے مگر زمانہ جنگ میں ہندوستانی ہونے کی بنا پر شبہ میں گرفتار کیے گئے تھے۔ مسٹر سیدار بنگالی اور ذات کے برہمن تھے۔ یہ انگریزوں کے خلاف ایک بم کیس میں ماخوذ تھے۔ ان دونوں صاحبان

نے مانٹا پہنچنے کے فوراً بعد بڑی گرمجوشی سے حضرت کا استقبال کیا۔ ع

عنایت مجھ پہ فرماتے ہیں شیخ و برہمن دونوں مزا فی اپنے اپنے پاتے ہیں میرا چلن دونوں ایک ترکی فوجی افسر قیدی علی بیگ کا واقعہ بہت عبرتناک اور نصیحت آموز ہے۔ یہ اور ایک دوسرا فوجی افسر حکومت ترکیہ کے فرار شدہ مجرم تھے اور مصر میں روپوش تھے جنگ کے زمانے میں دونوں کو قید کر کے مانٹا بھیجا گیا۔ یہاں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا اور علی بیگ نے دوسرے ترکی قیدی پر چھری کا ایسا کاری زخم لگایا کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ مقدمہ چلا اور علی بیگ کو پھانسی کا حکم ہوا۔ اُس نے درخواست کی کہ اس کو ان حضرات اکابر سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند اور حضرت شیخ مدنی کو متعدد بار اس کی قیام گاہ پر لے جایا گیا۔ اُس نے یہ درخواست بھی کی کہ پھانسی کے وقت یہ دونوں اکابر اس کے قریب موجود رہیں اور تکفین و تدفین ان ہی

دونوں کے ہاتھوں سے انجام پائے۔ یہ دونوں درخواستیں منظور کی گئیں۔

پھانسی کے دن صبح صادق سے کچھ پہلے ان حضرات اکابر کو آفس میں لے جایا گیا۔ وہیں انھوں نے فجر کی نماز ادا کی اور وہاں سے قید خانے تک موٹر پر لے جائے گئے۔ سات یا آٹھ بجے صبح کو چائے پیش کی گئی جس کو پینے والوں میں علی بیگ خود بھی شریک رہا اور پھر اُس نے کچھ وصیتیں کیں۔ آخر کار جب پھانسی کا وقت آگیا اور اس کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں تو اُس نے حضرت شیخ الہندؒ سے عرض کی کہ پھانسی کے چوڑے اور تختے تک آپ میرے ساتھ رہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت کے ہاتھ پکڑ لیے اور تختے تک لے گیا۔ جب اُسے تختے پر کھڑا کیا گیا تب حضرت کے ہاتھ اُس نے چھوڑے۔ مگر حضرت اُس کے قریب ہی رہے۔ حتیٰ کہ پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا۔ اُس نے کلمہ پڑھا اور تختہ کھینچ لیا گیا۔ حضرت مدنیؒ نے خود اس کی تجویز و تکفین کی اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ حضرت شیخ الہندؒ نے نماز پڑھائی اور پھر برابر ایصال ثواب کرتے رہے۔

انا للہ وانا الیہ راجعون رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔

قیدیوں میں ایک بڑے ترکی فوجی افسر میجر عزت حسن تھے۔ ویسے تو وہ دمشق کے رہنے والے تھے مگر ترکی فوجی افسر ہونے کی وجہ سے زیادہ وقت ترکی میں گزارا تھا۔ بڑے بامروت، شریف اور بلند اخلاق تھے۔ حضرت اور ان کے بزرگ ہمراہیوں کی شہرت اور ان کی پاکیزہ سیرتوں کی باتیں سنیں تو درخواست بھیجی کہ میں زیارت کا متمنی ہوں اور حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ الہندؒ تواضع و انکار کی تصویر تھے۔ ان کی درخواست سن کر خدام کرام کے ساتھ بہ نفس نفیس تشریف لے گئے۔ وہ حسب توفیق بڑی تواضع، اخلاق، اعزاز اور تکریم کے ساتھ پیش آئے اور بہت اصرار سے عرض گزار ہوئے کہ مجھے کسی خدمت کا موقع عنایت کیا جائے۔ حضرت نے شکر یہ ادا کیا اور فرمایا کہ الحمد للہ مجھے کسی خدمت یا چیز کی حاجت نہیں ہے مگر میجر صاحب نے ڈاکٹر غلام محمد صاحب سے علیحدگی میں فرمایا کہ یہ حضرات اللہ کے برگزیدہ بندے اور دنیا کی ہر چیز سے مستغنی ہیں۔ اس لیے اللہ کے سوا کبھی کسی سے اپنی حاجت نہ کہیں گے مگر آپ توجہ

کے ساتھ خیال رکھیے اور جس لمحہ کوئی ضرورت یا اخراجات یا مصارف یا انتظامات کی پیش آئے فوراً مجھے اطلاع دیجیے۔ جزاء اللہ ورحمہ راحمہ رحمتہ واسعہ۔

ایک دوسرے بڑے بڑے ترکی افسر کرنل اشرف بیگ تھے۔ یہ حافظ قرآن تھے اور بچپن میں سلطان عبدالحمید مرحوم کی زیر نگرانی شاہی محل میں تربیت پائی تھی۔ بڑے انقلابی اور مجاہد مسلمان تھے۔ قومی درد اور ملی غیرت ان کے سینہ پر نور میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ بارہا جلاوطن کیے گئے۔ قید میں ڈالے گئے۔ نظر بند ہوئے۔ ردپوش ہو کر صحراؤں اور جنگلوں میں مارے مارے پھرے مگر حق گوئی اور بیباکی سے باز نہیں آئے۔ بڑی بڑی جماعتیں بنائیں۔ فوجیں تیار کیں۔ دشمنوں کے خلاف نبرد آزما ہوئے اور اسلام و مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے میدان میں سینہ سپر ہوئے۔ آخر کار مالٹا میں قید کیے گئے۔ ان کو بھی حضرت شیخ الہند سے بڑی عقیدت اور بہت تعلق تھا۔ حضرت بھی غیر معمولی توجہ اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے اور موقع بہ موقع ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ مالٹا سے رہائی کے بعد کرنل موصوف جب ترکی پہنچے اور مصطفیٰ کمال پاشا کے مشن میں شریک ہوئے تو آنا ترک نے بیان دیا کہ اشرف بیگ کے آنے سے مجھے ایسا محسوس ہوا اور اتنی تقویت ملی جیسے میری دونوں آنکھیں مجھے مل گئی ہوں۔

ان کے علاوہ بہت سے فوجی افسر قیدی، بحری فوج کے کپتان حسین، آفندی بغدادی، کپتان نیازی آفندی، میجر سہا بیگ، حبیب بیگ، جلال بیگ، کرنل جواد بیگ، جنرل محمود پاشا، جنرل فخری پاشا، فائق بیگ، مفتی حسن فہمی آفندی، شیخ الاسلام خیر الدین آفندی، انور پاشا کے والد احمد پاشا، سابق صدر اعظم ترکی سعید حلیم پاشا اور ان کے بھائی عباس حلیم پاشا وغیرہ وغیرہ حضرت شیخ الہند کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور توجہات عالیہ کے خواستگار ہوتے تھے۔ ان میں سے کچھ حضرات نے بیعت کی درخواست بھی کی جن میں سے بعض کو حضرت نے داخل سلسلہ فرمایا۔ شیخ الاسلام خیر الدین آفندی اور کرنل جلال بیگ نے حضرت کی

خدمت میں دلائل انخراط شریف اور حامل شریف ہدیہ پیش کی تھی جنہیں حضرت
 پڑھا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے۔ کیسے کیسے اہل اللہ باصفا اور
 مقربین بارگاہِ الہی ہوں گے جن کے ذکر ہی سے قلب کی حالت متغیر ہو جاتی ہے۔
 زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے

قیدی شہید

حضرت شیخ الہندؒ کے قیدی رفقا میں حکیم نصرت حسین صاحب کوڑھ جہاں آباد ضلع فتحپور کے باشندہ تھے۔ دیوبند کے فاضل، حضرت کے شاگردِ خصوصی، مرید اور جاں نثار تھے۔ آپ اپنے بہنوئی سید ہاشم صاحب کے ساتھ حضرموت کے ایک شہر مکلا تشریف لے گئے تھے۔ سلطان مکلا حکیم صاحب کے زیر علاج تھا۔ اُس نے اپنے خرچ پر ان دونوں صاحبان کو حج کے لیے بھجوادیا۔ سید صاحب توجح کے بعد مراجعت فرمائے وطن ہوئے اور حکیم صاحب زیارتِ مدینہ طیبہ کے شوق میں مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے حضرت شیخ الہندؒ جب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو حکیم صاحب اپنے استاد اور شیخ کے قافلے میں شامل ہو گئے اور جب حضرت کا قافلہ گرفتار ہوا تو آپ بھی قید ہو کر جدہ لائے گئے۔ یہاں پر سی۔ آئی۔ ڈی اسپیکٹر بہاء الدین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اعلان کر دیں کہ آپ کا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں آپ کی رہائی کی صورت پیدا کر سکتا ہوں حکیم صاحب نے بہ کمال استقامت جواب دیا کہ میں تو آخرت میں بھی اس جماعت اور شیخ الہندؒ کے زیر سایہ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے دنیا ہی میں ان سے الگ کیے دیتے ہیں۔ اگر آپ سب کی رہائی کا انتظام کر سکیں تو فیہا، ورنہ میں تنہا کسی بھی حالت میں حضرت سے الگ ہونا نہیں چاہتا۔ بالکل یہی پیش کش مالٹا میں بہ حالت قید گورنر یو پی کے سکریٹری مسٹر برن نے بھی کی تھی اور اس کو قبول کرنے کے لیے حضرت شیخ اور ہمراہیوں نے حکیم صاحب سے بہت اصرار کیا تھا۔ مگر مسٹر برن کو بھی آپ نے بالکل یہی جواب دیا تھا۔

مالٹا میں غریب اوطنی، شدید سردی، خورد و نوش کی تکلیفیں اور راحت و آرام کا

فقدان تو تھا ہی، اس پر مزید یہ کہ حکیم صاحب پہلے ہی سے بیمار اور کمزور تھے۔ معدہ کی شکایتیں تھیں اور وقتاً فوقتاً حرارت اور بخار کی شکایت ہو جاتی تھی۔ ان عوارض اور ضعف کی حالت میں ان کو خصوصی راحت، سکون، آرام اور علاج کی ضرورت تھی۔ مگر گھر بار اور وطن سے دور اور وہ بھی دشمنوں کی قید میں راحت و آرام کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس پر مزید یہ کہ حکیم صاحب ریاضت و عبادت، سحر خیزی، جانسوزی میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ بعد مولینا مرحوم کے بہاری جماعت میں کوئی بھی باوقات شب خیز اور تہجد گزار ان (حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ) سے زیادہ نہ تھا بلکہ تمام کمپ اسرا و مالٹا میں بھی کوئی ایسا نہ تھا۔ مولینا کی نظر عنایت ان پر بہت زیادہ تھی۔ مالٹا پہنچنے کے بعد کافی دنوں تک آپ کی صحت قابل اطمینان رہی مگر جب ۱۹۴۶ء میں تب و لرزہ کی شکایت ہوئی جو تین ماہ تک جاری رہی۔ ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ اسپتال میں داخل کر دیا جائے۔ مگر اتنی مدت تک شدید تکلیف میں مبتلا رہنے کی وجہ سے مریض کی حالت بہت ہی سقیم ہو گئی تھی۔ ان حضرات نے اسپتال کے داخلے میں بہت پس و پیش کیا اور کہا کہ اگر داخلہ ضروری اور لازمی ہی ہو تو کسی ساتھی کو ساتھ رہنے کی اجازت ملنی چاہیے مگر ڈاکٹروں نے کسی طرح اس کی اجازت نہ دی۔ اور داخلہ بھی اجباری اور لازمی قرار دیا۔ لاچار ہو کر بادل ناخواستہ آپ کو اسپتال روانہ کیا گیا۔ خدا نے فضل فرمایا اور ہمارے ایسوں اور احباب کو وہاں جانے اور ضروری خدمات کی انجام دہی کی اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ یہ حضرات برابر جاتے رہے۔ لیکن حالت دن بدن کمزور ہی ہوتی گئی۔ ڈاکٹروں اور نرسوں اور دوسرے تیمارداروں نے توجہ، علاج اور دیکھ بھال میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا مگر علاج کے ساتھ ہی ساتھ مرض بھی بڑھتا ہی رہا۔ آخر کار ڈاکٹروں نے گوشت اور پرندوں کا سوپ اور الکو حل سے مرکب مقویات کا استعمال کرنا چاہا۔ مگر حکیم صاحب نے بالکل انکار کر دیا کہ موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے مگر محرمات کا استعمال نہیں کروں گا۔

ادھر دن بدن مرض کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا، ادھر لمحہ بہ لمحہ کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ اجاب نے ایک بار پھر اسپتال سے نکال کر ساتھ رکھنے کی کوشش کی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ آخر کار بالکل ہڈی چمرا رہ گئے۔ ڈاکٹروں نے چار پائی سے اٹھنے اور چلنے پھرنے کی سخت ممانعت کر دی۔ بار بار ضعیف والدہ، اہلیہ اور معصوم جگر گوشوں کو یاد کرتے تھے۔ حالت مایوسی کو پہنچ گئی۔ بلنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی مگر سکون و اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ ذرا موقع ملتا تھا اور کچھ سانس لیتے تھے تو چار پائی سے اتر کر پورے ارکان کے ساتھ نمازیں اور تہجد ادا فرماتے تھے۔ ایک روز یہ حضرات تشریف لے گئے تو فرمایا کہ میرے اذکار و اشغال برابر جاری ہیں اور الحمد للہ قلبی تعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور کسی قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ بالکل نہیں ہے۔ ذیقعدہ ۱۳۳۷ھ کی نویں تاریخ جب یہ اکابر اپنے غریب الوطن قیدی ساتھی اور بیمار و جاں نثار رفیق سے ملنے گئے تو انھیں یہ روح فرسا و صبر آزا ما خبر ملی کہ جادہ، تسلیم و رضا اور راہ وفا کے اس مسافر نے جان جاں آفریں کے پسر ذکر دی۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ زبان و قلم میں یہ طاقت اور الفاظ میں وسعت کہاں سے لائی جائے کہ اس غم و اندوہ کی کیفیت بیان کی جائے۔ لیکن یہ بڑے صابریں و شاکرین کی جماعت تھی اور مقربین بارگاہ الہی کا مجمع تھا۔ پھر بھی بشر تھے، اطلاع سن کر دل تھام کر رہ گئے اور راضی برضا ہو کر مالک حقیقی کا شکریہ بجالائے۔

تجہیز و تکفین و تدفین کا مرحلہ سامنے آیا تو وہاں کے ذمہ داروں اور خصوصاً ڈاکٹروں نے انکار کر دیا کہ چونکہ مرض متعدی تھا اس لیے کسی کو غسل دینے، کفن پہنانے اور قریب جانے کی بھی اجازت نہیں۔ ساتھیوں نے اور دوسرے قیدیوں نے اس پر احتجاج کیا تو صرف اس کی اجازت ملی کہ دور سے جنازے کی زیارت کر لی جائے اور نماز جنازہ ادا کر لی جائے۔ جب کوئی احتجاج اور درخواست کارگر نہیں ہوئی تو حضرت کو غصہ آگیا اور فرمایا کہ ہم لوگ کسی چیز میں شریک نہ ہوں گے۔ چنانچہ بڑی رد و قدح کے بعد اجازت دی گئی کہ غسل اسپتال کے عملے نے دے دیا ہے۔

تکفین و تدفین آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کریں۔ چنانچہ ان حضرات نے اپنے ہاتھوں سے تجھیز و تکفین کی اور حضرت شیخ الہند نے یہ قلب حزیں و بہ چشم نم اپنے جاں نثار خادم کی نماز پڑھائی جس میں کم و بیش ساٹھ مسلمان قیدی شریک ہوئے اور پھر ترکی کے سلطان عبدالعزیز مرحوم کے وقف کردہ قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے پیوند زمیں کر دیا۔ تدفین تکفین اور لوح مزار کے تمام اخراجات کرنل اشرف بیگ نے بالا ہی بالا ادا کیے۔

سبزہ نوردستہ اس گھر کی نگہبانی کرے
آسماں تیری حمد پر شبنم افشانی کرے

رہائی کے آثار

ان اکابر کی رہائی کے لیے ہندوستان کے عوام متواتر بے چین اور ملک کے مقتدر و نام آور حضرات برابر کوشاں تھے۔ حکومت حضرت شیخ الہندؒ کی مقبولیت اور سپہک کے احتجاج اور مطالبات پر سنجیدگی سے غور کر رہی تھی اور اس کا رویہ بہت کچھ بدلا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس ماحول میں جنگِ عظیم بھی اتحادیوں اور خصوصاً برطانیہ کی فتح پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد مالٹا کے سارے ہی قیدیوں کی رہائی کے آثار و قرائن نظر آنے لگے۔ ”غالباً ستمبر یا اکتوبر ۱۹۱۴ء میں ایک روز مولینا کو آفس میں بلایا گیا اور کمانڈر نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کے لیے خاص طور پر حکم آیا ہے کہ آپ کی خاطر داری غایت درجہ کریں اور جو مراعات اور حقوق فوجی کپتان کے لیے ہیں وہ آپ کے ساتھ ملحوظ ہوں۔ اس لیے ہم آئندہ ان کا اہتمام کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت یا شکایت ہو تو بیان فرمائیے۔ مولینا مرحوم نے فرمایا کہ میں کیمپ میں جا کر کل لکھ کر بھیج دوں گا۔ اس نے کہا کہ اپنے قیام کے لیے جس کیمپ اور کمرے کو آپ چاہیں پسند فرمائیں، ہم وہاں انتظام کر دیں گے۔ انگریز قوم اور برطانوی حکومت بنیادی پالیسی اور عمومی سیاست کی منبض پر مکمل کنٹرول رکھتی تھی لیکن عام رکھ رکھاؤ اور معمولی معاملہ اور برتاؤ میں وہ پوری رعایت اور مروت کا لحاظ بھی کرتی تھی، خصوصاً فرق مراتب کا خیال ضرور رکھتی تھی، چنانچہ اسی زمانے میں ایک روز حضرت کی خدمت میں قیدی کیمپ کا انگریز ڈاکٹر حاضر ہوا اور عرض کی کہ حکومت ہند نے مجھے حکم بھیجا ہے کہ آپ کی صحت اور رعایت کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کروں اور خورد و نوش کی ضروریات میں حسب ضرورت خواہش اضافہ کروں۔

اس قسم کی چھوٹی چھوٹی رعایتوں کے تین چار ماہ بعد ایک روز حضرت کو

آفس میں بلایا گیا وہاں گورنر یوپی کے سکریٹری مسٹر برن نے آپ سے ملاقات کی۔ یہ شخص صاف اُردو بولتا تھا اور سب کے ساتھ ادب اور اخلاق کے ساتھ بات کرتا تھا۔ اُس نے تفصیل کے ساتھ حضرت کی مزاج پرسی کی اور پوچھا کہ یہاں کی آب و ہوا کا آپ کے مزاج مبارک پر کوئی ناگوار اثر تو نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہاں کی سردی اور ناموافق آب و ہوا مجھے بالکل موافق نہیں ہے۔ اگر حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے قید میں رکھا جائے تو دیوبند یا ہندوستان کے کسی بھی دوسرے مقام پر مجھے منتقل کر دیا جائے۔

حضرت مدنی نے نہایت مدلل اور بہترین طریقے سے اُسے قائل کر دیا کہ ہماری روزمرہ کی غذا کی ہر چیز، گوشت، دالیں، تیل، مصالحہ، گڑ، گھی، غرض ہر چیز یہاں نایاب ہے۔ جو غذا آپ لوگوں کے لیے پسندیدہ اور قابل تزیج ہے وہ ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کچھ چیزیں کسی نہ کسی طرح دستیاب بھی ہیں تو اتنی گراں اور کمیاب ہیں کہ ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ گورنمنٹ برطانیہ ہم کو ضرورت کے مطابق مصارف بھی نہیں دیتی۔ مصری، ترکی، عربی، جرمنی اور دوسری حکومتیں اپنے قیدیوں کو مکمل اخراجات دیتی ہیں۔ میرے بھائی ایڈریانوئل میں نظر بند ہیں۔ ان کو نہ صرف یہ کہ چھ پاؤنڈ فی کس خرچ ملتا ہے بلکہ رہنے پہننے اور آنے جانے کی مکمل آزادی ہے اور ان کے اہل و عیال بھی ان کے پاس پہنچا دیئے گئے ہیں مگر آپ کی حکومت نہ ہماری صحت و ضروریات کی طرف توجہ دیتی ہے نہ اخراجات پوری طرح دیتی ہے اور نہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مسٹر برن حضرت کے معقول دلائل اور فتانوفی وضاحتوں سے بہت متاثر ہوا۔

حضرت مولانا حکیم نصرت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے بہت زور دیا کہ میں آپ کی رہائی کے احکامات فوراً جاری کرادوں گا۔ ساتھیوں نے اور حضرت شیخ الہند نے بھی بہت اصرار کیا کہ وہ مسٹر برن کے کہنے کے مطابق یہ لکھ کر دے دیں کہ میں رہائی چاہتا ہوں۔ مگر آپ کو تورہ و فایں شہید ہونا تھا چنانچہ اُس سے صحافت

انکار کر دیا کہ چھوٹیں گے تو سب ساتھ چھوٹیں گے، میں اکیلے اپنی رہائی نہیں چاہتا۔ حضرت مولانا عزیز گل صاحب یہ ظلم نے اس سے نہایت سختی سے باتیں کیں اور فرمایا کہ کیا آپ کی حکومت کو ہمارے حالات اور تکالیف کا علم نہیں ہے جو آپ ہمیں بیوقوف بنانے آئے ہیں۔ ایسی جرات آمیز اور صاف باتیں سن کر اس نے کہا کہ شاید آپ ہی مولانا عزیز گل صاحب ہیں۔ ان ملاقاتوں کے بعد دوسرے دن وہ ان حضرات کی قیام گاہ پر حاضر ہوا۔ چونکہ فارسی اور اردو کا خاصا علم رکھتا تھا۔ اس لیے مختلف موضوعات پر باتیں کیں اور حضرت کی کتابیں دیکھیں۔ نیز نہایت عقیدت و احترام کا اظہار کیا۔ رخصت ہوتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ میں نے آپ کی راحت و آرام کے سارے انتظامات کر دیئے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہر معاملے میں آسانی ہو گئی اور سامان خورد و نوش کے بجائے نقد روپیے ملنے لگے۔ حضرت کے لیے چار اور دوسرے لوگوں کے لیے دو شلنگ روزانہ مقرر ہوئے۔

اس کے جانے کے بعد ہندوستان کے علماء و اکابر کے خطوط ملے کہ متعدد وفود

حکومت سے ملے اور زور دیا کہ جلد سے جلد ان حضرات کی رہائی عمل میں لائی جائے۔ اور اسی بنا پر مسٹر برن جا رہے ہیں۔ آپ یوگ ان کی شرائط منظور کر لیں۔ تاکہ جلد از جلد واپسی ہو سکے۔ یہ سارے قرائن اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آیام اسارت ختم ہونے والے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد عام قیدیوں کی رہائی شروع ہو گئی۔ ان حضرات کو نہایت اعلیٰ درجہ کی قیام گاہوں میں منتقل کیا گیا۔ رہائی کی ابتدا کچھ جرمن، آسٹریں اور بلگیسین قیدیوں سے ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ مصری، شامی اور ترکی قیدی بھی رہا کیے جانے لگے۔ چار چھ ماہ کے وقفے میں کافی قیدی رہا ہو کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ آخر میں صرف یہ حضرات اور دس بارہ ترکی افسران سعید حلیم پاشا سابق صدر اعظم ترکی، ان کے بھائی عباس حلیم پاشا، کرنل جلال بیگ سابق گورنر صوبہ بوسہ ترکی جنرل علی سلیمان، احسان پاشا، جنرل نخری پاشا، شیخ الاسلام خیر الدین آفندی اور جنرل محمود پاشا جیسی اہم اور بڑی شخصیتیں رہ گئیں۔

مالٹا سے رہائی اور روانگی

گلوئے عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے
تو لوٹ آئے ترے سر بلند سجیا کرتے

یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہو گا کہ رہائی، آزادی اور دیدار وطن کے انتظار میں ان حضرات اکابر کا ایک ایک منٹ کیسے گزر رہا ہو گا مگر آنکھوں دکھنی بات یہ ہے کہ یہ لوگ مقدرات الہیہ پر صبر اور رضائے باری تعالیٰ پر شکر کی زندہ مثال تھے۔ راقم الحروف کو ان میں تین حضرات مولینا وحید احمد، مولینا عزیز گل اور حضرت شیخ مدنی کی زیارت اور مجالست کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اول الذکر دو حضرات بھی بڑے دل گردے کے لوگ اور مقربین بارگاہ بزرگ تھے مگر حضرت شیخ جیسے راضی برضائے الہی، صابر شاکر اور نفوس مطمئنہ کتابوں میں تو بے شک موجود ہیں اس دنیا میں چلتے پھرتے تو آپ ہی کو اپنی مثال دیکھا۔ نہ دنیا کی کسی دل چسپی سے دل چسپی تھی، نہ کسی رنج سے تکلیف تھی۔

نہ شادی داد سامانے نہ غم افزود حرمانے

بہ پیش ماغریباں بہر کہ آمد بود مہمانے

اور جب خدام کا یہ حال تھا تو حضرت شیخ الہندؒ کے لیے تو یہ تصور بھی نہیں آسکتا کہ آپ ایک ایک دن رہائی کا انتظار کرنے لگے ہوں گے۔ تاہم اب امتحان پورا ہو چکا تھا۔ جیل کی چہار دیواریں کال کوٹھڑیوں اور تختہ دار تک پہنچ کر حق کے یہ علمبردار ثابت قدم ثابت ہو چکے تھے۔ چنانچہ وسط فروری ۱۹۲۰ء کی ایک صبح کو کمانڈر کا حکمنامہ آپہنچا کہ آٹھ دن کے اندر اندر سفر کے لیے تیار رہیں۔ ٹھیک آٹھویں روز دوسرا حکم ملا کہ صبح کے اسٹیمر سے آپ لوگ ہندوستان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ حضرات پوری طرح تیار ہوئے، سامان درست کر لیا گیا اور روانگی کے سائے چھوٹے بڑے انتظامات کر لیے گئے مگر عین وقت پر اطلاع ملی کہ اسٹیمر کے مسافروں

میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے دوسرے اسٹیمر کا انتظار کرنا پڑے گا اور اس کا کوئی وقت دن، تاریخ متعین نہیں کی گئی۔ بالآخر کم و بیش ایک ماہ بعد ۱۲ مارچ ۱۹۲۰ء کو جمعہ کے دن دس بجے ان کو اسٹیمر پر سواری کا حکم دیا گیا۔ گئے پچھتے چند قیدی حضرات جو باقی رہ گئے تھے وہ ان اکابر کے فراق سے بے چین تھے چہرے آنسوؤں سے تراور دل رنج و الم سے معمور تھے۔ رخصت کے وقت عجیب و غریب منظر تھا۔ مسلمان تو مسلمان ہی تھے غیر مسلم بھی آزرہ اور نم دیدہ تھے۔ قیدی ہی نہیں بلکہ چھوٹے بڑے سارے ہی ذمہ داران اور افسران و داع کرنے کیلئے بندرگاہ پر جمع تھے۔ حضرت شیخ نے سواری پر قدم رکھا تو شیخ الاسلام خیر الدین آفریدی نے باواز بلند دعا مانگی۔ حاضرین نے بھرائی ہوئی آوازوں سے آمین کہا۔ ماٹا سے بڑے بڑے قیدی، ذرا، شاہزادگان، افسران اور ذمہ داران رخصت ہوئے تھے مگر ایسا روح پرور اجتماع، ایسی تعظیم و تکریم جو ان بوریہ نشین نقیروں کی کی گئی کسی کے حصے میں نہیں آئی تھی غیر مسلم افسران اور انگریز ذمہ داران اس غیر معمولی عقیدت و محبوبیت پر انگشت بنداں تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ کم و بیش تین برس کی اسارت کے بعد یہ قافلہ قیدی کیمپ سے نکلا اور جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز میں انھیں سکند کلاس میں فر کوش کرایا گیا اور خدمت کے لیے صوبہ سرحد کے مسلمان پٹھان حاضر ہوئے۔

مولانا سید عزیز گل صاحب مدظلہم بھی اسی صوبے کے باشندے تھے اور آپ کے آبا و اجداد بھی پشتہا پشت سے اس علاقے کے روحانی اور دینی پیشوا اور مقتدا تھے۔ اس پر مزید یہ کہ پشتون زبان کے اشتراک کی وجہ سے اقربا اور اعزہ کی سی محبت و تعلق میسر آیا۔ چنانچہ ان خدام نے خدمت اور محبت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ایسے خوشگوار ماحول میں جہاز اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ مگر نگرانی بدستور تھی۔ پہرے چوکی اب بھی قائم تھے اور سرکاری طور پر یہ یقین نہیں ہوا تھا کہ قافلے کا رخ کس منزل کی طرف ہے۔ غیر سرکاری طور پر یہ اطلاعات ضرور ملی تھیں کہ جہاز بمبئی کیلئے

روانہ ہوا ہے۔

کس نمی گفت کہ منزل کہ مقصود کجا است

ایں قدر رہست کہ بانگے جر سے می آید

۱۵ مارچ کی صبح کو جہاز اسکندریہ پہنچا۔ دن بھر قیدیوں کو اتارنے، ٹھہرانے اور لانے لے جانے کے انتظامات ہوتے رہے۔ شام کو سپاہیوں اور فوجیوں کے پہرے میں آپ حضرات کو اتارا گیا اور ٹرام کے ذریعے اسکندریہ کے فوجی قیدیوں کے کیمپ میں پہنچایا گیا جس میں قیام و طعام اور راحت و آرام کے انتظامات ایسے ناقص تھے کہ ساری رات بے چینی اور بے خوابی میں گزارنی پڑی۔ صبح کو کیمپ سے جیل خانہ کی طرف روانگی ہوئی۔ دو طرفہ بندو قوں اور سنگینوں سے مسلح سپاہیوں کی قطاروں کے درمیان یہ حضرات پیدل جیل خانہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ برسوں کی قید اور اسیری نے چلنے پھرنے کی طاقت یوں بھی کم کر دی ہوگی اور پھر تین چار دن کے سفر کی تکان اور رات کی بے خوابی نے مزید خستہ و شکستہ کر دیا ہوگا۔ نہ جانے کیسے چلے ہوں گے۔

قیدِ قفس میں طاقت پر دوا اب کہاں

رعشہ سا لکچھ ضرور مرے بال دپر میں ہے

مگر عزم و عمدیت کے آگے ہر دشواری آسان ہوتی ہے۔ یہ پیدل سفر بھی آسانی بلکہ خندہ پیشانی سے پورا ہوا۔ اس جیل خانہ میں ترکی اور عربی قیدی بھی تھے۔ سپاہی اور پہرہ دار سنہ و ستانی تھے مگر ان کو کسی سے ملنے اور بات چیت کی اجازت نہ تھی۔ یہ سارے ہی حضرات ملاقات اور استفادہ کے آرزو مند ہوئے مگر باوجود درخواست کے اجازت نہ ملی۔ تاہم چلتے پھرتے سلام و مصافحہ ہو جاتا تھا اور یہ لوگ ہدایہ اور تحفے ارسال کر لیتے تھے۔ اٹھارہ دن تک اسی پابندی کے ساتھ اس جیل میں رہ کر ۲۲ اپریل ۱۹۳۶ء کو اسکندریہ سے سوئٹز کے لیے بذریعہ ٹرین فٹ کلاس میں روانہ ہو کر شام کو وہاں پہنچ گئے۔ یہاں نگرانی کی سختیوں میں کمی ہو گئی اور ملنے جلنے کی پابندی بھی ختم ہو گئی۔ سوئٹز میں اسٹیمر کے انتظار میں پونے دو ماہ تک ٹھہرنا پڑا۔ ۲۳ مئی ۱۹۳۶ء کو اسٹیمر ملا اور اس میں

فصلت کلاں میں راحت و آرام کے ساتھ سفر شروع ہوا جو پورے پندرہ دن کے بعد ختم ہوا۔ مختصر یہ کہ ۲۰ رمضان المبارک ۱۳۲۵ھ مطابق ۸ جون ۱۹۳۰ء کو تین برس سات مہینے کے بعد بمبئی پہنچا کر ٹیم کو رہا گیا تھا۔

رہائی کی خوش خبری آپ حضرات کو بمبئی لنگر انداز ہونے کے بعد ہی ملی چنانچہ اب اترنے سامان اتارنے اور دوسرے معاملات کے انتظامات انھیں خود ہی کرنے تھے جس کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور مولینا عزیز گل صاحب بذریعہ کشتی بمبئی شہر روانہ ہو گئے اور حضرت شیخ الہند نیز مولینا وحید احمد موٹر بوٹ کے انتظار میں جہاز ہی پر رہے۔ بمبئی کے عوام اور خلافت کمیٹی کے ذمہ داران کو اپنے محبوب رہنماؤں کے قدم بیمنت لزوم کی اطلاع ملی تو فرط مسرت سے بے قابو ہو گئے مگر ساتھ ہی یہ حسرت بھی ہوئی کہ ایک گفتہ کی مدت میں نہ تو شایان شان استقبال کی تیاریاں کر سکیں گے، نہ جلسہ و جلوس کے انتظامات ہو سکیں گے اور نہ اطراف و جوانب کے ذمہ داروں کو یہ خوشخبری بھیج سکیں گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا استقبال بارانِ رحمت کے ساتھ فرمایا۔ ادھر جہاز لنگر انداز ہوا، ادھر رحمت کی بارش نے بڑھ کر پیشوائی کی اور جو بیس گھنٹے تک ایسی بارش ہوئی کہ موٹر بوٹ کا جہاز تک پہنچنا اور مسافروں کا اترنا متعذر ہو گیا۔ اس عرصے میں مادرِ وطن نے اپنے جان نثار پوتوں کے لیے گود آراستہ کرنی، لاکھوں عقیدت مند، پروانہ ہائے شمع آزادی عوام، خواص، لیڈران اور رہنمایان، علمائے دیوبند، مولینا شوکت علی، مفتی کفایت اللہ، حکیم عبدالرزاق انصاری، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، نواب محی الدین صاحب قاضی ریاست جھوپال، مولینا عبدالباری فرنگی محلی، ہہاتما گاندھی اور سیکڑوں دوسرے لیڈران خلافت کمیٹی کے زیر اہتمام بندرگاہ پر استقبال کے لیے صف بستہ ہو گئے۔ جہاز سے اترنے سے پہلے ایک انگریز افسر دو تین ہندوستانی افسروں کے ساتھ حضرت شیخ الہند کی خدمت میں حاضر ہوا اور علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست

کی تخیلیہ میں اُس نے کہا کہ مولینا رحیم بخش صاحب لے آئے ہیں، وہ آپ سے بات کریں گے، آپ ان کی باتوں کو شور سے سنیں۔ اس کے بعد مولینا رحیم بخش آئے اور انہوں نے حضرت کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ آپ جہاز سے اتر کر سیدتہ اسٹیشن تشریف لے چلیں آپ کے سفر کے انتظامات ہو جائیں گے مگر بمبئی میں قیام نہ کریں اور سیاریات سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیں، ورنہ حکومت کی طرف سے سختی اور شدید کارروائی کا اندیشہ ہے۔ حضرت شیخ نے ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور بمبئی میں نہ صرف یہ کہ قیام فرمایا بلکہ اُس جلسے میں بھی شرکت فرمائی جو استقبال کے لیے خلافت کمیٹی نے ترتیب دیا تھا۔ اس کے علاوہ "بمبئی اترتے ہی مولینا شہکت علی مرحوم اور خلافت کمیٹی کے ممبروں وغیرہ سے ملاقات ہوئی۔ مولینا عبد الباری صاحب فرنگی محل لکھنؤ سے اور مہاتما گاندھی احمد آباد سے حضرت شیخ الہند کے استقبال کے لیے تشریف لائے تھے۔ نیز دوسرے لیڈران سے خلوت و جلوت میں باتیں ہوئیں تو آپ نے بھی عدم تشدد کا پروگرام ہندوستان کے لیے ضروری قرار دیا اور پھر اسی طریقے پر تمام خلافت کمیٹی اور کانگریس کی تجویز کردہ باتوں کی موافقت کی۔ اس کے بعد یہ قافلہ دیوبند کے لیے روانہ ہو گیا۔

یوسف گم گشتہ باز آید بہ کنعان غم مخور
کلبہ احزاں شود روزے گلستاں غم مخور

ربانی کے بعد ہندوستان میں

حضرت جب گرفتار ہوئے تھے تو وطن آباد تھا۔ خاندان پھلا پھولا اور کامیاب تھا۔ ماں باپ بھائی بھانجیاں اہل و عیال اور گھر بار اطمینان و عافیت سے

لے مولینا کا ذکر گذشتہ صفحات میں حضرت مدنی کے والد کے واقعات میں لکھ چکا ہے ریاست بھاول پور میں دارالہبام تھے حضرت گنگوہی کے متوسلین میں اور علماء کرام کے بڑے معتقد تھے۔ تاہم حکومت برطانیہ کے شیرخوار اور مستور تھے۔ -۱۳۰- ص ۱۰

بہم کنار تھے۔ غرض زندگی کا پھن سرسبز و شاداب تھا۔ اب ساڑھے تین برس کے بعد وہاں ہوسے تو وطن لٹ چکا تھا۔ گھر اور خاندان اُجڑ گیا تھا اور ماں باپ اور اہل و عیال غم بہرے تھے، پالیس یا بیس کی عمر تھی، کہیں گھر تھا نہ در تھا، نہ خاندان باقی رہا تھا نہ اہل و عیال زندہ بچے تھے۔ سہ

چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا
بہار تھی نہ چین تھا نہ آشیانہ تھا

بہر حال بمبئی پہنچ کر حضرت نے مدینہ طیبہ واپسی کا ارادہ فرمایا۔ اب تک مدینہ طیبہ کا قیام اس ارادے سے تھا کہ جب تک والدین مرحومین بقید حیات ہیں ان کی خدمت سے محرومی نہ ہو جائے۔ مگر اب جو واپسی کا ارادہ ہوا تو یقیناً مستقل توطن اور دائمی اقامت کے لیے ہوا ہو گا۔ "چونکہ میں اپنی خواہش سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے اور پھر جدہ سے روانہ ہوا تھا تاکہ سفر میں حضرت کی خدمات انجام دوں اور حتی الوسع تکالیف سفر کو کم کروں" اس لیے واپسی پر قصد مصمم تھا کہ بمبئی پہنچ کر حجاز کو واپس ہو جاؤں گا۔ اس ارادے کا ذکر حضرت شیخ الہندؒ سے فرمایا اور واپسی کی اجازت چاہی مگر حضرت نے اجازت نہیں دی۔ "اس خیال کو جب میں نے ایک روز سویز میں ظاہر کیا تو فرمایا کہ میں تراجم البواب بخاری شریف کی شرح لکھنا چاہتا ہوں مگر یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا" بظاہر تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ استاد نے شاگرد کو علمی اور دینی خدمت کے لیے روکا تھا۔ اور حضرت انہی مقاصد کے لیے رُک گئے تھے مگر بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ حضرت شیخ الہندؒ کے روکنے اور حضرت کے رُک جانے میں مشیت باری تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وائٹاؤن الا ان یشاء اللہ۔" میں نے عرض کیا کہ ایک شرط پر میں تا اختتام شرح تراجم دیوبند میں ٹھہرنے اور امور متعلقہ انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا وہ کیا شرط ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو وقت آپ اس کام کے لیے عطا فرمائیں، اس وقت میں چاہے کیسا بھی بلند مرتبہ شخص

آئے اس کے لیے صرف نہ فرمائیں۔ فرمایا کہ قبول ہے۔ مگر ہماری بھی ایک شرط ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کیا ہے تو فرمایا کہ پھر کہیں گے۔

افسوس کہ حضرت شیخ الہندؒ کی اس شرط کی وضاحت نہ ہو سکی اور اگر ہوئی بھی ہو تو حضرت نے اسے کبھی ظاہر نہیں فرمایا۔ بہر حال (میں نے) یہ ارادہ کر لیا کہ دیوبند میں حضرت کی خدمت میں تا اختتام تراجم ابواب رہوں گا۔ مگر جب بمبئی پہنچا اور تحریک خلافت کا زور و شور دیکھا اور دیکھا کہ حضرت کا طبعی رجحان تحریک آزادی کی جدوجہد کی طرف قوی تر ہو گیا اور وہی لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہیں تو یقین ہو گیا کہ کسی ترقیبی زمانہ میں تراجم ابواب کا کام نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے حضرت سے (پھر) عرض کیا اب مناسب تعلیم ہوتا ہے کہ میں مدینہ منورہ چلا جاؤں اور یہاں سے ہی انتظام سفر شروع کر دوں تو فرمایا کہ تیرا جانا تو کسی طرح اس زمانہ میں مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

یہاں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ زندگی اور تمام تر سرگرمیوں کے اس مرحلے تک حضرت سیاسی تحریکات اور جدوجہد آزادی میں شرکت کی طرف مائل نہ تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت تک آپ کا ارادہ ہندوستان میں مستقل قیام کا بھی نہ تھا۔ بلکہ استاد کی تعمیل حکم میں صرف تراجم ابواب کے اختتام تک عارضی طور پر ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ مگر دیوبند پہنچے اور حضرت شیخ الہندؒ کی سرگرمیاں تحریک آزادی کے لیے وقف ہو جانے کے بعد کوئی ایسا مرحلہ پیش آیا کہ حضرت مدنی نے نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں اس وقت تک قیام کا ارادہ کر لیا جب تک ملک آزاد نہ ہو جائے بلکہ روحانی اور دینی و علمی خدمات کی انجام دہی کے ساتھ ہی ساتھ قوم اور ملک نیز سیاسی تحریکات آزادی کے لیے بھی وقف فرمانے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد کے واقعات اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے حضرت شیخ الہندؒ نے جس شرط کا تذکرہ فرمایا تھا وہ یہی ہے جو اور آپ نے اہمیت کے ساتھ اپنے مشن کی تکمیل کی ذمہ داری حضرت کے سپرد فرمائی ہو۔

ان کا (حضرت شیخ الہندؒ) قلبی مذاق یہی تھا۔ مرض وفات کے زمانے میں کئی مرتبہ فرمایا کہ میں اس مرض سے اچھا ہو جاؤں تو قصہ کرتا ہوں کہ تمام ہندوستان میں اسی تحریکِ نشاءت کے لیے دودھ کر دوں گا۔ پھر حال کوئی نہ کوئی ایسا اہم کام اور پروگرام تھا جس کی پست پر حضرت شیخ الہندؒ سعادت مند و فرماں بردار شاگرد کو ایک دن کے لیے بھی اپنے سے جدا ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اچھا اتنی تو اجازت عطا فرمائیں کہ میں بمبئی میں تین چار دن ٹھہر کر آپ کے بعد دیوبند پہنچوں۔ میرے چند احباب یہاں ہیں ان سے ٹھٹھے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ تو اس کی بھی اجازت نہیں دی اور اصرار فرمایا کہ ساتھ ہی چلنا ہو گا۔

دیوبند پہنچنے پر اور راستے میں ایک ایک اسٹیشن پر دیتی میں، میرٹھ، غازی آباد اور دوسرے سارے اہم مقامات پر ان حضرات اور حضرت شیخ الہندؒ کا جس محبت، خلوص اور شان و شوکت کے ساتھ استقبال ہوا، ان کی تفصیلات اور تذکرہ بڑی تطویل کا محتاج ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت شیخ الہندؒ کے گھرانے اور افرادِ حسانان نے حضرت مدنیؒ کا استقبال بالکل اس انداز میں کیا جیسے کسی فردِ خاندان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ حضرت نے جن محبت، خلوص اور تین و بی کے ساتھ استاد کی خدمت کی اور جس طرح محض استاد کی راحت و رسانی کے لیے قید و بند کے مصائب کو لبیک کہا۔ ان سب واقعات سے شیخ الہندؒ کے تمام ہی افرادِ خاندان حضرت سے غیر معمولی تعلق و محبت کا برتاؤ کر رہے تھے مگر خاص طور پر حضرت شیخ الہندؒ کی اہلیہ نے حقیقی اولاد کی طرح شفقت و مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ حضرت بچپن ہی سے اسی گھر میں رہے پلے اور بڑھے تھے۔ ایسی عمر میں آئے تھے جب حویلی میں ان سے پروردہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب جو انما سے واپس آئے تو موصوفہ نے چاہا کہ آپ سے پردہ نہ کریں اور سرور ہاتھ رکھ کر پیادہ کریں۔ حضرت شیخ الہندؒ سے اس کی اجازت طلب کی گئی تو آپ نے رقت آمیز لہجے میں فرمایا کہ میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ تم حسین احمد سے پردہ کر دو۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو

اتنی خدمت دیکر تاجتانی انہوں نے کی ہے مگر بہر حال شرعی طور پر سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے۔

دیوبند آنے کے فوراً بعد رہنما نظر اہلسن صاحب نے امر وہہ کے مدرسہ عربیہ کی مدینہ کے بیٹے حضرت کی خدمات حاصل کرنی چاہیں، اس کے لیے بھی حضرت شیخ الہندؒ اجازت دیتے تھے۔ بڑے اصرار کے بعد اجازت دی تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد حکم ہینا کو کچھ کو تمھاری ضرورت ہے اور پھر جب علی گڑھ کے اجلاس میں ایک آزاد قومی دس گروہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت کو کچھ کہہ کر تاریخ کو علی گڑھ کے اجلاس میں تمھارا شریک ہونا ضروری ہے۔ حضرت کے وصال کے بعد جب حضرت مدنی دل برداشتہ و انسرود آستانہ کشمیر پر حاضر ہوئے تو "بہت ہنجیدہ تھے مگر بیادامہ و خاموش اور آداس آداس رہتے تھے۔ میں نے اس واقعہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے برادران مولانا حکیم محمد حسن صاحب اور مولانا محمد حسن صاحب نے میرے شیخ الاسلام (حضرت مدنی) کو پانگ پر بٹھایا۔ ایک بھائی ایک طرف دوسرے بھائی دوسری طرف درمیان میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے کان سے یہ بات سنی کہ اب ہندوستان میں میرا کیا ہے، میرے سر پرست اس دنیا میں نہیں رہے، میں بے سہارا ہوں اور ان شیخ الہند کے برادران نے روتے ہوئے فرمایا کہ بے شک! فوراً حکیم محمد حسن صاحب نے فرمایا کہ اب آپ اس خاندان کے بڑے اور حضرت شیخ الہند کے جاں نشین ہیں تو چھوٹے بھائی مولوی محمد حسن صاحب نے فرمایا کہ یہ مکان آپ کا ہے جس طرح بڑے بھائی رہتے تھے اب آپ اس میں رہیں گے۔ آپ کا قیام اس خاندان کی خوش نصیبی ہے۔ الحاصل شیخ الہند کے وصال کے بعد تمام خاندان، تمام معتقدین اور تمام شاگردوں کا اس پر اتفاق تھا کہ جاں نشین شیخ الہند حضرت

مولانا سید حسین احمد مدنی ہیں۔ اس زمانے میں تحریکات کا زور تھا۔ سیاسی کشمکش زوروں پر تھی۔ لیڈروں کا شمار نہ تھا مگر تمام سیاسی لیڈروں نے حضرت شیخ الحرم مولانا مدنی کو جانشین شیخ الہند تسلیم کیا۔ ہر بہر اخبار جب حضرت مولانا مدنی کا نام شائع کرتا تھا تو جانشین شیخ الہند ضرور لکھتا تھا۔ مختصر یہ کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ملک اور قوم نے حضرت کے کا ندھے پر علمی، ذہنی اور سیاسی خدمات اور قیادت کا بوجھ ڈال دیا اور آپ نے بہ صد تسلیم و رضا ان فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دیا۔ آئندہ صفحات میں یہ تفصیل آ رہی ہے کہ مدینہ طیبہ واپسی کا ارادہ کیسے ملتوی ہوتا رہا اور ہندوستان کا عارضی قیام کس طرح مستقل ہوتا گیا۔

حضرت کا سیاسی رجحان اور اس کا پس منظر

ہرچیز کہ ابھی تک حضرت کی سیاسی زندگی کا آغاز منظر عام پر نہیں آیا تھا مگر دیوبند کی طالب علمی، حضرت شیخ الحدیث کے روحانی علمی اور فکری فیض صحبت، مدینہ طیبہ میں قیام اور عالم اسلام کے اصحاب کبار و علم سے تبادلہ خیالات، مالٹا کا سیاسی قیام اور فوجی و انقلابی افراد سے ملاقاتیں اور اسی قبیل کے دوسرے جزوی موثرات ایسے عوامل تھے کہ آپ ملت کے اہم انجیز حالات اور دنیائے اسلام کے درد و کرب سے نہ صرف یہ کہ پوری طرح باخبر ہو گئے تھے بلکہ قلب و دماغ میں امت کی خدمت اور اس کے لیے قربانی و جہاد کی چنگاری بھڑکنی شروع ہو گئی تھی۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ اسلامی جمیعت و اجتماعیت جس کو ابھی کچھ دنوں پہلے تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کا منصب حاصل تھا اور جس کے استمراج و موافقت کے بغیر دنیا میں کہیں کوئی سیاسی تبدیلی نہیں ممکن تھی۔ آج سامراج کی سازشوں اور فریب کاریوں کا شکار ہو رہی تھی۔ مصر کی نہر سویز کے سارے ہی حصے برطانیہ نے چند کھوٹے سگوں کے عوض خرید لیا۔ اسرائیل سے خرید لیے تھے۔ اسلام کے قبلہ اولیٰ تیسرے حرم شریف، بیت المقدس اور انبیائے کرام کی سرزمین فلسطین کو برطانیہ نے یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کرنے کی سازش کر رہا تھا اور اس میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ پوری عرب دنیا میں انگریز جاسوسوں اور خفیہ کاروں کا جال بچھا ہوا تھا اور خلافت اسلامیہ کی بیخ کنی کی مہم جاری تھی۔ ترکی کے سلطان عبدالحمید خاں کو اور افغانستان کے امیر حبیب اللہ خاں کو دام تروزی میں اسیر کر لیا گیا تھا۔ ہندوستان کی ہزار سالہ مسلم حکومت کو دھوکہ، فریب اور چال بازیوں کے ذریعے تباہ و برباد کر کے پورے ملک کو اس طرح غلام بنا لیا گیا تھا کہ ظلم و نا انصافی کے پنجے اس کے جگر تک

پیوست ہو گئے تھے۔

آج سے ایک صدی پہلے یا اس کے آس پاس پیدا ہونے والوں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جس کے زمین و آسمان پر مسلمانوں کی شوکت و عظمت کے سنتے ہوئے کچھ نہ کچھ آثار اب تک باقی تھے۔ بات کتنی بھی طویل کر دی جائے مگر اُس وقت کے سیاسی حالات، مسلم ملکوں کے در در انگریز واقعات اور سامراجی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں کی تفصیل کے لیے یہ صفحات ناکافی ہوں گے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر نظر ڈالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ حقیقت ذہن میں رکھی جائے کہ مسلم ممالک میں ریشہ دوانیوں کی حکمت عملی میں برطانیہ اور انگریزوں کا ہاتھ سب سے زیادہ موثر تھا۔

سبب تو چاہے جو بھی رہا ہو۔ حضرت کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی نیت و منت موثر رہی ہو یا حضرت ہی کے قصد و ارادہ کا دخل ہو مگر حقیقت یہ تھی کہ حضرت کی زندگی علم و عمل، خدمت و ایثار اور قربانی و جدوجہد کے لیے وقف تھی۔ تن آسانی، مصلحت اندیشی، غرض پندی اور منفعت کو شی جیسی صفات سے آپ کی زندگی یکسر پاک و مبرا تھی۔ اس مزاج اور اُن خصوصیات کے حامل ایک عالم باعمل، اکابر امت کی صحبتوں سے بہرہ ور ایک بالغ نظر اور حساس ذاتِ گرامی کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ امت کے حالِ زار کا یہ عالم اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور مدرسہ و خانقاہ میں گوشہ نشین رہتا۔ چنانچہ مالٹا کی اسارت سے بہت پہلے جب خلافتِ اسلامیہ پر حملے شروع ہی ہوئے تھے تو گوشہ نشینی کی زندگی کے باوجود آپ جو شِ عمل سے بے تاب ہو گئے تھے اور مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے تقریر فرمائی تھی۔ اس کے بعد ہی آپ کے مقتدا، مرتی اور اساد نے سامراج سے مقابلے کے لیے اپنا پر وگرام آپ کے سامنے رکھا اور اسی کے بعد مالٹا کی گرفتاری پیش آئی۔ اب قدرتی طور پر آپ کے قلب و دماغ میں جذبہٴ حریت اور آزادی کی چنگاری سُلگ اُٹھی تھی۔ اس چنگاری کو شعلہٴ جہاد بنانے کے لیے ضرورت بس ذرا ہوا دینے کی

اور راستے پر لگانے کی تھی۔

مالٹا سے واپسی کے موقع پر ہندوستان اپنی تاریخ کے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ خلافتِ اسلامیہ کی حمایت و نصرت کے لیے پورے ملک کے قلب میں ایک مجاہدانہ اسپرٹ بیدار ہو گئی تھی۔ ملک کے تمام ہی باشندے یا یوں کہیے کہ سارے ہی ہندوستانی بلا لحاظ مذہب و ملت آپس میں شیر و شکر کی طرح ایک ہو گئے تھے۔ عجیب جوش و سرستی کا عالم تھا۔ ہندو مسلمان، سکھ، عیسائی، شیعہ سنی، برہمن شودر دین ہندی بریلوی، غرض پوری قوم اور پورے ملک نے آپس کے اختلافات حروبِ غلط کی طرح دھو ڈالے تھے۔ سبھی ایک زبان ہو کر خلافتِ اسلامیہ زندہ باد، بھارت ماتا کی جے اور نعرہٴ تکبیر کے فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ خلافت کی تحریک اپنے شباب پر تھی۔ ہندو مسلم اتحاد کا عجیب دل خوش نظارہ تھا۔ تمام ہندو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے۔ علمائے اسلام سرفروشی کی تمنا دلوں میں لیے لبوں سے انگریز کے خلاف آگ اگلتے ترکِ موالات کو جہاد قرار دے رہے تھے۔ "ہندو مسلم اتحاد اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا کہ آریہ سماج کے لیڈر سوامی شرودھانند نے (دلی کی) جامع مسجد کے مکبرہ پر کھڑے ہو کر تقریر کی یہ ماحول تھا جس میں حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقاء، امیرانِ مالٹا ہندوستان پہنچے۔ اور خلافت کی تحریک اور کانگریس کی ہمنوائی اور تائید کی۔ حضرت نے جس خلافتِ اسلامیہ کی نصرت و تائید کے لیے مدینہ طیبہ میں آوازا اٹھائی تھی۔ اسی خلافت کی نصرت کے لیے پورے ہندوستان کو سر بکھٹ پایا۔ جوں جوں حالات کا مطالعہ دل و دماغ میں اترتا گیا۔ وہ دبی ہوئی چنگاری چلکنے اور لودینے لگی۔ شیخ الہند ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی کو کامیابی اور فتح و نصرت سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنے اساتذہ اور مشائخِ مجاہدین، مولینا محمد قاسم مولینا رشید احمد گنگوہی، مولینا حاجی امدا اللہ صاحب، حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحیم اللہ جمعیین کی طرف سے امین اور ان کے وارث تھے۔ ۱۸۵۷ء کی

جنگِ آزادی کے شعلے دب تو گئے تھے مگر سرد نہیں پڑے تھے۔ سرفروش اور جانباز مجاہدین ابھی تک معصوم بچوں کی لاشوں، نوجوانوں کے اُبلتے ہوئے خون اور کمزور بوڑھوں کی کراہیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور کانوں سے سن رہے تھے، معصوم اور بے گناہوں کی پھانیوں کے نشانات اب تک تازہ تھے۔ معصوم بچوں اور باعہمت عورتوں کے خون سے نہائے ہوئے خونیں دروازے اور دیواریں گذرگاہِ عام پر کھڑی ہوئی انتقام کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ تمام دنیا نے اسلامِ خصمِ ہندوستان اور اس کے باعزت مسلمان غلامی کے پنجے میں گرفتار ہو چکے تھے۔ ان حالات میں "حضرت شیخ الحدیث اس مدتِ مدید کی اسارت کی شقتیں برداشت کر کے ہندوستان آئے تو ان کے جذبہٴ حریت میں اور انگریز دشمنی میں کوئی کمزوری یا کمی نہ تھی۔ بلکہ ہندوستانی مارشل لا، رولٹ ایکٹ کے نفاذ، جلیان والہ باغ وغیرہ کے واقعات اور ترکی مملکت کی تقسیم اور معاہدہ سیورے اور ترکوں کے ساتھ انتہائی بے انصافیوں نے اس آگ کو اور بھی بھڑکا دیا تھا۔ ممبئی میں اُترتے ہی مولانا شوکت علی مرحوم اور خلافت کمیٹی کے ممبروں وغیرہ سے ملاقات ہوئی۔ مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محل لکھنؤ سے اور جہانگاندھی احمد آباد سے حضرت شیخ الحدیث کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ نیز دوسرے لیڈروں سے خلوت و جلوت میں باتیں ہوئیں۔ تو آپ نے بھی عدم تشدد (نان وائلنس) کا پروگرام ہندوستان آزاد کرانے کے لیے ضروری قرار دیا۔ اور پھر اسی طریقہ پر تمام خلافت کمیٹی اور کانگریس کی تجویز کردہ باتوں کی موافقت کی۔ ادھر آپ حضرات نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا ادھر آخر جون ۱۹۲۰ء الہ آباد میں خلافت کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں واشرائے ہند کو ایک نوٹس دیا گیا کہ اگر معاہدہ سیورے میں ترمیم نہیں پیش کیا گیا تو پورا ہندوستان برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ عدم تعاون پر مجبور ہوگا۔ یہ نوٹس تو خلافت کمیٹی کے وفد نے دیا جس میں بیسٹ منظر الحق،

سر یعقوب حسن، مولینا شوکت علی اور مولینا ابوالکلام آزاد شریک تھے مگر اس سے دو چار روز پہلے ہہامتا گاندھی نے بھی وائسرائے کو خط لکھا کہ ”میں نے لندن میں انڈین والنیئر ایسوسی ایشن وغیرہ میں محنت و جانفشانی کے ساتھ بھرتی کرائی اور ہمیشہ برطانیہ کا وفادار رہا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ملکہِ خلافت کو مسلمانوں کی مرضی کے مطابق کرا دیجیے۔ اب بھی وقت باقی ہے ورنہ مجبوراً میں پہلا شخص ہوں گا جو علمِ بغاوت بلند کرے گا۔ میری رائے میں مسلمانوں کے لیے موجودہ حالات میں تین راستے باقی ہیں: جہاد باسیف، ہجرت اور عدم تعاون۔ میں نے ان کو عدم تعاون کا مشورہ دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کانگریس، اور خلافت کمیٹی نے رولٹ ایکٹ میں بھی ترمیم کا مطالبہ کیا تھا لیکن حکومتِ برطانیہ نے ان تمام مطالبات اور فریادوں کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ اور معاہدہ سیدرے بھی اسی طرح باقی رہا اور رولٹ ایکٹ کا طوق بھی ہندوستانیوں کی گردن میں تنگ ہوتا گیا۔ آخر کار ایک ماہ کا عرصہ ختم ہوا اور اس کے ساتھ ہی نوٹس کے مطابق حکومتِ برطانیہ سے عدم تعاون کا دن آپہنچا۔ دوسرے لفظوں میں ۱۹۳۰ء کے بعد پہلی مرتبہ ہندستان پر آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ چنانچہ اس دن سب سے پہلے گاندھی جی نے اپنے خطابات اور تمغہ جات حکومتِ برطانیہ کو واپس کر دیے۔ آپ نے وائسرائے کو لکھا ”میں قیصر ہند گولڈ میڈل جو مجھے افریقہ میں خدمتِ انسانیت کے اعزاز میں عطا کیا تھا اور زولووار میڈل جو ۱۹۰۶ء میں بحیثیت افسرِ پنجاب انڈین ایسوسی ایشن، کو مجھے عطا ہوا تھا اور بوئر وار میڈل جو مجھے بحیثیت سپرنٹنڈنٹ انڈین اسٹریٹجر بیرر کو ۱۹۰۸ء میں ملا تھا وہ سب واپس کر رہا ہوں۔ ان تمغہ جات کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں جب ہمارے ہندوستانی مسلمان بھائی اس ظلم کے نیچے کرا رہے ہیں جو ان کے مذہبی جذبات کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ان تمغہ جات کی واپسی کا سبب وہ خونخوئی ڈرامہ بھی ہے جو پنجاب میں حکومتِ برطانیہ نے کھیلا ہے

اب میں برطانیہ کا وفادار نہیں رہ سکتا۔ یہ خلافت کمیٹی کے اس چیلنج اور مہاتما گاندھی کے اس اقدام نے ملک میں نشہ آزادی کی ایک لہر دوڑادی۔ نوجوان طلباء اور طالبات کالج اور اسکول چھوڑ کر باہر آ گئے۔ دکن اور بیرسٹروں نے کپڑوں سے غلطی اختیار کر لی، ملازمین، کلرک اور بڑے بڑے افسران نوکریوں سے استعفیٰ دینے لگے۔ بڑے بڑے خطاب یافتہ لوگوں نے اپنے امتیازات اور خطابات واپس کر دیئے۔ ملک کے مقتدر اور ممتاز ترین پانچ سو علماء کے دستخطوں سے ایک فتویٰ شائع ہوا جس میں صاف صاف اس امر کا اعلان کیا گیا کہ حکومت برطانیہ سے کسی قسم کا بھی تعاون جائز نہیں ہے اور برطانوی فوج میں نوکری حرام ہے۔ یہ فتویٰ جمعیت علماء ہند کی طرف سے ۶ ستمبر ۱۹۲۰ء کو شائع ہوا تھا جس کی مجلس عاملہ میں مسیح الملک حکیم اجمل خاں، مولینا شبیر احمد عثمانی، مولینا آزاد سبحانی، مفتی کفایت اللہ، مولینا حسرت موہانی وغیرہ شریک تھے۔ ملک کے مانے ہوئے اور چوٹی کے بیرسٹروں نے جن کی ماہوار آمدنی وکالت سے پچاس یا ساٹھ ہزار روپے ماہوار تھی وکالت ترک کر دی یا وکالت کی آمدنی کو تحریک آزادی کے لیے وقف کر دیا۔ بیرسٹر یحییٰ حسن امام، سی۔ آر۔ داس اور موتی لال نہرو بیرسٹروں کی اس جماعت کے ممتاز ترین افراد میں سے تھے۔ اُس وقت کا ایک روپیہ اگر آج کے دس روپے کے برابر بھی مان لیا جائے تو ان لوگوں کی آمدنیاں آج کے اعتبار سے پانچ پانچ لاکھ روپے ماہوار تھی۔ سی۔ آر۔ داس نے تو یہ کمال کیا کہ کوٹھی بیچ کر روزمرہ کا حساب کتاب بے باق کیا اور بیرسٹری ترک کر دی اور پھر تمام عمر قرض اُدھار اور تنگی ترشی میں زندگی گزار دی۔ بہر حال قصہ مختصر کہ اس فضا اور ان حالات میں ستمبر میں کلکتہ اور ۲۶ دسمبر ۱۹۲۰ء کو ناگپور میں آل انڈیا کانگریس کا سالانہ اجلاس ہوا جس میں کانگریس نے سوراہ اور ترک موالات کا ریزولیشن پاس کیا اور مسلم لیگ نیز تمام مسلم لیڈروں نے اس کی تائید کی۔ اور حضرت شیخ الہند مولینا محمود حسن صاحب نے کانگریس کی تائید

اور موافقت فرمائی۔ اگرچہ ملک کے بعض مقتدر لوگوں نے جن میں مسٹر محمد علی جناح، مسز اینی سنٹ اور پنڈت مدن موہن مالویہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اس تحریک کی زبردست مخالفت کی مگر اُس زمانے میں ان کی آوازیں نقار خانے کی طوطی سے زیادہ وقعت نہیں پاسکیں۔ شیخ الہندؒ کو اللہ نے غیر معمولی فہم، بصیرت، مقبولیت اور محبوبیت نصیب فرمائی تھی۔ آپ نے ترک موالات کی موافقت فرمائی اور اس کی تائید میں فتویٰ دیا تو ہندوستان کے تمام علماء، اور مشائخ نے بھی آپ کی اقتداء کی، مگر ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ دیوبند ہی کے دو ایک علماء نے ترک موالات، تحریک آزادی اور برطانوی استعمار سے مقابلے کی مخالفت بھی کی۔ یہ مخالفتیں آخر تک جاری رہیں اور مردرد وقت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ برگ و بار لاتی رہیں بلکہ ان کے متبعین کی تعداد اور قوت میں اضافہ ہوتا گیا۔

اس کے ساتھ علی گڑھ گروپ بھی تحریک آزادی کا شدید ترین مخالف تھا۔ وہاں انگریز اساتذہ، ذمہ داران اور پرنسپل اسی مقصد کے لیے کام کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو، برطانوی طاقت اور اقتدار کے ماتحت رہنے کا سلیقہ سکھایا جائے۔ مگر پھر بھی مسلمان نوجوان اُس جوش اور جذبے سے الگ نہ رہ سکے جو اس وقت ہندستان کے بچے بچے کے دماغ میں جاگزیں ہو گیا تھا۔ چند طلباء نے مولینا ابوالکلام کو مدعو کیا اور مولینا نے یونیورسٹی یونین میں تقریر کی جس میں طلباء کو جنگ آزادی میں شرکت اور ترک موالات کی نصرت کے لیے آواز دی۔ ماحول میں حدت تو پہلے سے موجود ہی تھی اُس پر سے مولینا کی شعلہ بار خطابت نے اپنا کام کیا طلباء کے قلب و دماغ نشہِ عمل سے معمور ہو گئے اور کالج کی چہار دیواری چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ مولینا محمد علی، شوکت علی، ڈاکٹر ذاکر حسین وغیرہ ان طلباء کے لیڈر تھے۔ مولینا آزاد کی دعوت پر اس جماعت نے ملک و قوم کی آواز پر لبیک کہنے اور ایک آزاد یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اپنی قیادت کے لیے حضرت شیخ الہندؒ مولینا محمود حسن سے درخواست کی۔ حضرت نے

اپنے ہاتھوں سے اس جامو کا سنگِ بنیاد رکھا اور اس کا نام "جامعہ کربلا اسلامیہ" تجویز ہوا۔ اس موقع پر جامو کے باغے میں جناب حفیظ جالندھری کی یہ نظم بڑی دلچسپی کا سبب ہوئی۔

جامعہ کربلا اسلامیہ

ابھی اک اور زندہ معجزے کا ذکر ہے باقی
 دینے ہی سے وابستہ یہ طور لامعہ بھی ہے
 چراغِ راہ ایسی تند زہریلی ہواؤں میں
 خدائی اتنے فرعونوں کی، تنہا جبرائیلِ موسیٰ
 وجود اس جامعہ کا معجزے سے کم نہ مانے گی

اَدْمًا كَمَا سَقْنَا وَ لَهَا الْاَيَاتُهَا النَّاسِقِي
 رسالت کے بقیہ معجزوں میں جامعہ بھی ہے
 قیام جامعہ ان ظلمتوں میں ان نضاؤں میں
 مقابل ساحرانِ مغربی کے اک یدِ بیضا
 یہ ملت جب کبھی اپنی زیاں کاری کو جانے گی

اندھیری رات میں اک نور اتر آسمانوں سے
 مسلسل ایک ٹانا، مسلسل ایک خاموشی
 بجز عبرت کوئی پرسانِ ملت تھانہ ملت میں
 ایسے مالٹا کی حریت آموز سیرت تھی
 نگہبانی اسے مطلوب تھی قسمت کے ماروں کی
 اسی کے چشمِ ودل تھے آسمانی نور کے جو یا
 ملا آنکھوں کا زینہ، نور سینے میں اتر آیا
 وہ نور اک چاند تھا انوارِ اسلامی کا آئینہ
 اسے امت کی آنکھوں میں بسا دینا دیانت تھی
 اسے سینہ بسینہ منتقل ہونا ضروری تھا

سنا ہے میں نے یہ قصہ بزرگوں کی زبانوں سے
 زمین ہند پر طاری تھا خوابِ خود فراموشی
 مسلمان سوچکے تھے دامنِ ادا بار و ذلت میں
 یہ عبرت ایک غیرت مند مومن کی بصیرت تھی
 یہ بندہ تک رہا تھا دوسرے گردش تاؤں کی
 سکوتِ مرگ کی اس دادی خاموش میں گویا
 یہی آباد گھر دیکھا۔ یہی اک درگھلا پایا
 یہ شیخ الہند محمود الحسن کا باصفا سینہ
 یہ خورشیدِ رسالت کی طرف سے اک امانت تھی
 یہ اک تازہ بشارت تھی یہ اک پیغامِ نوری تھا

جگایا اہل دل کو محرابِ راز فرمایا
 یہ دو آنکھیں تھیں اک دل۔ اجل انصاری جو ہر

جناب شیخ نے اس کام کا اعزاز فرمایا
 امینِ راز تھے بحرِ وفا کے بے بہا گوہر

انھیں عہدہ ملا تبلیغِ ارشادِ محمدؐ کا یہی تینوں تھے کشتِ جامعہ کے اولین مالی کہ جس کی دید کا مشاق ہو خود نورِ انبلا کی مسلمانِ ہندی کی نگاہوں سے بھی پیدا ہو انھیں ترکیبِ سوچھی چاند سے سوچ اگانے کی

سفارش سوزِ کامل کی تقاضا درو بے حد کا اسی دل نے انھیں آنکھوں نے مل کر طرح نو ڈالی تمنا تھی کہ چمکے اس طرح کچھ جوہرِ حسا کی وہ گرمی جس سے داغِ عشق کا شعلہ ہویدا ہو تھی خدمت ان کے ذمے ظلمتِ شب کو مٹانے کی

ظلمِ غفلتِ مشرق کا جادو ٹوٹا دیکھا سر اٹیں، ابتلائیں، تازیانے اور زنجیریں غضب کے آسمان رکھے گئے ہیں انکی راہوں میں کبھی سوتے نہیں جو بیچ بیداری کا بوتے ہیں بحالِ قید و آزادی، برابر کام ملتا ہے طلوعِ جامعہ سے ہے عیاں ان کی سیمائی کہ وقفِ جامعہ ہے خدمتِ ذاکر حسین اب تک دفا کے بیج آخر بو گئے افکارِ عالی میں دمِ جاری و ساری مانٹے روحِ رواں کہیے اہی سے پوچھیے پوشیدہ کیا اسرار ہیں ان کے خدا رحمت کرے ان عاشقانِ پاکِ طینت پر بساتے جا رہے ہیں بتیاں روشن ضمیری کی کمی کرتا نہیں خونِ جگر دریا نوالی میں ذرا پوچھو تو باعث کیا ہے اس کی ناتوانی کا جمالِ ذات سے پھولوں کا دامن بھر دیا اس نے

نگاہِ ظلمتِ مغرب نے بھی یہ ماجرا دیکھا اٹھی اندھیر گری بہ طرف لے کے تعزیریں تجلی طور سینا کی بسی ہو جن نگاہوں میں نہ سمجھو تریبوں میں اب وہ زیرِ خاک سوتے ہیں شہیدانِ مقاصد کو کہاں آرام ملتا ہے ابھی جاری ہے ان رُوحوں کا فیضِ کار فرمائی پس مردن ملا ہو گا انھیں اتنا ہی چین اتنا یک جو انمردوں نے جھیلی تھی جفا پیرانہ سالی میں وہ عالی فکرو جن کو جامعہ کا باغبان کہیے یہی سادہ سے ذاکر یا رفیقِ کار ہیں ان کے کبھی ان کی نظر پڑتی نہیں اسبابِ زینت پر اسی اک دائرے میں کاٹ کر مدتِ ایری کی زمین شور پر چل رہا ہے خشک سالی میں یہی ذاکر جو پیکر تھا کبھی حسن و جوانی کا لہو کا قطرہ قطرہ وقفِ گلشن کر دیا اس نے

جنھیں ایک روز مہونا ہے مقابلِ قہرانوں کے

یہ چہرے نو نہالوں کے یہ بازو نوجوانوں کے

انہی چہروں سے دنیا میں اُجالا بننے والا ہے یہی بازو ہیں جن کا بول بالا ہونے والا ہے

ظہورِ معجزہ سے کم نہ پاؤ گے ظہورِ ان کا

جگر کے خون سے سینچا گیا ہے بارِغِ نورِ ان کا

اس موقع پر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے شیخ الہند نے فرمایا: "میں نے

اس پیرائے سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں آپ کی دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی ایک متاعِ گم شدہ کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نمازوں کا نور اور ذکرِ اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا را جلد اٹھو اور اس اُمتِ مرحومہ کو کفار کے زرخ سے بچاؤ تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے۔ خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہمتیوں کا اور ان کے سامانِ حرب و ضرب کا۔ آپ میں سے جو حضرات محقق اور باخبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے بزرگوں نے کسی وقت بھی کسی اجنبی زبان سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم و فنون حاصل کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں یہ بیشک کہا کہ انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگے جائیں یا لحدانہ گستاخیوں سے اپنے مذہب اور مذہبِ دالوں کا مذاق اڑائیں یا حکومت و وقت کی پرستش کرنے لگیں تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لیے جاہل رہنا اچھا ہے۔" ۱

یونیورسٹی کے طلبانے حضرت شیخ الہند سے ترکِ موالات کی موافقت میں فتویٰ

لیا۔ اس کے خاص خاص نکات درج ذیل ہیں۔ "ایک صادق مسلمان کی غیرت کا

ایسے حالات میں یہی اقتضاء ہونا چاہیے کہ وہ (۱) سرکاری اعزازات اور خطابات

واپس کر دے۔ (۲) ملک کی جدید کونسلوں میں شریک ہونے سے انکار کرے (۳) صرف

اپنی ملکی اشیاء اور مصنوعات کا استعمال کرے (۴) سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں اپنے

بچوں کو داخل نہ کرے۔ اس فتوے کو روکنے کے لیے حکومت نے بہت کوشش کی

۱۔ نقشِ حیات 'دوم' ص ۲۵۸۔ ۲۔ ایضاً ص ۲۵۴۔ (فتوے کی پوری عبارت نقشِ حیات میں موجود ہے)

اور مولانا سر رحیم بخش کو حضرت کی خدمت میں بھیجا کہ کچھ سمجھائیں، کچھ ڈرائیں اور کچھ تاج سے آگاہ کریں مگر حضرت نے حکومت کی آگاہیوں کو پرکھ کر براہ بھی وقعت نہ دی اور یہ فتویٰ خلافت کمیٹی کی طرف اور جمعیتہ علماء ہند کی طرف سے اور پانچ سو علماء کے دستخط سے شائع ہو کر ملک کے چپے چپے میں پھیل گیا۔ ان تمام مراحل میں بہاؤ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے حکم کی تعمیل میں ان کے ساتھ اور شریک رہے۔ کلکتہ میں بھی اسی طرز کا ایک نیشنل مدرسہ قائم کیا گیا جس کی صدارت کے لیے شیخ الہند نے حضرت کو منتخب فرمایا اور اس طرح رخصت کیا گیا ۱۸۵۷ء کا علم جہاد اور بار امانت آپ کے حوالے کر رہے ہوں کہ جب تک دم میں دم ہیں اور جب تک آزادی حاصل نہ ہو جائے یہ علم سرتنگوں نہ ہونے پائے۔ یہ وہ حالات تھے وہ ماحول تھا اور وہ احساسات تھے جن کی موجودگی میں حضرت کے قلب میں دبی ہوئی معمولی سی وہ چنگاری جو مشرق وسطیٰ اور مالٹا کے قیام کے دوران دنیائے اسلام کی زبوں حالی پر روشن ہوئی تھی بھراک کر شعلہ جو الہ بن گئی اور آپ نے اپنی زندگی اسلام مسلمانوں اور ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔

شیخ الہند مولانا محمود حسن کا وصال

دیوبند آنے کے بعد حضرت شیخ الہندؒ اپنے اسفار اور سیاسی افکار میں مشغول ہو گئے۔ امر وہہ کی جامع مسجد کے مدرسے کے سربراہ حافظ زاہد حسن صاحب نے ہمارے حضرت سے امر وہہ کے مدرسے کی مدرسہ کی درخواست کی۔ حضرت شیخ الہندؒ ایسے وقت میں حضرت کو جدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ادھر دیوبند کے مدرسہ کو یہ اعتراض ہوا کہ حضرت کا دائمی تقرر دیوبند کے لیے پہلے ہی ہو چکا ہے مگر حافظ صاحب کی خاطر ان تمام بزرگوں کو عزیز تھی اس لیے بادل ناخواستہ حضرت کو امر وہہ کی مدرسہ کی اجازت دینی پڑی اور آپ مدرسہ امر وہہ میں درس و تدریس کی خدمات انجام دینے لگے۔ انہی ایام میں حافظ صاحب نے تیسری شادی کی تحریک کی اور یہ چاہا کہ جو گھر دو مرتبہ اجڑ چکا ہے وہ تیسری بار پھر آباد ہو۔ دوسری اہلیہ مرحوم کی ایک بہن ابھی ناکتھدا تھیں حافظ صاحب کی تجویز اور کوششوں سے اسی سال میں ان سے عقد ہو گیا۔ اس وقت حضرت کی عمر تقریباً اکتالیس برس کی ہو چکی تھی۔ اب بظاہر حضرت کی زندگی ایک گوشہ میں مرکوز ہو گئی تھی۔ مگر حضرت شیخ الہندؒ نے آپ کا انتخاب کچھ دوسرے ہی مقاصد کے لیے کیا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد حاضری کے لیے حکم نامہ پہنچا۔ حضرت حاضر ہوئے تو فرمایا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تمہارا میرے پاس رہنا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے وہاں کوئی دوسرا انتظام کر کے فوراً آؤ۔ حضرت مزاج کے اعتبار سے نہایت مستقل مزاج تھے۔ مشاغل اور معمولات میں بہت مشکل اور بہت مجبور ہی تھے۔ ان کی حالت میں تبدیلی کرتے تھے اس لیے کچھ عرض معروض کرنا چاہا مگر کوئی غدر کار گرنہ ہوا اور شیخ نے صرف اتنی اجازت دی کہ ایک ماہ کے اندر وہاں کا کوئی انتظام ہو جائے اور اس وقت تک تم وہاں رہ سکتے ہو۔ اس دوران حضرت

شیخ الہندؒ کی سیاسی تقریریں، آزادی کے لیے ان کی کوششیں اور اہل وطن کے لیے بیانات پورے ملک میں پھیل چکے تھے اور ہر علاقے سے آپ کے بلانے کے لیے مطالبات ہو رہے تھے۔ آپ کا اپنا ارادہ بھی یہ تھا کہ وقت اور حالات مہلت دیں تو جدوجہد آزادی کے سلسلے میں تمام ہندوستان کا دورہ کریں۔ قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جدوجہد اور دورہ میں ہمارے حضرت کو ساتھ رکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں جب علی گڑھ کے طلباء نے ایک آزاد جامعہ کا آغاز کرنا چاہا تو حضرت شیخ الہندؒ سے قیادت و رہبری کی درخواست کی اور چاہا کہ حضرت ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھیں۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے اور ہمارے حضرت کو حکم بھیجا کہ اگرچہ ابھی تک ایک ماہ کی مدت جو میں نے قیام امر وہہ کے لیے منظور کی ہے پوری نہیں ہوئی ہے مگر اہمیت کے پیش نظر علی گڑھ کے اجلاس و اجتماع میں شریک ہونے کے لیے پہنچو۔ اس موقع کی تفصیل پچھلے باب میں گزر چکی ہے۔ یہاں سے واپس ہوتے ہوئے علاج اور طبی معائنے کے لیے دہلی میں قیام فرمایا۔ جمیعة علماء ہند اس سے کچھ ہی دنوں پہلے قائم ہوئی تھی اور نومبر ۱۹۱۹ء میں امرتسر میں اس کا افتتاحی اجلاس ہوا تھا جس کے صدر مولینا عبدالباری صاحب فرنگی محلی تھے۔ یہ حضرت شیخ الہند کا قیام دہلی میں ہوا تو جمیعة کے ذمہ داران نے اس کا دوسرا عام اجلاس حضرت کی صدارت میں منعقد کیا جس میں حضرت نے قوم کے نام یہ پیغام دیا جو درحقیقت آپ کی آخری وصیت ہے۔

”کچھ شبہ نہیں کہ حق تعالیٰ اجل شانہ نے آپ کے ہم وطن اور ہندوستان کی سب سے زیادہ کثیر التعداد قوم (ہنود) کو کسی نہ کسی طرح آپ کے ایسے پاک مقصد کے حصول میں موید بنا دیا ہے اور میں ان دونوں قوموں کے اتفاق دائمی کو بہت ہی مفید اور متعجب خیز سمجھتا ہوں اور حالات کی نزاکت کو محسوس کر کے جو کوشش اس کے لیے فریقین کے عمائد نے کی ہے اور کر رہے ہیں اور اس کے لیے میرے دل میں بہت قدر ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صورت حالات اگر اس کے مخالف ہوگی تو وہ ہندوستان کی

آزادی کو ہمیشہ کے لیے ناممکن بنا دے گی۔ ادھر دفتری حکومت کا آہنی پنجہ روز بروز اپنی گرفت کو سخت کرتا جائے گا اور اسلامی اقتدار کا اگر کوئی دھندلا سا نقشہ باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی ہماری بد اعمالیوں سے حرف غلط کی طرح صاف ہستی سے مٹ کر رہے گا۔ اس لیے ہندوستان کی آبادی کے یہ دونوں بلکہ سکھوں کی جنگ آزما قوم کو ملا کر تینوں عنصر اگر صلح و آشتی سے رہیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی چوتھی قوم خواہ وہ کتنی ہی بڑی طاقتور ہو ان اقوام کے اجتماعی نصب العین کو اپنے جبر و استبداد سے شکست کر سکے گی۔ ہاں! یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ ان اقوام کی باہمی مصالحت و آشتی کو اگر آپ پالدار اور خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی حدود کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ اور وہ حدود یہی ہیں کہ خدا کی باندھی ہوئی حدود میں ان سے کوئی رخنہ نہ پڑے جس کی صورت بجز اس کے کچھ نہیں کہ اس صلح و آشتی کی تقریب سے فریقین کے مذہبی امور میں سے کسی ادنیٰ امر کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے۔ مگر دنیوی معاملات میں ہرگز کوئی ایسا طریق اختیار نہ کیا جائے جس سے کسی فریق کی ایذا رسانی اور دل آزاری مقصود ہو۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک بہت جگہ عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ مذہبی معاملات میں تو بہت سے لوگ اتفاق ظاہر کرنے کے لیے اپنے مذہب کی حد سے گذر جاتے ہیں۔ لیکن محکموں اور ابواب معاش میں ایک دوسرے کی ایذا رسانی کے درپے رہتے ہیں۔ میں اس وقت جہور سے خطاب نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری گزارش دونوں قوموں کے زعماء (لیڈروں) سے ہے کہ ان کو جلسوں میں ہاتھ اٹھانے والوں کی کثرت اور ریزولیشنوں کی زبانی تائید سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ یہ طریقہ سطحی لوگوں کا ہے۔ ان کو ہندو مسلمانوں کے سچی معاملات اور سرکاری محکموں میں متعصبانہ رقابتوں کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اگر فرض کرو ہندو مسلمان کے برتن میں پانی نہ پیے یا مسلمان ہندو کی ارتھی کو کندھانہ دے تو یہ ان دونوں کے لیے ہلک نہیں ہے۔ البتہ دونوں کی وہ حریفانہ جنگ آزمائی اور ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے اور نیچا دکھانے کی وہ کوششیں جو انگریزوں کی نظروں میں دونوں قوموں کا اعتبار ساقط کرتی ہیں، اتفاق کے حق میں سم قاتل ہیں۔ مجھے

امید ہے کہ آپ حضرات میرے اس مختصر مشورے کو سرسری نہ سمجھ کر ان باتوں کا عملی انسداد کریں گے۔

اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن انگریز ہے جس سے ترک موالات فرض ہے۔ تحفظِ ملت اور تحفظِ خلافت کے خالص اسلامی مطالبہ میں اگر برادرانِ وطن ہمدردی اور اعانت کریں تو جائز اور مستحقِ شکر یہ ہیں، استخلاصِ وطن کے لیے برادرانِ وطن سے اشتراکِ عمل جائز ہے مگر اس طرح کہ مذہبی حقوق میں رخنہ اندازی نہ ہو۔ اگر موجودہ زمانے میں توپ، بندوق، ہوائی جہاز کا استعمال مدافعتِ اعداء کے لیے جائز ہو سکتا ہے باوجودیکہ قرونِ اولیٰ میں یہ چیزیں نہ تھیں تو مظاہروں اور قومی اتحادوں اور متفقہ مطالبوں کے جواز میں بھی تاثر نہ ہوگا۔ کیونکہ موجودہ زمانے میں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں توپ، بندوق، ہوائی جہاز نہیں ہیں یہی چیزیں ہتھیار ہیں۔ اس موقع پر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا احمد سعید صاحب اور دوسرے بہت سے ممتاز علماءِ ہند موجود تھے جنہوں نے حضرت کی اس تقریر کو گوشِ دل سے سنا اور تمام عمر حرز جاں بنا کر رکھا۔ مگر ہمارے حضرت کی تو اسی دن کے لیے برسوں سے تربیت ہو رہی تھی چنانچہ آپ نے اپنے شیخ، مرثی اور مقتدا کی آخری وصیت کو دل و دماغ میں جگہ دی اور اس کی تعمیل کو اپنے لیے فرض اور واجب قرار دے لیا۔ حضرت شیخ الہند دیوبند پہنچے تو طبیعت بہت نڈھال ہو چکی تھی اور کمزوری دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ادھر کلکتہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی قیادت میں مدرسہ عالیہ کے طلباء نے ایک دوسرا نیشنل مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ کیا۔

مولانا کا ارادہ تھا کہ اس کو آل انڈیا قومی مدرسہ بنایا جائے اور ملک کے تمام قائدین اور علماءِ اہل کرام سے پروان چڑھائیں۔ چنانچہ آپ نے اس کی سربراہی کے لیے حضرت شیخ الہند کا نام نامی تجویز کیا اور حضرت کی خدمت میں اس مقصد کے لیے اپنا پیغام بر روانہ فرمایا۔ حضرت شیخ عیالیت اور کمزوری کی وجہ سے اس بار کے تحمل نہ تھے

اس لیے اپنی جگہ نہایت غور و خوض کے بعد ہمارے حضرت کا تعین فرمایا۔ حضرت نے ایک بار پھر یہ کہنا چاہا کہ میں نے امر وہہ کے قیام کو فقط آپ کی خدمت میں حاضر باشی کے لیے ترک کیا تھا اور اب آپ کی خدمت سے بھی محرومی ہوئی جا رہی ہے مگر استاد نے فرمایا کہ یہ خدمت میری خدمت سے زیادہ اہم اور با مقصد ہے چنانچہ حضرت غم زدہ دل شکستہ اپنے محبوب استاد سے رخصت ہوئے اور کلکتہ کے لیے روانہ ہو گئے۔

خصتی اور روانگی کا منظر قابل دید تھا۔ مولینا راشد حسن عثمانی نے اپنی تالیف تذکرہ شیخ مدنی میں لکھا ہے کہ حضرت رخصت ہونے کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ الحدیث کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ نے حضرت مدنی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے تمام جسم پر پھیرا اور دعائیں دے کر خدا حافظ کہا۔ حضرت جانے کے لیے مڑے، دس پانچ قدم چلے گئے تو استاد نے شاگرد کو پھر آواز دی، سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جاؤ تم کو اللہ کے حوالے کیا۔ اُس وقت ماحول پر عجیب کیفیت طاری تھی اور حاضرین خاص قسم کی برکات و فیوض کا وجود محسوس کر رہے تھے۔ اہل تصوف اپنی اصطلاحوں اور اپنے فن میں ایسے مواقع کو نسبت خصوصی کی منتقلی کا لمحہ بیان کرتے ہیں۔ بہر حال حقیقت واقعہ جو کچھ بھی ہو مگر ظاہر بین نگاہوں نے یہ دیکھا کہ اس لمحے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی کا رخ گوشہ نشینی سے نکل کر میدان جنگ کی طرف مڑ گیا۔ حضرت کلکتہ روانہ ہوئے تو ”امر وہہ میں شیعہ سنی مناظرہ طے ہو چکا تھا۔ کئی مہینے پہلے سے اعلان، اشتہار وغیرہ شائع ہو رہے تھے۔ اخبارات میں زور شور تھا۔ سہارنپور سے میرے حضرت قدس سرہ (مولانا خلیل احمد صاحب) اور لکھنؤ سے مولانا عبدالشکور صاحب پہنچ گئے۔ دونوں اس نوع کے مناظرہ کے امام اور شہرہ آفاق تھے۔ اہل تشیع جو اب تک بہت ہی زوروں پر تھے ان حضرات کے پہنچنے پر اس کوشش میں لگ گئے کہ مناظرہ برگز نہ ہو، اور التوا بھی سنیوں کی طرف سے ہو۔ اس لیے انہوں نے آدمی بھیج کر مولوی محمد علی جوہر مرحوم کو دہلی سے بلا لیا۔ اور مرحوم نے مناظرہ کے خلاف

لے مولینا راشد حسن حضرت شیخ الحدیث کے حقیقی پیچھے اور ان واقعات کے چشم دید گواہ تھے۔

آپس کے اتحاد پر مجامع میں اور مجالس میں ۲۴ گھنٹہ تک وہ زور باندھے کہ حد نہیں۔ میں (حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا) نے مرحوم کو عمر بھر میں اسی وقت دیکھا، نہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھنا یاد ہے۔ میں نے مرحوم سے کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کا عرصے سے اشتیاق تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ شاید ایک دو منٹ میرے اشتیاق پر مجھے دیں مگر وہ میرے حضرت اور مولانا عبدالشکور صاحب کے اقدام پر بہت ہی ناراض ہو گیا تھا۔ اس لیے انھوں نے سخت ناراض ہو کر یہ کہا کہ اس سے نمٹ لوں پھر ملوں گا۔

سارے دن یہ ہنگامہ رہا۔ دوسرے دن ۱۷ ربیع الاول ۱۳۲۹ھ کو علی الصباح میرے حضرت نے حضرت شیخ الہند کے نام بہت مختصر پرچہ اس مضمون کا لکھوایا کہ صورت حال یہ ہے اور سنیوں کی طرف سے اس وقت التوا، ہرگز مناسب نہیں۔ آپ میرے نام ایک خط جلد بھیج دیں کہ مناظرہ جاری رکھا جائے یا مناظرہ ملتوی نہ کیا جائے۔ بہت مختصر پرچہ لے کر میں امر وہہ سے دہلی روانہ ہوا۔ جب میں اسٹیشن پر پہنچا تو دو چار آدمی ملے، مصافحہ کیا۔ میں نے پوچھا کون؟ کیسے؟ انھوں نے کہا کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ جو اسی گاڑی سے کلکتہ جا رہے ہیں، ان کی زیارت کے واسطے آئے ہیں۔ میرے پاس نہ کاغذ نہ پنسل، ایک ردی کاغذ اسٹیشن سے ڈھونڈا اور ایک کولہ اٹھایا اور جو مجھے اسٹیشن پر پہنچانے کے واسطے لیا تھا اس کے ہاتھ حضرت قدس سرہ کے نام کولے سے پرچہ لکھا کہ حضرت مدنی قدس سرہ کو وہیں آتا رہیں۔ میں یہ کہہ کر دہلی روانہ ہو گیا۔ میرے حضرت نے گاڑی پر آدمی بھیجا اور حضرت سے اترنے کو فرمایا۔ باوجود اس کے کہ حضرت کا کلکتہ کا ٹکٹ تھا اور سامان سفر ساتھ تھا، میرے حضرت کے حکم پر حضرت مدنی وہیں اتر گئے۔ انقیاد اکابر جتنا میں نے حضرت (مدنی) میں دیکھا اتنا کسی میں کم دیکھا۔ اپنی طبیعت کے جتنا بھی خلاف ہو مگر اپنے بڑوں کے سامنے ہتھیار ڈال دینا ان ہی کا حصہ تھا اور سارے دن مناظرہ کے متعلق زور دار تقریریں فرمائیں جس میں فریقین کو نصیحت کہ یہ زمانہ آپس میں اشتعال کا نہیں ہے۔ اس وقت تو غیر مسلموں سے بھی صلح کرنے کی شدید ضرورت ہے چہ جائیکہ

آپس میں لڑائی جھگڑا کیا جائے۔

میں حضرت قدس سرہ کا گرامی نامہ حضرت شیخ الہند کے نام لے کر مغرب کے قریب حضرت کی قیام گاہ پر پہنچا تو حضرت شیخ الہند پر مرض کا شدید حملہ تھا، پیش کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ دوسرے دن صبح کو وصال ہو گیا اور دنیا بھر میں مارسیلیفون دوڑنے لگے۔ حضرت مدنی قدس سرہ کے نام کلکتہ اور اس کے قرب و جوار کے چند ایٹشنوں پر تار دیئے گئے، جہاں تک اہل الرائے کی یہ رائے ہوئی کہ صبح کی جس گاڑی سے حضرت مدنی گئے ہیں وہ اس وقت تک کہاں پہنچی ہوگی۔ اس جگہ سے لے کر کلکتہ تک ہر مشہور اسٹیشن پر تار دیا گیا۔ میں نے کہا ایک تار حضرت مدنی کو امر وہہ بھی دیدو۔ سب نے مجھے بیوقوف بتلایا اور بعضوں نے یہ سمجھا کہ یہ حضرت سہارن پوری کو تار دلوانا چاہتا ہے حضرت مدنی کے نام سے۔ شخص نے کہا آخر امر وہہ کا کیا جوڑ؟ میں نے کہا احتیاطاً۔ جناب الحاج مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیۃ علماء نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مراتبہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے۔ باوجودیکہ میں سیاسی حیثیت سے ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ممکن ہے کسی جگہ مولینا کا تذکرہ ذرا تفصیل سے آسکے، لیکن مفتی صاحب کو شفقت بہت تھی اور بہت وقعت سے میری بات قبول فرمایا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی میرے بار بار اصرار اور لوگوں کے انکار پر تیز لہجے میں فرمایا کہ جب یہ بار بار فرما رہے ہیں تو آپ کو ایک تار امر وہہ دینے میں کیا مانع ہے۔ چنانچہ تار دیا گیا، شاید ارجنٹ نہ دیا ہو کہ دینے والوں کی رائے کے خلاف ہو۔ دوسرے دن امر وہہ تار پہنچا۔ تیسرے دن علی الصباح حضرت مدنی حضرت شیخ الہند کے مکان پر پہنچے۔ یہ ناکارہ اس وقت تک امر وہہ روانہ نہیں ہوا تھا بلکہ جا ہی رہا تھا۔ وہ منظر ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ حضرت مدنی انتہائی ساکت۔ قدم بالکل نہیں اٹھاتا تھا۔ ہر قدم ایسا اٹھ رہا تھا جیسے ابھی گر پڑیں گے۔ مصافحہ بھی ایک آدھ ہی نے کیا۔ میں نے تو کیا نہیں شخص اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ مولینا مدنی حضرت شیخ الہند کے مردانہ مکان کی سامنے کی سہ درمی میں جا کر دوڑا نو بیٹھ گئے اور

چپ۔ دو چار حاضرین بھی گھر میں موجود تھے، وہ بھی جمع ہو کر مولانا کے پاس بیٹھ گئے۔^{۱۵}

پس از گل گر رود بلبل بہ گلشن جائے افتاد است

بہ آں چشمے کہ گل دیدہ است نتواند خزاں دیدن

یہ تو حضرت شیخ الحدیث کا آنکھوں دیکھا حال تھا۔ اب خود حضرت کی زبانی

اُس کیفیت کا حال سنیں: ”میں صبح کو تقریباً ۹ بجے دیوبند پہنچا۔ حضرت کے در دولت

پر پہنچا تو دیکھا کہ لوگ دفن سے فارغ ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ اپنی بدستی اور یہ چارگی

پر انتہائی افسوس ہوا کہ باوجود سالہا سال حاضر باشی کے شرف کے آخری وقت میں

نہ وفات کے وقت حاضر رہا اور نہ دفن میں شرکت کر سکا۔ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔^{۱۶} حضرت

ضرورت سے زیادہ الفاظ کے عادی ویسے بھی نہیں تھے، خاص طور پر رنج و الم کا بیان

اور اظہار تو شاید ہی زندگی میں کبھی کیا ہو۔ پہاڑ جیسے صد مات سر سے گذرتے رہے

اور صبر و شکر کے علاوہ کوئی لفظ کبھی کسی نے نہیں سنا۔ اس صدمے کا تذکرہ ان الفاظ

میں کیا تو یقین ہے کہ واقعی کلیجہ ہی پکڑ کر رہ گئے ہوں گے۔ بزرگوں کی وفات کے موقع

پر لوگوں کا طریقہ ہے کہ مرحوم کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے مشن کو جاری رکھنے اور پورا

کرنے کا عہد کیا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے بھی یہ عہد کیا۔ مگر آپ کا یہ عہد اور

فیصلہ ہمہ شما کا عہد نہ تھا۔ اس راہ میں حضرت کو زندگی کے آخر سانس تک تند و تیز

ہواؤں اور طوفان کا مقابلہ کرنا پڑا۔ خارزار وادیاں عبور کرنی پڑیں اور سنگلاخ میدانوں

سے آبلہ پا گذرنا پڑا۔ ابنوں کی گالیاں اور پتھر کھانے پڑے۔ غیروں کے طعنے اور وار

سہنے پڑے۔ قید و بند کے مصائب بھیلنے پڑے مگر دنیا کی کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل

آپ کو دین و مذہب اور ملک و ملت کے میدان جہاد سے ایک قدم نہ ہٹا سکی۔

آں نہ من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من

آں منم کا ندر میان خاک و خون بینی سرے

یہ پہلا مرحلہ یہ پیش آیا کہ صاحب رائے حضرات اور ذمہ دار اصحاب اور اکابر امت

نے اب کلکتہ جانے پر اعتراض کیا۔ ملک نے ہمارے حضرت کو شیخ الہند کا جاں نشین مقرر کیا۔ میں نے اس واقعہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا کہ حضرت شیخ الہند کے برادر مولانا حکیم محمد حسن صاحب اور مولانا محمد محسن صاحب نے میرے شیخ الاسلام کو پلنگ پر بٹھایا۔ ایک بھائی ایک طرف اور دوسرے بھائی دوسری طرف۔ بیچ میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے اپنے کان سے یہ بات سنی کہ حضرت نے فرمایا کہ اب ہندوستان میں میرا کیا ہے۔ میرے سر پرست اس دنیا میں نہیں رہے، میں بے سہارا ہوں۔ اور ان شیخ الہند کے برادران نے روتے ہوئے فرمایا بے شک۔ مگر فوراً حکیم محمد حسن صاحب نے فرمایا کہ اب آپ اس خاندان کے بڑے ہیں اور حضرت شیخ الہند کے جانشین ہیں تو چھوٹے بھائی مولوی محمد محسن صاحب نے فرمایا کہ یہ مکان آپ کا ہے جس طرح بڑے بھائی رہتے تھے اب آپ اس میں اسی طرح رہیں گے۔ آپ کا قیام اس خاندان کی خوش نصیبی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ الحاصل شیخ الہند کے وصال کے بعد تمام خاندان، تمام معتقدین اور تمام شاگردوں کا اس پر اتفاق تھا کہ جانشین شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں۔ اُس زمانے میں تحریکات کا زور تھا۔ سیاسی کش مکش زور دینے پر تھی۔ لیڈروں کا شمار نہ تھا۔ مگر تمام سیاسی لیڈروں نے حضرت شیخ الحرم مولانا مدنی کو جانشین شیخ الہند تسلیم کیا۔ بہرہ اخبار جب حضرت مولانا مدنی کا نام شائع کرتا تھا تو جانشین شیخ الہند ضرور لکھتا تھا ^۱ اور جانشینی کا سب سے پہلا فریضہ دارالعلوم دیوبند کی مشیخت حدیث اور صدارت تدریس تھی۔ سبھی اکابر اس راستے میں حائل ہوئے کہ اب کلکتہ جانے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو فوری طور پر آپ کی ضرورت ہے مگر حضرت اپنے ارادے پر قائم رہے۔ حضرت شیخ الہند ایک دن کے لیے بھی حضرت کی دوری کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ مدینہ طیبہ واپسی کی اجازت نہیں دی۔ بمبئی میں دو چار روز تاخیر کی اجازت نہ دی۔ امر دہہ کی ملازمت ترک کرائی۔ سیاسی اجلاسوں میں ساتھ رکھنے کے لیے تار دے دے کر بلوایا۔ مگر کلکتہ

کے مشن میں کوئی خصوصیت ضرور تھی کہ خود حکم دے کر روانہ کیا اور اس طرح کہ جیسے کوئی مومن و مسلمان اپنے کراہیل جوان بیٹے کو بہ تمام انبساط قلب و بے چشم نم میدان جہاد کے لیے روانہ کیا کرتا ہے۔ تو کیسے ممکن تھا کہ اب لوگوں کے منع کرنے سے حضرت اس مشن سے رُک جاتے۔ چنانچہ ”دو چار روزہ کر کلکتہ کا عزم کیا تو حضرت مولینا حافظ احمد صاحب مرحوم ہتم دارالعلوم مانع ہوئے اور دیوبند ہی کے قیام کا حکم فرمایا مگر میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت نے اپنی شدید بیماری کے دوران جبکہ خود میری حاضری کی ضرورت کو محسوس فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی چند اہم ضرورتیں درپیش تھیں، ان سب کو نظر انداز فرما کر کلکتہ روانگی کا حکم دیا۔ اور کلکتہ کے کام کو سب پر ترجیح دی۔ اب وفات کے بعد کسی طرح درست نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت کا حکم پس پشت ڈال دیا جائے اور تن آسانی اختیار کی جائے!“ مختصر یہ کہ شیخ الہند کی وفات کے دو چار روز بعد حضرت کلکتہ کے لیے روانہ ہو گئے۔

کلکتہ میں قیام اور سیاسی زندگی کی ابتداء

کلکتہ میں آپ کا انتظار تھا اور وہاں پہنچنے پر قومی مدرسہ کا مولینا ابوالکلام آزاد کی زیر قیادت گاندھی جی کے ہاتھوں افتتاح ہوا۔ افتتاحی اجلاس میں مولینا آزاد اور گاندھی جی نے تقریریں کیں۔ گاندھی جی نے اپنی تقریر میں فرمایا: ”میں آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ آپ اپنے ارادوں میں مستقل رہیے اور جو پاؤں آگے اٹھ چکا ہے اسے پیچھے نہ ہٹائیے۔ اس وقت اسلام خطرے میں ہے خلافت تباہ کر دی گئی ہے۔ مقامات مقدسہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ہندوستان کی خودداری کو پنجاب میں شکست دے دی گئی ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ ان کاموں پر کمر بستہ ہوں اور جو

فرائض آپ کے ذمہ اسلام اور ہندوستان کے ہیں انہیں ادا کریں۔ اساتذہ دینی تعلیم دیں جو طلباء کو سچا مسلمان اور سچا ہندوستانی بنا دے۔ قومی مدرسوں کو جاری کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو غلامی سے گریز کریں۔ اور آزادی پر جان دیں۔ میں جانتا ہوں کہ اسلام بنی نوع انسان سے محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس درگاہ میں حضرت نے حدیث، تفسیر اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ طلباء اور قوم کی ذہنی، روحانی اور اخلاقی تربیت کے کام کا آغاز کیا اور یہیں سے بیالیس برس کی عمر میں آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ کلکتہ میں اور بنگال میں خلافت اور کانگریس کے جو اجلاس ہوتے تھے، ان میں آپ بحیثیت صدر یا مقرر کے شریک ہونے لگے اور آپ کی تقریریں اور خطبات مقبول عوام و خواص ہونے لگے۔ اس طرح ایک طرف تو آپ کی ہندوستان گیر شہرت، بحیثیت عالم دین و شریعت کے بڑھتی رہی، دوسری طرف ایک عظیم المثال روحانی مقتدا کی حیثیت سے مرجع عوام و خواص ہوتے گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما اور لیڈر کی حیثیت سے پورے ہندوستان میں مشہور و معروف ہو گئے۔ سیاسی جدوجہد کی یہ بالکل ابتدا تھی۔ اور تدریس حدیث و تفسیر اور وعظ و تبلیغ میں بھی ہندوستان کی سر زمین پر شروعات ہی تھی۔

حال ہی میں حضرت کانگریس کے باقاعدہ ممبر بنے تھے۔ "مالٹا سے واپسی پر میں کانگریس کا باقاعدہ ممبر بن گیا اور ہمیشہ جدوجہد آزادی میں شریک رہا۔ اور قید و بند کے مصائب بھی اہل ملک کے ساتھ جھیلتا رہا۔ مگر آپ کی مزاجی و طبعی، جرات، بیباکی، بے نفسی، بے غرضی، اخلاص اور مسلسل جدوجہد نے بہت جلد آپ کو صفِ اول کے لوگوں میں جگہ دے دی۔ مالٹا سے آنے کے بعد مدینہ طیبہ واپسی کا فوری ارادہ تھا۔ حضرت شیخ الہند کی تعمیل حکم میں ہندوستان میں قیام کا ارادہ بھی کیا تو وہ بھی بالکل عارضی تھا مگر اب صورت حالات بدل گئی تھی۔ مدینہ طیبہ سے بھائی صاحبان کا اصرار تھا کہ خاندان کا شیرازہ بکھر چکا ہے آپ آئیں تو اجڑا ہوا گھر پھس آ جاؤ۔

مخلصین و معتقدین تقاضا کر رہے تھے کہ آپ جلد تشریف لائیں کہ ہمارے حلقوں اور مجلسوں میں پھر جان پڑ جائے۔ تلامذہ اور شاگرد منتظر تھے کہ حضرت جلد سے جلد حرم نبوی میں سند حدیث کو رونق بخشیں۔ خود اپنی طبیعت کا تقاضا بھی واپسی کا تمام عمر شدید رہا مگر اب یہ مصلحت سامنے تھی کہ اس وقت دین و ملت اور قوم و ملک کی خدمت ہندوستان میں زیادہ ضروری ہے اور کچھ مقاصد اور امور یہاں زیادہ اہم ہیں۔ جیسے ہی وہ پورے ہو جائیں گے انشاء اللہ روانگی عمل میں آئے گی۔ ان فریضوں اور مقاصد کی اہمیت حضرت کی تقریروں سے واضح ہوتی ہے۔ اُس وقت کے صوبہ آسام کے ضلع سلہٹ مولوی بازار میں جمیۃ علماء، کانگریس اور خلافت کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ کانگریس کے اجلاس کی صدارت اس وقت کے مخلص اور قابل ترین لیڈر مسٹر سی۔ آر۔ واس نے کی۔ اور جمیۃ و خلافت کے اجلاسوں کی صدارت حضرت نے کی۔ ایک دوسری کانفرنس جمیۃ علماء کی زیر صدارت حضرت رحمۃ اللہ منعقد ہوئی، اس کے خطبہ صدارت میں آپ نے فرمایا:

”اے حضرات علماء کرام! جیسے آپ کا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کے مذہب اور جان کی حفاظت میں اپنے تن اور من کو صرف کریں اور ہر ممکن طریقے سے اس میں کوشاں رہیں اسی طرح آپ کا فرض منصبی ہے کہ مسلمانوں کے مال و آبرو کی حفاظت میں بھی پورا حصہ لیں۔ اگر من قتل دون نفسہ فہو شہید نفس مسلمہ کے واجب الاحترام ہونے پر دلالت کرتا ہے تو من قتل دون عرضہ فہو شہید اس کے مال اور آبرو کے واجب الاحترام ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔“ آگے چل کر فرماتے ہیں:

”آپ حضرات خیال فرمائیں، ہندوستان کی خصوصاً مسلمانوں کی مالی حالت کس طرح برباد کی گئی ہے۔ لگان فیصدی، پچاس بلکہ بعض جگہ اسی فیصدی تک لیا جاتا ہے۔ تعلیمات، حفظان صحت، صفائی وغیرہ کے لیے سترہ فیصدی لیا جاتا ہے۔ مزید برآں ٹیکسوں کی ایسی بھربار ہوتی ہے کہ پیداوار کا اسی اور نوے فیصدی اسی طرح نکل جاتا ہے۔ باقی ماندہ زمیندار کا شتکار دونوں میں مشترک ہے۔ وہ بھی ریلوے، پوسٹ آفس تار

اور مختلف چندوں سے بچنے کے بعد یورپین تاجروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کچھ رہا سہا تو دونوں پر قربان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں تقریباً فیصدی نوے محتاج ملیں گے اور فیصدی دس بھی مشکل سے خوشحال ملیں گے۔ پھر خزانہ ملکی حالت پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو عجیب حالت ہے۔ اول تو یورپین عہدہ داروں کو اس قدر بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں جس کی حد و غایت نہیں۔ فوج میں ایک گورنر کے مصارف بہ نسبت ہندوستانی فوجی کے گیارہ گنا زیادہ ہیں۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ انگریز عہدہ داروں کی پنشن کا سالانہ چلا جاتا ہے۔ دفتر وزارت ہند کا خرچہ کئی ملین پونڈ کا ہے۔ ان دونوں مدوں کا مجموعی خرچ نوے کروڑ سالانہ ہے۔ علاوہ ازیں انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ جو کہ تقریباً تیرہ کروڑ پونڈ ہے جو مختلف لڑائیوں کی بنا پر بلا وجہ ہندوستان پر ڈالا گیا ہے۔ اس کا سود سات کروڑ پینسٹھ لاکھ پونڈ سالانہ خزانہ ہند سے نکالا جاتا ہے جس کے ایک ارب چودہ کروڑ پچھتر لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں خیال فرمائیے کہ ہندوستان کی مالی حالت کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ ابھی ابھی ڈیوک آف کنٹاک کے مصارف اکتالیس لاکھ ترین ہزار خزانہ ہند سے خرچ کیے گئے ہیں۔ جس کو اسٹیٹس مین مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۲۱ء نے تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے۔ مدوح کی آمد سے جو جو فوائد ہندوستان کو ہوئے وہ معلوم ہیں۔ گذشتہ مصارف کی تلافی میں سوائے بھلا دینے کی وصیت کے اور کیا پڑھایا؟ خود تجارت اور صنعت و حرفت کی بنا پر جو صدر ہندوستان کی مالی اور اقتصادی زندگی پر پڑا ہے وہ حد بیان سے باہر ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور پھر گذشتہ زمانہ اور حال کا مقابلہ فرمائیں، دیکھیے کس طرح زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ہندوستان کی تاریخ ابتدائے دنیا سے آج سے ڈیڑھ سو برس پہلے تک نہایت چمکدار اور زریں نظر آتی ہے۔ وہ فقط زراعتی ملک نہ تھا بلکہ تجارت میں بھی اس کا پایہ تمام ملکوں سے بلند تھا۔ اس نے فقط علم ہندسہ، نجوم، طب، ویدک اور موسیقی ہی سے تمام عالم کی رہنمائی نہیں کی تھی بلکہ تہذیب و تمدن کے اعلیٰ سے اعلیٰ قوانین اور فرماں والی اور

جہاں داری کے عمدہ سے عمدہ ضوابط بھی بنائے جس کے سبب سے ہزر چہرہ اور دیگر حکمائے فارس و یونان کو طالب علمی کے لیے یہاں آنا پڑا۔ شاہان فارس و یونان سیکڑوں روپیہ نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں دینار خرچ کر کے یہاں کے علوم اور کتابوں سے استفادہ کرتے تھے۔ خلفائے عباسیہ کے دربار میں ہندوستان کے مشہور اطباء اور فلاسفر ذکر کیے جاتے ہیں۔ نو شیرواں اور بطلیموس کی تاریخوں میں بھی آپ ہندوستانی علوم و فنون اور یہاں کے حکماء کا ذکر نہایت وقت اور عظمت کے ساتھ سنیں گے۔ آپ ہرقم کی صنعتوں میں گذشتہ تواریخ میں ہندوستان کا مرتبہ اعلیٰ دیکھیں گے۔ جب سے ہندوستان کو اسلامی آفتاب نے روشن کیا اس وقت سے اس کی عظمت دو بالا ہو گئی۔ اس میں عجم اور ترک اور عرب سے ایسے بہت سے فنون اور صنعتیں بڑھ گئیں جن کا وجود پہلے سے یہاں پر نہ تھا۔ غرضیکہ ہندوستان کمالات مادیہ اور روحیہ ظاہریہ اور باطنیہ کا اعلیٰ درجہ کا مرکز رہا ہے جس کے شواہد کثرت سے بلکہ روشنی میں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ مگر انگریزی تسلط کا ہونا تھا کہ ہر ایک کمال جوں حرف غلط صنف ہستی سے مٹنا شروع ہو گیا۔ اول تو یہ ہندوستان اپنی مصنوعات اور ملبوسات سے ایشیا افریقہ یورپ کو مزین کرتا تھا۔ پرتگال، فرینچ حکومت ہند، جزائر سوریہ انگلینڈ تجارت کے لیے یہاں کی ساختہ چیزیں وغیرہ لے جا کر نفع اٹھاتے تھے مگر آج یہ حال ہے کہ دیگر چیزوں کو چھوڑ کر فقط سوتی کپڑے کی وجہ سے ساٹھ کروڑ روپیہ ہندوستان سے نکل رہا ہے۔ بعض پورٹوں سے معلوم ہوا کہ ابھی گذشتہ سال میں فقط ربر کی کنگھیاں وغیرہ چار کروڑ روپیہ سے زائد کی باہر سے آئی ہیں۔

اے حضرات علماء کرام! جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ دینی اور دنیاوی ترقی کمال صنعت و حرفت وغیرہ پر موقوف ہے اور ان چیزوں کا شرعی حیثیت سے بھی محفوظ کرنا آپ پر ضروری ہے ادھر انگلینڈ اپنی قوت، ثروت اور تجارت، صنعت و حرفت کے بڑھانے کے لیے خلاف عہد ہر صورت قانونی اور عمل مخفی سے ہندوستان کی مالی اور اقتصادی زندگی کا گلا گھونٹ رہا ہے، جس کی تفصیل میں اس مختصر بیان میں نہیں

دکھلا سکتا، البتہ آپ کے سامنے ایک اجمالی حالت پیش کر کے اندازہ کرانا چاہتا ہوں کہ انگلینڈ کی مجموعی آمدنی کی حیثیت سے فی کس سالانہ آمدنی تین سو دو پونڈ ہے۔ جس کے چار ہزار پانچ سو تیس روپیہ ہوتے ہیں اور ہندوستان کی مجموعی آمدنی کے لحاظ سے فی کس سالانہ ایک پونڈ تو درکنار ایک روپیہ بلکہ آٹھ آنہ بھی نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہندوستانی تھوڑے اور بھوک کی وجہ سے بے خانماں ہوتے ہوئے جاں بحق تسلیم کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ کوئی پیشہ ان کے ہاتھ میں کمائی کا نہیں رہا۔ آخر آپ حضرات پر اس کی فکر بھی لازم ہے یا نہیں؟ ریلوے، تار، پوسٹ آفس، جنگلات وغیرہ کے ذریعہ سے جو کچھ ہندوستان کا روپیہ کھینچا جا رہا ہے وہ علیحدہ ہے۔ غرض کہ یہی ایک بڑا فریضہ ہے جس کی ذمہ داری سے آپ کسی طرح نہیں نکل سکتے۔

آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ فوجوں کی تنخواہیں ہندوستان کے خزانے سے دی جا رہی ہیں۔ رسد ملک کی پیداوار سے ہی۔ سیاہی ہندوستان سے ہی بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ اپنے اور اپنے اتحادیوں کی اغراض کے لیے کروڑوں روپیہ چندے میں لیا جاتا ہے۔ انگلینڈ کے بڑے بڑے تاجر جبکہ قرض جنگ کے لیے دینے سے جان چراتے تھے ہندوستان کے مالدار وغیرہ سے ہزاروں جیلے سے کروڑوں روپیہ قرضہ میں لیا گیا مگر بالآخر اس کے نتیجے میں ہندوستان کو کیا ملا۔ بڑھی ماؤں اور بڑھے باپوں کا بے اولاد اور بے خانماں ہونا۔ نوجوان عورتوں کا رانڈ اور بیوہ ہونا۔ ننھے ننھے بچوں کا بے باپ اور یتیم ہونا۔ رولٹ بل کا پاس ہونا۔ جلیانوالہ باغ میں رائفیل اور مشین گن کا شکار ہونا۔ پنجاب وغیرہ میں طرح طرح کے مظالم کی دھواں دھار بارش میں ہلاک ہونا۔ ہر طرف سخت سے سخت قوانین زیر تجویز تحفظ ہند پاس ہونا وغیرہ وغیرہ۔ یہی وہ امور مذہبی و سیاسی ہیں جنہوں نے تمام عالم میں بے چینی پھیلاد رکھی ہے۔ اسی لیے رہنمایان قوم اور علمائے اسلام اور پنڈتوں نے قرار دیا ہے کہ جب تک خلافت کے متعلق فیصلے ہمارے مطالبات کے موافق اور مجرمین پنجاب کو مزائیں حسب قرارداد عدالت و مساوات تمام ہندوستان کے لیے آزاد مستقل حکومت (سوراج) جس کے

ذریعہ سے ہر آئندہ شہائد سے نجات ہو سکتی ہے نہ مل جائے، کوشش سے صبر و سکون نہیں ہو سکتا۔

مذکورہ بالا تقریر سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت نے اس وقت تک اپنی کوششیں اور جدوجہد جاری رکھنے کا عہد کر لیا تھا جب تک مسلمانوں کے مذہبی مطالبات نہ پورے ہو جائیں اور ہندوستان آزاد نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جس چیز سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے میں نے دور دراز ملک میں قیام کرنا پسند کیا ہے۔ حالانکہ میرا دل مدینہ منورہ، آں حضرت صلعم، شان مدینہ اور برادرانِ عزیز کی یاد میں بے چین رہتا ہے۔^۱ اس کے علاوہ آپ نے علما، دین کو آواز دی اور ان کو یہ پیغام دیا کہ دین کی خدمت کا یہ ہی مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ مدرسہ خانقاہ میں گوشہ گیر ہو کر کتاب و کاغذ ہی تک منحصر رہیں بلکہ مسلمانوں کی اور ملک کی اقتصاد اور معاشی نیز سیاسی ترقی اور استحکام کے لیے جدوجہد بھی دینی فرائض میں شامل ہے۔ چنانچہ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے حضرت ہندوستان کے مختلف مقامات کا سفر کرتے رہے اور مذہبی اور علمی اجتماعات کے ساتھ ساتھ سیاسی اور انقلابی جلسوں میں تقریریں فرماتے رہے، صدارت کرتے رہے اور اپنے خطبات صدارت قوم کے سامنے پیش کرتے رہے۔

۲۳ اگست ۱۹۴۷ء میں جمیعہ علماء کی ایک کانفرنس حضرت کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔ اس میں حضرت نے عالم اسلام پر مغربی طاقتوں کے مظالم کا تفصیلی تذکرہ کر کے فرمایا کہ دنیا کے تمام مسلمانوں اور اسلامی دنیا کی نجات اور فلاح و بہبود کا یہی ذریعہ سب سے زیادہ کامیاب ہے کہ ہندوستان کو برطانیہ کے چنگل سے نجات مل جائے۔ حضرت کا یہ خطبہ صدارت ہندوستانی مسلمانوں کا سیاسی رخ متعین کرنے کے لیے ایک پروگرام کے مرادف تھا۔ حضرت کی سیاسی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے اس

۱۔ حسین احمد مدنی، مجموعہ خطبات صدارت و نایاب تقاریر، ہندوستان پریس دہلی، ص ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶

خطبہ صدارت کا بغور مطالعہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا :

”اسلامی دنیا پر وہ پہاڑ ڈھائے گئے کہ خود عیسوی دنیا بھی چیخ اٹھی۔ بطور مشقہ نمونہ از خروارے کچھ عرض کرتا ہوں۔ انیسویں صدی کا آنا کیا ہوا کہ اسلام پر یورپ نے ہر طرف سے قیامت برپا کر دی۔ ۱۸۰۶ء میں انگریزی جہازوں نے ناگاہ گھیلی پولی کے بیڑے پر حملہ کر کے ڈبو دیا۔ ۱۸۳۱ء میں یورپ نے یونان کو ترکوں سے بغاوت پر روغلا لیا۔ اسکندر البلانٹی بغاوت کے علمبردار تھے جنہوں نے روسی مدد کا پورا یقین دلایا تھا جس کے الفاظ یہ ہیں۔ تم (یونانیوں) ترکوں سے دور نہیں کیونکہ ایک بڑی طاقت تمہاری پشت پناہ ہے اور دشمنوں کی سرکوبی کے لیے موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت نے یورپین شعرا کے اس مشن کا تذکرہ کیا ہے جس میں انہوں نے تنظیم کے ذریعے یورپی عیسائی دنیا اور خاص طور پر یونان کو ترکوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ شعرا میں آپ نے فرانسیسی شاعر و کٹر بیوگوار اور انگریزی شاعر اور لارڈ بائرن کا تذکرہ کیا اور موخر الذکر کی ایک نظم کا ترجمہ لکھا جس میں اُس نے ترکوں کے خلاف زہرا لگلا ہے۔ اس کے بعد لکھا: ”اس بغاوت میں یونانیوں اور ان کے یورپین مددگاروں نے وہ ستم ڈھائے ہیں جن کے ذکر ہی سے دل کا پتہ ہے۔“ فرانسیسی امیر البحر ہارجن اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے۔ ”مونمباریا کے قلعہ میں سو یونانی تھے جن کے ساتھ ترکوں نے اپنے قبضے کے دوران نہایت عمدہ سلوک کیا اور ان کے گرجوں کا احترام ملحوظ رکھا لیکن باغی یونانیوں نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد ترکی آبادی کے ساتھ یہ برتاؤ نہ کیا بلکہ خود مسجدوں میں نہایت شنیع اور وحشیانہ افعال کے مرتکب ہوئے۔ قیدیوں کو انہوں نے بلا زاد سفر کاٹھیں روانہ کر دیا۔ چنانچہ زمین پر اڑیاں رگڑتے ہوئے اسلامی خاندان دیکھے گئے جن کا بھوک پیاس نے بُرا حال کر دیا تھا اور جزیرہ کے قرب و جوار میں مقتولین کے انبار لگے ہوئے نظر آئے جنہیں یونانیوں نے قتل کیا تھا۔ صرف اسی قدر نہیں بلکہ ستم زدہ ترکی خاندان کو باغیوں نے گولی سے اڑا دینے کا ارادہ کیا۔ لیکن موسیو بولفور نے ان کو چھین کر ایک جہاز میں بٹھا دیا اور یونانیوں سے کہا کہ جو حرکات

تم نے کی ہیں یہ بھری تفراتوں کی سی حرکات ہیں۔“

وہاں کی حالت ایک پادری فرنزس ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ”زخمی لڑکیاں جان بچانے کے لیے ساحل پر بھاگتی پھرتی تھیں۔ مگر یونانیوں کی بندوقوں سے انھیں کہیں پناہ نہ تھی۔ عورتیں ننھے ننھے بچوں کو چھاتی سے لگائے سرسبمہ پھر رہی تھیں۔ مگر گولیاں ان کے نخت ہائے جگر کے ٹکڑے اڑائے دیتی تھیں حتیٰ کہ جنھوں نے اپنے کو سمندر کے حوالے کر دیا تھا ان کو بھی نجات نہ ملتی تھی۔ یونانیوں نے ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھین کر ان ہی کے سامنے بوٹی بوٹی کر ڈالا اور ان کے گوشت کو سمندر میں اس طرح پھینکا جس طرح کتے بھی نہ پھینکے جاتے ہوں گے۔“

۱۵ اکتوبر ۱۸۳۱ء کو باغیوں نے شہر ٹریپوڈرا پر قبضہ کر لیا۔ اور جو ستم ڈھایا اس کا بیان ناممکن ہے۔ تین روز تک مسلسل قتل عام ہوتا رہا۔ مردوں کے سرٹنے کے تعفن سے تمام ملک یونان میں زور شور سے وبا پھیل گئی۔ سترتیلے تاریخ یونان میں اپنے جیشم دید واقعات کی بنا پر یہ الفاظ لکھتا ہے۔ ”اس خون ریزی کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن تعجب انگیز تو یہ ہے کہ یورپین حکومتوں پر ان کا ذرہ برابر اثر نہ ہوا۔ بلکہ اٹلے ترک ظالم و سفاک ٹھہرائے گئے۔ زار روس نے باب عالی کو ایک نوٹ لکھا کہ باب عالی مسیحیت کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ بتائے کہ آیا وہ مسیحی قوم (یونان) کو بلاچون چرا برباد ہونے دے گی اور صلیب کے برخلاف ہلال کی اہانتوں کو خاموشی سے دیکھتی رہے گی۔“

۱۸۲۶ء کو انگلستان، روس اور فرانس نے اپنے جنگی بیڑوں کو یونانیوں کی مدد کے لیے بندرگاہ نارڈین پر پہنچایا۔ اور ابراہیم پاشا مصری امیرالبحر کو جو کہ بغاوت کو فرو کرنے کے لیے حکم خلیفۃ المسلمین آئے تھے، حکم دیا کہ وہ یونانیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ اور فوج کو مصر واپس لے جائے۔ ابراہیم پاشا موصوف نے جنگ کرنے سے توقف کیا اور باب عالی کے حکم کا انتظار کیا۔ مگر اس حالت میں بھی یورپ یونانیوں کو بھڑکاتا رہا۔ ابراہیم پاشا نے بہت کچھ صدائے احتجاج بلند کی مگر ایک نتیجہ نہ نکلی۔

آخر کار ایک دن جبکہ ابراہیم پاشا مورہ میں دورہ پر گئے ہوئے تھے۔ موقع پا کر انگریزی امیر البحر نے اپنے متفقہ بیڑے سے ۲۰ اکتوبر ۱۸۴۷ء کو عثمانی و مصری بیڑوں پر بندرگانہ ناردین میں اچانک حملہ کر کے اول سے آخر تک تمام جہازوں کو ایک ایک کر کے ڈبو دیا جس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ایک مصری سیاہی نے ایک انگریز کو قتل کر ڈالا تھا۔ اگر یہ افتراء صحیح نہیں ہو تو کیا ایک گورے کے قتل کا جرم اتنا سنگین ہو سکتا ہے جس پر یورپ اور انگلستان دو اسلامی سلطنتوں کے تمام بیڑوں کو مع سیاہیوں اور سامان کے غرق کر دینے کو جائز سمجھتا ہے۔ اس شرمناک حادثے پر خود جارج چہارم شاہ برطانیہ نے بھی اظہارِ نفرت کیا۔ وہ کہتا ہے: "یہ ایک منحوس حادثہ ہے۔" شہنشاہِ اٹریا کہتا ہے: "یہ ایک بڑی بھینٹ ہے۔" انگلستان میں امیر البحر نے کہہ کر اور پارلیمنٹ پر لبرل پارٹی نے سخت اعتراضات کیے جس پر گورنمنٹ انگریزی نے عدم واقفیت کا اظہار کیا۔ حالانکہ یہ حرکت یقیناً تینوں حکومتوں کے ایما سے ہوئی تھی۔ موسیو الفریڈ میٹر اپنی کتاب استقلالِ یونان میں لکھتا ہے کہ "متحدہ بیڑہ نے جو کچھ کیا وہ سب فرانس، روس اور انگلستان کی رائے سے کیا تھا۔" اخبار ڈیلی نیوز جو اس زمانے میں روس کا بڑا حامی تھا اس کا نام نگار ۲۷ جنوری ۱۸۴۷ء کو ایڈریانوئل سے لکھتا ہے:

"جب ہم فیلوپولیس سے گذر رہے تھے تو ہمیں کاشتکاروں کے جتنے برف سے ڈھکے ہوئے ہر طرف نظر آ رہے تھے جن میں سے بعض کے متعلق یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس شنیع حالت میں دو تین ہفتوں سے پڑے ہوئے تھے۔ ہم یہاں مقتولین کی ہڈیوں کو سامانِ جنگ کی وجہ سے مجبور تھے کہ روندتے ہوئے چلیں۔ کیوں کہ ہمیں راہ نہ تھی اور تمام زمین پر مقتولین اسی طرح بچھے ہوئے پڑے تھے جس طرح کہ فرشِ بچھا دیا جاتا ہے۔ ۳۵ میل تک یہی حالت تھی۔ ہر جگہ عورتیں لڑکے شیرخوار بچے بڑے ٹکڑے کیے ہوئے مرد برف کی سلوں پر دکھائی دیتے تھے۔ برف کا رنگ خون کی وجہ سے بالکل سُرخ ہو رہا تھا اور اکثر عورتیں اس طرح پڑی تھیں گویا اس دنیا سے اور تمدن کے مصائب سے تھک کر آرام کر رہی ہیں۔ مردوں کا یہ حال تھا کہ ان کی صفیں برابر

بھی ہوئی تھیں جن کے چہروں پر باوجود موت کے عظمت و شجاعت کے آثار ہو رہے تھے ان کی داڑھیاں خون میں لت پت تھیں۔ ان کے دونوں ہاتھ سینوں پر تھے۔ گویا وہ اپنے شریف دلوں کو دشمن کے ناپاک سسوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ لڑکے اور شیر خوار بچے بھی اکثر سردی سے مرے تھے جن کے بھولے بھولے چہروں پر برف کی ہلکی ہلکی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ ان کی معصومی ان کے بشروں سے صاف ظاہر تھی۔ وہ گویا مٹھی نیند سو رہے تھے اور ان کے نرم اور گورے گورے ہاتھ برف کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ معصوم اپنی ماؤں کی گود میں سردی کی شدت سے مر گئے ہوں گے تو انھوں نے مایوس ہو کر ان کو برف پر سلا دیا ہوگا۔ ” اسی سلسلے میں آگے چل کر لکھا ہے: ” خود باسکوی میں جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں ترکی سپاہیوں کی ہڈیاں ڈھیر تھیں جن کو بلغاری پتھروں سے کچل رہے تھے۔ میں نے ایک ترکی خاندان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آرہے ہو اور کہاں جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ پانچ ماہ ہوتے ہیں ہم سمرنا سے چلے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کپڑا ہے نہ زادراہ۔ اگر راستے میں کوئی جانور مرا ہوا مل جاتا ہے تو اس کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ اس خاندان میں تین شخص بچے تھے۔ ایک بد قسمت بوڑھا باپ تھا، ایک بد نصیب ماں تھی جس کے سینے سے ایک شیر خوار بچہ چمٹا ہوا تھا اور ایک دو سالہ بچہ تھا۔ سب کے سب برہنہ تھے۔ صرف چیتھروں سے مشکل انھوں نے سترو پوشی کر رکھی تھی۔ زمین ان کا بچھونا اور آسمان ادرھنا تھا۔ باسکوی سے جب ہم چلے تو قدم قدم پر ایسے ہولناک مناظر دیکھنے میں آئے کہ جسم لرز گیا۔ نہیں معلوم کتنی عورتیں برہنہ پڑی تھیں جن کے شوہر انھیں کے پہلوؤں میں پڑے تھے۔ اور بچے ان کے گرد آخری سانسیں نے کر سو گئے تھے اور نہیں معلوم کتنے بوڑھے نظر آئے جن کی کھوپڑیوں کے ٹکڑے اڑ گئے تھے اور ان کی سفید داڑھیوں پر خون کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ یہ بیان کرتے ہوئے دل پارہ پارہ ہوتا ہے کہ ایک عمر ترک کو میں نے زمین پر بے گور و کفن پڑے ہوئے دیکھا جس کے پہلو میں قرآن کھلا ہوا رکھا تھا اور اس کے صفحوں پر اس کا خون جما ہوا تھا۔“

”روسیوں نے جب ڈینیوب عبور کیا تو انہوں نے ہزار ہا ترکی عورتوں اور بچوں کو شہر شہلا میں جمع کیا اور ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا، اس کا حال سترہ سربرآوردہ یورپین اخبارات کے نامہ نگاروں نے چشم دید بیان کیا ہے۔ ڈیلی ٹیلی گراف، پنچسٹر گارڈین، مارننگ پوسٹ اور ٹائمز کے نامہ نگاران میں شامل ہیں۔ ان کے بیان کو ترکی وزیر خارجہ نے ۲۱ جولائی ۱۸۹۶ء کو پیرس روانہ کر دیا تھا اور جس میں لکھا تھا کہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس بربریت کی اطلاع دنیا کو کر دیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے زخمی عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ جن کے جسم سے خون کے توارے جاری تھے۔ ان کے بیان سے معلوم ہوا کہ روسیوں اور بلغاریوں نے ہر ہر گاؤں میں مسلمانوں کو اس طرح ذبح کیا ہے جس طرح بھیر میں ذبح ہوتی ہیں۔ ہم نامہ نگار علی الاعلان کہتے ہیں کہ زخمیوں میں اکثر عورتیں اور بچے تھے۔ ۱۸۹۳ء میں ارمنوں سے بغاوت کرائی گئی جس میں برٹش گورنمنٹ سب سے آگے تھی اور فرانس اٹلی روس بھی شریک تھے حالانکہ ارمنی تمام ترکی ممالک میں منتشر تھے کسی خاص ضلع یا صوبہ میں ان کا مستقر اصلی نہ تھا اور نہ کسی جگہ ان کا غالب عنصر تھا۔ وہ مسلمانوں سے زیادہ مالدار اور خوشحال تھے اور نہایت راحت اور آرام سے زندگی بسر کرتے تھے مگر یورپ کو کب چین تھا۔ طرح طرح کی خفیہ کارروائیاں عرصہ دراز سے جاری تھیں۔ سنہ مذکورہ میں انگورہ میں تحقیقات بغاوت ارمن کے لیے کمیٹی بٹھائی گئی جس میں اقوام اجانب کے نمائندے بھی تھے۔ انہوں نے تحقیق کر کے دکھلایا کہ صرف پروٹسٹنٹ ارمنی برسر بغاوت ہیں کیونکہ ایک ارمنیوں کو بغاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے بعض امریکن پادری اس سازش میں شریک ہیں۔ چنانچہ امریکن نمائندہ کا یہ قول ہے ترکی حکومت نے جو تحقیقات کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور جو پروٹسٹنٹ پادری گرفتار ہوئے ہیں وہ کسی شفقت کے مستحق نہیں ہیں۔ اس کمیٹی نے یہ بھی ثابت کیا کہ انگریزی مدیرین خصوصاً مسٹر گلڈسٹون نے خفیہ طور پر ارمنیوں کو بغاوت پر آمادہ کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ ہم ارمنیوں کو خود مختار سلطنت کرا دیں گے۔ اس راز کے فاش ہوتے ہی انگریزی اخباروں

نے قیامت برپا کر دی۔ مسٹر گلکڈ اسٹون آپے سے باہر ہو گئے اور ٹرکی اور خلیفہ اسلام پر گالی گلوچ کی دھواں دھار بارش کر دی۔ یہ معلومات اور تاریخی وثیقہ کے طور پر یہ پورا خطبہ مکمل مطالعہ کے قابل ایک قیمتی دستاویز ہے۔ اس کو پڑھ کر ان سازشوں، فریب کاریوں اور افترا پر دازیوں نیز واقعات کا اجمالی خاکہ سمجھ میں آئے گا کہ یورپین ملکوں نے جن کا سربراہ اس وقت برطانیہ تھا اور جن کے ساتھ اس وقت کی روسی شہنشاہیت بھی شامل تھی۔ کس طرح اسلام کی مرکزیت اور مسلمانوں کی عظیم سلطنت کو پارہ پارہ کر دیا۔ یہ حالات ایسے ہیں کہ ایک عام انسان خصوصاً مسلمان کو بے چین و مضطرب کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ چہ جائے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اسلامی شوکت و عظمت کے کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مظلوم مسلمانوں کی دہائی اور کراہ کو اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اور ملت بیضا کے درد و کرب کی جھین کو اپنے دل میں محسوس کیا تھا۔

اسی خطبہٴ صدارت میں آگے چل کر حضرت نے فرمایا: ”اس لیے ہم سبھوں کو شرعی حیثیت سے فرض اور لازم ہے کہ بوجہ عدم استطاعتِ مقابلہ بالقوت، ملامت اور نرم جنگ یعنی ترک موالات سے کسی طرح منہ نہ موڑیں اور نہایت استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ اس میدان میں قدم بڑھائیں، اور اپنے کو آزاد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کو امن و صلح و شوری کے ساتھ اتباعِ مذہب کرتے ہوئے عمل میں لائیں۔ اپنی آزادی ہی سے ہم دوسرے ممالک اسلامیہ کی حفاظت، خلافت کی تقویت اور مقاماتِ مقدسہ کی حمایت کر سکتے ہیں اور پھر اپنے دین، اپنے اہل و عیال، جان و مال کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ بغیر اس کے ہمارے لیے ہر عمل میں روڑے موجود ہیں۔“

اس موقع پر ایک خاص نکتہ قابل غور ہے کہ حضرت کی ساری سیاسی جدوجہد میں آپ کا یہ ذہن کارفرما رہا ہے کہ برطانیہ اور سامراج کے قدم اگر ہندوستان سے اکھڑ جائیں تو ایک ایک کر کے تمام ممالک اسلامیہ ان کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے۔ اپنے اس خیال کی تائید میں حضرت اعداد و شمار سے یہ دلائل دیتے تھے کہ برطانیہ کی ساری شوکت و ثروت کا انحصار استقلال اور استحصال بالبحر پر ہے اور اس استحصال کا سب سے بڑا مرکز ہندوستان ہے۔ مشرق اور خصوصاً ہندوستان پر اپنے پنجے مضبوط رکھنے کے لیے برطانیہ کو محفوظ راستوں کی سب سے پہلے ضرورت ہے اور اس کے لیے اُسے ممالک اسلامیہ اور عرب کو اپنے زیر اثر و اقتدار رکھنے کے مختلف ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ سامراج کی پوری عمارت زمین پر آ رہے گی۔

۲۱ فروری ۱۹۲۱ء کو سیوہارہ ضلع بجنور میں حضرت کی زیر صدارت خلافت کمیٹی کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔

اس کے خطبہ صدارت میں آپ نے ہندوستان کی گزشتہ عظمت، شوکت اور دولت کا بڑے فکر انگیز الفاظ میں بیان فرمایا:

”ہندوستان اُس وقت تمدن تھا جب سارا عالم وحشی تھا۔ وہ عالم و فاضل تھا جبکہ طبقات زمین میں جہل کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ وہ شکم سیر تھا جبکہ ساری دنیا بھوکے تھی۔ علم ہندسہ اور حساب جو کہ ترقی اور تمدن کا اکیلا مدار ہے۔ کیا اسی کا جملہ عالم کو غنیمت نہیں ہے۔ علم حکمت (ویدک) اور نجوم کیا اسی کا مایہ ناز نہیں ہے۔ علم سیاست ملوک کیا اسی کا وہ خزانہ نہیں ہے جس کے لیے بادشاہان فارس مدتوں سرگرداں رہے ہیں۔ روحانی علوم میں کیا وہ اپنے گرد و نواح کے ملکوں کا پیشرو نہیں تھا۔ اسلام کا چمکہ دار اور نہایت روشن آفتاب جبکہ ہندوستان پر تیرا ننگن ہوا تو اُس نے ہندوستان کے قدیمی کمالات میں کسی قسم کی کمی نہیں کی بلکہ عرب و عجم اور روم و ترک کے ان کمالات کا اضافہ کر دیا جن کی بواہندوستان کو اس وقت تک نہ لگی تھی۔ ہندوستان فطرتی طور پر نہایت سمجھدار و مانع نہایت ذکی طبیعت نہایت گہری فکر نہایت شعور والا قلب اور نہایت صبر والا جسم رکھنے والا ملک بنایا گیا تھا۔

اس کا اعتدال ہوائی اس کے تفاعل کا گواہ اور اس کا مرکز انسانی ہونا اس کی فوقیت کا شاہد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدتوں تک یورپ نے اس طرف اپنی ہمتوں کو متوجہ کیا۔ اور ساہا سال تک ہزاروں قسم کے اس فکریں میں مصائب جھیلے۔ وہ کونسا بادشاہ ہے جس کی عنانِ خواہش اس ملک کی طرف اس کے قدرتی کمالات کی وجہ سے متوجہ نہیں رہی اور وہ کون سی قوم ہے جس نے ہندوستان کے فطر عشق و محبت میں اس کے حسنِ خدا داد کی بنا پر داغِ رنج و الم نہیں کھائے۔ کون سی جمیر دنیا میں موجود ہے کہ ہمارا پیارا وطن اس کا گنجینہ نہ ہو۔ اور کون سا وہ کمال ہے جو دیگر اقوام میں اقامت پذیر ہوا ہو اور ہندوستانی قومیں اس سے عاجز رہی ہوں، اس سیاق میں ہندوستان کی دوسری خصوصیات و امتیازات اور بے مثل ترقی و تمدن کا ذکر فرمایا ہے اور پھر ان حقائق کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح یورپ نے اور بالخصوص برطانیہ نے اس ملک پر اپنے سچے کاڑھیں اور کس طرح اس ملک کی دولت، ثروت، علم و فن کا آفتاب یورپین قوموں کے ہاتھوں آہن میں آگیا ہے۔

”وہ ہندوستان جو کچھ دنوں پہلے فقط اپنے ملک کو ہی نہیں بلکہ کیرٹوں ملکوں کو جامہ ہائے گوناگوں سے مزین کرتا تھا۔ اس کی تجارت پارچہ ایشیائی، افریقی اور یورپین ممالک میں بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ آج وہ ایسا محتاج و درپوزہ گریورپین حکمت عملیوں اور مغربی اصلاحی اسکیموں کے ذریعہ سے بنا دیا گیا ہے کہ فقط سوئی کیرٹوں کے لیے تقریباً ساٹھ کروڑ روپیہ سالانہ اس کو انگلیٹڈ بھیجنا پڑتا ہے۔ وہ ہندوستان جو کہ اپنی پیداوار سے اپنے بچوں کی وسیع پیمانہ پر پرورش کرتا ہوا دوسرے ممالک کو بھی پالتا تھا آج اس کے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا ملنا مشکل ہو گیا ہے“

اس کے بعد ہندوستان کی زبوں حالی اور ہندوستانی عوام کی فقر و تنگدستی کا جو برطانوی حکومت کی پالیسی کے ہاتھوں پیش آرہی ہے تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان پر اپنا قبضہ و اقتدار قائم رکھنے کی غرض سے کن کن ملکوں پر اپنا بیخہ استبداد گاڑ رکھا ہے، آج اس کی غلامی کے شکنجے کو اور زیادہ

سخت کرنے کے لیے ابد الابد تک کی فکریں کی جا رہی ہیں۔ جبرالٹر، مالٹا، عدن وغیرہ پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ بحری زیادت اور بحری حکومت اپنے لیے مخصوص کی جاتی ہے۔ مصر کو دبایا جاتا ہے۔ عراق کو دبوچا جاتا ہے۔ فلسطین کا شکار کیا جاتا ہے۔ ایران ذبح کیا جاتا ہے۔ خلافت (ٹرکی) کا شیرازہ بکھیرا جاتا ہے۔ ممالک سوڈان، عربیہ کی قوت پاش پاش کی جاتی ہے۔ اس کے آگے حضرت نے ہندوستان کی مختلف قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں میں یک جہتی اور اتفاق و اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور بتلایا ہے کہ نا اتفاقی اور اختلافات اگر باقی رہے تو ہم قوم و ملک کو آزاد نہیں کر سکتے۔ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ مذہبی جذبات ابھار کر ہندوستانیوں میں نفاق اور پھوٹ ڈالے۔ اس لیے ہندوستانیوں کو اور ملک میں رہنے والی تمام قوموں کو پوری قوت کے ساتھ آپس میں شیر و شکر ہو کر ملک کا دفاع کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں حضرت نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اتفاق و یک جہتی کا یہ مطلب سرگز نہیں کہ ہندوستانی اپنے مذہبی اقدار و مسائل میں بھی اتفاق و اتحاد کریں۔ بلکہ ان معاملات میں ہر قوم اپنے اپنے مذہبی حدود و شعائر پر قائم رہے۔ اتحاد و موافقت صرف ملکی اور سیاسی حدود تک رہے۔ یہ بالکل وہی پالیسی تھی جو حضرت شیخ الہند نے اپنے سیاسی مسلک کے لیے وضع کی تھی اور جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آچکا ہے۔ اس خطبہٴ صدارت میں حضرت فرماتے ہیں: ”جیسا کہ فدائے قوم و وطن مسٹر گاندھی جی اور مولانا شوکت علی صاحب وغیرہ لیڈران قوم اور علمائے جمعیتہ علماء کے سالانہ اجلاس دہلی میں تقریر کی تھی کہ ہم مذہبی مسائل میں سے ایک مسئلہ کو بھی اس اتفاق میں داخل کرنا اور بھونڈنا نہیں چاہتے۔ ہر فریق اپنے مذہب میں پورا آزاد ہے۔ ہندو دھرم اپنی جگہ پر ہندو ہو کر اور مسلمان دھرم اپنی جگہ پر مسلمان رہ کر ہندوستانی کی حیثیت سے جان توڑ کوشش اور کامل اتفاق کر کے اپنے حقوق اور آزادی کی فکر کریں“

ان تمام مظالم کا، اس کمزوری کا، اقتصادی بربادی کا بے عزتی اور سوانی کا علاج اور اس تمام جدوجہد اور اتحاد و اتفاق کا مقصد بھی ملاحظہ فرمائیں: ”پھر آخسر

اس کا علاج کیا ہے اور آئندہ کے لیے صورتِ فلاح کیونکر ہو سکتی ہے۔ غلامی کا طوق اور جی حضوری کی بیڑیاں کس طرح کٹ سکتی ہیں۔ ظالم کو حق کے کس طرح دو زانو بٹھا سکتے ہیں اس پر غور کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس مرض کے علاج میں اب بھی سستی کی جائے گی تو یہی سہی رت بھی جاتی رہے گی۔ اور موت کے سوا کوئی راہ ہمارے لیے ہے اور نہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ ہم اس کلمی کو فقط ایک فرد میں منحصر پاتے ہیں وہ یہ کہ حکومت مستقلہ حاصل کی جائے جس کو سوراج سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ماسوا تجارت کے جملہ راستے بند کر دیئے ہیں جب تک وہ نہ حاصل ہوں، ہم کو نہ اپنے آپ کو اور نہ آئندہ نسلوں کو زندہ خیال کرنا چاہیے اور دوسری ایشیائی اور افریقی قوتوں کی محافظت کرنا ناممکن سمجھنا چاہیے۔ یہ تقریریں، بیانات اور خطبات مالٹا سے رہائی کے فوراً بعد اور سیاسی زندگی کی بالکل ابتداء کے ہیں۔ ان کی سیاسی، تاریخی اور جذباتی قوت اور اہمیت موجودہ پیمانوں سے نہ پائیے۔ آج سے ساٹھ ستر برس پہلے مسلمانوں کے زخم بالکل ہرے تھے۔ ترکی کی اسلامی سلطنت اور خلافت عثمانیہ پر تازہ تازہ ضرب لاری بڑی تھی۔ فلسطین پر ابھی ابھی سامراج کے ظالمانہ پنجے گرٹنے شروع ہوئے تھے۔ برطانیہ کی طاقت اور غرور اپنے عروج پر تھا۔ جیل کی دیواریں اور پھانسی کے تختے ذرا ذرا سے شک و شبہ پر مظلومیوں کو نگل لینے کے لیے تیار رہتے تھے ایسے میں سلطان حبار کے سامنے کلمہ حق کا نعرہ بلند کرنا معمولی دل گردے کی بات نہ تھی۔ مگر ہمارے موضوع کے لیے ان بیانات کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ ان سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سیاسی زندگی کا پروگرام ان کی انقلابی جدوجہد کی پالیسی اور ان کی عوامی زندگی کا دائرہ کار مرتب شکل میں اور واضح صورت میں سامنے آ جاتا ہے اور ہم کو آپ کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے کافی روشنی مل جاتی ہے۔

پہلا اور بنیادی نکتہ یہ ہے کہ حضرت سارے اسلامی ممالک اور خلافتِ اسلامیہ

کے انحطاط و انتشار کی پوری ذمہ داری یورپین ملکوں اور خصوصاً برطانیہ پر عائد کرتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں آپ کے پاس دلائل اور شواہد کا انبار ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ مسلمان ہیں اور دنیا کی عظیم طاقت ہیں بکرو فریب کے ذریعے پیچھے سے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے اور ان کی جمیعت کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خیال فرماتے ہیں اور ان کا مطالعہ اور فیصلہ یہ ہے کہ اگر یورپین طاقتوں اور برطانیہ اور دوسرے لفظوں میں سامراج سے ہندوستان کی گلو خلاصی ہو جائے۔ تو نہ صرف ممالک اسلامیہ بلکہ پورے ایشیا اور افریقہ کی غلامی کی بیڑیاں کٹنی شروع ہو جائیں گی۔ اس کے دلائل دیتے ہوئے بھی حضرت اپنی تقریروں اور خطبات میں گھنٹوں گفتگو فرماتے تھے اور اس مسئلہ کا شمار بھی ان حقائق میں ہے جس کو اہل بصیرت جانتے اور سمجھتے ہیں۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کو غلی وجہ البصیرت یہ یقین تھا کہ ملک کی آزادی کے لیے جہاد و جدوجہد ہر مسلمان اور ہر ہندوستانی کا فرض منصبی ہے۔ غلامی کی حالت میں انسان نہ اپنے دینی اور مذہبی شعائر و فرائض ادا کر سکتا ہے اور نہ اُسے معاشی، اقتصادی اور معاشرتی اطمینان و سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر آپ برطانوی حکومت سے مادی، جسمانی، مالی، ذہنی یا فکری، غرض ہر قسم کے تعاون کو حرام قرار دیتے تھے اور تعاون کرنے والوں کو قابلِ مذمت و ملامت سمجھتے تھے۔

چوتھی حقیقت ان خطبات سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہندوستانی اقوام کے درمیان سیاسی، اقتصادی، جغرافیائی اور مقصدی اعتبار سے فکری اتحاد اور عملی اشتراک کو ضروری بلکہ فرض قرار دیتے ہیں لیکن یہ اتحاد صرف سیاسی حدود تک تھا۔ مذہبی اور دینی مسائل و معاملات اس سے بالکل علیحدہ تھے اور اس میں ہر قوم اپنے ادیان کے دائرے میں آزاد تھی۔ جو شخص یا جماعت ہندوستانیوں میں افتراق و تشتت پیدا کرتی ہے۔ اس کے رد اور مدافعت میں کسی مدافعت یا مصلحت دینی

کو روا نہیں رکھتے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ اگر ہندوستانی اقوام میں اتحاد نہیں ہوتا تو ایشیا اور بالخصوص ہندوستان آزاد نہیں ہو سکتا اور سامراج کو کسی کیسی شکل میں یہاں پہنچے جائے رکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔

پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت کو اپنے ملک اور مادرِ وطن ہندوستان سے ایک سچے وطن پرور اور محب وطن کی طرح محبت تھی اور آپ تہذیب تمدن، سیاست و اخلاق، ذہانت و فراست، معیشت و معاشیت اور علم و عمل غرض ہر اعتبار سے اس کو دنیا کے تمام ملکوں سے افضل اور اعلیٰ خیال فرماتے تھے۔ ”انسان کی طبعی بات ہے کہ اس کو اپنے وطن عزیز سے اس قدر محبت ہوتی ہے جو کہ دوسری جگہوں سے نہیں ہوتی۔ جس سرزمین میں وہ پیدا ہوتا ہے اور پرورش پاتا ہے خواہ کتنا ہی تکلیف دینے والا ہو مگر انسان کو اس کا کاشا بھی دوسری جگہوں کے پھولوں سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ مشہور شعر ہے:

حُب وطن از ملک سلیمان خوشتر
خارِ وطن از سنبل وریحاں خوشتر ۱۱

پیسچھے گزر چکا ہے کہ سالوں مدینہ طیبہ میں قیام کے باوجود حضرت نے ہجرت کی نیت نہیں کی تھی۔

بہر حال سیاسی میدان میں عملی اقدام اور زندگی بھر کی سیاسی جدوجہد کا یہ رخ اور پالیسی متعین کر لینے کے بعد جیسے جی افکار و خیالات میں اور منزل را بگذر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قدم قدم مصائب کی آندھیوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ حوادث اور طوفانوں کے آگے سینہ سپر رہے۔ اپنیوں کی عداوتوں اور غیروں کی مخالفتوں کے زخم کھاتے رہے مگر وہ وفا کا کوئی خارزار اور صحرائے جہاد کا کوئی طوفان پائے ثبات و استقلال کو ڈونگا نہ سکا۔

کراچی کا مقدمہ اور ساہیوالی جیل

اسارت مالٹا کے سالوں میں ملک کے گوشے گوشے میں چھوٹے بڑے قصبات اور شہروں میں مدارس اور درسگاہوں میں خلافت کمیٹی اور کانگریس کی زیر قیادت بڑے بڑے احتجاجی جلسے اور تجویزیں ہوئیں جن کی خبروں سے اخبارات اور اشتہارات پوسٹر اور اعلانات بھرے رہتے تھے اور ان میں خوب خوب تعارف اور ذکر ان اسیروں اور ان کی قربانیوں اور بڑائیوں کا ہوتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف میں تفصیل ان کے دارالعلوم دیوبند کے لائق و فائق و قابل فخر فرزند ہونے کی، حضرت شیخ الہندؒ کے خصوصی شاگرد اور معتمد ترین خادم ہونے کی، قطب العالم حضرت گنگوہیؒ کے خلیفہ اجل ہونے کی اور سرکارِ دو عالم کے قدموں میں سالوں تک درس حدیث و قرآن دینے کی بھی آتی تھی۔ چنانچہ ہندوستان کے عوام و خواص میں بہت کچھ بلکہ کافی حد تک حضرت کا تعارف اور شہرت تو اسی زمانے سے شروع ہو گئی تھی۔ مگر شیخ الہندؒ کے وصال کے بعد جب قوم و ملک نے اکیپ منصب جانشین حضرت شیخ الہندؒ کا دیا تو شہرت اور مقبولیت میں جو کچھ تھوڑی بہت کمی اور کسر رہ گئی ہوگی وہ بھی پوری ہو گئی اور اب حضرت کا نام شیخ العرب و العجم، مجاہد اسلام، اسی مالٹا، جانشین شیخ الہندؒ حضرت مولانا الحاج حسین احمد مدنی لکھا اور لیا جانے لگا۔ مدینہ طیبہ سے نسبت اور مدنی کا لفظ اسی وقت سے اس طرح نام کا جز بنا کر پورے ملک میں یہی مشہور ہوا کہ ایک شیخ طریقت اور فاضل عالم مدینہ طیبہ میں رہتے اور حرم نبوی میں قال اللہ وقال الرسول کا سبق دیتے تھے حکومت برطانیہ نے ان کو قید کر کے مالٹا بھیج دیا اور اب ہندوستان میں قرآن و سنت کے علمبردار ہیں۔

دیارِ ہندوستان میں اپنا چراغ ہے وقفِ نور پاشی
بنامِ پاکِ حسین احمد نبی کے پیارے وطن کا باشی لے

حضرت کے نام کے ساتھ یہ القاب و آداب حقیقت اور واقعیت کے مطابق تو تھے ہی مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کے تقویٰ و طہارت، تعلق مع اللہ، احلاص فی سبیل اللہ، وقار اور ایثار اور دوسری خصوصیات پر سمجھتے اور سمجھتے بھی خوب تھے۔ جس عنوان، جس موقع اور جس جگہ پر بھی حضرت کی آمد آمد کا چرچا ہوتا تھا۔ عوام و خواص پر واندہ وار ان خصوصیات، امتیازات اور صفات کے پیکر کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ کانفرنسوں، جلسوں اور اجتماعات میں حضرت کا نام اور قدم آجائیں تو مجمع دس گنا اور اثر آفرینی پچاسوں گنا بڑھ جاتی تھی۔

۱۹۲۱ء میں جولائی کا مہینہ تھا کہ کراچی میں خلافت کمیٹی کی ایک آل انڈیا کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں اعلانِ حق، سرفروشی اور جہادِ آزادی کی تجویز پیش کرنے کے لیے حضرت تشریف لائے اور پوری بے جگرگی اور بے خوفی کے ساتھ بیانِ گہ دل یہ اعلان کیا کہ حکومتِ برطانیہ کی فوج میں بھرتی ہونا یا کسی قسم کی فوجی ملازمت کرنا یا کسی کو فوجی خدمات کی ترغیب دینا بالکل حرام ہے اور یہی نہیں بلکہ گورنمنٹِ برطانیہ کے ساتھ تعاون اور موالات چاہے وہ کسی درجے کی بھی ہو قطعاً حرام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک فرض بھی بتلایا کہ ہر مسلمان پر ترکِ موالات اور اس کی ترغیب و تحریص فرض ہے۔ اس تجویز کی تائید اور تائیدی تقریریں اس زمانے کے شیرِ خدا مولانا محمد علی اور دوسرے لیڈروں، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، پیر غلام مجدد صاحب سندھی اور ہوامی کرشن تیرتھ مشنر اچاریہ نے کیں۔ یہ ساری کارروائی برطانیہ حکومت سے کھل کر بلکہ لٹکار کر مقابلہ اور چیلنج کی تھی۔ چنانچہ گرفتاری اور سزا میں مجوز و مقررین کو کوئی شبہ تھا نہ عام ہندوستانیوں کو کوئی شک تھا۔ بس دیر کاغذی کارروائیوں کی اور انتظار صبح و شام کا تھا۔ چنانچہ ۱۸ ستمبر ۱۹۲۱ء کو جب حضرت دیوبند میں حضرت شیخ الہند کے آستانے پر مقیم تھے، وارنٹ گرفتاری آپہنچا۔

لے عام عثمانی مرحوم مدبر تجلی دیوبند

قدو گیسو میں قیس و کوہن کی آزمائش ہے
 جہاں ہم ہیں وہاں دار و درن کی آزمائش ہے
 بہتر ہے کہ گرفتاری کا آنکھوں دیکھا حال چشم دید گماہ حضرت شیخ الہندؒ کے حقیقی سچے
 مولینا راشد حسن عثمانی مرحوم کی زبانی سنئے :

” ۱۸ ستمبر کی صبح سے حضرت کی گرفتاری کی افواہ گرم تھی۔ لوگوں میں شدید ہیجان
 تھا اور شخص کی زبان پر یہ تھا کہ ہم کسی حالت میں حضرت کو گرفتار نہ ہونے دیں گے۔
 مقامی حکام کہتے تھے کہ ہمارے پاس اس قسم کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اچانک دو پہر بعد
 ایک انگریز افسر پولیس کچھ مسلح گارڈ لے کر دیوبند پہنچا اور حاکم تحصیل نیز تھانے دار کو لے کر
 گرفتاری کے لیے آستانہ شیخ الہندؒ پر جہاں حضرت قیام فرماتے تھے حاضر ہوا۔ جو بھی شہر میں
 اطلاع پھیلی کہ پولیس افسران آستانہ شیخ کی طرف جا رہے ہیں فوراً پورا بازار بند ہو گیا
 اور پورا شہر کیا ہندو کیا مسلمان، آستانہ شیخ کی جانب دوڑ پڑا۔ عوام میں اتنا شدید غم و غصہ
 تھا کہ ان انگریز افسران کو جان سے مارنے پر تیار تھے۔ آخر کار انگریز ڈپٹی کلکٹر، انگریز
 انسپکٹر پولیس اور عبدالعزیز سی آئی ڈی انپکٹر حضرت تک پہنچے، وارنٹ دکھلایا،
 اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو گرفتار سمجھیے۔ مجمع میں سے کوئی بولا کہ آپ کو وارنٹ دکھلانے
 کا حق ہے یا گرفتار کرنے کا بھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے زبان کھولی ہی تھی کہ دو چار
 افراد اس پر حملہ کر بیٹھے اور بچاتے بچاتے بھی اس پر دو چار ہاتھ جڑ دیئے۔ مجمع تھا کہ سمندر کی
 طرح ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ اور جوش و خروش بڑھتا ہی جاتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے حضرت
 اور دوسرے بزرگوں نے ان انگریز افسران اور سی آئی ڈی انسپکٹر کو گھیرے میں لیکر
 بچایا۔ کمرے تک پہنچایا اور ان کو اندر کر کے باہر سے تالا بند کر دیا۔ عوام قابو سے باہر
 ہو رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ انگریزوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ جب حالت
 کسی طرح قابو میں نہ آئی تو حضرت نے عوام کے سامنے تقریر فرمائی جو عصر سے لے کر
 مغرب تک اور مغرب سے عشا تک جاری رہی۔ جس میں آپ نے اپیل کی کہ عوام
 قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور جوش و خروش کو ہنگامہ آرائی اور غلط راستوں میں استعمال

نہ کریں لیکن ظہر سے لے کر عشا تک بھوک کی پیاسی جو پیلک اپنے شیخ پر جانیں قربان کرنے کے لیے دیوار بن کر کھڑی تھی کسی قیمت پر حضرت کو حکومت کے حوالے کرنے پر رضامند نہیں ہوئی۔ آخر میں حضرت نے اپنا عامہ سر سے اُتارا اور عوام کے سامنے کر کے فرمایا کہ آپ لوگ میری پگڑی کی لاج رکھ لیں اور خاموشی اور صبر کے ساتھ مجھے گرفتار ہو جانے دیں۔ اس پر جمع شدت جذبات سے بے قابو ہو گیا۔ لوگ رونے لگے اور مجبور ہو کر اس معاہدے پر فیصلہ ہوا کہ اس وقت گرفتاری ملتوی رہے، صبح کو ہم لوگ خود جلوس کی شکل میں حضرت کو اسٹیشن پہنچائیں گے مگر پولیس اور انگریز افسران حضرت کو یہاں سے گرفتار کر کے نہیں لے جائیں گے۔ افسران نے یہ شرطیں مان لیں اور تھکی ہاری پیلک خستہ و شکستہ دل برداشتہ ہو کر خاموش ہو گئی۔ تقریباً رات کو گیارہ بجے انگریزوں اور افسران کو آستانہ شیخ کے پھیلے حصے سے نکال کر تھانے کی عمارت میں پہنچا دیا گیا۔

اگر کہیں حکومت اپنے معاہدے پر برقرار رہتی تو صبح تک تو جمع ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر رہی ہو جاتا۔ وہ تو کہیے خیریت گذری اور حکام نے پوری طرح وعدہ خلافی کر کے راتوں رات گوروں اور مسلح سپاہیوں کی ایک اسپیشل ٹرین دیوبند اسٹیشن پر لاکر کھڑی کر دی۔ اور پہلے پورے شہر کی ناکہ بندی کی کہ باہر کی پیلک نہ پہنچنے پائے۔ پھر نہایت خاموشی کے ساتھ حضرت شیخ الہند کے آستانے کا محاصرہ کر لیا اور اس طرح قلعہ بندی کر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت تشریف لائے اور خاموشی سے ان کے ساتھ ہو گئے۔ کچھ احباب اور اہل خانہ جو پہلے سے گھر میں موجود تھے ریلوے اسٹیشن پر وداع کرنے کے لیے ساتھ گئے۔ اسپیشل ٹرین پہلے سے تیار تھی۔ جو فوراً حضرت کو لے کر روانہ ہو گئی۔ ورنہ جہاں جذبہ اور جوش یہ رہا ہو کہ جان لے لیں گے یاد سے دیں گے مگر حضرت کو گرفتار نہ ہونے دیں گے، اور خبر جنگل کی آگ کی طرح اطراف و جوانب کی بچاسوں بستیوں اور قرب و جوار کے متعدد اضلاع میں پھیل چکی ہو، وہاں صبح ہوتے ہوتے لاکھوں ہی انسان تو جمع ہو جاتے اور نہ جانے کتنی لاشیں گر جاتیں۔

قصہ مختصر اسپیشل ٹرین سے حضرت کو کراچی پہنچایا گیا۔ کیس دیں کا تھا اس لیے مقدمہ بھی وہیں ہوا۔ مگر سماعت بجائے عام عدالت کے خصوصی اجلاس میں ہوئی جو خالق دنیا ہال میں منعقد ہوا۔ عمارت کے چاروں طرف مسلح گارد اور سینگنوں کا پہرہ تو تھا ہی، اوپر سے پورے علاقے کو فائر دار تاروں سے گھیر دیا گیا تھا۔ الزام اس بار بھی بغاوت ہی کا بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین، فوجوں اور ہندوستانیوں میں بغاوت پھیلانے کا تھا اور وہ بھی نہ حکومت میں چور اور طاقت کے غرور سے بھر پور دولت برطانیہ کے خلاف، جس کی بغاوت اور تختہ دار کے درمیان فاصلہ دو ہی چار ہاتھ کا رہا کرتا تھا۔ مقدمہ کے اصل ملزم حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ دوسرے حضرات مولانا محمد علی مولانا نثار احمد، ڈاکٹر سیف الدین کچلو پیر غلام مجدد سندھی اور سوامی کرشن تیرتھ پر صرف حضرت کی تائید و تصویب میں تقریر کا الزام تھا۔ سب سے پہلے ملزمین کے بیانات ہوئے۔ حضرت کے بیان میں اگر دو چار الفاظ کا ہیر پھیر بھی ہو جائے تو ایسے نازک موقع پر اس میں کوئی ہرج نہیں تھا۔ درویش مصلحت آمیز کی تاویل ایسے ہی مواقع کے لیے رکھی گئی ہوگی۔ اور اگر یہ مناسب نہیں تھا تو موقع کی نزاکت کے پیش نظر تھوڑی بہت مدافعت میں کوئی قباحت نہ تھی۔ عین اسی زمانے میں ایسی کئی مثالیں آنکھوں کے سامنے تھیں۔ بہر حال اگر ضمیر اس پر بھی تیار نہ تھا تو کم از کم بیان میں تھوڑی بہت نرمی تو کی ہی جاسکتی تھی مگر سپاہی اور پھر مردِ مومن جب ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر دن میں کودتا ہے تو ان سیاستوں اور مصلحت کو شیوں کو پیروں سے کچلتا ہی ہوا آگے بڑھتا ہے۔ حضرت نے بھی برسہا میدان دشمن کو للکارا، اور ایسے ویسے نہیں اس طرح للکارا کہ سننے والوں کے سینوں میں دل دہل گئے۔

”مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی“

آپ نے اپنے بیان میں فرمایا: ”میں ایک مولوی ہوں۔ احکام خداوندی کا ماننا میرے اوپر بمقابلہ غیر عالم کے زیادہ ضروری ہے۔ میرا فرض منصبی ہے کہ میں خداوندی احکام دوسروں

تک پہنچاؤں۔ قرآن اور مذہب میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بات کو جو اس سے دریافت کی گئی ہو، چھپائے گا تو وہ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا بے شک قرآن میں کافر کے لیے بہت سخت سزا ہے لیکن ایسے شخص کے لیے جو دوسرے مسلمان کو قتل کرے، پانچ سزائیں ہیں۔ پہلی یہ کہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوسری یہ کہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، تیسرے اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا، چوتھے یہ کہ اس پر خدا کی لعنت ہوگی، پانچویں مختلف طریقوں سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ قرآن حکیم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو غلطی سے بھی نہ مارنا چاہیے۔ غلطی سے مارنے والے کے لیے بھی سزا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب لاکھ صحابہ کرام کے اجتماع میں عرفات کے موقع پر تقریر فرما رہے تھے تو آپ نے بہت تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو وصیت فرمائی کہ احتیاط سے رہو، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو اور کفر کا طریقہ اختیار کر لو۔ دوسرے موقع پر ارشاد ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے بجز اس کے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، تمام دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا آسان ہے لیکن ایک مسلمان کا دوسرے کو قتل کرنا آسان نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا بھی فسق ہے۔ قیامت کے دن سات چیزیں مسلمان کو تباہ کرنے والی ہوں گی ان میں سے ایک قتل مسلم ہے۔ مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے اندر سب سے پہلے قتل و خون ریزی کے متعلق باز پرس ہوگی۔ رسالہ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کا خون اور اس کا مال و متاع کعبہ شریف سے بھی زیادہ واجب الاحرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں ان میں سے ایک ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھائیں۔ نیز ارشاد ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دھکی دیتا ہے تو وہ خدا کی دھمکیوں سے محفوظ نہیں رہے گا۔ ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کی جائیداد یا ملک پر قبضہ کرنا حرام ہے۔ مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا جرم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے سوڈ کھانے اور شراب

یعنی اور مردہ کھانے کو کہے کہ وہ ایسا نہ کرے گا تو بادشاہ اس کو قتل کر دے گا تو
 شخص مذکور کو ایسا کرنا چاہیے ورنہ اگر وہ قتل کر دیا گیا تو گنہ گار ہوگا۔ لیکن اگر اُسے الفاظ
 کفر ادا کرنے کا حکم بادشاہ کی طرف سے دیا جائے تو اس کو تعمیل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر
 اس حکم عدوی پر وہ قتل کر دیا جائے گا تو گنہ گار نہیں ہوگا اور اگر کسی مسلمان کے سامنے
 یہ صورت ہو کہ اگر اُس نے دوسرے مسلمان کو قتل نہ کیا تو وہ خود قتل کر دیا جائے گا تو اس
 کے لیے خود قتل ہو جانا بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ کسی دوسرے بے گناہ مسلمان کا ہاتھ قتل
 کرے۔ پس! علمائے کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے گورنمنٹ برطانیہ کی فوج
 میں ملازمت کرنا حرام ہے۔ یہ امر کہ یہ رزلیشن کانفرنس میں پاس ہوا تھا کوئی نئی بات
 نہیں ہے۔ اس کا پاس کرنا اسی طرح ضروری تھا جس طرح ایک طبیب و حکیم کے لیے
 خاص طبی مشورہ دینا۔ جب لائڈ جارج اور چرچل نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ جنگ
 اسلام اور برطانیہ کے درمیان جنگ ہے تو اس وقت نہ صرف ضروری بلکہ ہمارا اہم ترین
 فرض تھا کہ ہم اعلان کر دیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسلام کے خلاف تمام طاقتوں کے
 خلاف جنگ کرے۔ ایک مسلمان گورنمنٹ کے ساتھ اسی حد تک وفادار رہ سکتا ہے جہاں
 تک اُس کے مذہب نے اجازت دی ہے۔ اگر گورنمنٹ ملکہ و کٹوریہ کے اعلان کی تعمیل
 نہیں کرنا چاہتی اور اگر مذہبی فرائض اور پابندیوں کا لحاظ و احترام نہ کیا گیا تو اس صورت
 میں کروڑوں مسلمانوں کو اس مسئلے کا تصفیہ کر لینا چاہیے کہ آیا وہ مسلمانوں کی حیثیت سے
 رہنا چاہتے ہیں یا گورنمنٹ برطانیہ کی رعایا کی حیثیت سے اور ۳۳ کروڑ ہندوؤں کو
 یہ خیال کر لینا چاہیے کہ آیا وہ مذہبی آدمی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں یا گورنمنٹ برطانیہ
 کی رعایا کی حیثیت سے۔ اگر گورنمنٹ مذہبی آزادی چھیننے پر تیار ہے تو مسلمان اپنی جان
 تک قربان کر دینے کو تیار ہوں گے اور میں پہلا شخص ہوں گا جو اپنی جان قربان کر دوں گا،
 بیان کے دوران سارے ہی وقت میں عدالت میں موجود حاضرین دم بخود تھے کہ
 ظالم حکومت کے بھرے دربار میں ایک فقیر درویش کس بل بوتے پر حق کا نام ایسی

ہمت سے بلند کر رہا ہے۔ کورٹ اور جج حیران تھے کہ اس جرأت و شہامت کے جسم کی کیا سزا دی جاسکتی ہے۔ خاص طور پر بیان کے آخری جملوں پر تو لوگوں کے کیلجے اچھل کر حلق میں آگئے۔ ایسی بے جگری اور بے خوفی اور وہ بھی حکومت برطانیہ کے انگریز ججوں کے سامنے اور جانب دار عدالت میں دیکھنا تو کیا قوم و ملک نے کبھی سنی بھی کا ہے کو ہوگی۔ ایسے ماحول میں جب حضرت مدنی نے پورے اطمینان، بلند آہنگی اور لٹکارتی ہوئی آواز میں بیان کا آخری جملہ ارشاد فرمایا تو مولینا محمد علی فرط جذبات، عقیدت اور سرشاری سے بے تاب ہو گئے اور برسر عدالت دوڑ کر باجیٹم نم حضرت رحمۃ اللہ کے قدم چوم لیے۔ افضل الجہاد کلہ جہتی عند سلطان جاؤر کی تعبیر انہی اللہ کے شیروں نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔

بغاوت کا یہ مقدمہ خصوصی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ اس بیان کے بعد کیس سیشن سپرد ہو گیا۔ یہاں بھی حضرت نے پوری بے خوفی کے ساتھ اپنا بیان دیا۔ اس کی روح اور اسپرٹ تو وہی ہے جو عدالت خصوصی والے بیان میں گذر چکی ہے۔ مگر کچھ حنا ص اجزا اس کے بھی قابل غور ہیں ”جو قرار داد میں نے پیش کی ہے وہ محض ایک قرار داد نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایک مذہبی فریضے کا اعلان ہے۔ ہم اپنے اور ہندو اپنے دھرم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مذہبی معاملہ ہے اس کا فیصلہ لارڈ ریڈنگ کا نہیں بلکہ مذہبی علماء کا کام ہے۔ الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی ملازمت کرنا حرام ہے۔ اس استغاثے کے متعلق لارڈ ریڈنگ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں مداخلت نہیں کی گئی ہے۔ مگر میں یہ معلوم کر کے خوش ہوں کہ سرکاری وکیل اور جج نے کہا ہے کہ احکام قرآنی کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا اور اس سے بھی زیادہ خوش ہوں گا اگر لارڈ ریڈنگ، مسٹر مانینگو اور لارڈ جارج اس بات کا اعلان کر دیں کہ مسلمانوں کو تمام احکام قرآنی پر عمل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہمارے لیے بہتر ہو گا اور سورا ج چار ماہ کے بجائے دو ہی ماہ میں حاصل ہو جائے گا۔ آخر میں میں ڈنکے کی چوٹ

اعلان کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے برطانوی فوج میں ملازمت کرنا حرام ہے۔
 اس طرح بغاوت کے اقبال جرم پر اور پھر ڈنکے کی چوٹ اعلان بغاوت کے بعد
 اب سزائیں اور آخری سزا میں شک و شبہ کبھی کیا رہ جاتا تھا۔ ملزم نے تو بیان ہی اس
 قصد و ارادے سے دیا تھا کہ ہمارے سر سے جو کچھ بھی گزر جائے مگر جس طرح بھی ہو آج
 برطانوی استعمار و سامراج کی اینٹ سے اینٹ بچ کر ہی رہے۔ بیان سن کر بھری
 عدالت کو دکلاؤ اور بیسٹران کو اور پورے قوم و ملک کو بھی سزا کا یقین ہو گیا
 انتظار بس اس بات کا رہ گیا کہ سزا کیا ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے۔ اس قسم کے
 آخری لمحات میں کمانڈر کا فرض ہوتا ہے کہ رخصت ہوتے ہوئے اپنی فوجوں کو
 نقشہ جنگ سمجھاتا جائے اور اپنے بعد جنگ جاری رکھنے کے اسرار و راز بتلا کر
 ان کے حوصلے بڑھاتا جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے وقت میں اپنی قوم و
 ملک یا پوں کہیے کہ جنگ آزادی کی افواج کے نام یہ پیغام دیا۔ اس کو پڑھنے سے
 پہلے خوب ذہن نشین کر لیجیے کہ یہ کوئی خطیبانہ، لیڈرانہ، شہرت پسندانہ اور اخباری
 رسمی اشاعت نامہ نہیں تھا بلکہ جیل کی کوٹھری، عداوتوں اور دشمنیوں کی یلغار اور
 قاتل کے ہاتھ میں اٹھی ہوئی تلوار کے نیچے سے دی ہوئی مابینہ و بین اللہ ایک
 وصیت تھی جو اس ارادے سے دی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد اپنے جان شاد
 سے بات کرنے کی نوبت پھر نہ آئے۔ اس کو حضرت کے دینی اور سیاسی مزاج کا
 بچوڑ سمجھنا چاہیے۔

”یہ وقت اسلام پر نہایت سخت آپڑا ہے جس کی نظیر پہلے نہیں گذری۔ ایسے
 وقت میں مسلمانوں کو جو کچھ بے چینی ہو وہ بہت ہی کم ہے، آج ہم اور آپ نہیں برباد
 ہو رہے ہیں بلکہ آج دشمنان اسلام، اسلام کا جنازہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور اس
 کی صورتیں کر لی ہیں اور اپنے زعم میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگرچہ خدا بے نیاز ہے
 اس کو کسی کی پروا نہیں ہے۔ مساجد کو گر جا بنواتا ہے، جب چاہتا ہے خانہ کعبہ میں

بت پرستی کراتا ہے، اپنے جاں نثاروں کو خون کے آنسو رلاتا ہے، آروں سے چرواتا ہے آگ میں جلو آتا ہے، اس کو دنیا و مافیہا کی حاجت نہیں مگر ہم نالائق بندے اس کے محتاج ہیں۔ اس کا وعدہ ہے کہ اس دین کی آخر تک حفاظت کروں گا اس لیے ہم کو پوری پوری امید ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا اور انشاء اللہ ضرور کرے گا۔ فقط ہم کو اتنی ضرورت ہے کہ اس خدمت ضروریہ میں اور لازمی عملدرآمد میں اگر ہماری بھی کچھ ٹانگ اڑ جائے، ہمارے قول فعل مال جان کسی کو بھی دخل ہو جائے تو کل کو قیامت کے دن منہ دکھانے کو جگہ ہوگی۔ کل ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور رب العزت کے سامنے یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنی طاقت کے موافق کوئی کمی نہیں کی۔

اے میرے پیارے بزرگو! آپ لوگوں کو میری جدائی، میری تکلیف، میری شفقت کا ادنیٰ درجہ کا بھی خیال نہ ہونا چاہیے۔ دین محمدی کی فکر ہونی چاہیے۔ دشمنان اسلام نے ہزاروں نہیں لاکھوں خاندان برباد کر دیئے جن کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہی مسلمان بھائی مسلمان بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں تھیں۔

میرے عنایت فرما بزرگو! ہم کمزور ہیں، ہم میں اتفاق نہیں، ہم ہتھیار نہیں رکھتے، ہم مال نہیں رکھتے، ہمارا دشمن قوی ہے، اس کے پاس ہر قسم کا سامان ہے، ہم کو اسے سیدھا کرنا اور اس سے بدلہ لینا ضروری ہے مگر ہمیشہ مقابلہ سمجھ اور طاقت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ یہی طریقہ قرآن، حدیث اور آں حضرت نے بتلایا ہے، اسی لیے ہم کو جب تک کہ ہمارے مقاصد حاصل نہ ہو جائیں۔ یعنی خلافت کی آزادی، جزیرۃ العرب کی آزادی، ہندوستان کی آزادی، پنجاب کی تلافی، اس وقت تک نہ ہم کو چین سے بیٹھنا ہے اور نہ بیٹھنے دینا ہے۔ آپ یہ سوال کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ آپ پر شرعاً فرض ہے کہ اگر ایک مری ہوئی چیونٹی کی طرح آپ کاٹ ہی سکتے ہیں تو ضرور کاٹ لیجیے۔ اس کے معنی یہ نہ سمجھیے کہ آپ خلافت امن کوئی بات کریں، خون ریزی کریں۔ نہیں نہیں! صلحجوری کے ساتھ جس قدر

ممکن ہو نقصان پہنچائیں۔ دوسروں کو آمادہ کریں۔ دشمن کی قوت کو کمزور کریں۔ ان کی تجارت کو گھٹائیں۔ ان کی صنعت کو گھٹائیں۔ ان کی محبت اور ان کے خوف کو دلوں سے دور کریں۔ لوگوں میں جرات پیدا کریں۔ سچ کہنے سے نہ رکھیں۔ لوگوں کو نرمی اور حکمت سے سمجھائیں۔ شدت کو کام میں نہ لائیں۔ ٹوٹے بوڑوں کو ملائیں، ملے بوڑوں کو نہ توڑیں۔ اسی دُھن میں دن رات لگے رہیں۔ لوگوں میں سپہ گری پھیلائیں، بانک پٹہ تلوار لکڑھی، گھوڑے کی سواری وغیرہ جو بہارے بزرگوں کا طریقہ تھا جس کو تمام شریف خاندان کے لوگ سیکھنا اپنا فخر سمجھتے تھے، اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دیں۔ کم از کم روزانہ ایک آدھ گھنٹہ اگر یہ عمل جاری رہے تو ہم خرماد ہم ثواب کا کام دے۔ جسمانی صحت حاصل ہو، ایک فن ہاتھ میں رہے، وقت بے وقت کام آئے۔ اپنی اور مال و اولاد کی حفاظت ہو۔

میرے پیارے دوستو! دیکھو اس با من جنگ (عدم تشدد) نے اس قدر فائدہ دیا کہ ہم سات آدمیوں کے پکڑے جانے کے بعد تمام ملک میں تحریک بہت زور و شور پکڑ گئی۔ لوگوں کے دلوں سے خوف گورنمنٹ کا بہت کم ہو گیا جس مسئلے کو ہم ہمینوں کو شش کر کے سب کے کانوں تک نہیں پہنچا سکتے تھے، وہ دم کے دم میں پہنچ گیا۔ انگورہ کے مجاہدین کا چندہ بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو گیا۔ بہت سے آدمیوں نے اس حرام نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اور بھی سیکڑوں فائدے ہوئے۔ اگر تشدد آمیزی کی کارروائی ہوتی تو یہ فائدہ نہ ہوتا۔

میرے معزز کم فرماؤ! ہم تو اسی با من ترک موالات سے گورنمنٹ کو شکست فاش دے دیں گے۔ فدا ملک کو پوری طرح تیار تو ہو جانے ہو۔ اور لوگوں میں احساس اور اتفاق پیدا کرو۔ ہاں! ایسا سختی سے لوگوں کو نہ پکڑو کہ کل کو گھبرا کر چھوڑ بیٹھیں شریعت کی پابندی کراؤ۔ روز روز جلسے ہونے شاید لوگوں کی ہمیشگی سے مانع ہوں۔ میرے خیال میں ہفتے میں ایک دو جلسے یا پندرہ بیس دن میں ایک جلسہ کافی ہے۔ مگر کام بہت نظم سے ہونا چاہیے۔ جو کام مجمع کے اور بڑے ہوتے ہیں

ان میں غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم کو اس وقت ملنے اور ملانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ متوسط طریقہ پر کوشش جاری ہے۔ نرمی اور خوش کلامی میں فرق نہ ہو۔

میں اب تک بہت آرام سے ہوں۔ غالباً کل یا پرسوں حکم سنایا جائے گا اگر مجھ پر یا دوسرے رفقا پر کوئی سخت حکم ہو تو آپ لوگ ہرگز صدمہ نہ کریں اور نہ کوئی ایسی حرکت ظاہر ہو جس سے بے چینی، قلق یا اضطراب ظاہر ہو۔ بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ دشمنانِ اسلام یہ سمجھیں کہ ان لوگوں کو ذرا بھی پروا نہیں ہوئی اور نہ اپنے مطالب سے ہٹے۔

ہم ہر روز اپنے مقصد یعنی آزادیِ بند اور دیگر مذہبی مقاصد کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ الحمد للہ! ملک اور قوم کے قدم نہایت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خداوندِ کریم مددگار ہے۔ ہم ضعیف ہیں مگر انشاء اللہ بتیک کہہ کر کھڑے ہوں گے اور گورنمنٹ کے موجودہ طریقہ اور جماعت کو باہم مبتلا کر کے ڈھائی گھڑی کی لگا دیں گے۔ بعون اللہ تعالیٰ۔

پہڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں
جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں

بھائیو! گھبراؤ نہیں۔ مایوس مت ہو۔ ایک خدا پر بھروسہ رکھو۔ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کوشش کیے جاؤ۔ کامیابی دیکھو گے۔ اللہ

اس پیغام کو سرسری نظر سے پڑھ کر نہ گذر جائیے بلکہ چند اہم پہلوؤں پر غور فرماتے چلیے۔ عدم تشدد، ترک موالات اور سودیشی اشیاء کے استعمال اور جہادِ آزادی میں شرکت کی دعوت صرف اس لیے ہی نہیں ہے کہ ہندوستان آزاد ہو جائے اور جلیانوالہ باغ کے حادثے کی تلافی ہو بلکہ اس لیے بھی ہے کہ خلافتِ آزاد ہو، جزیرۃ العرب آزاد ہو اور عالمِ اسلامی کو طاقت حاصل ہو۔ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ چاہے کتنے ہی کمزور ہو کیسی ہی بے سروسامانی ہو مگر حوصلہ نہ ہارو اور دشمن کو قلیل یا کثیر جتنا بھی نقصان پُر امن طریقے سے (یہ پُر امن طریقے کی بات بھی دھیان میں رہے) ممکن ہو پہنچایا جائے اور آخری

بات اور سب سے اہم بات شریعت پر پابندی، اللہ پر بھروسہ اور رب العزت کے سامنے سرخروئی کی تمنا ہے کہ جب حاضری کا وقت آئے تو سرخرو ہو کر حاضری نصیب ہو۔
 آخر یکم نومبر ۱۹۲۱ء کو مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا گیا اور اگرچہ بغاوت کے جرم سے بڑی قرار دیا گیا مگر زیر دفعہ ۵۰۵ اور دفعہ ۱۰۹ سب حضرات کو دو دو سال قید با مشقت کی سزا دی گئی۔ زندگی مالٹا میں بھی تختہ دار تک پہنچ کر لوٹ آئی تھی اور یہاں بھی پھانسی کا پھندا لگنے کے پاس سے ہو کر گذر گیا۔

سزا کے بعد شروع میں تو حضرت کراچی ہی جیل میں رہے بعد میں احمد آباد کے قریب سا برتی جیل میں منتقل کر دیے گئے۔ وہاں آپ کے محبوب مشاغل اشغال روحانیہ ذکر و وظائف، ساوک و معرفت تو تھے ہی، ایک بڑا کام قرآن پاک کے حفظ میں جو کمزوری رہ گئی ہوگی اس کو پختہ کرنا بھی تھا۔ جیل کے کچھ ساتھیوں کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بھی تعلیم فرماتے رہے اور اسی ضمن میں مولانا محمد علی مرحوم کو جب تک ساتھ رہے، ترجمہ و تفسیر پڑھاتے رہے۔

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا کی جیل کی زندگی پر ایک صاحب بصیرت اور عارف باللہ کی گفتگو بھی سنتے چلیں۔ یوں تو قیدیوں کی اس جماعت میں کبھی مخصوصین اور مقررین تھے مگر حضرت پیر غلام مجدد صاحب سندھی خاص طور پر بڑے صاحب نسبت اور برگزیدہ بندے تھے۔ ہمہ وقت ذکر و شغل خاص طور پر تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتے تھے۔ گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق ان کے سولہ لاکھ فریڈ درج رجسٹر تھے۔ ہو سکتا ہے کہ واقعہ میں کچھ زیادہ ہی رہے ہوں۔ ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ کے ایک مخصوص خادم حاجی احمد حسین صاحب لاہر پور ضلع یتا پور کے باشندے اور خاصے کھاتے پیٹے آدمی تھے۔ کراچی کی سزا کٹنے کے بعد ۱۹۲۳ء میں دہلی میں آل انڈیا کانگریس اور مرکزی خلافت کمیٹی کے اجلاس ہوئے تھے اور یہ سب حضرات دہلی میں تشریف فرما تھے۔ حاجی صاحب مذکور نے حضرت کی خدمت میں بیعت کی درخواست پیش کی، حضرت ابھی تک مشکل ہی سے کسی کو بیعت کرتے تھے

اس لیے آپ نے حاجی صاحب کو پیر غلام مجدد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ یہ پہنچے تو آپ تلامذت کر رہے تھے۔ کلام پاک بند کر کے آنے کا سبب پوچھا اور فرمایا "مولانا حسین احمد یہاں پر موجود ہیں اور تم مجھ سے بیعت ہونے آئے ہو۔ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے میں بجلت کہتا ہوں کہ جیل میں نے جو حالات حضرت مدنی کے بچشم خود دیکھے ہیں ان کی بنا پر میری رائے ہے کہ اس وقت روئے زمین پر بزرگی اور اتباع شریعت کے اعتبار سے مولانا مدنی کا ثانی نہیں ہے۔"

صبر و شکر اور راضی برضائے الہی رہنے کی صفات تو ایسی بیش بہا خصلتیں ہیں کہ عام حالات اور روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر نصیب ہو جائیں تو قطرہ کو موتی، پتھر کو ہیرا اور انسان کو فرشتہ بنا دیں۔۔۔۔۔ جیل اور قید و بند کی زندگی میں جن کو یہ گرانمایہ نعمتیں نصیب ہوں ان کے علو و مرتبت اور درجات عالیہ کا کیا پوچھنا ہے۔ بہہ شام تو اُن بلند مقامات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاہم الفاظ و بیان سے ایک ظاہری نقشہ ضرور سامنے آجاتا ہے۔ صبر و شکر کا یہ مقام انبیاء و رسل ہی کو نہیں کبھی کبھی ان کے نائبین کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔

"خدا کے فضل سے مجھ کو یہاں اور نہ کراچی میں کوئی خاص تکلیف ہوئی اور نہ ہے۔ میں بلا تکلف واقعی طور پر عرض کرتا ہوں کہ مجھ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ سوائے اپنے اکابر و احباب کی دُوری کے۔ سو وہ بھی عارضی ہے جس کو الکتابۃ نصف الملاقات دور کر دیتی ہے۔ مجھ کو بفضلہ تعالیٰ جو اطمینان و سکون یہاں حاصل ہے وہ عقلی مرتبہ میں مجھ کو مجبور کرتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کی دعا تک بھی نہ کروں، خواہش اور کوشش تو دوسری بات ہے۔"

نالہ از بہر رہائی نیکند مرغ اسیر
خورد افسوس زمانے کہ گرفتار نہ بود

ہاں رضا بالقضا ضروری امر ہے۔ میں خدا کا ہزار ہزار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس قید

میں مجھ کو ظاہری اور باطنی بہت سے انعامات سے نوازا اور اگر میں بد نصیب بنا لائق اور کاہل نہ ہوتا تو اب تک بہت کچھ الطاف الہیہ سے فیضیاب ہو چکا ہوتا مگر اپنی بد قسمتی کا گلہ کس سے اور کیا کروں؟ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ قید رحمت ہی رحمت ہے اور پھر اگر خداوند کریم قبول فرمائے اور اخلاص ہو تو ہر لمحہ آخرت کے لیے توشہ ہے۔

خاکیاں بے بہرہ انداز جرعہ کا س الکرام
 ایں تطاول ہیں کہ از عشاق مسکین کردہ اند

فللہ الحمد والمنة، المحاصل ہر طرح انضال الہی شامل ہے۔ اپنے ہردو بزرگوں مرشد ناد مولانا حضرت گنگوہی اور مولینا دیوبندی قدس اللہ سرہما کے الطاف کو خاص طور پر مبذول پاتا ہوں پھر کیا غم ہے اگرچہ ایسی قیدیں ساہا سال کے لیے ہوں۔ خداوند کریم اپنی رضا اور اپنے پیاروں کی رضا عطا فرمائے۔

اذا صم منه الود فالكل هين

وكل الذی فوق التراب تراب

(اگر اس کا عشق نصیب ہو جائے تو ہر مشکل آسان ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب مٹی ہی مٹی ہے)

اپنیوں سے دوری، اہل و عیال سے مجبوری، اعزہ و احباب کی فرقت، آزادی سے محرومی، قید و بند کے مصائب ایک محبوب کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے بڑا اشت تھے اور محض برداشت ہی نہیں سر آنکھوں پر تھے، تمنا صرف اتنی تھی کہ کسی طرح وہ اپنی رضا سے اور اپنے پیاروں کی رضا سے نواز دے، جان چاہے رہے یا جائے۔

اے دل تمام نفع ہے سو دے عشق میں

اک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں

یہ معمولی قید اور محض قید نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ با مشقت کی سزا بھی لگی ہوئی تھی۔

ہر چند کہ جیل کے افسران اخلاق عالیہ اور صفات حسنہ کے پیش نظر ممکنہ رعایت و مروت روا رکھتے تھے مگر بنیادی اور اصولی طور پر دوسرے اور معمولی درجے کے قیدیوں کی طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گھنٹوں مشقت کی ڈیوٹی دینا پڑتی تھی۔ صبر و شکر کی تفصیل پڑھتے وقت یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے تو عزیمت و شہامت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، اس مشقت کی تفصیل بھی دیکھ لینی چاہیے تاکہ جیل کی زندگی کا صحیح نقشہ سامنے آجائے۔

”اگرچہ حکام بالا کی ماتحت حکام کو سخت تاکید ہے اور ہوتی رہتی ہے کہ ان پولیٹیکل قیدیوں کے ساتھ معمولی قیدیوں کا معاملہ کیا جائے کسی قسم کا کوئی امتیاز نہ ہو اور سب بڑا یہ لوگ معمولی قیدیوں سے بالکل علیحدہ رکھے جائیں، ان سے میل جول گفت و شنید کی نوبت نہ آنے پائے، یہ لوگ آپس میں نہ ملیں، خوراک پوشاک وغیرہ وہی ہوں مگر تاہم حسب گنجائش قانون ہمارے ساتھ بعض بعض مراعات برتی جاتی ہیں۔ پرنٹنڈنٹ ان دنوں اگرچہ یورپین ہے مگر نسبت سابق پرنٹنڈنٹ اور دیگر حکام کے اس میں آدمیت اور محفولیت زیادہ ہے۔ اس کو فی نفسہ قیدیوں کے ساتھ عموماً بہتر روی ہے۔ ان کے خورد و نوش پوشاک وغیرہ کا بہت لحاظ رکھتا ہے۔ اگرچہ یہاں عام قیدیوں کو گیہوں کی روٹی بلا نذر نہیں دی جاتی مگر پولیٹیکل قیدیوں کو دنوں وقت گیہوں کی روٹی ملتی ہے ان روٹیوں میں ریت یا کنکر یاں وغیرہ نہیں ہوتیں۔ دال (جو کہ روزانہ ایک وقت) اور ترکاری (جو کہ دوسرے وقت) ملتی ہے، ایک درجہ تک اچھی ہوتی ہے۔ دال ہر روز بدلی جاتی ہے۔ ہفتہ میں ایک قسم کی دال ایک روز ملتی ہے۔ بعض بعض قیدیوں کو دو دو بھی ملتا ہے چنانچہ مجھ کو روزانہ ایک یاؤنڈ دودھ ملتا ہے۔ مشقت ہم لوگوں کی بہت سہل کام کی ابتداء سے ہے۔ پہلے تو پانچ چھ گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا مگر اب تو دو ڈھائی گھنٹہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اؤن کے تاروں کا گولہ بنانا پڑتا ہے۔ پہلے سوت کے تاروں کو جرح پر دوہرا کرنا ہوتا تھا“

مختصر یہ کہ اس دوسری اسارت کے یہ دو سال بھی عبادت ریاضت اور اپنے

مولانا کی رضا جوئی میں خرچ ہو کر ۱۹۲۳ء میں ختم ہوئے۔ اس موقع پر عوام و خواص بلکہ پورے ملک کی خوشی کا اندازہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ جیسے سردھڑ کی بازی گرفتاری کے وقت لگاؤ تھی ویسا ہی شاہانہ استقبال بھی کرنا چاہتے تھے۔ جلسہ و جلوس کی تیاریاں دنوں اور ہفتوں سے نہیں بلکہ مہینوں سے ہو رہی تھیں۔ دہلی میں مولانا محمد علی کا استقبال تو اس شان سے ہوا کہ مثال قائم ہو گئی۔ ان کی سواری عوام نے اپنے ہاتھوں اور کانڈھوں پر تمام شہر میں گشت کرائی۔ کہتے ہیں کہ اس شان کا استقبال اور جلوس دہلی کی آنکھوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا مگر حضرت رحمۃ اللہ کو تو نام و نمود اور شہرت و ظاہر داری سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ قید کی رہائی پر جلسہ و جلوس تو کیا نکلنے کسی اپنے پر اے، دوست دشمن یا چھوٹے بڑے کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ جیل کے چھانگ سے نکل کر یہی اسٹیشن پہنچے اور تھوڑے کلاس کانسٹبل کے کر دیو بند کے لیے سوار ہو گئے تھوڑے کلاس کانسٹبل وہ بھی ایسے موقع پر عجیب سا معلوم ہوتا ہے مگر جب تک بیماری پیری اور ضعف نے بالکل معذور و مجبور نہیں کر دیا۔ اس وقت تک حضرت کے سارے ہی اسفار چاہے قریب کے ہوں یا دور کے ہمیشہ عوامی درجے ہی میں ہوتے رہے۔ یہ راقم اسطور کا ذاتی مشاہدہ تو ہے ہی، ایک اور ڈگوا ہی بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

” ۱۹۲۰ء میں سیوہارہ میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا تھا۔ میں اس کا ناظم تھا۔ ہندوستان کے شہور ہندو مسلمان لیڈروں اور علمائے اس میں شرکت کی تھی مین نے سکند کلاس کا کرایہ اور ایک خادم کا کرایہ اور کچھ زائد خرچ بذریعہ منی آرڈر تمام مدعوین کو روانہ کر دیا تھا (یہ خیال رہے کہ ۱۹۲۰ء کا سکند کلاس آج ۱۹۸۷ء کے فرسٹ ایر کنڈیشنڈ کے برابر ٹو ضرور تھا اور اس میں زیادہ تر متوسط درجہ کے انگریز حکام اور افسران ہی سفر کرتے تھے۔ اونچے درجے کے ہندوستانی اس وقت تک صرف انٹر کلاس میں چلتے تھے یہ درجہ اب ختم ہو چکا ہے) مولانا (مدنی مرحوم) اس زمانے میں کلکتہ میں مقیم تھے، ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا اور حساب بالامنی آرڈر بھیج دیا گیا تھا۔ کلکتہ سے سیوہارہ تک میل ٹرین میں چھبیس گھنٹہ کا سفر ہے۔ مولانا نفس نفیس تشریف لائے۔ کوئی خادم وغیرہ ساتھ نہ تھا، کیمپ آتے ہی

سب سے پہلے حضرت نے دریافت کیا کہ ناظم صاحب دفتر کہاں ہیں۔ دفتر میں میرے پاس آئے اور سلام و مصافحہ کے بعد میرے پر ایک پرچہ اور کچھ روپے رکھ کر قیام گاہ کو تشریف لے گئے۔ پرچہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ مولینا نے (انٹراٹویل) سفر تھریڈ کلاس میں کیا ہے اور ناشتہ وغیرہ میں صرف سات آنے خرچ کیے ہیں۔

آخر اس طرح سفر پورا کر کے ٹرین رات کو دو بجے دیوبند اسٹیشن پہنچی اور دو سال پہلے جس طرح رات کی تاریکی میں بالکل خاموشی کے ساتھ اس آستانہ سے رخصت ہوئے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں چپ چاپ تے حاضر ہو گئے۔ نہ جاتے ہوئے کسی نے دیکھا تھا نہ آتے ہوئے کسی نے جانا۔ کچھ مخلصین نے اس طرح خاموشی سے آمد پر شکوہ کیا اور جلسہ و جلوس کی اجازت چاہی۔ لوگ خوش تھے کہ قید سے رہائی ملی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو صدمہ تھا کہ اس دو سال کے عرصے میں غلامی کی زنجیریں اور مضبوط ہو گئیں۔ جلسہ و جلوس کے سوال پر فرمایا :

”کیسا جلوس؟ کیا ہم نے برطانیہ کو شکست دے دی ہے؟ مجھے اپنی رہائی کی کوئی خوشی نہیں ہے بلکہ رنج اس بات کا ہے کہ برطانیہ جیتا اور ہم ہارے ہیں۔ کہیں شکست خوردہ لوگ بھی جلوس و جلسہ کرتے ہیں۔“

اس طرح ہندوستان کے ان تمام مقامات پر اوس بڑگئی جہاں رہائی کی خوشی میں اجتماعات اور جلسہ و جلوس کی تیاریاں تھیں۔ یہ واقعہ حضرت کی غیرت، احساس، خلوص اور بے نفسی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ حضرت جب جیل گئے تھے تو جدوجہد آزادی کا آفتاب نصف النہار پر تھا۔ پورا ملک نشہ آزادی میں چور چور ہوا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد کی اسپرٹ ملک کے رگ و ریشے میں خون بن کر دوڑ رہی تھی۔ خلافت کمیٹی زندہ و تابندہ تھی مگر جب رہا ہوئے تو ماحول بدل چکا تھا۔ تحریک خلافت دم توڑ رہی تھی، ملت اسلامیہ کو انہدام خلافت کا شدید دھکا لگ چکا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد کا خواب

۱۔ مقالہ از مولینا ظہور الحسن صاحب ناظم سید باری بحوالہ الجمعۃ شیخ الاسلام نمبر، ص ۲۸۲۔

۲۔ (ماہنامہ) الرشید ساہیوال پاکستان مدنی و اقبال نمبر، ص ۱۲۸۔

پارہ پارہ ہو چکا تھا۔ جہاں جہاں شہمی ٹکٹن اور مقابلے میں بعض مسلم جماعتوں نے تبلیغ و تنظیم کے کام کا آغاز کر دیا تھا حکومت برطانیہ کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں برگ و بار لانے لگیں تھیں۔ ان تفصیلات کا تو نہ ان صفحات میں موقع ہے اور نہ یہ بیان اس جگہ مطلوب ہے۔ یہاں تو اتنا تذکرہ کرنا ہے کہ ایسے مایوس کن ماحول اور مشکل حالات میں حضرت کے عزم و استقلال اور بہت و حوصلوں میں ذرہ برابر بھی تو کمزوری نہیں آئی۔ آپ نے ملک کے دور دراز بہت سے مقامات کا دورہ فرمایا، عوام سے اور پبلک سے ملاقاتیں کیں اور ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو بیدار کرنے میں اپنی پوری قوت خرچ کر دی۔ ان سارے اسفار اور تقریروں کا ملنا بھی دشوار ہے اور تذکرہ بھی مشکل ہے مگر اس وقت کی سیاست اور حضرت کی جدوجہد کا کسی قدر حال اس خطبہ صدارت سے معلوم ہو گا جو ۱۹۲۳ء میں جمعیتہ علماء ہند کے اجلاس بمقام کوکناڈا دیا گیا۔ مصلحت بینی، عاقبت کوشی اور بد اہنت کا تو حضرت کی زندگی میں گذر ہی کہاں تھا۔ مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی ابھی جیل سے رہا ہوئے تھے، گورنمنٹ کی پالیسی اور عدالتوں کی بے انصافی پوری طرح پیش نظر تھی۔ پھر بھی للکار میں کچھ کمزوری اور آواز میں کوئی بھی تو نرمی نہیں آئی۔ اسی قدر زور شور کے ساتھ بلکہ کہیں زیادہ فیصلہ کن انداز میں حکومت کو پکارا اور قوم کو ابھارا۔

”برطانیہ کی ناپاک پالیسی ہندوستانی فوجوں سے اپنی اغراض کے لیے مسلمان قوموں اور ان کے دار و دیار، مال و منال اور عزت و آبرو پر ہاتھ اٹھواتی ہے، ان کو قتل کرواتی ہے، ان کو ہر طرح پامال کراتی ہے۔ اگر کوئی فوجی اس امر کو حلال کرے گا — تو وہ حسب احکام شرعیہ کافر ہو جائے گا۔ شرعی حیثیت سے گورنمنٹ برطانیہ اور کفار کی کسی قسم کی اعانت مسلمانوں پر حرام ہے اور حلال سمجھنے والوں کا ایمان خطرہ میں ہو جاتا ہے۔ اس سے نجات فقط ہندوستان کی مستقل آزادی میں ہو سکتی ہے۔“

قرآن پاک کے بموجب ضروری اور فرض ہے کہ مذکورہ پالیسی کی بنیاد پر اس

گورنمنٹ سے مقابلہ کیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے اس کی قوت کو فنا کیا جائے۔ اس کے عزم و ارادوں کو گھٹن لگا کر کھوکھلا کر دیا جائے۔ چونکہ گورنمنٹ برطانیہ کے جملہ لاف و گزاف نخوت و سطوت تعاطیم و تکبر اور قوت و دبدبہ کا بڑا مدار ہندوستان کے غلام رکھنے پر ہے اس لیے جبر و نخوت کے اس سبب کو توڑ دینا ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے اور یہی اعلیٰ درجے کی جنگ اس گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی۔ یہی بات اس کے گھٹنے ٹکا دے گی۔ ہندوستان کی مکمل آزادی اور سوراخ انگلستان کی موت کے مرادف ہے۔ اس لیے سب سے بڑا اہم اور ضروری فرض یہ ہے کہ ہم پورے عزم و استقلال کے ساتھ اس ناپاک پالیسی کا مقابلہ کریں۔ خصوصاً جبکہ تمام قانونی کارروائیاں بے سود ہو چکی ہیں۔ نہایت زیادہ لازم ہے کہ گورنمنٹ کو مجبور کرتے ہوئے اس کے پرانے انسانیت سوز زنجس رویہ کو چھوڑ دئیں۔ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا اپنا حقیقی نصب العین سمجھیں اور جب تک مقصد حاصل نہ ہو، نہ خود چین سے بیٹھیں، نہ گورنمنٹ کو چین سے بیٹھنے دیں۔

اس مضمون میں تفصیل بیان کرتے ہوئے آگے چل کر فرماتے ہیں :

”یورپین اقوام عموماً اور برٹش حکومت خصوصاً مشرق کی نہایت سخت دشمن ہیں نہ مشرقیوں کو انسان سمجھتی ہیں اور نہ ان کے لیے انسانی اور ملکی حقوق کا استحقاق مانتی ہیں۔ وہ ان کے نزدیک حیوانات یا اس سے بھی بدتر ہیں۔ ہندوستان جیسے بڑا عظیم پراگلس قوم نے ۱۶۷۰ء کی ابتدا سے تعلق پیدا کیا۔ اور عرصہ دراز تک تجارتی، اشتغالات رکھتے ہوئے رفتہ رفتہ گھٹن کی طرح سیاسیات اور ہندوستان کی زندگی اور اس کی جملہ ضروریات اور محاصل میں مداخلت کی۔ یہاں تک کہ ۱۷۷۵ء سے ملک گیری شروع کر دی اور ۱۸۳۲ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کو ہر حیثیت سے اُدھ موا کر کے باقاعدہ اپنی حکومت کی طرف سے ہندوستان کی حاکم بن گئی اور ۱۸۵۷ء میں برٹش گورنمنٹ کے ایک نہایت زریں اور خوبصورت اعلان کے ساتھ بادشاہت کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم اس

وقت نہ تفصیل واقعات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ اس کا موقع اور ضرورت ہے۔ فقط اتنا دکھلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی اسلام کی بیخ کنی اور مشرقی اقوام کی توہین و تذلیل اور ان کے ضعیف و کمزور بنانے کے لیے وہی وحشی اور غیر مہذب حربے استعمال کیے گئے ہیں جو کسی مدعی تہذیب اور خادم انسانیت قوم و شخص کے لیے جائز نہیں۔ باہم حکام و رعایا اور اسی طرح باہم ہندوستان کی بسنے والی اقوام میں افتراق ڈلوا یا گیا۔ ایک کو دوسرے پر مسلط کر اگر خاں نماں اور قوت و شوکت برباد کرائی گئی۔ اپنی جاہلانہ حکومت اور سطوت جمانی گئی۔ طرح طرح کی بد عہدیاں عمل میں لائی گئیں۔ غیر واقعی سبز باغ دکھلائے گئے۔ ہندوستانیوں کو آپس میں لڑایا گیا۔ ان کی تجارت اور صنعت کو بند کرنے کی طرح طرح کی کوششیں عمل میں لائی گئیں۔

اس خطبے میں آگے چل کر قرآن پاک کی آیہ پیش کی اور اس آیہ سے اتحاد و اتفاق پر دلیل کی۔

”واعدوا لهم وما استطعتم من قوتہ و دشمنانِ اسلام کے لیے تم جس قدر بھی قوت اور
ومن رباط الخیل ترهبون بہ عدو اللہ“ سواریاں گھوڑوں وغیرہ کی ہو سکے تیار کر لو۔ تاکہ
وعدوکم اس کے ذریعہ تم خدا کے اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے
رہو۔ (انفال)

یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ مسلمانان ہند کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ کیوں کہ وہ قوت جس کے ذریعہ ہم دشمن کو ڈرا سکتے ہیں اور اس کے پتھر پلے دل و دماغ کو پگھلا سکتے ہیں۔ وہ اہل ہند کے لیے ظاہری حیثیت سے اتحاد ہند و مسلم اور صرف اتحاد ہند و مسلم ہے۔ اس لیے یہ اتحاد مذہبی حیثیت سے جائز نہیں بلکہ ضروری بھی ہو گا۔

پورا خطبہ بارہ صفحات پر مشتمل تھا۔ جس میں ہندوستان کے حالات، انگریزوں کی پالیسی اور ملک کی حالت زار کا بہت تفصیل سے نقشہ کھینچا گیا تھا۔ مگر پورے خطبے کی اسپرٹ یہی تھی جو اوپر کے اقتباس میں آگئی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی

کے لیے مسلمانوں نے کیسی جرأت اور بے جگرگی سے قاتل کی تلواروں کو چوم چوم لیا ہے اور پھانسی کے پھندوں کو گلے لگا لیا ہے۔ ایک بورنیشن درویش ایک نئے سرور سامان فقیر اور نہتا اور تنہا سپاہی حکومت برطانیہ جیسی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں اعلان کر رہا ہے کہ برطانیہ کی اعانت اور موالات مسلمانوں کے لیے شرعاً حرام ہے۔ اس موالات اور اعانت میں کوئی شرط نہیں ہے۔ چاہے جیسی بھی ہو اگر اعانت ہے تو حرام ہے۔ اور پھر اس حرام سے کوئی مستثنیٰ بھی نہیں ہے۔ کہیں کوئی نرمی یا رورعایت نہیں ہے کوئی مولوی ہو مولینا ہو تعلقہ دار ہو نواب ہو لیڈر ہو ماہر تعلیم یا کالجوں اور یونیورسٹیوں کا فائونڈر ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہر چھوٹے بڑے پر یکساں لاگو ہوگا جو بھی اس کو حلال سمجھے گا وہ قابل مواخذہ ہوگا۔

دو جہلوں میں یہ تاریخ بھی یاد دلادی کہ انگریز فلاں فلاں سنہ میں آئے تھے، اور فلاں فلاں سنہ میں ملک کے بادشاہ بن بیٹھے۔ اور کس کس طرح مسلمانوں اور ہندوستانیوں پر مظالم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی علاج بھی بتلایا کہ علامی اور ذلت سے نجات پانے کے لیے ہندو مسلم اتحاد ضروری ہی نہیں بلکہ فرض بھی ہے۔ یہ زمانہ وہی ہے جب شہمی سنگھٹن کی تحریک شروع ہو گئی تھی۔ ہندو مسلم اتحاد کمزور پڑ رہا تھا۔ چوراچوری کے مقام پر ہندوستانیوں نے جوش میں آکر حکومت کے پابھیوں کو قتل کر لیا تھا تو گاندھی جی نے تحریک واپس لے لی تھی اور عوام کی بڑی دل شکنی ہو رہی تھی۔ ایسے نازک وقت میں حریت اور جاں بازی کا علم بلند رکھنا کون بتائے کہ کتنا بڑا اور عظیم کارنامہ تھا۔ زمانہ آفتاب پر چاہے کتنی دھول اڑالے مگر قدرت کا مسلمہ اصول ہے کہ وقت آتا ہے جب سونا دمک کر اور میرا چمک کر ہی رہتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ چاہے بھی تو مسلمانوں کے ان سنہرے کارناموں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔

تاریخ جنوں یہ ہے کہ ہر دورِ خرد میں !

مٹی کو لہو دے کے چین ہم نے بنایا

دارالحدیث سلہٹ کے شیخ الحدیث

۱۹۲۳ء تا ۱۹۲۸ء

حضرت کی گھر گریہستی رہنے پہنے اور معاش و معیشت کا اصل انتظام اور اہتمام تو جب کبھی تھا اور جیسا بھی تھا، مدینے ہی میں تھا۔ ہندوستان میں تو جو وقت گزر رہا تھا، مسافت ہی کا تھا۔ اس پر دو سال تک قید اور جیل میں مجبوس رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو دو چار تنگے جمع کیے ہوں گے وہ بھی درہم برہم ہو گئے۔ کلکتہ کی ملازمت بھی گئی اور معاش کا ظاہری بہانہ بھی ختم ہوا۔ غیر مسلم کارکنان آزادی کے لیے جیل جانا اس اعتبار سے زیادہ مشکل نہ تھا کہ زمانہ جیل میں قوم اور اس کے افراد و جماعتیں ان کے بال بچوں کو پھولوں کی بیج پر رکھتے تھے اور رہائی کے بعد ان کو ہر قسم کی آسانیاں اور بے فکریاں ہتیا کرتے تھے۔ مسلمان درگرس اور قائدین جیل جاتے تھے تو ان کا گھر بار ٹٹ جاتا تھا اور پھوٹتے تھے تو خاندان کا شیرازہ بکھر چکا ہوتا تھا۔ مختصر یہ کہ جیل سے رہائی کے بعد بڑا مسئلہ حضرت کے سامنے معاش اور روزگار کا تھا۔ مگر مگر میاں اور جدوجہد تو ساری، قومی کاموں کے لیے وقف تھیں، ملازمت ملتی تو کیسے اور کہاں ملتی؟ پھر یہ کہ ہر قسم کی ملازمت بھی قابل قبول نہ تھی۔ جو ملازمتیں اس زمانے میں معمولی معمولی آدمیوں کو بڑائی اور شان تک پہنچا دیتی تھیں، نام آوری اور شہرت دلا دیتی تھیں اور مادی اعتبار سے زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی تھیں، ان کو تو حضرت حرام اور خارج از ایمان قرار دیتے تھے، اس قسم کی بعض پیش کش ہوئیں بھی جن کے بارے میں بہت سی روایتیں سننے میں آتی ہیں۔ ایک واقعہ تو حضرت ہی کی زبانی بیان کیا جاتا ہے۔

”جب میں کراچی جیل سے چھوٹ کر آیا تو بنگال کونسل کے ایک ممبر نے مجھ سے کہا کہ چالیس ہزار روپیہ نقد اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں پانچ سو روپیہ ماہوار کی پروفیسری آپ کے لیے ہے، اس کو منظور فرمائیں۔ میں نے کہا، کام کیا کرنا ہوگا؟ ممبر صاحب نے کہا

کچھ نہیں صرف تحریکات میں خاموش رہیں۔ میں نے کہا حضرت شیخ الحدیث جس راستے پر مجھے لگا گئے ہیں میں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔

راقم الحروف نے ڈھا کہ یونیورسٹی کی پیش کش کا تذکرہ کہیں اور بھی سنا تھا مگر چالیس ہزار روپیہ نقد اور وہ بھی اُس زمانے میں جب چالیس ہزار روپے آج کے دس بارہ لاکھ کے برابر ہوتے تھے اور تحریکات میں خاموشی کی ایسی صاف صاف شرط اور وہ بھی کونسل کے ایک ذمہ دار کی زبان سے؟ یہ واقعہ کہیں اور سننے میں نہیں آیا۔ یہ بات حضرت کے مزاج کے بھی خلاف تھی کہ اپنے بارے میں کوئی ایسا واقعہ بیان فرماتے جس میں تفوق اور تعالیٰ کا پہلو نکلتا ہو مگر پھر بھی ایسی پیش کش اُس زمانے کے لحاظ سے بالکل قرین قیاس ہے۔ سرسید کی تحریک سے لے کر انگریزوں کے زمانے کی انتہا تک ایسے ہزاروں مولوی مولینا علما، فضلا، مرشدین و واعظین مدرسین و مصنفین تھے جن کو حکومت برطانیہ نے یونیورسٹیوں، ریاستوں، وظيفوں، خطابوں علی گڑھ، حیدرآباد، انعامات اور ممبریوں کے ناموں سے خرید کر بالکل خاموش اور ساکت و جامد کر دیا تھا۔ وَشَرُّوهُ بِثَمِينٍ بِخَسْنٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً حضرت تو اس گروہ کے سردار تھے، راہ حق کی ننگی تلوار تھے اور ۱۸۵۷ء کی جہاد آزادی کے تنہا علم بردار تھے ان کو خاموش کرنے کے لیے تو گورنمنٹ منہ مانگی قیمت ادا کر سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی نظر سے گذری کہ حکومت مصر نے جامعہ ازہر کے شیخ الحدیث کی جگہ پیش کی اور معاوضہ میں ایک ہزار روپیہ (جو آج ۱۹۸۷ء میں ۲۵-۳۰ ہزار کے برابر تو ہو ہی گا) اعلیٰ درجہ کا مکان اور سواری کے لیے موٹر اور ہر سال مصر سے ہندوستان تک آمد و رفت کا کرایہ ملے کیا تھا۔

راقم الحروف نے ایسی بھی کسی پیش کش کا تذکرہ کسی اور ذریعے سے نہیں سنا تاہم مستبعد یہ بھی ہرگز نہیں ہے۔ مصر میں بھی اس زمانے میں حکومت اسی برطانوی سامراج

کی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں حضرت کی مقبولیت و محبوبیت کے تذکرے بچے گذر ہی چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بیشتر عرب ممالک میں اکثر باختیار اور صاحب عزت و منصب افسران و کارکنان حضرت کے تلامذہ و شاگرد تھے۔ عرب ممالک میں آج بھی ہندوستان کے معمولی درجے کے علماء و فضلا ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پیش کش ضرور ہونی چاہیگی اور حضرت نے بیک جنبش ابر و اس کو مسترد بھی کیا ہو گا مگر ان کی زندگی میں یہ واقعہ اس درجہ کا مستحق اور اہم نہ تھا کہ جس کا تذکرہ کبھی کیا جاتا یا سامنے آتا۔ بہر حال اس باب کا ایک واقعہ تو بالکل مستند اور محقق ہے۔ قاضی ظہور احسن صاحب سیوہادی حضرت کے شاگرد، مرید اور مستفید نہیں تھے۔ فقط علم و فضل کے معترف اور دیانت و تقویٰ کے معتقد تھے۔ اُس زمانے کے حیدرآباد اور وہاں کے بااثر طبقے میں ان کے کچھ تعلقات تھے۔ حضرت پر وہ وقت تنگی ترشی کا تو تھا ہی مزید یہ کہ قرض کا بوجھ سرسبز گراں ہو رہا تھا۔ قاضی صاحب مذکور نے کوشش کی کہ نظام حیدرآباد سے کچھ وظیفہ ہو جائے۔ یہ واقعہ انہی کی زبانی بہتر ہے۔

”ایک مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ مولانا (حضرت رحمۃ اللہ علیہ) کچھ مقروض ہیں۔ میں نے حیدرآباد دکن میں نواب فخریہ جنگ معتمد محکمہ فنانس اور چند باختیار حکام سے ذکر کیا۔ اور یہ طے پایا کہ مولانا کو یہاں بلایا جائے۔ اور سرالکبر حیدری وغیرہ ذرا سے ملایا جائے اور پھر اسی طرح تحریک کر کے ہزار پانچ سو روپیہ مدخیرات و برات سے دلویا جائے (ہزار پانچ سو کو ایک مرتبہ پچھ چالیس ورنہ پچاس سے ضرب دے کر پڑھے گا) میں نے مولانا کو لکھا حضرت نے تحریر فرمایا کہ مجھے اس ذلت کے ساتھ ایسی رقم کا لینا منظور نہیں ہے۔“ خیال رہے کہ حیدرآباد اُس زمانے میں وہ دروازہ تھا جس پر وقت کے بڑے بڑے اور ناک والے علماء، مصنفین، ادباء و محققین، شعراء و مقررین کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ خود دیوبند کے متعدد علماء و صلحاء مولانا حافظ احمد صاحب ابن مولانا محمد قاسم صاحب، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، مولانا اعزاز علی صاحب وغیرہ

رحمہ اللہ اس قدر افزائی سے مستفیدین کی فہرست میں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پیش کش بھی حکومتِ وقت کے اشارے ہی سے ہوئی ہو۔ ایک مرتبہ راستہ کھل جاتا تو کسی کسی شاہینِ راحتیں اور آسائشیں ملتی رہتیں۔ یہ اس وقت کے وظیفہ خواروں کے رہن بہن سے خوب اُخوب نمایاں تھا مگر حضرت کے توکل علی اللہ اور قناعت نے اس کا موقع ہی نہ آنے دیا۔

در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے

سب جہاں رکھتے ہیں سر، ہم ان قدم رکھتے نہیں

خیر! یہ تو پیش کشیں تھیں جو روکی جاتی رہیں۔ مگر اسی دوران صوبہ آسام کے ضلع سلہٹ کے معتقدین اور مخلصین نے اصرار شروع کیا کہ وہاں درس حدیث کا آغاز کیا جائے۔ سلہٹ بلکہ آسام کے اُس سارے ہی علاقے میں خدا ترسی، دین داری اور پابندیِ سنت و شریعت کا ذوق بہت عام ہے۔ سلہٹ پورے آسام کا مرکزی مقام تھا۔ یوں تو حضرت کی شہرت پورے ہندوستان میں عام ہو چکی تھی مگر کلکتہ کے قیام کے دوران یہاں معتقدین اور مداحین کی ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کا اصرار روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ خلافتِ کمیٹی کا کام یہاں بھی کافی زوروں پر رہ چکا تھا۔ بچی کھچی چنگاری اب بھی سُلگ رہی تھی انہی لوگوں کا یہ پروگرام اور اصرار تھا۔ کام بھی خدمتِ حدیث کا اور قومی خدمت گزاروں کا بلکہ یوں کہیے کہ حضرت کے مشن کے عین موافق و مطابق تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ و استعانت کر کے اور اسی کا نام لے کر ۱۹۲۳ء میں سلہٹ رونق افروز ہو گئے۔ وہاں کی ملازمت، خدمات اور کامیوں کی تفصیل حضرت خود ہی بیان کرتے ہیں :

”یہاں پر ایک بڑی جماعت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مدرسہ عالیہ کلکتہ ڈھاکہ سلہٹ وغیرہ سے اعلیٰ اعلیٰ درجہ کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ وہ سبھی دارا اور ذمی استعداد ہیں انہوں نے عربی فنون میں استعداد بڑے درجہ تک حاصل کی ہے۔ بہت سے ان میں انگریزی زبان اور علومِ عصریہ سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اُن طلبہ کی طرح جو اُن اطراف میں جاتے ہیں کُنڈ ذہن، بے سمجھ، کم شوق اور کم محنت

نہیں ہیں۔ یہ لوگ ہندو بنگالیوں کی طرح جوڑ توڑ کے ماہر ہیں۔ ان کو مذہبی جوش اور اسلامی خیال اور بہدردی بڑے پیمانے تک ہے۔ اس جماعت کا مدت سے شوق تھا کہ صحاح ستہ کی تکمیل کسی طرح ہوئی اور اپنے مذہبی فنون میں سے علم حدیث کا لحظہ وافر نصیب ہوتا۔ اس غرض سے ان لوگوں نے اس خاص سلسلہ جنبانی کی صورت اختیار کی اور احقر کے پہنچنے پر متعدد اطراف سے جمع ہو ہو کر پہنچ گئے اور پہنچ رہے ہیں ان اطراف میں مسلمانوں کی آبادی بہت کثرت سے ہے۔ بعض بعض اضلاع میں تو ۹۰ فیصدی مسلمان ہیں اور باقی ہندو۔

جب احقر کا ارادہ اس طرف کا ہو رہا تھا تو دوسری جوانب سے علاوہ سابق مکانات کے طلب اور حاضری کا اشارہ ہوا۔ مولوی ترضیٰ حسن صاحب اور مولوی طاہر صاحب صاحبزادہ حضرت ہتم صاحب نے دیوبند کے قیام اور مدرسہ کے تعلق پر بہت زور دیا۔ اور دہلی میں ڈھونڈو وغیرہ سے بھی زور دیا گیا مگر مختلف وجوہ سے میں نے یہاں ہی کے قیام کو ترجیح دی۔ قصدمم تھا کہ روانگی کے وقت کچھ دیر کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا مگر طغیانی کے باعث چونکہ لائینس ٹوٹ گئی تھیں اس لیے کوئی صورت حاضری کی نہ ہو سکی۔ یہاں سے تقاضے تھے۔ خطوط پر خطوط اور تار پر تار چلے آ رہے تھے، اس لیے مع اہلیہ کے یہاں چلا آیا۔ ان لوگوں نے ایک سو پچاس روپے ماہوار علاوہ مکان اور فرش و لوازمات مکان کے مقرر کیے ہیں۔ میں نے ان سے کوئی تقاضا تنخواہ میں کسی زیادتی کے بارے میں نہیں کیا۔ ممکن تھا کہ اگر میں اصرار کرتا تو اس سے زائد بھی دیتے مگر جو کچھ انہوں نے لکھا اس میں کوئی تغیر کرنا اور دنیاوی طمع کو بڑھانا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے ۱۵ روپے ماہوار پر ایک وسیع مکان جس میں مردانہ و زنانہ حصے علیحدہ علیحدہ ہیں دونوں کی تعمیر اور مکانت بنختہ اور عمدہ ہے۔ صحن وسیع اور درخت تالاب ضروریات وغیرہ سب مکمل ہیں پہلے سے لے رکھا تھا۔ غرض کہ خدا کے فضل سے ظاہری آرام کی ہر قسم کی صورتیں جہتاً ہیں۔ اسباق شروع کر دیے ہیں۔ ۲۱ ربیع الاول کو میں یہاں پہنچا ہوں۔ پہلے

ضروری معلوم ہوا کہ اصول حدیث کی کوئی کتاب پڑھا دی جائے تاکہ اصطلاحات سے ان کو پوری واقفیت ہو جائے چنانچہ گذشتہ جمعہ سے شرح شجرۃ الفکر شروع کرادی ہے جو کہ تقریباً نصف ہو چکی ہے۔ انشاء اللہ العزیز کل سے ترمذی شریف بھی شروع ہو جائے گی۔ تقریباً پانچ گھنٹہ روزانہ پڑھائی ہوگی۔ کچھ وقت قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کے لیے بھی خرچ کرنا ہوگا جس کے لیے اصول تفسیر میں شاہ ولی اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کا رسالہ الفوز البکیر فی علوم التفسیر شجرۃ الفکر کے بعد شروع کرادینے کا ارادہ ہے۔ میں اسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ تحریک میں لیتا رہتا ہوں اور تقریریں کرتا رہتا ہوں۔

بنگال اور خصوصاً آسام کے اس علاقے میں نہروں، تالابوں اور دریاؤں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے۔ بارشوں اور سیلابوں نے تو اس ملک کو خاص طور پر تاک رکھا ہے۔ وہاں کی زندگی بھی مچھلی پانی اور چاول کی زندگی ہے۔ اس زمانے ۱۹۲۳ء میں روٹی یا گیہوں کا اٹا ڈھونڈھے نہیں ملتا تھا۔ ایک مقام سے دوسرے تک تو بڑی بات تھی، ایک محلہ سے دوسرے محلہ جانا ہو تو بعض اوقات ایک دو ندی نالے پانی میں گھس کر یا بانس کے خانہ سازپلوں کے ذریعہ پار کرنے پڑتے تھے۔ وہاں کے باشندے کیا بچے کیا بوڑھے عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں دن میں دو دو تین تین بار پانی میں غوطے لگاتے رہتے تھے۔ حضرت کے مذکورہ گھر میں بھی تالاب موجود تھا۔ ایسے ماحول میں قیام اور تریجج صرف اس بنا پر تھی کہ یہاں کے لوگوں کو پستی طلب تھی اور خدمت دین کا بہتر موقع تھا۔ حضرت نے سلوک و معرفت تزکیہ و تصوف کی خدمات کا آغاز اور ابتدا تو پہلے ہی کر دی تھی، مدینہ طیبہ میں مالٹا سے واپسی پر اور کراچی سے رہائی پر بعض مخصوصین کی بیعت و تربیت کے واقعات موجود ہیں مگر اہل سلط کے والہانہ تعلق ان کی دینی و مذہبی زندگی اور ان میں مریدین و مجاہدین اور خلفاء کی تعداد کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ عمومی اور اجتماعی طور پر اصلاح و تزکیہ کی مکمل خدمت کا کام ہمیں سے شروع ہوا ہوگا۔

بہت بعد میں تو راقم الحروف نے خود بھی مشاہدہ کیا ہے۔ صحیح تو یاد نہیں غالباً ۱۹۴۰ء یا ۱۹۴۱ء رہا ہوگا جب مجھے حضرت کی معیت میں تین چار بار سہٹ جانے کا نادر موقع نصیب ہوا تھا۔ اُس زمانے کی بات مولانا محمد میاں صاحب نے اپنی کتاب حیات شیخ الاسلام میں لکھی ہے کہ اُس ندی، نالوں، بارش پانی یلوں اور کشتیوں کی دنیا میں حضرت میلوں سفر کر کے کبھی کبھی پیدل بھی قطع مسافت کر کے اندھیرے اُجالے دن رات گرمی سردی اور بارش پانی کی پردا کیے بغیر وعظ و تبلیغ اور رشد و ہدایت کی خدمات انجام دیتے تھے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ کوئی اجلہ اجتماع اور پروگرام ہی ہوتا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ شائقین و مخلصین کے اصرار پر شام کو سفر شروع ہوا، رات کو منزل مقصود پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ بستی صرف ایک ہی گھر پر مشتمل ہے اور حاضرین صرف بیس تیس ہی نفر ہیں، گھر کے چاروں طرف تاحہ نظر تالاب اور اس میں دھان کے کھیت ہیں۔ چنانچہ یہ بھی امکان نہیں کہ کچھ اور لوگ آتے ہوں گے مگر حضرت پوری بشارت، دل جمعی اور انہماک کے ساتھ وعظ فرماتے نصیحت کرتے اور ذکر و شغل کی تلقین فرماتے۔ یہ راقم الحروف کا بھی کئی بار کا مشاہدہ ہے کہ حضرت حدیث رسول، کلام الہی اور اصول دین بیان کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پورے انہماک و اہتمام کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ مجمع دس بیس بیچاس کا ہو یا دس بیس ہزار کا، اثر انگیزی اور دل سوزی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔

غالب و وظیفہ، تو دعا گفتن است و بس

اس موقع پر مزید وضاحت اور استفادہ کے لیے مناسب ہے کہ سہٹ کے قیام کے دوران لکھے گئے کچھ خطوط پر نظر ڈال لی جائے۔

محترم المقام زیدت عنایا حکم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج شریف۔ آپ کا والا نامہ محررہ ۱۲ رمضان المبارک۔ ۲۰ ذیقعدہ کو جب کہ میں تعطیل سے واپس ہوا، ملا۔ نہایت خوشی ہوئی۔ خوف تھا کہ غالباً آپ تاخیر جوابات

کی وجہ سے خفا ہو گئے ہوں گے اس لیے کوئی والا نامہ نہیں بھیجا مگر معلوم ہوا کہ یہ مانع نہ تھا۔

محترم! مضامین ضروریہ بہت ہیں جن کی اشاعت کرنا ضروری ہے۔ نیز ملک میں دورہ کرنا۔ قوم کی تنظیم کرنا۔ ان کو بیدار کرنا نہایت ضروری ہے۔ مگر کیا کیا جائے قحط الرجال ہے۔ قوم سلم ہر طرح کی کمزوری۔ مادی و روحانی، اخلاقی و جسمانی میں مبتلا ہے۔ اگر ملازمت نہ کی جائے تو پیٹ کس طرح پالا جائے۔ اور اگر ملازمت میں وقت صرف کیا جائے تو قومی کام کس طرح ہو۔ غرضیکہ عجب مختصہ ہے۔ خداوند کرم ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ انشاء اللہ حسب ارشاد ایک جوڑا کھدے کے کپڑوں کا ڈاک میں ارسال کرتا ہوں۔

آپ میری زندگی کی داستان پوچھتے ہیں۔ مہربان من! میں ایک معمولی طالب علم ہوں۔ میری حالت معلوم کرنے سے کیا فائدہ؟ لائف ان لوگوں کی دیکھی جاتی ہے جن کو زمانہ نے کوئی خاص وقعت دی ہو۔ ان سے مذہب اور قوم کو کوئی خاص فائدہ حاصل ہوا ہو۔ ہمارے جیسے ہزاروں آئے اور چلے گئے۔

کہ بیا رکس چوں تو پرورد و کشت

نہ شگوفہ ام نہ برگم نہ ثمر نہ سایہ دارم ہمہ حیرتم کہ دہقاں بچہ کار کشت مارا محض امثال حکم کی غرض سے کچھ مختصر عرض کرتا ہوں۔

جہاں تک مجھ کو والدین سے معلوم ہوا ہے۔ نسبی حیثیت سے ہمارے بزرگوں کا تعلق حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ضلع فیض آباد کے پاس موضع الہداد پور میں ہمارے اسلاف میں سے شاہ نور الحق آباد ہوئے اور کفار کے قلعہ کو جس کے نشانات اب تک موجود ہیں فتح کر کے وہیں بود و باش اختیار کی۔ اسلاف اس زمانہ سے لے کر اب تک اسی قلعہ میں مدفون ہوتے رہے۔ یہ قلعہ کوئی بڑی عمارت نہ تھی بہت چھوٹا قلعہ تھا جس کو گڑھی کہا کرتے تھے۔ ہمارے والد مرحوم سید حبیب اللہ شاہ صاحب تحصیل سکوں میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ ۱۲۹۴ھ ہجری میں بمباد

شوال ۲۱ تاریخ شب سہ شنبہ گیارہ بجے میری پیدائش ہوئی۔ لڑکپن کا وہ زمانہ جس کو میں یاد نہیں رکھتا۔ مجھ پر کھیل رہا تھا کہ والد محترم تبدیل ہو کر گھر ہی میں آگئے۔ جب مجھ کو ہوش ہو چکا تو میں نے اپنے آپ کو وطن مالوف موضع الہداد پور ضلع فیض آباد ہی میں پایا۔ چار برس کی عمر میں مجھ کو احاطہ تعلیم میں داخل کر دیا گیا۔ والدہ ماجدہ مرحومہ گھر میں قاعدہ بغدادی اور اس کے بعد پارہٴ عم وغیرہ پڑھاتی تھیں اور اسی وقت سے اردو اسکول میں جس میں والد صاحب میڈیا سٹر تھے اردو کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اس طرح قرآن شریف اور فارسی کی تعلیم گھر میں حاصل کرتا تھا، لکھنا پڑھنا۔ حساب۔ مساحت۔ جغرافیہ۔ تاریخ۔ اقلیدس وغیرہ سکول میں پڑھتا تھا۔

میری عمر کا بارہواں سال تھا جب کہ میں سکول میں پڑھ رہا تھا۔ وہ زمانہ ماہ صفر ۱۳۰۹ھ کا تھا کہ یکایک والد صاحب مرحوم کو خیال ہوا کہ اس کو عربی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند بھیج دینا چاہیے۔ وہاں پہلے سے میرے دو بڑے بھائی تعلیم پارہ تھے۔ الغرض انہوں نے مجھے وہاں بھیج دیا اور میں نے وہاں پر عربی کی ابتدائی کتابیں شروع کیں۔ ۱۱۰۹ھ ہجری سے شعبان ۱۳۱۶ھ ہجری تک میں وہاں ہی مقیم رہا۔ ایام تعطیل میں یا دو سال کے بعد والدین مرحوم کی زیارت کو وطن آجاتا تھا۔ باقی مکمل قیام دارالعلوم دیوبند ہی میں ہوا۔ ساڑھے سترہ برس کی تعلیم میں عربی علوم کی درسی کتابیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں کہ والد صاحب مرحوم کو شوق زیارتِ مدینہ منورہ پیدا ہوا، آبائی زمین کو فروخت کر کے مصارفِ راہِ حرمین شریفین ہمایا گیا۔ اور ارادہ کر لیا کہ شعبان ۱۳۱۶ھ میں روانہ ہو جائیں۔ ہم پانچ بھائی تھے جن میں تین متاہل تھے۔ والدین مرحومین اور ایک بہن اور ایک بھتیجا یہ بارہ آدمیوں کا خاندان یہاں سے روانہ ہوا۔ پلنگ کی وجہ سے بمبئی کی بندرگاہ بند تھی۔ اس لیے فقط چانگام کی اجازت تھی چونکہ ہم اودھ کے رہنے والے تھے۔

اور ہم کو چاٹ گاؤں میں بانتظار آگٹوٹ حاجی ریزرویشن کمیٹی میں تقریباً ایک ماہ رہنا پڑا۔ شوال ۱۳۱۶ھ میں چنانچہ روانہ ہو کر ایک ماہ سے کچھ زائد میں جدہ پہنچا۔

دیوبند سے روانگی سے پہلے حضرت قطب العالم عارف باللہ مولانا رشید احمد صاحب

لے اصل ماخذ میں ”ساڑھے سات“ غالباً سہواً لکھا گیا ہے۔

قدس سر اسرارہم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر طریقہ حقیقیہ - نقشبندیہ - قادریہ - سہروردیہ میں بیعت ہوا مگر مولانا نے کچھ تلقین نہ فرمائی۔ بلکہ ارشاد کیا کہ چونکہ تو مکہ مکرمہ میں جا رہا ہے۔ وہاں حضرت مرشد العالم مولانا اسحاق امداد اللہ صاحب مہاجر مکیؒ (جو کہ مولانا صاحب کے پیر و مرشد تھے) موجود ہیں ان سے تعلیم حاصل کر لینا۔ مولانا نے یہی فرمایا کہ ہجرت کی نیت نہ کرنا۔ تم کو وہاں سے واپس ہونا پڑے تو گنہہ گاری کی نوبت نہ آئے۔ اور اسی قسم کی تاکید حضرت حاجی صاحب موصوف نے مکہ معظمہ میں فرمائی تھی۔ چنانچہ ہم لوگوں میں سے سوائے والد صاحب مرحوم کے کسی نے نیت ہجرت نہیں کی۔ آپ اس سے بخوبی معلوم کر سکیں گے کہ جو لوگ میرے نام پر "مہاجر مدنی" لکھتے اور پڑھتے ہیں وہ غلط لکھتے ہیں۔ میں نے بارہا اس پر تنبیہ کی مگر لوگ نہیں مانتے۔ مکہ معظمہ میں ذیقعدہ کے وسط میں پہنچ کر بعد از طواف وسیعی حضرت مرشد عالم حاجی صاحب موصوف کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا اور پھر ہمیشہ خدمت اقدس میں حاضری کی نوبت آتی رہی۔ نہایت شفقت اور عنایت سے بندہ نوازی فرماتے رہے اور تعلیم سلوک بھی فرمائی۔ اور آخر ذوالحجہ میں ادلے حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کو روانگی ہوئی۔ اور ادلے ۱۳۱۷ھ میں وہاں پہنچ گئے۔ سال بھر کے لیے مکان کرایہ پر کر لیا گیا اور والد صاحب نے جو کچھ نقد بعد مصارف سفر بیچ گیا تھا صاحب حصص شریعت ہم سبھوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ میں تو یہاں رہنے اور یہیں مرنے کی نیت سے آیا ہوں۔

تم لوگوں کو اختیار ہے خواہ یہاں رہو خواہ ہندوستان چلے جاؤ۔ واپسی کے لیے یہ خرچ تمہارے لیے موجود ہے۔ ہم سبھوں نے وہاں کی اقامت کو ترجیح دی۔ وہاں پر ہم نے موجودہ سرمایے سے دوکان کی اور مختلف وجوہ سے ناکام رہے۔ بالآخر میں نے اجرت پر کتابت شروع کی۔ اور درس و تدریس کی بھی بنیاد ڈالی۔ چند ماہ کے بعد مکہ معظمہ میں حضرت مرشد عالم حاجی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی تعلیم کے مقلد سلوک بھی شروع کیا۔ اور عرض داشتیں مولانا گنگوہی قدس اللہ سرہم کی خدمت میں ارسال کرنا رہا۔ ذیقعدہ ۱۳۱۸ھ میں حسب ارشاد مولانا رحمۃ اللہ علیہ

تیکمیل سلوک کی غرض سے بہ ہمراہی بڑے بھائی صاحب ہندوستان روانہ ہوا۔ اور حج سے فارغ ہو کر بادبانی جہازوں کے ذریعہ سے نکلا اور سقطا جوتے ہوئے ماہ ربیع اول ۱۳۱۹ھ میں برادہ کراچی گنگوہ شریف پہنچا اور وہاں سلوک طریقت کرتا رہا۔ حسب اجازت مرشد قدس الشہرہ العزیز کچھ عرصہ قیام کر کے رمضان ۱۳۱۹ھ میں برادہ پور بندر ماہ ذی قعدہ ۱۳۱۹ھ میں مکہ معظمہ پہنچا اور حج سے فارغ ہو کر محرم ۱۳۲۰ھ میں مدینہ منورہ پہنچا۔ وہاں اولیات سال متواتر مقیم رہا۔ علمی مشاغل کے سوا اور کوئی مشغلہ مناسب معلوم نہ ہوا۔ حرم محترم نبویؐ میں علوم عربیہ (حدیث، تفسیر وغیرہ) کی تدریس دیتا رہا۔ ۱۳۲۶ھ میں میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب مرحوم کی یہ رائے ہوئی کہ چونکہ ہماری آمدنی بہت کم ہے اور یہاں کی عورتوں کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے تمھ کو ہندوستان جا کر اپنے رشتہ داروں میں نکاح ثانی کرنا چاہیے۔ حسب ارشاد ماہ ذی قعدہ ۱۳۲۶ھ کی آخری تاریخوں میں وہاں سے روانہ ہو کر حج کرتا ہوا، ۱۳۲۷ھ کے ابتدائی مہینوں میں دیوبند پہنچا۔ اور حضرت شیخ الہند قدس الشہرہ کے یہاں دوبارہ حدیث شریف پڑھنا شروع کیا جس کی مدتوں سے آرزو تھی۔ اسی سال میری شادی بھی ہوئی اور پچھرتین سال دیوبند میں مقیم رہا۔ حدیث شریف کی وہ کتابیں جو کہ مولانا مرحوم کے یہاں ہوتی تھیں ختم کرنے کے بعد مدرسہ میں تدریس حدیث و تفسیر کے لیے ملازم ہو گیا۔ حضرت والد صاحب مرحوم کے تقاضہ کی بنا پر شوال ۱۳۲۹ھ میں مدینہ منورہ کو براہ پورٹ سعید حیفہ۔ حجاز ریلوے کے ذریعہ سے روانہ ہوا۔ اور ذی قعدہ سنہ مذکورہ میں وہاں پہنچا۔ اور دو سال یعنی ۱۳۳۰ھ اور ۱۳۳۱ھ وہاں مقیم رہا۔ (چونکہ یہاں شادی میں شرط یہ تھی کہ دو برس کے بعد اہل و عیال کو ہندوستان ایک مرتبہ لانا ہوگا) ۱۳۳۲ھ ماہ صفر میں برادہ حجاز ریلوے حیفہ اور پورٹ سعید ہوتا ہوا، معہ اہلیہ بیٹی پہنچا۔ اور دیوبند وغیرہ میں چند دن قیام کر کے اسی سال ماہ ذی قعدہ یا شوال میں معہ اہلیہ حجاز روانہ ہو گیا۔ اور ابتدا ۱۳۳۳ھ میں مدینہ منورہ پہنچا۔ رمضان ۱۳۳۲ھ میں جنگ عمومی کا آغاز ہو گیا تھا مگر بڑکی ذوالحجہ ۱۳۳۲ھ میں شامل ہوا۔ مدینہ منورہ میں حسب معمول

مشاغل تدریسیہ میں شامل رہا۔

حضرت اتاذ علامہ مولانا شیخ الہندؒ ۳۳ھ میں بقصد حج و زیارت مکہ معظمہ تشریف لائے اور وہاں سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے اور غریب خانہ پر فرکوش ہوئے اور چند ماہ کے بعد ماہِ جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانیہ سنہ مذکورہ میں مکہ معظمہ میں اور پھر طائف تشریف فرما ہوئے۔ میرا اس سفر میں مولانا مذکورہ کی خدمت میں حاضر رہنا ضروری تھا اس لیے حاضر رہ کر وظیفہ خدمت گزارا ادا کرنا ضروری معلوم ہوا۔ اس سفر کی حالت اور جو کچھ طائف بمکہ معظمہ۔ جدہ۔ مصر۔ مالٹا وغیرہ میں گزرا مفصلاً ”سفر نامہ اسیر مالٹا“ میں مذکور ہے (مدینہ اخبار میں اس کا اشتہار طبع ہوا کرتا ہے اگر یہ رسالہ نظر سے نہ گزرا ہو تو منگوا کر دیکھ لیجیے)۔ مالٹا سے واپسی پر تحریکاتِ حاضرہ میں حصہ لیتے ہوئے کچھ دنوں مدرسہ عربیہ اسلامیہ امروہہ میں بوظیفہ صدر مدرس کی کار تدریس انجام دینا پڑا۔ اور پھر حسب ارشاد حضرت شیخ الہندؒ کلکتہ کے مدرسہ واقعہ ناخدا مسجد میں جو کہ ان دنوں قائم کیا گیا تھا۔ چند دنوں بعد پندرہ نرسپل کام کرتا رہا اور حسبِ شروط ملازمت چند ماہ وہاں کار تدریس سرانجام دے کر پھر تحریک میں سرگرمی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اسی عرصہ میں کراچی کا مقدمہ پیش آیا۔ دو برس کراچی اور ساہیوال جیل میں رہ کر پھر تقریباً ایک سال تحریکِ حاضرہ میں حصہ لیتا رہا مگر ہندو مسلم اختلاف کی وجہ سے کامیابی کی کوئی صورت مفید نہ دیکھ کر سلہٹ میں دو سال کے لیے تدریسِ حدیث کی غرض سے ملازمت اختیار کر لی۔ بظاہر یہاں شعبان تک قیام ضروری ہے۔ آئندہ خدا جانے۔

یہ ہے ایک ناکارہ اور نالائق کی مختصر سی سرگزشت۔ جس سے کوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں۔ اب اپنے سوالات کے جوابات سنئے :

ابن سعود اور اس کی جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنسلی مذہب ہیں۔ مثل شوافع اور احناف کے ہم عقائد میں اسلاف اور ائمہ اہل سنت کے تابع ہیں۔ اور مشروع میں امام احمد بن حنبلؒ کے تابع ہیں۔ وہاں کوئی خاص مذہب نہیں ہے۔ میری نظر سے چند رسالے یہاں گزرے ہیں جن میں بہت سی بحثیں میں نے دیکھی ہیں مگر تمام رسالوں کو

اور ان کے تمام حصوں کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف جو جو باتیں خلاف عقیدہ اہل سنت و الجماعت نسبت کی جاتی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ ہم جملہ امور میں طریق اہل سنت و الجماعت کے پابند ہیں۔ البتہ بعض جزئیات میں ہم مخالفت کرتے ہیں۔ جن کے لیے ہمارے پاس کتاب و سنت اور اقوالِ فقہاء سے دلیلیں موجود ہیں۔ پوری تفصیل ان کے احوال کی وفدِ خلافت اور وفدِ جمعیتہ علماء کی واپسی پر معلوم ہوگی۔ اس لیے ہم کو انتظار کرنا ضروری ہے۔ ہمارے علم میں ابھی تک کوئی بات ایسی نہیں آئی جس کی وجہ سے ابن سعود اور اس کے متبعین کی تکفیر کی جاسکے۔ اور نہ ہم کو کسی طریقہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کے منکر ہیں۔ بلکہ ان کے رسالوں سے اس کا اقرار معلوم ہوتا ہے۔ تکفیر اور لعنت کرنے والا خود کافر اور ملعون ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص مفکر واقع میں مستحق تکفیر و لعن نہ ہو۔ اس لیے اس پر جرات کرنا نہایت بے عقلی کی بات ہے۔ جب تک ابن سعود خلاف شریعت حکم نہیں کرتا اہل عرب کو اس کی اعانت کرنا ضروری ہے۔ اور اگر خلاف شریعت حکم کرے تو ایسے وقت میں کسی کی بھی اطاعت ضروری نہیں۔

سادتھ افریقہ گورنمنٹ کی چیرہ دستیان معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ مگر یہ سب ہندوستان کی غلامی کا خمیازہ ہے جب تک ہندوستان آزاد نہ ہو جائے ہر جگہ ہندوستانی حقارت اور ذلت ہی کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ افسوس کہ ہندو قوم اور اس کے لیڈروں کو ذرا بھی احساس نہیں۔ انھوں نے اپنی دل تنگی اور بے عقلی سے تحریک آزادی ہند میں وہ رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں کہ اب عرصہ تک کے لیے آزادی ہند کا مسئلہ متاخر ہو گیا اور اگر یہی نیل و نہار رہے تو تمام ہندوستان روزانہ برباد ہوتا رہے گا۔ اور کوئی صورت خلاصی کی میسر نہیں ہوگی۔ مسلمانوں نے ہندو قوم کی چیرہ دستیوں اور بے انصافانہ کارروائیوں پر برابر تین برس صبر کیا اور اب بھی کر رہے ہیں۔ مگر اب مجبور ہیں کہ مدافعت کے لیے قدم اٹھائیں اور ترک تہرگی جو اب دیں۔ گورنمنٹ خوشیاں منارہی ہے۔ دونوں فریقوں کو کم و بیش سبیل خانہ او

پھانسی پر لٹکا رہی ہے۔ مگر یہ ناعاقبت اندیش فرقہ وارانہ اختلاف اور غیر مفید جھگڑوں میں روزانہ قدم بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور ارادہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے بالکل ناپید کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا خدا ان کا محافظ ہے۔ دشمن اگر قومی ست مہربان قومی تراست۔ ہندوستان کے مسلمان اس وقت بچگی کے پاٹ میں ہیں۔ ادھر گورنمنٹ ان کو ہر طرح پیس رہی ہے۔ ادھر انبائے وطن، ہندو قوم ان کی جان و عزت، مال و مذہب سبھی کے دشمن بنے ہوئے جتھا بندی اور اجتماعی قوت کے ساتھ ہر قسم کی کارروائی کر رہی ہے۔ اور گوریلا وار کے طریقہ پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ عہدوں، مال اور قانون کے ذریعہ سے کورٹ میں بھی نقصان پہنچا رکھا ہے۔ شہزی اور سنگھٹن کے ذریعہ ہر قسم کا حملہ ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی دستگیری فرمائے۔ واقفین اور پرسان حال سے سلام سنون فرمادیں۔

حسین احمد غفرلہ

از خلافت آفس دارالحدیث

۲۷ مئی ۱۹۲۶ء (۸ جون ۱۹۲۶ء) لہ

آپ نے یہ خط ملاحظہ فرمایا۔ اس موقع پر چند حقائق ذہن میں متحضر کر لیجیے۔ تمام عمر قومی، ملکی اور دینی خدمات کے لیے وقف رہنے کے باوجود حضرت کبھی رزق حلال کے اسباب اور معاش کے ظاہری وسیلہ سے مستغنی نہیں رہے۔ اپنے مختصر حالات اس خط میں بھی اور خود نوشت سوانح میں بھی جیسے اور جس قدر لکھے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ایک عام اور جمالی شخص کے حالات بھی اس سے کہیں زیادہ ہوں گے جو آپ نے اپنے حالات کے عنوان سے تحریر فرمائے ہیں اور وہ بھی امتثالاً للامر اور احباب و مخلصین کے اصرار سے مجبور ہی ہو کر لکھے ہیں۔ درنہ اپنے بارے میں کبھی ایک لفظ اور ایک جملہ بھی کہنا پسند نہیں کیا۔ اصل میں اپنی ہستی کو کبھی قابل ذکر سمجھا ہی نہیں۔ ہندو مسلم اختلافات خصوصاً

ہندو قوم کی دل تنگی، بے عقلی اور مسلم کشی سے حضرت سبھی اسی طرح دل گرفتہ و جگر سوختہ ہیں جیسے مسلم فرقہ پرست دعویٰ داران تھے مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ اتحاد کی کوششوں سے ناامید ہو جاتے، ہندو دشمنی پر آمادہ ہو جاتے یا فرقہ پرستی کی پالیسی اختیار کر لیتے۔ حجاز مقدس کی بے امنی، طوائف الملوکی اور قتل و غارت گری سے مجبور ہو کر جب مرحوم ملک عبدالعزیز آل سعود نے وہاں امن و استقرار اور حرمین شریفین میں اتحاد و استحکام قائم کیا تو ہندوستان کے بہت سے علماء و مخصوصین نے ان کی مخالفت، تنقید و تنقیص میں آوازیں اٹھائیں۔ مگر حضرت چونکہ وہاں رہ چکے تھے اور کسی درجے میں وہیں کے باشندے ہو چکے تھے اس لیے علی وجہ البصیرت ملک عبدالعزیز کی قدر و منزلت کا اعتراف کرتے ہیں اور اہل عرب کے لیے ان کی اعانت ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس خط میں شدھی اور سنگٹھن کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ تحریکیں ہندو مسلم اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کے لیے حکومت برطانیہ کی کارگر سیکھیں تھیں مگر اچھے اچھے ہندو ولیوں جو صاف دل و دماغ رکھنے والے مشہور تھے ان میں شریک ہو گئے تھے۔ مجبوراً جمیعہ علماء اور دیوبند کو ان کے استیصال کے لیے جدوجہد کرنی پڑی۔ حضرت نے ان کی مخالفت میں ملک کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ آپ کے ایک سفر کا حال مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے لکھا ہے۔

”جمیعہ علماء اور اکابر دیوبند سے تعلق رکھنے والے رنگون کے صاحب خیر تاجروں نے اس (شدھی سنگٹھن کے) سلسلہ میں مالی امداد کا ایک منصوبہ بنایا۔ اور جمیعہ علماء ہند سے اپنا ایک وفد برما بھیجنے کی درخواست کی۔ اُس وقت برما ہندوستان ہی کا ایک حصہ تھا۔ غالباً ۱۹۳۳ء یا ۱۹۳۴ء میں یہ وفد رنگون پہنچا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد سعید صاحب ناظم جمیعہ اس وفد کے ارکان تھے۔ مولانا تیرتھی صاحب صاحب بھی وفد کے ساتھ تھے۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ اہل رنگون ہی کی دعوت پر دیوبند کے شعبہ تبلیغ کی طرف سے تشریف لے گئے تھے۔ بہر حال تینوں رنگون پہنچے تو وہاں کے انگریز گورنر یا کسی ماتحت حاکم نے ان سورتی تاجروں سے کہا کہ ان میں

مولینا حسین احمد صاحب بہت خطرناک اور حکومتِ برطانیہ کے خلاف ہیں۔ ان کو ہم یہاں تقریر کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بہت اصرار کے بعد اس نے اتنی اجازت دی کہ تقریر ہو جائے مگر بشرط یہ ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف کچھ نہ کہا جائے۔ ان حضرات نے یہ ذمہ داری لے بھی لی۔ اس کے بعد مولینا مظہم نے تفصیل بیان کی ہے کہ حضرت نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ اور سرے سے تقریر ہی پر تیار نہیں ہوئے مگر عوام کا یہ اصرار آپ کے مواعظ اور تقریر سننے پر تھا، اس لیے آپ آمادہ ہو گئے اور دورانِ تقریر فرمایا۔

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں کے گورنر صاحب نے ہمارے محترم میزبانوں سے میرے بازے میں خطرہ کا اظہار کر کے میری تقریر کو روکنا چاہا ہے اور وہ حضرات اپنی سادگی سے یہ وعدہ کر بھی آئے کہ میں گورنمنٹ کے خلاف کچھ نہ کہوں گا۔ مجھے ان کے وعدے کا افسوس ہے مگر اب بہر حال مجھے اس کی لاج رکھنی ہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تفصیل سے بتاتا کہ گورنمنٹ سے مجھے کیا شکایت ہے اور گورنمنٹ نے پوری اسلامی دنیا کو اور ہندوستان کو اور ہندوستانیوں کو کس قدر تباہ و برباد کیا ہے۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک مولینا یہی بیان فرماتے رہے کہ اگر یہ وعدہ نہ کرتے تو میں یہ بتاتا اور یہ سنا تا مگر چونکہ ہمارے میزبان نے گورنر صاحب سے وعدہ کر لیا ہے اس لیے مجبوراً میں گورنمنٹ کے خلاف کچھ نہ کہوں گا۔“

سلہٹ ہی سے لکھا ہوا ایک اور خط بھی اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس سے اس وقت کی سرگرمیوں، مشغولیتوں اور ملک کے مختلف بلکہ دور دراز مقامات کے پے درپے اسفار کا تذکرہ ہے۔ گویا عمر کے آخری حصے اور بیاسی برس کی عمر میں دوروں اور اسفار کی جو کثرت تھی اس کا سلسلہ اسی وقت سے اور چالیس بیالیس ہی برس کی عمر سے شروع ہو گیا تھا۔ اس خط سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تمام مشاغل اور ساری ہی عیدیم الفرستی اور سرگرمیوں کے باوجود درسِ حدیث اور کارہائے مفوضہ میں کوئی کمزوری یا کوتاہی نہیں ہو رہی ہے۔

افسوس کہ ان خطیوط کے مکتوب ایہم کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی۔

محترم المقام زید مجیدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج مبارک

جناب کا والا نامہ مجرہ ۲۱ دسمبر یہاں ۱۱ جنوری کو پہنچا۔ میں ۱۳ دسمبر سے یہاں سے روانہ ہو گیا تھا کیونکہ بلگام میں خلافت کانفرنس کا سالانہ اجلاس تھا۔ اس میں شرکت کے لیے مرکز بھی سے دعوت آئی تھی اور ضروری قرار دیا گیا تھا۔ راستے میں چند مقامات پر ضروری کاروبار تھے۔ غرضیکہ ۲۳ دسمبر کو بمبئی ہوتا ہوا بلگام پہنچا۔ وہاں پر اجلاس ختم ہونے سے پہلے سالانہ اجلاس جمعیت علماء، منعقدہ مراد آباد کی شرکت کے لیے مجبور کیا گیا۔ جو کہ ۱۱ جنوری کو شروع ہونے والا تھا۔ اس لیے پیارم پلیٹ۔ مدراس۔ بمبئی۔ سورت وغیرہ ہوتا ہوا مراد آباد پہنچا۔ وہاں سے فارغ ہو کر نواکھالی کے جلسوں میں شرکت کرتا ہوا ۲۵ جنوری کو سلہٹ آیا تو جناب کا والا نامہ ملا۔ علاوہ اس کے ستویا اس سے زائد اور خطیوط تھے جو کہ اس ڈیڑھ ماہ کی مدت میں جمع ہو گئے تھے۔ ان سبوں کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ ادھر تعلیمی سلسلہ جس کے لیے یہاں قیام ہے اس کو بھی انجام دینا ضروری ہے۔ بقیہ اوقات میں جواب لکھتا ہوں۔

محترم! اہل سلہٹ تقریباً ڈیڑھ سال سے زور دے رہے تھے کہ "صوبہ آسام اور بنگال میں باوجود دیگر مسلمانوں کی مردم شماری تقریباً تین کروڑ ہے مگر تعلیمی حالت مسلمانوں کی بہت گری ہوئی ہے۔ مذہبی تعلیم میں بھی یہاں کے مسلمان بہت کمزور ہیں۔ خصوصاً علم حدیث کا چرچا اور واقفیت تو بے حد کمزور ہے۔ اس لیے تجھ کو لازم ہے کہ تو یہاں آکر کچھ دنوں قیام کر اور ایک دفعہ صحاح ستہ کی پوری تعلیم دے۔ پھر یہاں حدیث ہم جاری کر لیں گے۔ اگر تیرا آنا ممکن نہ ہو تو کسی دوسرے ماہرین کو منتخب کر۔

میں احمد آباد جیل سے باہر آنے پر تحریک کی کمزوری کی بنا پر اس میں مشغول تھا۔ مجھ کو فرصت نہ تھی میں اس مدت تک اس کو ٹلایا۔ بہت تلاش کیا مگر کوئی دوسرا شخص

بھی نہ ملا۔ آخر کار مجبور ہو کر دو سال کے وعدہ پر ماہ اکتوبر سنہ حال کی ۲۰ تاریخ کو یہاں آگیا۔ خود دیوبند۔ دہلی وغیرہ کو اصرار تھا کہ وہاں قیام کیا جائے مگر اس وقت ضرورت قومی اہمیت دینا مناسب جان کر یہاں آیا تھا۔ اور اگر منظور الہی ہے تو اس وقت یہاں قیام کروں گا۔ تقریباً پانچ گھنٹہ روزانہ علم حدیث کا درس دیتا ہوں۔ باقی اوقات میں ضروریات ذاتیہ خطوط۔ ضروریات دینیہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ابھی تک موجودہ خطوط کے جوابات سے فراغت نہیں ہوئی۔ اس لیے جناب کے والا نامہ کا جواب نہ لکھ سکا۔ روزانہ تین چار۔ اور کبھی اس سے زیادہ خطوط آتے رہتے ہیں۔ ان کے جوابات کی وجہ سے نہایت ہی زیادہ عظیم الفرستی رہتی ہے۔ مختلف خطوط میں مضامین یافتے بھی ہوتے ہیں۔ جن کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت رہتی ہے۔ حتیٰ الوسع کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں سے نہ ملوں تاکہ ضروری کاروبار کو انجام دے سکوں۔ مگر اگر کوئی بمقتضائے محبت و عنایت آجاتا ہے تو وقت کا خون ہو جاتا ہے۔ عالی جناب نے جو امر مضمون کی نسبت تحریر فرمایا ہے اس کی اس قدر تفصیل ہے کہ بہت زیادہ وسعت ملنے پر اس کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ بہر حال میرا پختہ ارادہ ہے کہ انشاء اللہ فرصت ملنے پر میں اس کو اپنی طاقت اور قابلیت کے موافق قلم بند کروں گا۔ البتہ بالفعل اس قدر کار کی کثرت ہو گئی ہے کہ تاخیر ہونے میں مجبوری ہے۔

محترم! دوسرے حضرات جن کے نام نامی آپ نے تحریر فرمائے ہیں ان بزرگوں کی بھی یہی حالت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے اور کام کرنے والے بہت کم ہیں۔ ملکی اور مذہبی ضروریات انجام دینا فقط معدودے چند ہستیوں کے ذمہ ہو گیا ہے۔ جن کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں کیا کیا جاسکتا ہے۔ حکومت ایسے لوگوں کی ضروریات پر متوجہ نہیں، بلکہ ان کی ضرور رسانی پر تلی ہوئی ہے۔ قوم خود ہی نہایت درجہ افلاس اور کمزوری میں ہے۔ اور پھر اس حالت میں وہ اپنی بہت سے زیادہ قومی کاروبار کر رہی ہے۔ اس لیے بے چارے اپنی معاشی افکار میں مبتلا رہتے ہیں۔ شکایت کس طرح کی جائے۔ قوم کو بیدار کرنے کے طریقے بھی پوری طرح یقین

نہیں کیے جاسکتے۔

آبِ جناب کا پارسل بھی تین چار روز ہوئے، پہنچا۔ مجھ کو سخت محجوبیت ہے۔ میں خود منع کرنے والا تھا کہ وہ یہاں آدھمکا۔ دیکھیے ایک معمولی قیمت کی چیز پر آپ نے فقط ڈاک خانے کے محصول میں ۱۲ سے زیادہ خرچ کر ڈالا۔ اور ادھر مجھ کو بیزنی پارسل ہونے کی وجہ سے اردینا پڑا۔ اشیاء معمولہ اگرچہ معنوی حیثیت سے بہت زیادہ قیمت رکھتی ہیں۔ مگر ظاہری حیثیت تو اس قدر نہیں رکھتیں کہ اس قدر انگریزوں کو نفع پہنچایا جاتا ہے۔ حال میں جناب کی اس عنایت کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آئندہ کبھی ایسا خیال نہ فرمائیے۔ خدماتِ لائقہ سے مشرف فرماتے رہیں۔ میں ذہا سہولت و فرصت ہو جائے تو مضمون لکھنا شروع کروں گا انشاء اللہ! زیادہ بخیر سلام سنوں۔ اور کیا عرض کروں معزز اور محترم مسلمان بھائیوں کی خدمت میں سلام سنوں عرض کر دیں۔

فقط والسلام

حسین احمد غفرلہ

۱۳۴۴ھ

از سہٹ خلافت آفس، مورخہ ۱۲/۱۲/۱۳۴۴ھ

ایک تیسرا خط بھی دیکھتے چلے۔ بعض حضرات کو یہ خیال تھا کہ حضرت نے اپنی زندگی میں تصنیف و تالیف کے لیے کچھ وقت نہیں دیا۔ اس کی وجہ حضرت ہی کی زبانی اس خط میں سن لیجیے۔ ایک تذکرہ اس خط میں جزیرۃ العرب کی تقدیس و تطہیر کی احادیث کا ہے۔ اس موضوع سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت کی جمع کردہ یہ احادیث ماہنامہ الرشید بدنی و اقبال نمبر شائع کردہ مدرسہ رشیدیہ سامیوال (پاکستان) میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ اس میں خاص بات حضرت کے وطنیت اور اسلامیت کے جذبے کی ہے۔ سو داورف اسلامیت ہی کا یا وطنیت ہی کا نہیں بلکہ ملک و ملت دونوں کا ہے۔ اور اسی سلسلے میں سو ویشی اور بلکی مصنوعات کی پابندی کا التزام ہے۔ یہ کوئی چلتی پھرتی بات نہیں ہے بلکہ وہی معاشی اور اقتصادی پالیسی ہے جس پر آج دنیا کے

بہت سے ملکوں کے اقتصادی ڈھانچہ کی تعمیر ہے۔ جن ملکوں کا کوئی معاشی نقشہ نہیں ہے، ان کے یہاں یہ اہتمام نہ پہلے تھا نہ اب ہے

محترم المقام زید عنایت کم

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزاج مبارک

کل آپ کا دوسرا کارڈ باعث سرفرازی ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں پہلے سے اس ارادہ میں تھا کہ جن مضامین کا جناب مطالعہ فرما رہے ہیں۔ ان کی نسبت کچھ لکھوں، مگر نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فرصت بالکل نہیں ملتی۔ اس وقت میرے سامنے میز پر تقریباً سو سے زائد خطوط، کارڈ اور نفاذی پڑے ہوئے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے۔ کئی کئی مہینے گزر گئے جو اب نہ دے سکا۔ روزانہ پانچ سات خطوط آتے رہتے ہیں۔ مضامین کے لکھنے کے مطالبے علیحدہ ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ میں بعینہ تدریس قومی ملازم ہوں اس لیے تقریباً چار گھنٹہ روزانہ تدریس میں صرف کرنا ضروری ہے۔ پھر عربی اور خصوصاً علم حدیث کی اعلیٰ درجہ کی کتابیں، دوسرے فنون و علوم کی طرح نہیں کہ پروفیسر کو مطالعہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں تو کم از کم ڈیڑھ دو گھنٹہ مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے طلبہ کے بھی خارجی اسباق ہیں۔ لوگ ملاقات کے لیے آکر روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے شخصی اشغال ضروریہ ہیں جن کی وجہ سے دو چار خطوں کا روزانہ لکھنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔

آپ کا پارسل نامعلوم کس وجہ سے بیزنگ ہو گیا تھا۔ ڈاک والوں نے کہا کہ ممالک خارجہ سے آیا ہے۔ اس پر اس قدر ڈیوٹی زائد ہے۔ اس لیے انہوں نے اس پر گیارہ آنے یا اس سے کچھ کم یا زیادہ لیے تھے۔ معنوی حیثیت سے تو وہ بہت بیش قیمت تھا کہ اس میں خاک شفا اور دوسرے تبرکات تھے۔ مگر ظاہری حیثیت سے وہ اتنی قیمت نہ رکھتا تھا جتنی آپ نے ٹکٹیوں پر اور میں نے ٹیکس پر خرچ کیا۔ میں نے

انہیں دنوں ایک عریضہ آپ کی خدمت میں پارسل بھیجی، اور یہ کہ میں انشاء اللہ بوقت فرصت مضمون لکھنے کا قصد کروں گا۔ اس کی اطلاع کرنے کے لیے لکھا تھا مگر غلطی یہ ہوئی کہ ان لغاتوں میں چند لغات انگریزی پتہ لکھے ہوئے موجود تھے۔ میں انگریزی نہیں جانتا میں نے سمجھا کہ یہ پتے آپ کے یہاں کے لکھے ہوئے ہیں کسی دوسرے سے پڑھوایا ہی نہیں۔ اس میں سے ایک لغات لیکر اس میں خطر رکھ کر بھیج دیا۔ اور تین مہینوں کے بعد وہ واپس آیا کہ مکتوب ایہ نہیں ملتا۔ مزید اطمینان کے لیے وہ بھی منسک ہے۔

میں نے کتابوں سے احادیث متعلقہ ارض عرب کہ "وہاں یہود و نصاریٰ وغیر مسلم اقوام کو رہنے نہ دیا جائے" نکالیں اور ان کا ترجمہ کر کے فقط آپ کے لیے رکھا تھا۔ اور خیال قوی تھا کہ آیات وغیرہ لیتے ہوئے متعلقہ جزیرہ العرب ایک مفصل مضمون لکھوں گا افسوس اور صد افسوس کہ باوجود کثرت اشتیاق اور حضور مضمون آج تک اتنی فرصت نہ مل سکی کہ اس کو قلم بند کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ تحریر و تقریر کے ساتھ تدریس نہیں ہو سکتی مگر ہم اگر تدریس نہ کریں تو پھر دفع احتیاج و ضرورت کی کیا صورت ہو۔ اگر تدریس کے لیے قلیل وقت خرچ کیا جائے تو وہ اپنی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ آج میں اس امر سے مایوس ہو کر کہ مجھ کو مضمون لکھنے کی فرصت مل سکے گی۔ آپ کو احادیث متعلقہ جزیرہ العرب بھیج رہا ہوں۔ اگر زندگی باقی ہوئی اور خدا کو منظور ہوا اور آپ کو ضرورت بھی محسوس ہوئی تو مضمون بھی لکھوں گا۔ ورنہ میری مجبوری ظاہر ہے۔ مجھ کو آپ کے سامنے شرمندگی بھی زیادہ ہے مگر خداوند کریم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ میں بصد ادب آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر آئندہ کسی پارسل وغیرہ کے ارسال کا قصد نہ فرمائیں۔ میں حتی الوسع غیر ہندوستان کی ہنی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتا۔ البتہ جو چیزیں ہندوستان میں تیار نہ ہو سکتی ہوں اور ان کی ضرورت بھی ہو۔ ان کو بخصہ حاجت استعمال کرتا ہوں۔ میرے پاس سوائے گھڑی، عینک اور فاؤنٹین پن کے اور کوئی چیز غیر وطنی نہیں۔ فونٹین پن بھی سوائے سفر، دوسرے اوقات میں استعمال نہیں کرتا۔

آپ کے مرسل کاغذات وغیرہ غیر وطنی تھے۔ مجھ کو اسلامیت اور وطنیت کا سودا

سخت ہے۔ میں زیادہ ضروری سمجھ رہا ہوں کہ مسلمان اور اہل ہند کھدرا کا استعمال کریں اور ولایتی چیزوں سے حتی الوسع گریز کریں۔ ہمارے ہندوستانی بھائی خصوصاً مسلمان اس امر میں نہایت بزدل واقع ہوئے ہیں۔ آپ ایک دور دراز ملک میں ہیں۔ آپ کی اور ہماری حالت میں فرق ہے۔ خداوند کریم جلد وہ دن لائے کہ ”وطن آزاد ہو۔ اسلام کا علم چاروں طرف لہراتا ہو اور صلیب سرنگوں ہو“ خداوند کریم آپ کے اور ہمارے مقاصد بر لائے۔ آمین۔ والسلام!

حسین احمد غفرلہ

از سلہٹ خلافت آفس اراحدیت، ۵ ربیع الاول ۱۳۴۴ھ

سلہٹ کے قیام کی یہ مختصر مدت ۱۹۲۵ء میں ختم ہو گئی۔ یہاں آنے سے پہلے بھی دیوبند کے حضرات کی خواہش تھی کہ حضرت وہیں قیام فرمائیں۔ اور دریان میں بھی یہ تحریک و تجویز جاری رہی حتیٰ کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت کا دیوبند جانا دینی اور علمی اہمیت کے پیش نظر ضروری ہی ہو گیا۔ سلہٹ کے عوام و خواص کو اس فراق سے بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے درخواست کی کہ یہ تعلق کسی نہ کسی نظر اہری حیثیت میں بھی باقی رہنا چاہیے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ رمضان شریف میں حضرت کا قیام ہر سال وہیں ہوگا۔ اس طرح رمضان شریف میں تشریف آوری کا سلسلہ ۱۹۲۴ء تک جب تک حالات نے مجبور نہیں کر دیا۔ بلا کسی خلل اور انقطاع کے جاری رہا۔ اس قیام کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ دیوبند کے قیام کی مجبوری اور وہاں تشریف آوری کے ذکر سے پہلے اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کا علمی، دینی اور سیاسی تعارف ضروری معلوم ہوتا ہے مگر اس سے پہلے ایک دوسرا واقعہ بھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔

بھتیجے کی شادی

ماٹا سے واپسی کے بعد حضرت کو اپنے بھتیجے مولینا وحید احمد کی شادی کا بڑا فخر

تھا۔ تعلیم و تربیت کی وجہ سے مولینا اپنے بچپن ہی سے حضرت کی نگرانی اور تربیت میں تھے۔ آخر میں والد ماجد مولینا صدیق احمد صاحب کی وفات، خاندان کی جاؤٹنی اور اپنی اسارت مالٹا اور پھر ہندوستان ہی میں رہ پڑنے کی وجہ سے اب حضرت کے سوا کوئی ظاہری سہارا اور سرپرستی بھی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ بچپن ہی سے والد کی سخت مزاجی اور گھر کے پرسکون ماحول سے محرومی اور دوسرے پلے درپلے حوادث و شدائد نے مولینا کے مزاج میں مایوسی، شدت احساس اور سرلیح الانفعال ہونے کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ مزید برآں اب ان کی عمر بھی کم و بیش تیس برس کی ہو گئی تھی، اس لیے حضرت کو ان کی شادی کا بہت خیال تھا۔ اس بارے میں اپنے کسی مخلص کو تحریر فرمایا کہ "مجھ کو وحید کی نسبت کی فکر ابتدا سے ہے۔ میں نے مالٹا سے واپسی کے بعد چاہا تھا کہ اول اس کے عقد کی فکر کروں، اس کے بعد اپنا انتظام کروں گا۔" اس وقت تک شرفاء کے طبقہ کی شادی بیاہ میں اس بات کا لحاظ باقی تھا کہ جہاں تک ممکن ہو شادی اپنے ہی خاندانوں اور عزیزداروں میں کی جائے، چنانچہ حضرت نے اپنے گھرانوں پر نظر دوڑائی۔ دو ایک جگہ بات بھی ڈالی۔ لیکن خاندان کے تقریباً سبھی گھرانے متوسط الحال اور آسودہ زندگی سے بہرہ ور تھے۔ کس کی لڑکی بھاری تھی کہ ایک بے ماں باپ کے بے گھر بے در بے ٹھکانہ اور بے وطن لڑکے کے پلے باندھ دیتا۔ اس لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل سکا تھا۔ اتفاق سے حضرت کو ۱۹۲۲ء میں رنگون کا سفر پیش آیا۔ وہاں سے واپسی پر رائے بریلی میں مدرسہ عربی والوں نے اپنے اجلاس میں شرکت کے لیے باصرار روک لیا۔ حضرت کو معلوم تھا کہ یہاں ان کے ماموں سید تصدق حسین صاحب مرحوم کی صاحبزادی رہتی ہیں جن کے شوہر منشی فاروق احمد صاحب پولیس میں ملازم تھے۔ چنانچہ بیٹہ لگا کر حضرت ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ موصوفہ نے مولینا وحید احمد کی خیر خبر دریافت کی تو حضرت نے فرمایا کہ کہیں ان کے رشتے کا انتظام کرنا چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ میرے ایک ہی لڑکی ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے عذر

نہیں ہے۔ اس طرح اس مختصر سی ملاقات میں رشتہ طے ہو گیا۔ حضرت زندگی میں پہلی بار کسی اولاد کی شادی کر رہے تھے۔ یہ بھی خیال تھا کہ یتیم اور محروم بھتیجے کا دل میلانہ ہو اور اس کو ارمان نہ رہ جائے کہ باپ دادا ہوتے تو شادی قاعدے سے ہوتی۔ یہ بھی سنا ہے کہ مولینا کی پہلی نسبت اپنی ہی صاحبزادی زہرہ مرحومہ سے طے تھی جن کا انتقال مالٹا کی اسارت کے زمانے میں غریب الوطنی اور مسافت میں ہو گیا تھا۔ بہر حال یہ وہ عوامل تھے کہ جن کی بنا پر یہ شادی مروجہ انتظام سے ہوئی۔ بارات دیوبند سے ضلع فیض آباد کے ایک گاؤں اونچے گاؤں میں گئی جو منشی سید فاروق احمد صاحب مرحوم و مقصور کا وطن تھا۔ باراتیوں میں دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے علماء اور اساتذہ علامہ انور شاہ، اسیر مالٹا مولینا عزیز گل، مولینا محسن صاحب برادر خورد حضرت شیخ الہند، مولینا محمد عثمان صاحب نبیرہ حضرت شیخ الہند، مولینا سعید احمد صاحب نبیرہ حضرت گنگوہی، مولینا محمد طاہر صاحب نبیرہ حضرت مولینا محمد قائم نانوتوی وغیرہ وغیرہ شریک تھے۔ گاؤں تک پہنچنے کا راستہ قصبہ ٹانڈہ ہو کر جاتا تھا اور یہی حضرت کا آبائی وطن تھا اس لیے بارات کی ترتیب ٹانڈہ ہی میں دی گئی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ حضرت کی ایسا سے یا لالعلمی میں مگر آپ کے والد ماجد مولینا سید حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے ایک معتقد و مسترشد جناب ریاست علی خاں صاحب مرحوم نے دوسری سواریوں کے ساتھ دو تین ہاتھیوں کا بھی انتظام کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اودھ کے زمیں دار گھرانوں کی باراتوں میں ہاتھی ضروری سمجھے جاتے تھے۔ رؤسا اور زمیں داروں کے دروازوں پر ہاتھی جھسولتے تھے اور وہ لوگ نام آوری اور شہرت کے لیے مانگنے پر دے دیا کرتے تھے۔ شاید وہیں سے یہ مثل چلی تھی کہ ”ہاتھی پھسے گاؤں گاؤں، جس کا ہاتھی اس کا ناؤں“ مختصر یہ کہ یہ پہلی اور آخری شادی تھی جس کا حضرت نے کسی قدر اہتمام فرمایا اور اس کے بعد ساری شادیاں جن کی تفصیل آگے آئیں گی مکمل سادگی اور خاموشی کے ساتھ انجام پائیں۔

شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند

حضرت کی دیوبند تشریف آوری کے حالات اور اسباب کے بیان سے پہلے ضروری ہے کہ دیوبند یا مدرسہ دیوبند کی تعریف و تاریخ ذہن میں رکھی جائے۔ مغل بادشاہت کے زمانے میں دہلی علوم شریعت اور اسلامی فلسفہ و تعلیم کا مرکز تھا۔ تمام ہندوستان میں اسی مرکز اور اس کے افکار و تعلیمات کے تحت دینی مدارس قائم تھے جن کے ذریعے صحیح اسلامی عقائد اور قرآن و سنت کے علوم کی اشاعت و تبلیغ تمام ہندوستان میں بلکہ ایشیا میں جاری و ساری تھی مغل سلطنت کے زوال کے ساتھ ان مراکز علوم کی سرگرمیوں میں ضعف و کمزوری آتی گئی حتیٰ کہ ۱۸۵۷ء میں جب ملک پر انگریزوں کا مکمل تسلط ہو گیا تو دہلی کے مراکز بالکل ہی منتشر اور منہدم ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی پورے ملک سے صحیح اسلامی افکار و علوم کی تبلیغ و ترویج کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ صورت حال دینی احساس اور اسلامی دل و دماغ رکھنے والے عوام و خواص کے لیے بہت نازک اور فکرائیگیز تھی۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے قلب و دماغ آتش انتقام سے بھی دہک رہے تھے۔ انگریزوں نے ان کو حکومت و سلطنت سے محروم کر دیا تھا۔ لاکھوں معصوم انسانوں کو ناقابل برداشت عذاب اور سزائیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ بستیاں ویران کر دی تھیں اور گھر آجاڑ دیے تھے۔ سیکڑوں سال کے قدیم مدارس معابد خانقاہیں اور مذہبی مراکز تباہ و برباد کر دیے تھے۔ ان حالات اور عوامل کے تحت دہلی سے قریب، تقریباً سو سو اسمیل کے فاصلے پر، شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ اس شاہراہ کے کنارے جو کلکتہ بلکہ ڈھاکہ سے پشاور تک چلی جاتی ہے اور اُس ریلوے لائن پر جس کو اب ناردرن ریلوے کہا جاتا ہے اور جو بمبئی سے پشاور تک جاتی ہے دیوبند نامی ایک چھوٹے سے زرخیز اور نشاط انگیز قصبہ میں چند صاحب فکرو بزرگوں، حاجی سید عابد حسین مولانا ذوالفقار علی، مولانا مہتاب علی اور منشی فضل حق صاحب نے اللہ کا نام لے کر

بالکل بے سرو سامانی کے عالم میں مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ کہنے کو تو یہ ایک مدرسہ تھا اور ایسے مقام پر قائم ہوا تھا جس کی کل آبادی آس پاس کے گاؤں اور ملحقہات ملا کر بھی پندرہ بیس ہزار نفوس سے زیادہ نہ تھی۔ مگر درحقیقت یہ ہندوستان بلکہ تمام دنیا میں صحیح اسلامی عقائد اور شرعی احکام و قواعد کی تبلیغ ترویج اور اشاعت کا ایک مرکز بننے والا تھا۔ اس مرکز کے مقاصد میں ۱۹۵۷ء کی جدوجہد آزادی کی تکمیل اور غیر ملکی تسلط سے ملک کی تحریر و آزادی بھی شامل تھی۔ اس باب میں حضرت شیخ الہندؒ کا بیان دیکھیے۔ ”میں (راوی) حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی کے فرستادہ کی حیثیت سے حضرت الٹا ذیخ الہندؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بطور بیعت نام رساں حضرت سے دریافت کیا کہ آپ کا سیاسی مسلک کیا ہے؟ یہ پیغام سناتے ہی میں نے دیکھا کہ حضرت پر ایک خاص حال طاری ہو گیا۔ اور فرمایا۔ حضرت الٹا ذی مولانا نانو تو میں نے اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا، جہاں تک میں جانتا ہوں ۱۹۵۷ء کے ہنگامہ کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ ۱۹۵۷ء کی ناکامی کی تلافی کی جائے،“

شیخ الہندؒ کی روایت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ آپ مدرسے کے پہلے شاگرد تھے بلکہ مولانا محمد قاسمؒ کے مقرب و مخصوص شاگرد اور جانشین اور ان کی علمی، فکری اور سیاسی روایتوں کے امین بھی تھے اور مولانا محمد قاسم مدرسہ دیوبند کے وہ پہلے استاد تھے جن کے افکار، علوم اور تعلیمات پر مدرسہ کی پالیسی بنی۔ اس لیے شیخ الہندؒ کا قول مدرسہ کے سیاسی مقاصد اور بنیادوں کا آئینہ دار ہے۔ مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی تقریر میں ۱۹۶۴ء کے قومی جمہوری کنونشن میں کہا: ”علمائے دین اس وقت بھی جنگ آزادی لڑ رہے تھے جب ۱۹۸۵ء میں کانگریس کی تشکیل عمل میں آئی ۱۹۸۵ء کی جنگ آزادی میں وہ نہ صرف شریک تھے بلکہ اس کی قیادت کر رہے تھے۔“

سیاست میں انھوں نے ہمیشہ انقلابی رویہ اختیار کیا ہے۔ پورا دیوبند اسکول آغاز ہی سے قومی اور انقلابی رہا ہے، تعلیمات اسلامی اور کتاب و سنت کے بارے میں بھی مدرسے کے مقاصد اور پالیسی کا تذکرہ مولانا محمد قاسم صاحب نے کیا ہے۔ "آج کل تعلیم علوم جدیدہ تو بوجہ کثرت مدارس سرکاری اس ترقی پر ہیں کہ علوم قدیمہ کو سلاطین زمانہ سابق کے وقت میں بھی یہ ترقی نہ ہوئی ہوگی۔ ہاں علوم نقلیہ کا یہ تنزل ہے کہ ایسا تنزل بھی کسی کا زمانہ میں نہ ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں رعایا کو مدارس علوم جدیدہ کا تانا بھینسا محال نظر آتا ہے اور صرف بجانب علوم نقلی اور نیز ان علوم کی طرف جن سے علوم مروجہ اور استعداد علوم جدیدہ یقیناً حاصل ہوتی ہے ضروری سمجھا گیا۔" یہ تو متقدمین کے فرمودات تھے اس کے ساتھ ہی متاخرین کے خیالات بھی مدرسہ کے مقاصد اور پالیسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ "میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے حق میں ازالہ حیثیت عربی کا جرم ہوگا اگر کہا جائے کہ دارالعلوم چند مخصوص کتابوں کے پڑھنے پڑھانے اور درس و تدریس کے ایک مرکز کی حیثیت سے قائم ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کے بانیوں کے حق میں کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی، ایسا کہنے والوں کو ان بزرگوں کی روجوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا جس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ محض ایک مدرسہ ہے تو حضرت شیخ الحدیث تڑپ اٹھتے تھے ان کے نزدیک یہ (مدرسہ) اسلام کا ایک قلعہ، اُس (اسلام) کے داعیوں اور مجاہدوں کی ترتیب کی ایک چھاوٹی اور سلطنت مغلیہ کے گل ہونے والے چراغ کا بدل، بلکہ نعم البدل تھا۔" لہذا یہ دنیائے اسلام کے مشہور عالم مصنف اور مبلغ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے خیالات تھے۔ موصوف رسمی طور پر اُس مدرسہ دیوبند کے فارغ و فاضل بھی نہیں ہیں اور باضابطہ طور پر مستفید بھی نہیں ہیں جو دیوبند کی چہار دیواری میں درس و تدریس کا مرکز ہے مگر جہاں تک دیوبند کے مدرسہ فکر اور صحیح اسلامی عقائد و تعلیمات کی تربیت کا

۱۔ اجمیعتہ قومی جہوری کنونشن نمبر مورخہ دسمبر ۱۹۶۳ء، ص ۲

۲۔ تقریر حضرت نانوتوی روداد مدرسہ اسلامی عربی ۱۲۹ھ

۳۔ از مولانا ابوالحسن علی ندوی بحوالہ اجمیعتہ دارالعلوم دیوبند نمبر ۲۶ مارچ ۱۹۸۰ء

کا تعلق ہے، مولینا انہی تعلیمات کے مستفید، انہی افکار کے مبلغ اور اسی سلسلۃ الزہد کی ایک کردی ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ مولینا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات ملاحظہ فرمائیے۔ مولینا مرحوم اپنے وقت میں دنیائے اسلام کے سب سے بڑے عالم اور اپنے اتاد علامہ انور شاہ صاحب محدث دارالعلوم دیوبند کے صحیح جانشین تھے صحیح اسلامی عقائد کے سلسلے میں آپ کا ایک کارنامہ رہتی دنیا تک سونے کے حروف میں لکھا جائے گا کہ قانونی اور عرفی طور پر آپ ہی کی کوششوں سے قادیانیت و مرزائیت کو اسلام سے خارج ایک الگ مذہب قرار دیا گیا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں: جو حقائق میری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں علی رو دوس الا شہادہ دعویٰ کروں کہ اگر سرزمین دیوبند سے علم و معرفت کا یہ چشمہ صافیہ نہ بہہ نکلا ہوتا تو تیرھویں صدی ہجری کے اواخر میں ہندوستان سے قرآن و سنت کے علوم کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔^۱

پروفیسر محمد مجیب نے اپنی انگریزی کتاب 'INDIAN MUSLIMS' میں لکھا ہے "۱۹۰۶ء کے فوراً بعد حاجی سید عابد حسین، مولینا ہتھاب علی اور شیخ نہال احمد نے دیوبند کی جامع مسجد میں ایک مکتب کی بنیاد ڈالی جو دس برس کے اندر اندر ایک دارالعلوم یا دوسرے لفظوں میں ایک اعلیٰ علمی مرکز کے درجہ تک ترقی کر گیا۔ بنیادی طور پر اس دارالعلوم کی ترقی میں مولینا محمد قاسم کی عالی ہمتی اور قوت عمل کا فرما تھی جنہوں نے پورے مغربی یورپی میں ایسے مدارس کا ایک جال پھیلا دینے کا پروگرام بنایا تھا جو اس مرکز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبا تیار کر سکیں۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہانپور اور مدرسہ قاسم العلوم مراد آباد اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ یہ دونوں مراکز اپنی علمی و فکری جدوجہد میں دارالعلوم دیوبند ہی سے فیض اور رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ درحقیقت دارالعلوم دیوبند کا قیام برطانوی تہذیب و تمدن اور اس کی سیاست کے روزافزوں اثرات کے خلاف ایک اعلانِ جہاد تھا اور ان تمام ذہنی اور فکری

۱۔ روزنامہ البقیعہ، دارالعلوم دیوبند نمبر، ۲۶ مارچ ۱۹۵۰ء بحوالہ الرشید دارالعلوم نمبر۔

تحریکات کو سختی اور مضبوطی کے ساتھ نظر انداز کر دینے کے جذبے سے معمور تھا جو اس جدوجہد کی راہ میں حائل تھیں۔

مجیب صاحب نے مدرسہ دیوبند کے فکری اور علمی مراکز میں صرف دو ہی مدارس کا تذکرہ کیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ان مدارس اور معابد کی تعداد کئی ہزار تک پہنچتی ہے جو دیوبند مدرسہ فکر کے پروگرام کے ماتحت قائم ہوئے۔ اس بارے میں آئندہ شہادت قاضی عدیل عباسی مرحوم کی بھی ملاحظہ فرمائیے۔

”دارالعلوم دیوبند کے اکابرین بصیرت و فراست کے نتیجہ میں انگریزوں کو اپنا دشمن قرار دے کر خلافت اسلامیہ کی بقا و تحفظ اور ہندوستان کی آزادی کے لیے زائد دراز سے عملی جدوجہد کر رہے تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی، ان کے پیر حاجی امداد اللہ صاحب ہاجر ملک اور ان کے سیکڑوں اعوان و انصار اسی دھن میں سردھڑکی بازی لگا چکے تھے۔“

مدرسہ دیوبند کے فکری علمی اور عقائدی معماروں اور اولین اساتذہ میں حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کا اہم گرامی سرفہرست ہے۔ آج سارے ہندوستان، پاکستان، برما، نیپال، بنگلہ دیش، افریقہ، امریکہ، انگلستان وغیرہ ممالک میں صحیح اسلامی عقائد اور دینی تحریکات دیوبند، اس کے اساتذہ اور خاص طور پر مولانا محمد قاسم کے فیضانِ نظر کا نتیجہ ہیں۔ اسلام کے باطل اور گمراہ فرقوں کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے مگر دیوبند کے صحیح عقیدہ کے تذکرہ کے ضمن میں ایک اجمالی ذکر خراج از منبر بھی نہیں ہے؛ ”ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں ایک فرقہ کے علاوہ سب دوزخی ہیں۔ عرض کیا وہ کون ہے؟ فرمایا ”ما انا علیہ واصحابی“ جس طریقہ پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ ادکواتال (رواہ ترمذی)۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری نے ۷۲ فرقے اس طرح شمار

کرائے ہیں۔ معترضہ ۲۰، روافض ۲۲، مرجیہ ۵، خوارج ۲۰، نجاریہ ۳، جبریہ ۱،
 متنبیہ ۱۔ ان سب فرقوں کے نام میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے ایک
 روایت میں اہل سنت والجماعت (فرقہ ناجیہ) کے دس خصائص ذکر کیے ہیں۔ یہ سب
 (مندرجہ ذیل) خصائص حلقہ دیوبند کے ہیں۔

(۱) حضرات شیخین کو افضل جاننا یعنی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور پھر حضرت
 عثمانؓ اور حضرت علیؓ یعنی فضیلت بترتیب خلافت۔

(۲) بزرگ جاننا جناب رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے دونوں دامادوں کو یعنی پہلے
 حضرت عثمانؓ کو اور پھر حضرت علیؓ کو۔

(۳) بزرگ جاننا دو قبلوں کو یعنی کعبۃ اللہ شریف کو اور بیت المقدس کو۔

(۴) موزوں پر مسح جائز ہے۔ (روافض کے نزدیک ناجائز ہے)۔

(۵) دو گواہی سے باز رہنا۔ یعنی کسی پر گواہی نہ دے کہ وہ دوزخی ہے یا جنتی۔

(۶) صالح اور فاسق ہر دو امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔

(۷) ہر دو تقدیر پر ایمان رکھنا۔

(۸) نیک و بد ہر دو جنازہ پر نماز پڑھنا۔

(۹) ہر دو فرض یعنی نماز اور زکوٰۃ کو برابر جاننا اور ادا کرنا۔

(۱۰) امیر کی فرمان برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اس کے سب رسولوں پر

اس کے سب فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر ایمان لانا۔ پانچ وقت

کی نماز ادا کرنا۔ روزہ رکھنا۔ زکوٰۃ دینا۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اور

شریعت محمدی کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرنا۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں ناکام ہو جانے کے صرف نو سال بعد ۱۸۶۶ء

میں ان حالات میں کہ ملک و قوم پر ایک غیر مسلم اور غیر ملکی طاقت کا مکمل تسلط اور

آہنی قبضہ جگر تک پیوستہ تھا۔ اور ذرا ذرا سے شبہ پر گھر برباد کر دیے جاتے تھے اور گھروالے پھانسی پر چڑھا دیے جاتے تھے۔ بستیوں کی بستیاں اُجاڑ دی جاتی تھیں اور خاص طور پر ایسی نضامیں کہ مسلمانوں کا ایک طاقتور طبقہ اور افراد برطانیہ کی تائید و خدمت میں نیز عقائد اسلامی اور کتاب و سنت میں رخنہ اندازی میں حکومتِ برطانیہ کی امداد و اعانت کے بل بوتے پر مصروف و مامور تھے۔ ایسے انقلابی اور آزادانہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے احیاء کا مرکز قائم کرنا کسی طرح افضل و بہتر کام نہ تھا۔ اس کے علاوہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے علاوہ کیا یہاں موقع بھی نہیں ہے اور سالوں کے تحقیق و مطالعے کے بغیر یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ تھا وہ دارالعلوم دیوبند جس کی صدارت تدریس اور منہج و ریش کے لیے حضرت سہیل کو خیر باد کہہ کر دیوبند جا رہے تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کی جانشینی کے لیے شیخ الہند مولانا محمود حسن مندافروز ہوئے تھے۔ ان کے بعد محدث وقت علامہ انور شاہ شیخ الحدیث مقرر ہوئے تھے اور اب یہ منصب گرامی حضرت کے سپرد کیا جا رہا تھا۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دیوبند تشریح آوری

۶۱۹۲۸

حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علوم و فنون کا خزانہ تھے۔ حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ، معانی و بیان، منطق، فلسفہ، شعر، ادب، غرض سارے ہی علوم متداولہ میں تو ماہر اور یکتائے زمانہ تھے ہی، بعض غیر متداولہ علوم ہیئت و جغرافیہ وغیرہ میں بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ کا ذہن اتنا تیز اور فکر اتنی رسا تھی کہ دقیق سے دقیق اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل ایک نظر میں حل کر دیتے تھے۔ حافظہ ایسا قوی تھا کہ جو موضوع یا مسئلہ ایک نظر یا سماعت سے گزر جائے وہ ہمیشہ کے لیے پتھر کی لیکر بن جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی آپ کے بارے میں یہ رائے تھی کہ ”انور شاہ کا وجود اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے“ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ”اگر تم مجھ سے پوچھو کہ تم نے حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ نعیمی الدین بن دقیق العبد، سلطان العلماء عز الدین بن عبدالسلام رحمہم اللہ کو دیکھا تھا تو اگر میں تم سے ہاں کہہ دوں تو میں سچا ہوں کیونکہ میں نے انور شاہ کو دیکھا تھا۔ اور کیونکہ اگر انور شاہ اس دور میں ہوتے تو یہی ہوتے“ ایسے متبحر عالم اور بے مثل استاذ کی موجودگی میں دارالعلوم دیوبند کی شہرت اور مقبولیت نے بہت ترقی حاصل کی تھی اور ملک کے گوشے گوشے سے بلکہ بعض باہر کے ممالک سے بھی طلباء اور شاگردانِ علوم شاہ صاحب سے استفادہ کے لیے دیوبند آرہے تھے۔ خواص اور اہل علم تو جانتے ہی تھے، عوام میں بھی آپ کے علم و فضل کی

شہرت تھی مگر عین اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ شاہ صاحب کو مدرسے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ صاحب کو خود تو شاید کم گمران کے ہوا خواہوں اور مخلصین کو مدرسے کے مہتممین اور منتظمین سے اختلاف ہو گیا۔ بات معمولی تھی مگر بڑھتے بڑھتے رانی کا پہاڑ بن گیا۔ علامہ کے خدام کی رائے یہ تھی کہ مدرسے کے انتظامی معاملات میں حضرت علامہ کی رائے اور استمزاج بھی شامل رہے۔ مہتممین کا موقف یہ تھا کہ نظم و ضبط اور درس و تدریس دو الگ الگ شعبے ہیں۔ مدرسین کو اہتمام میں دخل نہیں کیا جاسکتا۔ دونوں فریق اپنے اپنے میدان میں ڈٹ گئے۔ پہلے تو بات چیت ہوئی۔ دلائل اور ثبوت پیش کیے گئے۔ پھر بات بحث و مباحثہ اور تکرار و گفتار تک بڑھی اور آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپس کا معاملہ عوام میں اور گھر کی بات کوچہ و بازار میں پھیل گئی۔ الزام تراشی، نعرہ زنی، تہمت آرائی اسٹراٹجک بازی، اخبار نویسی، ہرزہ سرائی، غرض مقابلہ و مجادلہ کا کوئی داؤ بیچ ایسا نہ رہا کہ گھٹات لگا لگا کر اور سنبھل سنبھل کر آزمایا نہ گیا ہو۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب تلخ و تند، نرم گرم اور گفتنی ناگفتنی سارے ہی حربے ختم ہو گئے تو شاہ صاحب مع اپنے بہت سے شاگردوں کے دیوبند چھوڑ کر چلے گئے۔ شاگردوں میں دیوبند کے طلباء ہی نہیں بڑے بڑے علماء، فضلاء اور اساتذہ تھے۔ مدرسہ دیوبند کے لیے یہ وقت معمولی نہیں بلکہ بہت نازک تھا اور چوٹ ہلکی نہیں بلکہ ضرب کاری تھی۔ یہ خطرہ حقیقت بن کر نظر آ رہا تھا کہ مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بچ کر رہے گی۔ صدر مدرس اور پھر شاہ صاحب جیسے صدر مدرس اور شیخ حدیث، اساتذہ کرام، اور طلباء کی ایک بڑی جماعت الگ ہوئی تو پورے ملک کے عوام و خواص میں بھینسی اور مدرسے کے خلاف اعتراضات و اختلافات کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت کی بڑی شخصیتیں مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی، مولانا حفظ الرحمن اور اس پایہ کے بہت سے اعیان، نیز اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی اور مضبوط جماعت تحریک خلافت شاہ صاحب کی ہمنوا تھی۔ ان حالات میں جیسی بھی بربادی ہو جاتی،

کم تھی اور جو کچھ بھی ہو جاتا متوقع تھا۔ مگر خوش قسمتی سے اس وقت مدرسہ کا اہتمام مولانا حبیب الرحمن عثمانی جیسے صاحب فہم و فراست، مردم شناس اور اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے مالک کے ہاتھوں میں تھا۔ آپ نے بلا کسی تاخیر اور تردد کے یہ فیصلہ کیا کہ اس نازک وقت میں مدرسہ کی گرتی ہوئی ساکھ اور ڈوبتے ہوئے نام کو کوئی ایسا ہی شخص بچا سکتا ہے جو اپنے وقت کا امام، تقویٰ اور شریعت و سنت میں مسلم اور فنا فی العلم بنی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں معروف و محبوب ہو۔ ان صفات سے پوری طرح متصف ذات ہمارے حضرت مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تھی جس پر انہوں نے اپنی بڑوں چھوٹوں، عوام اور خواص سب نے اتفاق کیا۔ ادھر سلہٹ میں حضرت کی علمی، تدریسی، روحانی اور ظاہری ترقیاں اور کامیابیاں دن بدن فروں تر ہو رہی تھیں۔ عوام و خواص پر روانہ دار عاشق اور فدا کار تھے۔ درس و تدریس کا حلقہ اور تشنگان معرفت و سلوک کی جماعت دن بدن بڑھتی ہی جاتی تھی۔ مگر جب دیوبند کی طرف سے صدر مدرس اور مندرجہ حدیث کی پیش کش کی گئی تو حضرت نے فیصلہ کیا کہ اب اس امانت کی ادائیگی کا وقت آپہنچا ہے جو شیخ الہند نے آپ کے سپرد کی تھی۔ دیوبند ہی میں رہ کر اس میدان کا رزار میں جہاد ہو سکتا تھا جو مجاہدین ۱۹۵۷ء آپ کے حوالے کر گئے تھے۔ تاہم چونکہ دیوبند اور اس کے اہتمام کے مزاج سے آپ پوری طرح واقف تھے۔ اپنے مشن اور جدوجہد آزادی کے تقاضے بھی آپ کے سامنے تھے۔ نیز ہندوستان میں قیام کا مقصد بھی متعین اور مقرر تھا اس لیے آپ نے دارالعلوم کے اہتمام کے سامنے حسب ذیل شرائط رکھیں۔

- (۱) سیاسی مسلک اور نظریات میں پوری آزادی ہوگی اور مدرسہ کو کسی اختلاف و اعتراض کا حق نہ ہوگا۔
- (۲) سیاسی سرگرمیوں اور تحریکات آزادی میں شرکت پر مدرسہ کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔
- (۳) ہر ماہ ایک ہفتہ بلا کسی رخصت اور منظوری کے سفر ہو سکے گا اور اس کی تنخواہ

وضع نہ ہوگی۔ وغیرہ وغیرہ۔

خود مدرسہ کو بھی ایسے ہی صاحب عزیمت و جرات، حامل شریعت و سنت مجاہد آزادی و سیاست کی ضرورت تھی۔ دیوبند والوں سے زیادہ حضرت کے مزاج، طبیعت اور نفسیات سے کون واقف ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ہر پہلو پر غور کر کے ہی آپ کو یہ پیش کش کی ہوگی چنانچہ پورے انشراح و انبساط کے ساتھ یہ شرائط منظور کر لی گئیں اور حضرت ۱۹۲۸ء میں دیوبند کی سند صدارت و حدیث پر تشریف لے آئے اور اس کے ساتھ وہ تمام خطرات، انتشار اور اضطراب جو وقتی طور پر پیدا ہو گیا تھا ختم ہو گیا اور موافقین و مخالفین کو جمعیت خاطر حاصل ہو گئی۔ ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہم نے تحریر فرمایا ہے کہ ”حضرت الاستاذ مولانا سید انور شاہ صاحب نے دارالعلوم چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس وقت دارالعلوم کی صدارت تدریس کے لیے کوئی شخصیت حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی سے زیادہ موزوں نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا کہ مولانا نے اس ذمہ داری کو قبول فرمایا۔“ اس کے ساتھ ہی ایک اور فاضل گرامی مولانا عبدالسلام صاحب قدوائی ندوی مرحوم کی تحریر بھی قابل ملاحظہ ہے۔ ”جب مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی مرحوم کے زمانہ میں دارالعلوم دیوبند میں عظیم الشان اسٹرائک ہوئی اور مولانا انور شاہ صاحب، مفتی عزیز الرحمن صاحب اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی وغیرہ نے دارالعلوم سے علیحدگی اختیار کر لی تو عرصہ تک اخبارات میں ان واقعات کا چرچا رہا۔ بعض اخبارات تو محض انہی مسائل پر بحث کے لیے نکالے گئے تھے۔ یہ اسٹرائک بڑی خطرناک تھی اور ڈر تھا کہ کہیں بزرگیوں کی یہ نصف صدی کی کسائی خاک میں نہ مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے بڑی حد تک محفوظ رکھا۔“

ایک طرف مولینا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں صد مدرس اور شیخ الحدیث کے منصب کو سنبھال لیا اور دوسری طرف بعض اہل خیر نے ڈا بجیل (گجرات) میں شاہ صاحب، ان کے رفقاء اور شاگردوں کو بلا کر ایک نئے علمی مرکز کی بنیاد رکھ دی ۱۱

اس موضوع پر مولینا عبدالحمی صاحب سابق ناظم ندوۃ العلماء لکھتے (والد ماجد مولینا علی میاں مدظلہم) کا بیان بھی قابل ملاحظہ ہے:

۱۳۴۶ھ میں جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے دیوبند کی مدد شیخ الحدیث سے استعفیٰ دیا تو ان کی جگہ پر مولینا حسین احمد مدنی کا انتخاب کیا گیا۔ آپ نے اسی قابلیت اور محدثانہ شان کے ساتھ تدریس حدیث کی خدمت کی انجام دی کہ دارالعلوم دیوبند کی شہرت اور مرکزیت بھی باقی دساری رہی اور مدرسہ پر عوام و خواص کا اعتماد برقرار رہا۔ تعلیم تدریس کی خدمات کے ساتھ حضرت مدنی سیاسی جدوجہد میں بھی اپنے بے مثال عزم و ہمت کے ساتھ دواں دواں رہے اور مسلمانوں میں غیرت و جہت نیز عزت نفس کی روح بیدار کی ۱۲

ظاہری اور سطحی نظر میں تو یہ منصب محض ایک صدر مدرس اور شیخ الحدیث کا تھا جس پر قدرت نے حضرت رحمۃ اللہ کو فائز و مامور فرما دیا تھا۔ مگر بنیادی اور حقیقی معنوں میں یہ وہ مقام تھا جس سے پورے ہندوستان بلکہ تمام دنیا میں صحیح اسلامی اسپرٹ اور عقائد کی تبلیغ اور قیادت ہوتی تھی۔ حکیم الاسلام مولینا قاری محمد طیب نے اس کے بارے میں لکھا ہے: "آپ (حضرت مولینا حسین احمد مدنی) کی شخصیت اس وقت دارالعلوم کے جس منصب پر فائز ہوئی وہ روایتی طور پر محض

۱۱۔ بیانات کراچی، مولینا بٹوری نمبر ۱ ص ۶۷

۱۲۔ مولینا عبدالحمی، نزہۃ الخواطر، مطبوعہ جدید آباد، ج ۸ ص ۱۱۱

مدرسے، صدر مدرس کا عہدہ نہیں بلکہ ایک عمومی قیادت کا عہدہ رہا ہے جس کی طرف رجوع عام ہوتا رہا ہے اور جس کے لیے ہمیشہ ایسی ہی ممتاز شخصیتیں منتخب ہوتی رہی ہیں۔

دیوبند کے اسلامی، علمی، اخلاقی، روحانی اور سیاسی مرکز سے حضرت نے ان تمام پہلوؤں سے جو خدمتیں انجام دیں اور جس طرح ملک و ملت کی قیادت فرمائی، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

ہندوستان کا ماحول - حضرت کا سیاسی مسلک

۱۹۳۶ء تک ہندوستانی عوام کی سیاست میں استحکام اور ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوا تھا۔ کانگریس تیز رفتاری کے ساتھ سرکاری اثرات اور حکومت کی ریشہ دوانیوں سے آزاد ہو رہی تھی۔ مگر مسلم لیگ آزادی اور حریت کی منزل کی جانب بڑھ جانے کے بعد آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ۱۹۲۷ء میں برطانیہ نے سر جان سائمن کی سربراہی میں ہندوستان کا دستور یا دستوری اصلاحات بنانے کے لیے ایک کمیشن بھیجا۔ یہ ہندوستانی تاریخ میں سائمن کمیشن کے نام سے مشہور ہے۔ ہندوستانی عوام اور انجمنوں نے اس کمیشن کی سخت مخالفت کی۔ جہاں جہاں بھی اس کمیشن کے اجتماعات ہوئے ہندوستان نے اس کے خلاف مظاہرے کیے، کالی جھنڈیاں دکھائیں اور سائمن کمیشن کو بیک کے نعرے لگائے۔ برطانیہ نے اس بائیکاٹ کو کچلنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، گرفتاریاں کیں، لاکھوں چارج کیا اور گولیاں چلائیں مگر نہ آزادی میں چور متوالوں نے اس تمام ظلم و ستم کو پرکھ کے برابر بھی وقعت نہ دی۔ اس جگہ پر یہ بات خوب ذہن نشین کر لیجیے کہ سائمن کمیشن کی مخالفت اور بائیکاٹ کرنے والوں میں کانگریس، مسلم لیگ اور جمعیۃ علماء، یہ تینوں جماعتیں برابر کی شریک تھیں۔ "دسمبر میں کانگریس کا اجلاس زیر صدارت ڈاکٹر مختار احمد انصاری منعقد ہوا جس میں کانگریس کا منزل مقصد مکمل قومی آزادی قرار پایا اور سائمن کمیشن سے بائیکاٹ کرنا پاس ہوا۔ اسی طرح پشاور میں جمعیۃ علماء نے بصدارت علامہ انور شاہ اولہ کلکتہ میں خلافت کانفرنس نے سائمن کمیشن سے بائیکاٹ کے ریزولیشن پاس کیے۔ اس بارے میں مسلم لیگ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ اور دسمبر ۱۹۲۷ء میں اس کا اجلاس زیر صدارت سر ذوالی محمد حقیوب منعقد ہوا اس میں سائمن کمیشن کے مقاطعہ کی قرارداد پاس ہوئی۔"

۱۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل از: مولانا طفیل احمد مظہری مرحوم

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقاطعہ کے لیے ملک کے مختلف مقامات پر دورے کیے اور یہ دلیل دی کہ ملک بہارا ہے، مسائل ہمارے ہیں، عوام ہمارے ہیں اور قانون اصلاحات انگریز اور برطانیہ بنا ہے، یہ کیسی مضحکہ خیز بات ہے۔ یہ تو سب کچھ تھا مگر مسلم لیگ میں ایک بہت طاقتور گروپ سر محمد شفیع کا تھا جو شفیع لیگ کے سربراہ تھے۔ یہ لیگ برطانیہ کی وفادار اور سائمن کمیشن کی موافق تھی۔ دوسرے نسبتاً کمزور گروہ کی سربراہی سر محمد علی جناح کے ہاتھ میں تھی جو ابھی تک کانگریس کے علی الاعلان مخالف نہ تھے۔ اور نیشنلسٹ خیالات کے اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشاں تھے۔ سر اسروجنی نائیڈو آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا پیغامبر کہا کرتی تھیں۔ ”دیکھنا یہ ہے کہ ۱۹۲۷ء اور ۱۹۲۸ء میں جناح صاحب ہندو مسلم مسئلہ کے حل کے لیے کس طرح کوشاں تھے۔ اس وقت گاندھی جی نے اپنی ساری توجہ اچھوت، غریبی اور نشہ آدریشا کے خلاف جدوجہد کے لیے وقف کر دی تھی۔ کانگریس کی سیاست یاسی لوگوں پر چھوڑ دی تھی چنانچہ کانگریس کے صدر سر سری نواس آئینگر، پنڈت مدن موہن مالویہ اور پنڈت موتی لال نہرو گورنمنٹ کی سنٹرل اسمبلی کے ممبر ہو گئے تھے۔ سی، آر، داس بھی بنگالی لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے نامزد ہو گئے تھے مگر وہ ۱۹۲۵ء میں اچانک فوت ہو گئے۔ جناح صاحب بھی سنٹرل اسمبلی کے ممبر تھے مگر ان لوگوں نے محسوس کیا کہ بغیر اتحاد و اتفاق کے اسمبلی میں ان کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ چنانچہ مولانا محمد علی، کانگریس کے سیاست دانوں اور بعض دوسرے مسلمانوں کی تائید سے جناح صاحب نے ۱۹۲۵-۲۶ء میں اتحاد کی پوری کوشش کی۔ اس بارے میں جناح صاحب کا مسلک معلوم کرنے کے لیے ایک اہم دستاویز بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مئی ۱۹۲۳ء میں لاہور مسلم لیگ کی صدارت کرتے ہوئے آپ نے کہا: ”مجھے یقین ہے کہ جس دن ہندو مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں گے اسی دن ہندوستان

کے ہاتھ میں ایک ڈومینین ذمہ دار حکومت آجائے گی۔ جناح صاحب کی اس تقریر پر گاندھی جی نے کہا تھا۔ "میں مسٹر جناح کی تائید کرتا ہوں۔ ہندو مسلم اتحاد ہی کے معنی سوراخ ہے۔"

اس کے بعد "۱۹۳۵ء میں آپ نے گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے اسمبلی میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہا۔ میں پہلے نیشنلسٹ ہوں اور بعد میں بھی نیشنلسٹ ہوں اور آخر میں بھی نیشنلسٹ ہوں۔"

انتخابات کا سوال بھی اختلافات کا ایک بڑا عنوان تھا۔ وہ افراد اور جماعتیں جو حکومت برطانیہ کے زیر اثر اور اس کے حاشیہ بردار تھے چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں مگر جداگانہ انتخاب کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اور اس مقصد کے حصول کے لیے وقتاً فوقتاً فرقہ وارانہ بلوے اور فساد کر رہے تھے۔ مگر مسٹر جناح ابھی تک مخلوط انتخاب ہی کے حامی تھے اور اس مقصد کے لیے آپس کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے آخری کوشش صرف کر رہے تھے۔ مگر پھر بھی اب وہ آہستہ آہستہ نیشنلزم سے، ہندو مسلم اتحاد سے اور کانگریس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ ہے اور دوسرے اسباب آئندہ باب میں آ رہے ہیں۔

"گو قومی ریاست کے نئے دور میں جو ۱۹۳۲ء سے شروع ہوا تھا جناح صاحب کا اثر عام طور پر ملک میں اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں میں بہت کم ہو گیا تھا، پھر بھی قریب قریب ہر پارٹی کے لوگوں کو ان کے حب وطن اور ان کی سیاسی سمجھ بوجھ پر پورا اعتماد تھا۔ چنانچہ مارچ ۱۹۲۷ء میں جب تیس مسلمان لیڈروں نے جن میں مختلف سیاسی خیالات کے لوگ شامل تھے دہلی میں جمع ہو کر فرقہ وارانہ مسئلہ پر غور کیا تو جناح صاحب جلسے کے صدر بنائے گئے اور اس میں جو تجویزیں منظور کی گئیں وہ مجموعی طور پر ان کے نقطہ نظر کے موافق تھیں، ان تجویزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ

۱۔ کہڑو لیتھو جناح دی کریٹیریاں پاکستان، مطبوعہ لندن، ص ۸۹۔ ایضاً، بحوالہ گاندھی اور جناح، مولفہ مریم، ص ۳۷۔

۲۔ ایضاً، بحوالہ ماڈرن مسلم انڈیا از اکرام، ص ۳۶۳۔

ہندوستان کے آئندہ دستور میں :

- (۱) آئین ساز مجلسوں کے لیے مخلوط حلقہ ہائے انتخاب ہوں گے مگر ہندو اور مسلمانوں کے لیے ایک مقرر تناسب کے اعتبار سے نشستیں محفوظ رکھی جائیں۔
- (۲) سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے مسلم اکثریت کا ایک نیا صوبہ بنایا جائے۔
- (۳) دو اور صوبوں کو جن میں مسلم اکثریت ہے یعنی شمالی مغربی سرحدی صوبہ اور بلوچستان کو سیاسی اصلاحات دی جائیں۔
- (۴) مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو ایک تہائی نشستیں دی جائیں۔
- (۵) مسلم اکثریت کے سب سے بڑے صوبوں پنجاب اور بنگال میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی نمائندگی ان کی آبادی کے تناسب سے ہو۔ جہاں تک اور صوبوں کا تعلق ہے مسلم اکثریت کے صوبوں میں کونسلوں میں نمائندگی اور نشستوں کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں ہندوؤں کو وہی رعایتیں دی جائیں جو مسلمانوں کو ہندو اکثریت کے صوبوں میں حاصل ہوں۔

انڈین نیشنل کانگریس نے اپنے اجلاس در اس دسمبر ۱۹۲۷ء میں ان تجاویز کو منظور کر لیا۔ اور اس ریزولیشن نے جو اس سلسلے میں پاس ہوا اس بات کی بھی ضمانت دی کہ ہر فرقے کو مذہبی عقیدہ و غل کی پوری آزادی ہوگی اور کوئی مسودہ قانون جس کا اثر ایک خاص فرقہ پر پڑتا ہو مجلس قانون ساز میں اس وقت تک نہیں پیش ہو سکے گا جب تک اس فرقہ کے منتخب شدہ ممبروں میں سے تین چوتھائی اس کے پیش کیے جانے پر رضامند نہ ہو جائیں گے۔

لیجی ہندو مسلم مسئلہ کا حل بھی پیش کر دیا گیا۔ مخلوط انتخاب بھی طے کر دیا گیا۔ دستور سازی کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی دور کر دی گئی۔ اور پھر کانگریس نے یہ تجویزیں منظور بھی کر لیں اور اس میں یہ بھی اضافہ کر دیا کہ کسی فرقے کے دو تہائی ممبروں کی منظوری کے بغیر کوئی مسودہ پیش بھی نہ ہو سکے گا۔ اب تو کوئی قضیہ، اختلاف اور اعتراض رہا ہی نہیں۔

کامیابی سامنے بلکہ ہاتھ ہی میں آگئی ہے۔ مگر یہ سیاست ہے، یہاں پل پل اور قدم قدم راستے، ارادے اور نیتیں داؤ پیچ بدلتی ہی رہتی ہیں۔ اوپر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے، اندر بالکل دوسری چیز ہوتی ہے۔

ہیں گو اک کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا

چنانچہ اس سب سے بڑی کوشش اور اتفاق و اتحاد کا حال بھی ملاحظہ فرمائیے۔ جناح صاحب کو شروع ہی سے اقلیتوں کا غم کھائے جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ”اگر اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت اور ضمانت قانونی طور پر پہلے سے طے نہ ہو جائے گی تو ایک طرف تو وہ ہمیشہ خوفزدہ رہیں گی کہ ان کے حقوق پامال کر دیئے جائیں گے۔ دوسری طرف اکثریتی فرقہ جبر و زیادتی میں کوئی ہتھیاک محسوس نہیں کرے گا اس لیے اگر ابھی سے اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہ کر دیئے گئے تو ملک میں طوائف الملوکی اور غارت گری پھیل جائے گی۔“ یہی نہیں بلکہ دوسرے مسلمان، اچھوت اور بعض دوسری جماعتیں بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ ”ہندوستان کی مختلف جماعتوں کے درمیان ایک معاہدہ آزادی پہلے سے طے ہو جائے ورنہ یہ آزادی کو دبا دے گی۔“ مگر کانگریس، نیشنلسٹ گروپ اور گاندھی جی کا خیال اس کے خلاف تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اقلیتوں اور مسلمانوں کا سلسلہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ ہم جب چاہیں گے بیٹھ کر اسے طے کر لیں گے اصل سوال اور کام غیر ملکی طاقت سے ملک کو آزاد کرانے کا ہے۔“ آزادی مل جائے گی تو اس کے آفتاب کی گرمی سے فرقہ دارانہ اختلافات کی چٹان خود بخود بگھل جائے گی۔“ یہ دھیان میں رہے کہ اختلاف صرف اسی نکتہ، اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق کی ضمانت اور حفاظت کا تھا ورنہ آزادی، اتحاد اور مخلوط انتخاب پر کانگریس مسلم لیگ، ہندو مسلمان، گاندھی جی اور جناح صاحب سب متفق تھے۔ قصہ مختصر کہ کانگریس نے اسی اجلاس میں جس میں جناح صاحب کی دلی والی تجاویز کو منظور کیا گیا تھا، سائمن کمیشن کے مقابلے پر دستوری اصلاحات کے لیے پنڈت موتی لال نہرو کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ جو تیار کی اور جس کا نام

نہرو رپورٹ سے مشہور ہوا اس میں جناح صاحب کی تجویز کردہ اور کانگریس کی منظور کردہ بلکہ پرزور تائید کردہ اصلاحات و تجاویز کو پورے طور سے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ کانگریس نے تو یہ رپورٹ منظور کی ہی "مولانا ابوالکلام آزاد اور ڈاکٹر انصاری نے بھی اسے منظور کیا۔" البتہ مسلم جماعتوں میں مولانا شوکت علی صدر خلافت کمیٹی اور مفتی کفایت اللہ صدر جمیعتہ علماء ہند نے اپنے اپنے بیانات دیئے جن میں بعض امور سے اختلاف کیا گیا تھا۔ اسی طرح پرنسپلٹ جو اہل لال نہرو اور مسٹر سمبھاس چندر بوس نے بھی مشروط طریقے پر نہرو رپورٹ کو منظور کیا۔

رپورٹ تیار ہونے اور کانگریس سے منظوری حاصل ہو جانے کے ایک سال بعد کلکتہ میں دسمبر ۱۹۲۰ء کو ایک آل پارٹیز کنونشن بلا یا گیا جس میں نہرو رپورٹ کو عام منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ مسلمانوں کو اور خاص طور پر مسٹر محمد علی جناح اور مولانا محمد علی کو توقع تھی کہ اس کنونشن میں کانگریس مسٹر جناح کی ذلی والی تجاویز کی تائید کرے گی۔ سرتیج بہادڑ سپرو نے کنونشن پر زور دیا کہ جناح صاحب کی تجاویز کے مطابق نہرو رپورٹ میں تبدیلی کر دی جائے کیونکہ "اگر یہ تجاویز نہ منظور کی گئیں تو ملک کو ایسی شدید چوٹ پہنچے گی کہ یہ زخم چوتھائی صدی تک مندمل نہ ہو سکے گا۔" مگر دوسری پارٹیوں، ہندو ہابسمبا، سکھوں کی جماعت وغیرہ نے تو ان کی مخالفت کی ہی، کانگریس نے بھی ان کے سارے دلائل رد کر دیئے۔ مجمع میں سبھی قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس میں ان پر ذاتی حملے بھی کیے گئے اور کہا گیا کہ مسٹر جناح کو مسلمانوں کی نمائندگی کا کوئی حق نہیں ہے۔ جناح صاحب کو اس واقعہ سے شدید صدمہ پہنچا اور وہ کنونشن سے واک آؤٹ کر گئے۔ اس موقع کا آنکھوں دیکھا حال جناح کے ایک پارسی دوست جشید نوشیرواں جی بیان کرتے ہیں۔

» مسٹر جناح انگلینڈ سے لائے ہوئے نہایت اعلیٰ درجہ کے لباس میں بولنے کے لیے کھڑے ہوئے اور انھوں نے اپنے دلائل پیش کیے۔ مگر ان کے تمام

مطالبات ایک ایک کر کے رد کر دیئے گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ مسٹر جناح مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں ان کو مسلمانوں کی طرف سے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جناح صاحب کو اس حقارت آمیز برتاؤ کا بہت صدمہ ہوا اور وہ اپنے ہوٹل چلے گئے۔ دوسرے دن وہ بذریعہ ٹرین کلکتہ سے روانہ ہو گئے۔ انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے اسٹیشن گیا تو وہ اپنے فٹ کلاس کے کیاٹمنٹ کا دروازہ پکڑے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جمشید! آج سے ہمارے راستے الگ ہوتے ہیں۔

بعد میں گاندھی جی نے مسٹر جناح سے اپنی معذرت پیش کی کہ ”میں تو مسلمانوں کے مطالبات منظور کرنے کو تیار تھا مگر سکھوں نے اعلان کر دیا کہ اگر نہرو رپورٹ میں کوئی تبدیلی کی گئی تو ہم اس کانفرنس سے الگ ہو جائیں گے۔“

واقعات تو پہلے بھی پیش آتے ہی رہے تھے۔ اختلافات بھی ہوتے رہے تھے اور جھگڑے فساد بھی چلتے ہی رہے تھے مگر ہندو مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں یہ تصور پہلی مرتبہ سامنے آ رہا تھا اور یہ پہلا موقع تھا جب ہندو مسلم اتحاد کی بنیادیں اور جڑیں بل رہی تھیں۔ جو دھرمی خلیق الزماں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ”اس واقعہ سے ملک کی قسمت پر ہر لگ گئی اور ہندو سیاستدانوں کی تنگ نظری کا مقابلہ نہ ہی ہو سکا۔“

اس کے دو ہی سال بعد ۱۹۳۱ء میں انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس زیر صدارت پنڈت جواہر لال نہرو لاہور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں طے کیا گیا کہ ”کامل آزادی کی تجویز پاس کی جائے اور نہرو رپورٹ کی قرارداد کو منسوخ کر کے کہا گیا کہ اسے دریائے راوی میں غرق کر دیا گیا۔“ یہ خود تو غرق ہی ہو گئی مگر ملک کی تقسیم کا سنگ بنیاد رکھ گئی۔

۱۔ لہ پبلر بلیٹو۔ جناح، ص ۹۲

۲۔ ص ۹۲

۳۔ خلیق الزماں، شاہراہ پاکستان، ص ۹۸

۴۔ روشن مستقبل ص ۳۰۲

لڑاؤ اور حکومت کرو

برطانوی حکومت نے اپنے زمانے کی بالکل ہی ابتدا ہی میں یہ راز پایا تھا کہ ہندوستان میں جاسوسوں، سازشوں اور رشوت کے زور پر قبضہ کیا اور باقی رکھا جاسکتا ہے۔ مگر سن ۱۹۱۹ء کے شروع ہوتے ہوتے ہندوستان کے عوام اس قدر بیدار ہو گئے تھے کہ حکومت برطانیہ کی چولیس ڈھیلی بونی شروع ہو گئیں۔ تمام ہندوستانی چاہے کسی بھی مذہب اور فرقے کے ہوں آپس میں شکر و شکر کی طرح متحد ہو گئے۔ پورا ملک اپنائیت اور بھائی چارہ کی نفاذ سرشار تھا۔ ہندو اللہ اکبر کا نعروں لگاتے تھے، مسلمان سھارت ماتا کی جے پکارتے تھے۔ ہندو عید بقرعید میں شریک ہوتے تھے، مسلمان دسہرہ اور رام نو می کے تیوہاروں میں جاتے تھے۔ ہندو مسلمانوں کو مندروں میں لے جاتے تھے، مسلمان ہندوؤں کو مسجد کے منبر پر کھڑا کرتے تھے۔

”حسبِ تحریک آل انڈیا مسلم کانفرنس انجمن اسلامیہ نے، ۱۹ اکتوبر ۱۹۱۹ء کو جامع مسجد میں دعا کا انتظام اور خلافت ڈے کے اظہارِ درد و غم کو عملی صورت میں لانے کے واسطے ۱۲ اکتوبر کو بوقت ۵ بجے شام ہندو مسلمانوں کا ایک جلسہ منعقد ہوا تو اس میں بڑی تعداد میں ہندو شریک ہوئے۔ چنانچہ ۱۱ اکتوبر کو تمام ہندو مسلمانوں نے اپنے اپنے کاروبار اور دکائیں بند رکھیں اور جب مجمع نے درود شریف اور استغفار کا ورد کیا اور سب ننگے سر با دیدہ پر ہم دعا کے لیے کھڑے ہوئے تو کثیر تعداد میں ہندو بھائی بھی شریک ہوئے۔ بالو بھجے چرن وکیل، جگد مہا پرشاد وکیل، نولکشور وکیل اور بہت سے معززین نے تحریکِ خلافت میں ہندوؤں کی شرکت کا یقین دلایا۔“

”دوسری خلافت کانفرنس بمقام دتی زیر صدارت مولوی فضل الحق کے سلسلے میں ۲۳ نومبر ۱۹۱۹ء کے متحدہ اجلاس کا حال اخبارات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے،

صدیوں کی تند دتیز ہواؤں کے مقابلے میں بھی ثابت قدم رہتی چلی آئی تھی چنہ سہی دنوں میں حکومت برطانیہ کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کا شکار ہو گئی۔ پوری تفصیلاً اور طویل واقعات اور اقتباسات پیش کرنے کے لیے تو الگ ہی دفتر چاہیے۔ اس مختصر صحبت میں تو ہم چند مختصر ہی سے دلائل اور شواہد پیش کر سکتے ہیں۔ بہت پہلے سے انگریزوں نے اپنی عافیت کے بارے میں خطرہ محسوس کرنا اور اس کے علاج کی تلاش شروع کر دی تھی۔

ایک تاریخی واقعہ ملاحظہ فرمائیے :

”لارڈ منٹون نے جو کوزن کے بعد وائسرائے ہو کر آئے تھے، تقسیم بنگال سے پیدا ہونے والی فرقہ وارانہ کشیدگی سے پورا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں میں تفرقہ بندی کی تحریک کو فروغ دینے کے لیے فرقہ وارانہ نمائندگی کا کارگر نسخہ تجویز کیا۔ انھوں نے یہ دکھانے کے لیے کہ جداگانہ انتخاب کا طریقہ مسلمانوں کے مطالبے پر جاری کیا جا رہا ہے، بڑا اہتمام کیا۔ علی گڑھ کالج کے پرنسپل آرچیولڈ کے ذریعے سے نواب محسن الملک کو جو سرسید کے جانشین تھے، خفیہ پیغام بھجوایا کہ وہ سربراہ آوردہ مسلمانوں کا ایک ڈیپارٹمنٹ لے کر وائسرائے کے پاس آئیں اور اپنے فرقے کے لیے رعایتیں طلب کریں جن میں یہ دو مطالبے بھی شامل ہوں کہ مسلمانوں کو ملازمتوں اور کونسلوں میں معقول تعداد میں نامزدگی کے ذریعے لیا جائے۔ اور جہاں انتخاب ضروری ہو وہاں جداگانہ انتخابی حلقے رکھے جائیں جن میں مسلمان امیدوار صرف مسلمانوں کے ووٹ سے منتخب ہو۔ چنانچہ بقول مولانا محمد علی کے یہ ”فرمائشی تماشہ“ شملے میں کیا گیا۔ یکم اکتوبر ۱۹۰۶ء کو نواب محسن الملک ایک عرضداشت پر ملک کے مختلف حصوں سے چار ہزار مسلمانوں کے دستخط لے کر ۳۵ سربراہ آوردہ مسلمان زمینداروں، تعلقہ داروں اور وکیلوں کے ایک وفد کے ساتھ وائسرائے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وائسرائے نے ان کی معروضات کو ”بہر دومی“ کے ساتھ سنا اور واقع وعدہ کیا کہ نئی تنظیم میں جداگانہ انتخاب کے ذریعے مسلمانوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ شملے کے سرکاری حلقوں میں اسے سجا طور پر ایک تاریخی اہمیت

کا واقعہ سمجھا گیا۔ دائرے کی بیوی کو کسی سرکاری افسر نے ایک خط میں لکھا:

”یوراکسیلنسی کو اس مختصر سے عرصے میں یہ اطلاع دینی ضروری ہے کہ آج ایک بڑی بات ہوئی، ایک مدبرانہ کارنامہ۔ جس کا اثر ہندوستان پر اور تاریخ ہندوستان پر مدتوں تک رہے گا۔ یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ ہندوستان کے چھ کروڑ تیس لاکھ انسانوں کو بغاوت کیش مخالفوں کی صف میں شامل ہونے سے روک لیا گیا“ (واضح رہے کہ ۱۹۰۷ء میں ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد چھ کروڑ تیس لاکھ تھی)۔

اس واقعے کے تین جینے کے اندر مسلمانوں کی ایک جداگانہ سیاسی انجمن قائم کرنے کا کام جو نواب وقار الملک اور دوسرے لیڈروں کی کوششوں کے باوجود کئی برس سے نہیں ہو سکا تھا۔ حکومت کے فیضان سے آسانی انجام پا گیا۔ دسمبر ۱۹۰۷ء میں ڈھاکہ میں سربراہ اور وہ مسلمانوں کے ایک جلسے میں جو نواب وقار الملک کی صدارت میں ہوا، آل انڈیا مسلم لیگ قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس طرح مسلم فرقہ پروری کی سیاسی تحریک جو سرسید کے ہاتھوں کامیاب نہیں ہوئی تھی، ان کے جانشینوں کے ہاتھوں پروان چڑھی۔ ان اقتباسات میں ایک تذکرہ رہ گیا کہ اس سلسلے میں جناب آغا جان کی سرگرمیاں پیش پیش تھیں اور وہ مسلم لیگ کے ابتدائی دور میں بڑی مدت تک اس کے صدر رہے۔ یہ بھی ایک لمبی اور طویل کہانی ہے کہ آغا جان، سرسید اور ان کے ساتھی حکومت برطانیہ کی وفاداری اور اس کی پالیسیوں اور ملک میں اس کی جرمیں مضبوط کرنے کے لیے کس کس طرح حق نمک ادا کرتے رہے اور کس طرح سرسید کالج کی پرنسپل کے لیے مشربیک، مشربین اور مسٹر آرچبولڈ جیسے انگریزوں کو انگلیں سے لائے اور ان لوگوں نے مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رکھنے کے لیے کس طریقے سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ کالج کے ہندوستانی اور مسلمان ذمہ داران اگر ان انگریزوں کی پالیسی اور سیاست سے ذرا اختلاف کرتے تھے تو ان کو ممبری اور کالج کی عہدہ داری سے استعفیٰ دینا پڑتا تھا۔ یہ سارے حقائق ڈھکے چھپے راز نہیں ہیں۔ اس زمانے کی تاریخ، ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ذرا غور کیا جائے

اور انصاف پسند نظروں سے دیکھا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اگر برطانوی حکومت کی پالیسیاں بلکہ سازشیں دونوں قوموں کو لڑانے کے لیے کام میں نہ آتیں تو اختلاف کی خلیج اتنی وسیع نہیں تھی کہ اسے پاٹنا مشکل ہوتا۔ بہر حال اب معاملے کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالیں۔

”۱۹۱۸ء تک کے ان بلوؤں نے جو جنگ عظیم اور خلافت کے زمانے میں ہوئے تھے ہندو مسلم اتحاد کو توڑا نہیں تھا اور اُس اتحاد کے پختہ ہو جانے پر سیتہ گرد، ہجرت اور ترک موالات کی تحریکیں چلی تھیں جب گورنمنٹ نے ہندو مسلمانوں کے مشترک جلسوں اور جلسوں کو دباناجایا تو اس کے خلاف ہوتے ہوئے ہندو مسلمان اور بھی متحد ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ چوراچوری کے واقعے کے بعد ۱۹۲۳ء میں وائسرائے نے ترک موالات کے ایک بڑے ہندو لیڈر سوامی شر دھانند کو جو اس وقت جیل میں تھے بلا کر گفتگو کی اور اس گفتگو کے بعد جو سیغہ راز میں رہی، ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہی شر دھانند نے مسلمانوں کی شدھی کا کام شروع کر دیا۔ اُسی زمانے میں ڈاکٹر مونجے نے سنگھٹن قائم کی، جو خالص ہندوؤں کی جماعت تھی۔ شدھی اور سنگھٹن چونکہ کانگریسی لیڈروں کے ہاتھوں شروع ہوئی تھیں اس لیے ملک میں طرح طرح کی چھی گویاں اور بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں۔ اسی زمانے میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس علی گڑھ میں میاں فضل حسین وزیر تعلیم پنجاب نے اپنے خطبہ صدارت میں مسلمانوں کو نہ ترغیب دی کہ وہ اچھوتوں میں تبلیغ اسلام کریں۔ اس پر اخبار البشیر اٹا وہ نے اعتراض کیا کہ اس خالص تعلیمی جلسے کے قواعد و مقاصد کے خلاف ایک سرکاری عہدہ دار نے ایک خالص مذہبی مسئلہ کیوں چھیڑا۔ اور اس پر اپنے شبہ کا اظہار کیا۔ جو بالآخر صحیح نکلا کیونکہ اس کے بعد ہی فوراً ہندو مسلمانوں کی طرف سے ملک میں شدھی اور تبلیغ کا دور دورہ ہو گیا اور پھر جو بلوے ہونے شروع ہوئے ہیں تو انھیں کوئی قوت روکنے والی نہ تھی۔“

اس باب کو ختم کرنے سے پہلے آخر میں ان تمام سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا مقصد معلوم کرنا ضروری ہے۔ ۱۹۳۱ء کے اخبارات سے پتہ چلا کہ مشر پلوڈن حج ممالک متحدہ نے اپنے ایک دوست کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ”مدت سے ہندستان کی صورت حال قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ ہم نیم پارلیمنٹری حکومت کا دورہ کر چکے ہیں جو برطانوی افسران کے بغیر نہیں مل سکتی۔ برطانوی افسر زیادہ عرصہ تک نہیں رہیں گے۔ سول سروس کے تمام شعبے یہاں تک ہندوستانیوں سے بھر دیئے گئے ہیں اور بھرے جا رہے ہیں کہ آئندہ چند سالوں میں ان میں ڈھونڈے سے بھی انگریز کا نام نہ ملے گا۔ میں ان حالات میں ہندوستان کے مسئلے کا ایک ہی حل دیکھتا ہوں کہ اسے ہندو اور مسلمان دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ آئرلینڈ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کا تنازعہ ختم کرنے کے لیے ۳۵ سال کی مسلسل پارلیمنٹری جنگ کے بعد ایسا ہی کرنا پڑا تھا۔ ہندوؤں نے ہمیں ہندوستان کے ساتھ کاروبار کرنے سے روک دیا ہے۔ اب ہمیں مالیہ معاف کر دینا پڑا ہے تاکہ کاشتکار زندہ رہ سکیں۔ یہ ایک نہایت ہی یاس انگیز صورت حال ہے۔ اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس تعفن کو پھیلنے سے روک دیا جائے اور قدرتی تقسیم کے مطابق ملک کے حصے کر دیئے جائیں۔ اگر ہندوستانی کاروبار تجارت نہیں کرنے دیں گے تو بمبئی کی جگہ کراچی شہر تجارتی بندرگاہ کا کام دے سکتا ہے۔ یہ

ان حالات اور واقعات کے پیش نظر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہندو مسلم تفرقہ کو ایک تیسری طاقت اور ریاست نیز سازش کا نتیجہ سمجھتے تھے، انھیں یقین تھا کہ اس اختلاف کے ذریعے سے برطانوی یا مغربی سامراج ایشیا میں اپنے استعماری پنجے گاڑے رکھنے کی تدبیر کر رہا ہے۔ اگر اس کی یہ چال کارگر ہوگئی اور ہندو مسلمان میں یک جہتی اور ہم آہنگی نہ پیدا ہو سکی تو مغربی طاقتوں کو ایشیا میں اپنا مرکز اور اڈہ برقرار رکھنے کا ذریعہ ہاتھ آجائے گا۔ اپنے اسی خیال اور نظریہ کے مطابق ان لوگوں نے اپنی ساری سیاسی جدوجہد ہندو مسلم اتحاد اور ہندستان کی سالمیت اور آزادی کے لیے وقف کر دیں۔

جمیعتہ علماء اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سرگرمیاں

گذشتہ صفحات میں گذر چکا ہے کہ جمیعتہ علماء ہند بنیادی طور پر ملک کی آزادی اڈ اہل ملک میں اتحاد و اتفاق کی حامی تھی۔ مگر ابھی تک اس کا قانونی رابطہ اور پالیسی میں اتفاق کانگریس کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اس لیے کہ وہ بلا کسی شرط کے مکمل آزادی کی طلبہ دار تھی۔ اور حکومت برطانیہ کے ساتھ ہر قسم کے اشتراک اور اس سے کسی قسم کی رعایت حاصل کرنے کے خلاف تھی۔ یہ ان علمائے دین کی جماعت تھی جنہوں نے زندگی سکھ اور چین نیز دنیا کی راحتیں اور آرام سب کچھ قوم اور ملک کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ یہ برطانیہ کے ساتھ کانفرنسوں، اسمبلیوں اور ممبروں کو نہ صرف یہ کہ غلط بلکہ قومی مصالح کے لیے ناجائز سمجھتے تھے۔ کانگریس، مسلم لیگ، خلافت کمیٹی آل پارٹیز کانفرنس اور اس قسم کی دوسری چھوٹی بڑی جماعتیں حکومت برطانیہ کے ساتھ مشورے بھی کرتے تھے، ان کی اسمبلیوں کے ممبر بھی بنتے تھے، وزارتیں بھی حاصل کرتے تھے، لندن کے سفر اور گول میز کانفرنسوں میں شرکت بھی کرتے تھے، وائسرائے کے یہاں بھی بنتے تھے اور بڑے بڑے انگریز عہدہ داروں اور افسران کے ساتھ پارٹیوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے ان کی سرگرمیوں کا نقشہ بڑے بلیغ انداز میں کھینچا تھا۔

کام لیڈر کو بہت ہیں مگر آرام کے ساتھ

قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ

مگر جمیعتہ علماء نے بہت دن پہلے اپنے جو تھے اجلاس بمقام لاہور ۱۹۳۵ء میں یہ تجویز پاس کی کہ حکومت برطانیہ کی کونسلوں کی ممبری حرام ہے۔ اور ۱۹۳۶ء میں اپنے اجلاس بمقام کلکتہ میں مکمل آزادی کا یہ ریزولیشن پاس کیا۔ ”چونکہ برادران وطن کے

مخالفانہ طرزِ عمل سے منافرت کی خلیج وسیع ہو رہی ہے اس لیے مسلمان اپنی تنظیم کر کے اپنے بل بوتے پر ملک کو آزاد کرائیں۔ البتہ جو غیر مسلم حضرات اس بارے میں اتحادِ عمل کرنا چاہیں ان کے ساتھ اتحادِ عمل کیا جائے ۱۱

اس کے بعد ملک کی مختلف مسلم سیاسی جماعتوں نے جمیعتہ علماء کے اس مسلک سے اتفاق کرتے ہوئے اپنی ایک متحدہ تنظیم نیشنلسٹ مسلم کانفرنس کے نام سے قائم کی۔ لیکن اس کی سربراہی اور رہنمائی جمیعتہ علماء ہی کے ہاتھ میں رہی۔ کانگریس بڑی تیزی کے ساتھ مکمل آزادی کی طرف آرہی تھی اس لیے جمیعتہ علماء اور نیشنلسٹ مسلمانوں میں بڑی حد تک فکری اور سیاسی ہم آہنگی مضبوط ہوتی گئی۔

» ۱۹۲۹ء میں مولینا ابوالکلام آزاد نے تیس دوسرے قوم پرور مسلمان لیڈروں کے ساتھ نیشنلسٹ مسلم کانفرنس قائم کی۔ اگرچہ ان کی سرگرمیوں کا اصل مرکز بدستور کانگریس کا کام رہا۔ نیشنلسٹ مسلم کانفرنس اپنی کوئی مستقل جداگانہ تنظیم قائم نہیں کر سکی لیکن قوم پرور مسلمانوں کی مختلف جماعتوں جمیعتہ علماء، شیعہ پولیٹیکل کانفرنس، مجلس احرار اور خان عبدالغفار خاں کی تنظیم کے لیے مشترک پلیٹ فارم کا کام دیتی رہی ۱۲

تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے یہ ضرور دھیان میں رہے کہ جمیعتہ علماء کی جدوجہد آزادی اور دوسرے مسلمانوں کی سرگرمیاں اس وقت سے پہلے شروع ہو گئی تھیں جب کانگریس نے آزادی کا ریزولیشن پاس کیا۔ ۳۱ دسمبر ۱۹۲۹ء کی رات تھی۔ جب گھردیال نے آدھی رات کا گجر بجایا۔ اور پرانے سال نے نئے سال کے لیے جگہ خالی کرنے کو رخت باندھا تو آزادی اور اس کے لیے جدوجہد کا ریزولیشن کانگریس کے ہزار ہا نمائندوں کے مجمع میں تقریباً اتفاق رائے سے پاس کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے مخالفت میں آواز اٹھائی مگر ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی ۱۳

۱۱۔ روشن مستقبل، ص ۲۹۰۔ ۱۲۔ ہندوستانی مسلمان، عابد حسین، ص ۱۴۷۔ ۱۳۔ جواہر لال نہرو آؤٹ لائیکرانی، ص ۲۰۱۔

تیسری گرفتاری جمیعتہ علماء اور کانگریس میں اتحاد فکر

حضرت کی سیاسی سرگرمیوں کا اہل مرکز اور پلیٹ فارم شروع سے آخر تک جمیعتہ علماء ہی رہی۔ فکر اور پالیسی کے اتحاد کا موقع آیا تو حضرت کانگریس کے بھی ممبر ہوئے اور بعض دوسری جماعتوں کے مؤید و مددگار بھی رہے مگر اساسی اور اصولی طور پر نہ صرف یہ کہ جمیعتہ کے ممبر رہے بلکہ اپنی ابتدائی سیاسی زندگی کے وقت سے اس کی قیادت اور سرپرستی کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ ہر چند کہ علماء کرام کی یہ جماعت اپنے سیاسی نظریات کی بنا پر کانگریس سے کافی حد تک ہم آہنگ تھی مگر ان دونوں کے درمیان اختلاف رائے کے نکات بھی موجود تھے۔ ملک کی دوسری جماعتوں مسلم لیگ، خلافت کمیٹی آل پارٹیز وغیرہ کی طرح کانگریس اور اس کے افراد بھی برطانوی ہندوستان کی اسمبلیوں کی ممبری قبول کرتے تھے۔ حکومت کے ساتھ مشورے اور مینٹلنگ کرتے تھے، وزارتیں بناتے تھے، لندن کے سفر اور گول میز کانفرنسوں میں شرکت کرتے تھے، وائسرائے کی اور دوسرے انگریز افسروں کی پارٹیوں میں حاضر ہوتے تھے۔ ان سرگرمیوں کا نقشہ حضرت اکبر الہ آبادی نے بڑے بلیغ انداز میں کھینچا تھا۔ حکم لیڈر کو بہت ہی مگر آرام کے ساتھ۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، اس کے برخلاف جمیعتہ علماء ان بے غرض، بے نفس اور بے خوف علماء کی جماعت تھی جنہوں نے زندگی کے سارے ہی سکھ چین، دنیا کی سب راحتیں و آرام اور گھر بار کے تمام عیش و عشرت غرض سب ہی کچھ ملک اور قوم کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیئے تھے۔ یہ حضرات برطانیہ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کو ان کی کونسلوں کی ممبریوں کو اور ان کی حکومتوں کی وزارتوں کو نہ صرف بے فائدہ اور ضیاع وقت بلکہ قومی مصالح کے لئے ناجائز قرار دیتے تھے۔ جمیعتہ علماء ہند نے اپنے چوتھے اجلاس منعقدہ لاہور میں یہ تجویز پاس کر دی تھی کہ برطانیہ کی کونسلوں کی ممبری حرام ہے۔

علماء کرام نے اب تک جو جدوجہد کی تھی، جو قربانیاں دی تھیں اور جو جہاد کیا تھا وہ محض وجہ اللہ اور اپنے بل بوتے پر کیا تھا اور اس باب میں کسی کی تائید یا تنقید کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ آزادی وطن کے لئے اتحاد و فکر کے باوجود جس موقع پر اور جہاں بھی ضرورت ہوئی ان لوگوں نے کانگریس سے کھل کر اختلاف کیا۔ نہرو رپورٹ کے مسئلہ پر ایک مدت تک جمیۃ علماء اور کانگریس میں اختلاف رہا اور جمیۃ کے صدر مفتی کفایت اللہ نے رپورٹ کے خلاف بیان دیا۔ ۱۹۲۵ء میں ایک مسودہ قانون شادرا ایکٹ کے عنوان سے پیش ہوا جس کی رو سے نابالغ لڑکی کا نکاح خلاف قانون قرار دیا گیا۔ اس قانون کا مقصد ہندو عورتوں کی حفاظت تھا جن کی شادیاں چار پانچ برس کی عمر میں ہو جاتی تھیں۔ پانچ چھ برس کا شوہر کبھی کبھی بچپن ہی میں داغ مفارقت دے کر چھ سات برس کی بچی کو بیوہ کر جاتا تھا۔ اور پھر اس بچی کو پہاڑ ایسی زندگی ایک ہندو بیوہ کے قانون کے رو سے سسک سسک کر گزارنی پڑتی تھی۔ ہندو عورت کے لئے یہ بل مفید تھا مگر اسلامی شریعت میں اس بل سے بے جا دخل اندازی اور مخالفت ہوتی تھی۔ کانگریس نے اس کی حمایت کی مگر جمیۃ علماء نے پوری قوت کے ساتھ مخالفت کی اور اس کے خلاف جلسے اور مظاہرے کئے، بعض امور میں کانگریس کی طرف سے کھل کر مسلمانوں کے مفاد پر زور پڑتی تھی۔ جمیۃ علماء نے علی الاعلان ایسے معاملات پر نکتہ چینی کی اور کانگریس کے رویہ پر اظہار ناراضگی کیا۔ کانگریس برطانیہ کے ساتھ گفت و شنید اور اصلاحات کے مراحل میں تھی جب جمیۃ علماء نے آزادی کامل کا مطالبہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ اگر ہندو مسلمانوں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ نہیں کر سکتا تو مسلمانوں کو اپنا راستہ خود تلاش کرنا چاہیے۔ ۱۹۲۶ء میں جمیۃ نے اپنے اجلاس کلکتہ میں یہ ریزولیشن پاس کیا، ”چونکہ برادران وطن کے مخالفانہ طرز عمل سے منافرت کی خلیج وسیع ہو رہی ہے اس لئے مسلمان منظم ہو کر اپنے بل بوتے پر ملک کو آزاد کرائیں۔ البتہ جو غیر مسلم حضرات اس بارے میں اتحاد عمل کرنا چاہیں ان کے ساتھ اتحاد عمل کیا جائے۔“

جمیۃ کی اس آواز پر ملک کی ساری ہی حریت پسند اسلامی جماعتوں نے لبیک کہا اور سب نے مل کر متحدہ فکر اور مقصد کے تحت پلیٹ فارم نیشنلسٹ مسلم تنظیم کے نام سے قائم کیا۔ اس تنظیم کی قیادت اور مرکزیت جمیۃ علماء ہند ہی کی ذمہ داری رہی۔ ڈاکٹر عبد حسین صاحب نے اپنی جس رائے کا اظہار کیا ہے راقم الحروف کے مشاہدے کے مطابق اس میں کسی قدر ترمیم ہونی چاہیے۔ نیشنلسٹ مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری اور ظاہری تنظیم بے شک نہیں تھی مگر عمومی طور پر اس میں شریک ساری ہی انجمنیں منظم اور متحد تھیں۔ دوسرے یہ کہ ان کی سرگرمیاں کانگریس سے اس وقت ہم آہنگ ہوئیں جب اس نے ۱۹۲۹ء میں مکمل آزادی کا ریزولیشن پاس کیا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:

”۱۹۲۹ء میں مولانا ابوالکلام آزاد نے تیس دوسرے قوم پرور مسلمان لیڈروں کے ساتھ مل کر نیشنلسٹ مسلم کانفرنس قائم کی۔ اگرچہ ان کی سرگرمیوں کا مرکز برستور کانگریس کا کام رہا، نیشنلسٹ مسلم کانفرنس اپنی کوئی مستقل جداگانہ تنظیم نہیں قائم کر سکی۔ اور قوم پرور مسلمانوں کی مختلف جماعتوں، جمیۃ علماء، شیعہ پولیٹیکل کانفرنس، مجلس احرار اور خان عبدالغفار خاں کی تنظیم کے لئے مشترک پلیٹ فارم کا کام دیتی رہی۔“

اسی سال میں ۳۱ دسمبر ۱۹۲۹ء کو رات کے ۱۲ بجے کانگریس نے آزادی کا ریزولیشن پاس کیا۔ یہ واقعہ ریزولیشن پیش کرنے اور اُسے پاس کرانے والے ہی کی زبانی سن لیجیے:

”۳۱ دسمبر ۱۹۲۹ء کی رات کو جب گھڑیال نے آدھی رات کا گرج بجا یا اور پرانے سال نئے سال کے لئے جگہ خالی کرنے کے لئے رخت سفر باندھا اس وقت کانگریس کے ہزار ہا نمائندوں کے مجمع نے اتفاق رائے سے آزادی اور اس کے لئے جدوجہد کا ریزولیشن پاس کیا۔ کچھ لوگوں نے مخالفت میں بھی آواز اٹھانی چاہی۔ مگر وہ تعداد میں اتنے کم تھے کہ ان کی آواز بک رہ گئی۔“

اس پالیسی اور مکمل آزادی کی سیاست پر گامزن دیکھ لینے کے بعد ہی جمیۃ علماء اور

نیشنلسٹ مسلمانوں نے کانگریس کے ساتھ مکمل اتحادِ عمل اختیار کیا۔ ورنہ اس سے پہلے بعض مسائل میں اختلاف و اعتراض کی نوبت آتی ہی رہتی تھی۔ جمیۃ علماء نے ایک ریزولوشن کے ذریعہ یہ طے کیا کہ مسلمان جنگِ آزادی میں کانگریس کے دوش بدوش برابر کا حصہ لیں۔ یہ ریزولوشن جمیۃ کے اجلاسِ امر وہہ میں پاس ہوا اور اس اجلاس کے صدر حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اگرچہ اس وقت جمیۃ کے مستقل صدر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب تھے مگر حضرت رحمۃ اللہ جنگِ آزادی کے میدانوں میں جمیۃ کے لیے روح رواں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی لیے یہ تاریخی فیصلہ آپ ہی کی زیرِ صدارت عمل میں آیا۔

۱۹۳۲ء میں دونوں جماعتیں کانگریس اور جمیۃ علماء خلاتِ قانون قرار دی گئیں تو جمیۃ علماء نے مجلسِ عالمہ کی جگہ جماعت کو متحرک رکھنے کے لئے ڈکٹیٹر مقرر کئے۔ ان میں تیسرے ڈکٹیٹر حضرت رحمۃ اللہ منتخب ہوئے۔ پہلے دو صاحبان حضرت مفتی صاحب صدر جمیۃ اور مولینا احمد سعید صاحب ناظم اعلیٰ تھے۔ ڈکٹیٹر صاحبان مقررہ پروگرام کے مطابق جلسہ میں تحریکِ سول نافرمانی کی حمایت میں تقریر کرتے تھے اور مطبوعہ پمفلٹ تقسیم کرتے تھے۔ اور تقریر ختم ہوتے ہی گرفتار کر لئے جاتے تھے۔ چنانچہ اسی پروگرام کے مطابق حضرت رحمۃ اللہ سول نافرمانی کے لئے دیوبند سے روانہ ہوئے تاکہ دہلی پہنچ کر نماز جمعہ کے بعد جامع مسجد میں تقریر کر سکیں۔ گورنمنٹ کی نگاہوں میں حضرت کی سول نافرمانی اور تقریر کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ خطروہ تھا کہ آپ کی آواز پر لاکھوں مسلمان بلکہ ہندو بھی گرفتاری دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ اور صورتِ حالات حکومت کے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ آپ کی محبوبیت، مقبولیت اور عظمت و عزیمت کا حکومت کئی بار مشاہدہ و تجربہ کر چکی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی ٹرین حضرت کو لے کر روانہ ہوئی۔ دوسرے یا تیسرے ہی اسٹیشن مظفرنگر پر مسلح گارڈ نے پوری گاڑی کا محاصرہ کر لیا۔ اُس وقت حضرت کے پیروں میں زخم یا پھنسیوں کی تکلیف تھی اور زیادہ درد چلنا متعذر تھا۔ مگر اسی حالت میں آپ

اپنے پروگرام کی تکمیل اور گرفتاری کے لئے میدان جہاد کی طرٹ روانہ ہو گئے تھے۔ افسران حکومت نے وارنٹ گرفتاری پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وارنٹ سہارن پور کی کلکٹری سے جاری ہوا ہے اور میں اس وقت اس کی حدود سے باہر ہوں اس لئے وارنٹ میرے اوپر تعمیل نہیں ہو سکتا۔ حکومت نے گرفتاری کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اسی وقت دوسرا وارنٹ جاری کرایا گیا اور حضرت کی گرفتاری عمل میں آئی۔ یہ حضرت کی تیسری قید تھی جو صرف ایک یا ڈیڑھ ہفتہ جاری رہی۔

اب کانگریس، جمعیتہ علماء اور نیشنلسٹ مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم اور ایک مقصد پر جمع ہو جانے کے بعد تحریک آزادی کی روح جو اب تک بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی آزاد ہو کر ملک کی گلی گلی اور کوچے کوچے بلکہ ذرہ ذرہ میں کار فرما ہو گئی۔ اس جگہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تافلہ آزادی کو اس منزل تک پہنچنے میں جس عزم و حوصلے اور قوت و بہت نے سہارا اور روشنی دی وہ ملک کے سارے ہی بسنے والے عوام کا اتفاق و ہم آہنگی تھی اور ان بسنے والوں میں مختلف فرقوں اور مذاہب کے ماننے والے تھے جو ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ایک جماعت اور ایک ہی قوم کے افراد تھے۔ بہتر ہوگا کہ اس موقع پر ہم ہندوستانی قومیت کے مسئلہ اور تفصیل پر ایک نظر ڈالتے چلیں کیوں کہ یہ مسئلہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی مسلک کا ایک اہم جزو تھا۔

ہندوستانی قومیت کی بنیادیں

ہندوستان میں رہنے والی مختلف نسلوں اور طبقات کے درمیان رواداری اور پاسداری کی تاریخ بہت پرانی اور اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ قصہ شہنشاہ بابر کے زمانے سے شروع ہوتا ہے جس نے اپنے ولی عہد کو مذہبی رواداری اور اتحاد و اتفاق کی وصیت کی تھی۔ اس کے بعد ہی پالیسی اکبر اعظم اورنگ زیب اور شاہجہاں کے زیر سایہ پروان چڑھتی ہوئی آخری نخل تاجدار بہادر شاہ ظفر تک پہنچی تھی جس نے ہندوستان کے سارے ہی فرقوں اور طبقات کو یکساں نظر سے دیکھا تھا۔ مگر اتنی طول و طویل تاریخ کا بیان اور تفصیل اور ان پر دلائل و شواہد تو مورخین ہی کے بس کی بات ہے ہم کو تو اپنے موضوع کی رعایت سے ضرورت کی حدود میں ہی ایک اچھٹی ہوئی نظر ۱۸۵۶ء کے جہاد آزادی کی تاریخ سے اپنے زمانے کے ماحول تک ڈال لینا ہے تاکہ اصحاب فکر و نظر کو کچھ گمشدہ کڑیوں اور بھولے ہوئے قصوں کی طرف توجہ دلا سکیں۔ مذکورہ جہاد آزادی میں جس طرح ہندوستان کی مختلف اقوام نے شانہ بشانہ اور شیر و شکر ہو کر ہم آہنگی اور یک جہتی کا ثبوت دیا وہ کسی شہادت اور وحشت کی محتاج نہیں ہے۔ لیکن بہادر شاہ ظفر نے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے جس اتحاد و اتفاق کی پالیسی اختیار کی وہ اہمیت کے ساتھ غور کرنے کے لائق ہے، اس وقت کی سلطنت کا رجحان اس خبر سے ظاہر ہوتا ہے :

”ہزار شکر اور لاکھ احسان از در دستان کے کہ روز مبارک عید قربان، شہر شریان پائین اور قناد معاندین دین یعنی فریب فرنگیان بے دین سے بجزیت گذرا اور ہنود و اہل اسلام میں بھی بابت کاؤکشی کسی طرح کا جھگڑا نہیں ہوا۔ دونوں گروہ آپس میں ہم چو شیر و شکر ملے رہے۔ یہ سب تیجہ اقبال مندی ہمارے شہنشاہ دین پناہ خلد اللہ ملکہ و سلطنت، اور احسن الرائے سقراط زمان و بقراط دوران لقمان عصر و جالینوس دہر احترام الدولہ بہادر حکیم احسن اللہ خاں وزیر اعظم اس سلطنت کا ہے۔“

لے صادق الاخبار ہفتہ وار دہلی مورخہ ۱۲ ذی الحجہ ۱۲۶۲ھ بموافق ۱۸۵۶ء اخبار اور دستاویزیں از مکتبہ شاہراہ دہلی

شہنشاہ ہندوستان کی نظر میں ہندو مسلم اتحاد کی کیا قیمت تھی، حکومت کے نزدیک کس طرح ملک کے سب ہی باشندے یکساں اور برابری کا درجہ رکھتے تھے اور عوام کیسے باہم شیر و شکر تھے، یہ سارے حقائق اخبار کی مذکورہ بالا خبر سے خوب خوب ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک خاص نکتہ اس میں اور بھی محل نظر ہے۔ اس وقت تک ہندوؤں کے لئے اور مسلمانوں کے لئے الگ الگ قوموں کا لفظ رائج نہیں تھا۔ بلکہ ان کو ملک کے دو الگ الگ گروہ کہا اور لکھا جاتا تھا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں کو الگ قوم سمجھنے اور کہنے کی سیاست بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ اسی ذیل میں بادشاہ سلامت کا ایک فرمان بھی توجہ کا مستحق ہے، تیس جولائی ۱۸۵۷ء کو شاہی عدالت سے ایک فرمان صادر ہوتا ہے:

”حکم نامہ بنام جملہ افسران پٹن در سالہائے دروازہ ہائے شہز
چونکہ حضور کو منظور نہیں ہے کہ شہر میں گاؤں کشتی ہونے پائے لہذا واسطے بندوبست
اس امر کے سب کو اصدار حکم ہوتا ہے کہ تاریخ امروزہ سے تاریخ دہم ذی الحجہ ۱۲۷۶ھ
جلوس روز شنبہ عید الفطر (کذا) تک کوئی تصاب مادہ گاؤں نگر گاؤں شہر میں لانے پائے
تاکہ یہ امر ظہور میں آوے۔ اور بندوبست بھی اس امر کا رکھو کہ کوئی شخص ایسا نہ کرنے
پادے۔ تاکہ جانو۔ مرقوم ۸ ذی الحجہ ۱۲۷۶ھ جلوس (مطابق ۳ جولائی ۱۸۵۷ء) مھر کچی
سپہ سالار بہادر ہلے

میدان جنگ میں بہادر شاہ ظفر کا پتہ کمزور پڑ گیا تو برطانوی سامراج کھل ناچا۔
خون ریزی و خون آشامی، ظلم اور انتقام اور وحشت و بربریت کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو
ہندوستانی عوام پر آزمایا نہ گیا ہو۔ ان حالات کی تفصیلات بہت صبر آزما اور روح فرسا ہیں۔
لکھنے والے کا کلیجہ منہ کو آجائے اور پڑھنے والوں کی آنکھوں سے خون ٹپک پڑے۔ مختصر یہ
کہ اُن مصائب اور آلام کے ماحول میں سرسید احمد خاں نے جس عزم، ہمت، جانسوزی

اور بے غرضی کے ساتھ ملک کے باشندوں اور خصوصاً مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی تعمیر کی خدمات انجام دیں اُن کو کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ان کارناموں کا تذکرہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک زریں باب ہیں۔ سید صاحب کے کچھ خیالات اور بعض کام ایسے ضرور ہیں کہ اُن پر اعتراضات کئے گئے اور اُن سے اختلاف کیا گیا۔

مگر اختلاف و اعتراض عظمتوں اور بڑائیوں کے لئے لازمی اور اہم اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر سید صاحب کے اخلاص، کارہائے نمایاں اور اصابت رائے سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ملکی معاملات میں رائے بہت صائب اور ان کا فیصلہ بڑا مستحکم ہوتا تھا۔ ہندو مسلم تعلقات و اتفاق اور متحدہ قومیت کے بارے میں سرسید کے خیالات اور فیصلہ بہت غور سے ملاحظہ فرمائیے:

”ملک پر جب ہم انسان کا لفظ اطلاق کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جس طرح انسان میں مختلف قویٰ اور مختلف اعضاء ہیں جن پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے اسی طرح ملک میں بھی مختلف قویٰ اور مختلف اشخاص ہیں جن پر ملک کی سرسبزی اور ترقی اور بھلائی کا بلکہ مخمق طور پر کہوں کہ ملک کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ پس! جو لوگ ملک کی بھلائی چاہتے ہیں ان کا پہلا فرض ہے کہ بلا لحاظ قوم و مذہب کے کل باشندگان ملک کی بھلائی کے لئے کوشش کریں، کیوں کہ جس طرح ایک انسان کی اس کے تمام قویٰ اور تمام اعضاء کے صحیح و سالم رہے بغیر زندگی یا پوری تندرستی محال ہے اسی طرح ملک کے تمام باشندوں کی خوش حالی اور بہبودی کے بغیر ملک کی پوری زندگی یا پوری ترقی ناممکن ہے۔“

اے میرے دوستو! تمہارے ملک میں دو شہور قویں آباد ہیں جو ہندو اور مسلمان کے نام سے شہور ہیں۔ جس طرح انسان میں بعض اعضاء ریسہ ہیں اسی طرح ہندوستان کے لئے یہی دونوں قویں بمنزلہ اعضاء ریسہ کے ہیں۔ ہندو ہونا یا مسلمان ہونا انسان کا اندرونی خیال یا عقیدہ ہے۔ جس کو بیرونی معاملات اور آپس

کے برتاؤ سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ کیا خوب کہا ہے جس نے کہا ہے کہ انسان کے دو حصے ہیں اس کے دل کا خیال یا عقیدہ خدا کا حصہ ہے۔ اور اس کے انفاق اور میل جول اور ایک دوسرے کی ہمدردی اس کے ابنائے جنس کا حصہ ہے۔ بس خدا کے حصہ کو خدا پر چھوڑ دو اور جو تمہارا حصہ ہے اس سے مطلب رکھو۔

اے عزیزو! جس طرح ہندوؤں کی شریف توہیں اس ملک میں آئیں اسی طرح ہم بھی اس ملک میں آئے، ہندو اپنا ملک بھول گئے۔ اپنے دیس سے پر دیس، یعنی کازمانہ ان کو یاد نہیں رہا۔ اور ہندوستان ہی کو انھوں نے اپنا وطن سمجھا۔ اور یہ جانا کہ ہمالیہ اور بندھیا پل کے درمیان ہمارا ہی وطن ہے۔ ہم کو بھی اپنا وطن چھوڑے سیکڑوں برس ہو گئے۔ نہ وہاں کی آب و ہوا ہم کو یاد ہے نہ اس ملک کی فضا کی خوبصورتی، نہ وہاں کے پھلوں کی ترد تازگی اور نہ میوؤں کی لذت، اور اپنے مقدس ریتیے اور کنکریے ملک کی برکت، ہم نے بھی ہندوستان کو اپنا وطن سمجھا اور اپنے سے پیش قدموں کی طرح ہم بھی اس ملک میں رہ پڑے۔ پس! اب ہندوستان ہی ہم دونوں کا وطن ہے۔ ہندوستان ہی کی ہوا سے ہم دونوں جیتے ہیں۔ ہندوستان ہی کی زمین کی پیداوار ہم دونوں کھاتے ہیں۔ مرنے میں جینے میں دونوں کا ساتھ ہے۔ ہندوستان میں رہتے رہتے دونوں کا خون بدل گیا۔ دونوں کی رنگتیں ایک سی ہو گئی ہیں۔ دونوں کی صورتیں بدل کر ایک دوسرے سے مشابہہ ہو گئی ہیں۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی سیکڑوں رسمیں اختیار کر لی ہیں۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی سیکڑوں عادتیں لے لی ہیں۔ یہاں تک ہم دونوں آپس میں ملے کہ ہم دونوں نے مل کر ایک نئی زبان اُردو پیدا کر لی جو نہ ہماری زبان تھی نہ اُن کی۔ پس! اگر ہم اُس حصہ سے جو ہم دونوں میں خدا کا حصہ ہے قطع نظر کر لیں تو درحقیقت ہندوستان میں ہم دونوں باعتبار اہل وطن ہونے کے ایک قوم ہیں اور ہم دونوں کے اتفاق اور باہمی ہمدردی اور آپس کی محبت سے ملک کی اور ہم دونوں کی ترقی و بہبودی ممکن ہے اور آپس کے نفاق اور ضد و عدالت، ایک دوسرے کی بدخواہی سے ہم دونوں

برباد ہونے والے ہیں۔ افسوس ہے اُن لوگوں پر جو اس نکتہ کو نہیں سمجھتے۔ اور آپس میں ان دونوں قوموں کے تفرقہ ڈالنے کے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ اُس مضرت اور نقصان میں وہ خود بھی شامل ہیں اور اپنے پاؤں پر کھھاڑی مارتے ہیں۔

اے میرے دوستو! میں نے بارہا کہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک دولہن کے مانند ہے۔ جس کی خوبصورت اور ریشلی دو آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ اگر وہ دونوں آپس میں نفاق رکھیں گے تو وہ بیماری دولہن بھینگی ہو جائے گی اور اگر ایک دوسرے کو برباد کریں گے تو وہ کافی بن جائے گی۔ پس اے ہندوستان کے رہنے والے مسلمانو! اب تم کو اختیار ہے کہ چاہو تو اس دولہن کو بھینگا بناؤ چاہو کانا۔

بے شک! انسانوں میں باہم کبھی کبھی رنج ہو جانا ایک قدرتی بات ہے۔ ہندو اور مسلمانوں پر موتوں نہیں ہے۔ آپس میں ہندو ہندوؤں میں مسلمان مسلمانوں میں بھائی بھائیوں میں۔ ماں بیٹیوں میں رنج ہو جاتا ہے مگر اس رنج کو قائم رکھنا اور بگاڑے جانا اور بڑھائے جانا انسان کی، ملک کی، قوم کی، خاندان کی پوری بدبختی ہے۔ کیا مبارک ہیں وہ لوگ جو معافی چاہتے ہیں اور اس گرہ کو کھولنے میں جو محبت میں اتفاق سے پڑ گئی ہے، پیش قدمی کرتے ہیں اور اپنے بھائی یا ہموطن باہم قوم سے بے تصور ہونے پر بھی معافی چاہتے ہیں یہ!

یہ اُن سرسید کا موقف ہے جو اپنی وفات کے ایک صدی بعد بھی قوم کی معاشی ذہنی اور سیاسی تربیت کرتے رہے ہیں، انہی کے اوپر یہ الزام ہے کہ اُن کے خیالات اور پالیسی سے مسلم فرقہ پرستی کے بیج کی آبیاری ہوئی ہے۔ اور یہ اتہام بھی ہے کہ انہوں نے برطانوی سیاست کی موافقت اور تحریک آزادی کی مخالفت کی ہے۔ موقع ہوتا تو ڈاکٹر ذاکر حسین خاں

مولانا محمد علی، مولانا حسرت موہانی، رفیع احمد قدوائی، فخر الدین علی احمد، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان جیسے ہزاروں دوسرے ہندوستانی ہیروؤں کا، جن کی علمی، ذہنی اور فکری تربیت سرسید کے انکار کی مرہون منت تھی۔ تفصیلی بیان اور ملک کے لئے ان کی خدمات کا پوری طرح تذکرہ کیا جاتا۔ مگر ز تو اتنا وقت ہے نہ اس موضوع سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ ہیں تو متحدہ قومیت کے بارے میں اس عظیم شخصیت کے خیالات اور رائے پیش کرنی مقصود تھی۔ کوئی کیسا ہی متعصب، فرقہ پرست اور تنگ نظر ہو مگر ان حقائق سے انکار اس کے لئے آسان نہ ہوگا۔ ہندوستان میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ مل جل کر رہتے ہی ہیں مختلف کچھ اور تہذیبیں ایک دوسرے سے متاثر تو ہوتی ہی ہیں، ملک کے سارے ہی باشندے بلا امتیاز مذہب و ملت ایک ہی فضا میں پر دان چڑھتے ہی ہیں، ملک ہی کی تعمیر و ترقی پر اس کے باشندوں کی فلاح و بہبودی کا انحصار بھی ہے۔ ان دلائل اور سچائیوں سے کوئی چاہے بھی تو کیسے انکار کر سکتا ہے۔ اس پہلو پر بھی توجہ کیجیے کہ یہ تقریر آج بھی اتنی ہی دل نشیں اسی قدر پُر اثر اور ویسی ہی نفع بخش ہے جیسی آج سے سو برس پہلے جب یہ کی گئی تھی تب تھی۔ متحدہ قومیت کے مسئلہ پر موصوف کا ایک صاف صاف اعلان بھی سنتے چلئے:

"قوم کا اطلاق ایک ملک کے رہنے والوں پر ہوتا ہے۔ یاد رکھو! ہندو

اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے۔ درز ہندو مسلمان اور عیسائی جو بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس اعتبار سے سب ایک قوم ہیں۔ جب یہ سب گروہ ایک قوم کہے جاتے ہیں تو ان سب کو ملکی فائدے میں جو ان سب کا تک کہلاتا ہے ایک ہونا چاہیے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ صرف مذہب کے خیال سے ایک ملک کے باشندے دو قومیں سمجھی جائیں۔"

سرسید کے بعد متعدد مصلحین اور معماران قوم آئے جنہوں نے بالکل اسی نظریہ کی اشاعت و تعلیم دی۔ کسی قدر آگے چل کر ڈاکٹر محمد اقبال کا اسم گرامی اس باب میں بہت

نمایاں اور مشہور ہوا۔ موصوف کی شاعری، ان کا فلسفہ، ان کا پیغام اصحاب علم اور اہل نظر کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وطن اور اہل وطن کے درمیان اتفاق اتحاد اور قومیت کے بارے میں بھی آپ کا نظریہ اور مسلک آج بھی ہندوستان کے لئے قابل فخر اور لائق تقلید ہے، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی مندرجہ ذیل نظم ضرور ہی پڑھی یا سنی ہوگی۔ آج تو دنیا ہی اُلٹ گئی دماغ پلٹ گئے۔ مگر آج سے تیس پینتیس برس پہلے تک مشکل ہی سے کوئی ہندوستانی ایسا ہوگا جس نے یہ الہامی شعر نہ سنے ہوں۔ بہر حال ایک بار پھر شام جان کو معطر کر لیجئے:

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا	ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا
غربت میں ہوں اگر تم رہتا ہے دلِ وطن میں	سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا
پرہت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا	وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا
گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں	گلشن ہے جن کے دم سے رشکِ جناب ہمارا
لے آئے آبِ رود گنگا وہ دن ہیں یاد تجھ کو	اُتر اترے کنارے جب کارواں ہمارا
مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا	ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا
یونان و مصر و روس سب مٹ گئے جہاں سے	اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا
کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری	صدیوں رہا ہے دشمنِ دورِ زماں ہمارا

اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں

معلوم کیا کسی کو دردِ نہاں ہمارا

یہ بھی اسی اتحاد و اتفاق اور متحدہ قومیت کا نغمہ بلکہ تبلیغ ہے جس پر شہنشاہِ ظفر اور سرسید نے ہندوستانی قومیت کی بنیاد رکھی ہے۔ جو اصحاب علم ڈاکٹر صاحب موصوف کے دینی خیالات سے واقف ہیں وہ آپ کے افکار اور پیغام کی قیمت سے بھی متعارف ہوں گے۔ اس موقع پر شاعر مشرق بلکہ حکیم مشرق کے کچھ اور بیس بہا خیالات بھی پیش کر دینا بے محل نہ ہوگا۔

سچ کہہ دوں اے برہمن گرتو برا نہ مانے	تیرے صنم کدوں کے بت ہو گئے پُرانے
اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا	واعظ کو بھی سکھایا جنگ و جدلِ خدا نے

تنگ آکے میں نے آخر دیر حوسرم کو چھوڑا
 واعظ کا وعظ چھوڑا چھوڑے ترے فسائے
 پتھر کی نورتی میں سمجھا ہے تو خدا ہے
 خاک دطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے

ملاحظہ فرمائیے۔ اتحاد، اتفاق، محبت اور صلح و آشتی اور سب سے بڑھ کر وطن پروری
 بلکہ وطن پرستی کا کیسا کیسا جذبہ ڈاکٹر صاحب کے پیغام سے پھوٹ پھوٹ کر نمایاں ہو رہا ہے۔
 رئیس الاحرار مولینا حسرت نولانی کا اسم گرامی کسی تعارف کا مرہون منت نہیں ہو سکتا
 جہاں بھی اور جب بھی کوئی آزادی ہندوستان کی تاریخ پڑھے گا، لکھے گا یا معلوم کرے گا
 اس کی نگاہوں سے اس نقید المثال مجاہد کا نام اوجھل نہیں ہو سکتا جس نے ۱۹۲۱ء میں

کانگریس کے بھرے اجلاس میں آزادی کا مل کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا:

”مہاتما گاندھی نے ناگپور کانگریس میں کہا تھا کہ اگر پنجاب اور خلیفہ
 کے مظالم کی گورنمنٹ نے تلافی نہیں کی تو مکمل آزادی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب
 جبکہ اس تجربہ میں ایک سال ضائع ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ گاندھی جی اپنا
 وعدہ پورا کریں۔ پنجاب اور خلیفہ کے مظالم کا حل اس وقت تک نہیں ہو سکتا
 جب تک برطانوی امپریلزم کو تباہ نہ کیا جائے اور آزادی کا مل کی طرف قدم نہ
 بڑھایا جائے۔“

اس وقت کانگریس نے بھی اس تجویز کو رد کر دیا تھا اور پھر پورے دس برس بعد
 آزادی کی تجویز پاس کی۔ انہی مولینا حسرت نے ۳۰ دسمبر ۱۹۲۱ء میں مسلم لیگ کے چودھویں
 اجلاس بمقام احمد آباد کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا:

”حضرات قبل اس کے کہ میں مسلم لیگ کی کمزوری کی وجوہات بیان کر دوں بہتر
 ہوگا کہ میں لیگ کے اغراض و مقاصد کا اعادہ کر دوں، جو حسب ذیل ہیں:-

- (۱) ہندوستانوں کا ہر ایک باامن اور جائز طریقہ سے حصول سوراج۔
- (۲) ہندوستان کے مسلمانوں اور دیگر اقوام میں دوستی اور اتحاد کو ترقی دینا۔

(۳۱) لیگ کا تیسرا مقصد ہندو مسلم اتحاد کو ترقی دینا ہے جو لیگ اور کانگریس کا متحدہ مقصد ہے۔

مولینا حسرت موہانی کے بیان کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کی پالیسی بھی سامنے آگئی۔ آج کس کو یقین آئے گا کہ مسلم لیگ کبھی ایسی بھی رہی ہوگی مگر ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔

یادش بخیر! مولانا محمد علی جوہر کا نام نامی تو آپ میں سے بہتوں نے سنا ہوگا۔ ایک زمانہ میں ہندوستان کے بچے بچے کی زبان اور گلی گلی میں ان کا نام گونجتا تھا۔ کہیں کہیں تو اب بھی یہ آوازیں محفوظ ہوں گی:

جان بیٹا خلافت پہ دے دو	بولیں اماں محمد علی کی
کلمہ پڑھ کر خلافت پہ مرنا	بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا
جان بیٹا خلافت پہ دے دو	پورے اس امتحان میں اترنا
کرتی سب کو خلافت پہ صدقے	ہوتے میرے اگر سات بیٹے
جان بیٹا خلافت پہ دے دو	ہیں یہی دین احمد کے رستے
پیش حق تم کو لے کر چلوں گی	حشر میں حشر برپا کروں گی
جان بیٹا خلافت پہ دے دو	اس حکومت پہ دعویٰ کروں گی
جان بیٹا خلافت پہ دے دو	ساتھ تیرے ہیں شوکت علی بھی

اگر اب تک نہیں سنا تھا؟ تو آج سن لیجئے کہ یہ مولینا محمد علی وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے ذرے ذرے میں آزادی کی روح بیدار کی تھی، گاندھی جی کو پورے ہندوستان میں شناس اور مقبول کرایا تھا۔ اور انڈین نیشنل کانگریس کو ملک کی مضبوط ترین اور مکمل جماعت بنا کر حب الوطنی، جہاد آزادی اور جرات و بہادری کی مثال قائم کر دی تھی۔ اس خلافت کے میں جس کا ذکر ابھی آپ نے پڑھا اور جس کے مولینا صدر اور قائد تھے، گاندھی جی نے ۱۹۲۵ء

میں اپنے اخبار ننگ انڈیا میں فرمایا :

”اگر میں پینیر، تو تارا اور مجھے غیب کا علم دیا گیا ہوتا اور میں جانتا کہ تحریک خلافت کا یہ انجام ہوگا تب بھی میں خلافت کی تحریک میں اسی انہک کے ساتھ حصہ لیتا یہ خلافت ہی کی تحریک تھی جس نے قوم کو بیلاری عطا کی۔ اب میں پھر اُسے سونے نہ دوں گا۔“

گاندھی جی کا یہ اعلان صرف تحریک خلافت کے متعلق تھا۔ اور یہ وہ تحریک تھی جس کی آبیاری محمد علی نے اپنی زندگی، صحت اور خون جگر کا ایک ایک قطرہ پونڈ کر کے کی تھی۔ اب ذرا مولانا اور ان کے بھائی اور ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں گاندھی جی کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے :

”میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں خلافت کی تحریک میں اسے ایک مقدس معاملہ سمجھ کر شریک ہوا ہوں۔ میں نے ہندو مسلم اتحاد کے لئے جدوجہد کی کیوں کہ ہندوستان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں گے تو یہ خدا سے انکار ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو علی برادران (مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی) کی گود میں ڈال دیا ہے۔ کیوں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ بچے اور خدا ترس لوگ ہیں۔“

یہ گود میں ڈال دینے والی بات گاندھی جی ہی کی طرف سے نہیں تھی مولانا نے بھی اپنے کو ان کے سپرد کر دیا تھا۔ کیا کوئی بھائی اپنے بھائی کی اور بیٹا اپنے باپ کی وہ تابعداری کرے گا جو مولانا نے گاندھی جی کی کی :

”کراچی میں سزا پانے کے بعد جب مولانا راہ میں تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ تحریک کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو جیل میں ہوں۔ البتہ یہ جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے اوپر گاندھی جی کا حکم نافذ ہے۔“

آخر میں خلافت کی تحریک کی اہمیت اور مولانا محمد علی کے کارناموں کے بارے میں مولانا

ابوالکلام کاحرف آخر فیصلہ بھی دیکھ لیجئے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ مولینا محمد علی نے کیسے رُوح آزادی بیدار کی گاندھی جی کو روشناس کرایا اور کانگریس کو تکمیل تک پہنچایا۔ مولانا آزاد نے فرمایا:

"تحریکِ خلافت کی اس کامیابی میں خوبی یہ ہے کہ اس نے ایسے طاقتور ہنگامے

کے ساتھ ہندوستان کے مسئلے کو زندہ کر دیا جو چالیس سال کی کوششوں سے ہندوستان کو نہیں ملتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریکِ خلافت کے ساتھ ہندوستان کا مسئلہ پوری قوت کے ساتھ زندہ ہو گیا ہے"۔

پینڈت جواہر لال نہرو نے تحریکِ خلافت کے بارے میں جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے ان کا تذکرہ کے بغیر یہ موضوع تشنہ رہ جاتا ہے۔ آپ نے اپنی سوانح میں لکھا ہے:

"عوام پر اس تحریک کا بڑا اثر ہوا، اس سے عوام میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ انھوں نے ایک بڑے بوجھ سے آزادی محسوس کی۔ ان میں آزادی کا احساس پیدا ہوا۔ انھوں نے اپنے دماغوں سے خوف و درہشت کی کیفیت کو ہٹا دیا۔ اب وہ سینہ تان کر اور سر اٹھا کر چلنے لگے۔ ہندوستانی عوام دور دراز کے دیہاتوں اور گاؤں کے بازاروں تک میں مظالم پنجاب، کانگریس سوراج اور خلافت کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں خلافت کے عجیب و غریب معنی سمجھے جاتے تھے۔ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ خلافتِ خلافت سے نکلی ہے جس کے معنی اُردو میں مخالفت کے ہیں۔ چنانچہ وہ تحریکِ خلافت کو برطانیہ کی مخالفت کی تحریک سمجھتے تھے"۔

یہ تفصیلات تو برسبیل تذکرہ پیش کرنی ضروری ہو گئی تھیں۔ اصل بات یہ لکھنی تھی کہ متحدہ قومیت کے بارے میں رئیس الاحرار مولینا محمد علی کی پالیسی بھی پورے ملک کے مزاج اور ضمیر پر اثر انداز ہوئی۔ ایک قصہ سنئے:

"سہ پہر کو گاندھی جی اور علی برادران کی تشریف آوری تھی۔ مجمع بڑی بچپنی سے انتظار کرنے لگا۔ یکایک مولانا شوکت علی دور سے نظر آئے۔ میں نے ان کو

بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اُنہی کی طرح جھوٹے ہوئے مجمع میں داخل ہوئے۔ سفید اُون کی بالدار ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ اس پر ہال لگا ہوا تھا۔ ان کے بعد مولانا محمد علی اور گاندھی جی اگر ڈانس پر بیٹھ گئے۔ کسی صاحب نے تقریر شروع کر دی۔ تو میں نے دیکھا کہ مولانا محمد علی ایک پیالے میں چٹے سے کچھ کھا رہے ہیں۔ اور پھر یہی پیالہ اور چمچ گاندھی جی کی طرف بڑھا دیا۔ جنہوں نے اسی چمچ سے کھایا۔ میرے بزرگوں نے بتایا کہ دونوں نے ایک ہی پیالہ میں سے کھا کر ہندو مسلمان اتحاد کی عملی تلقین کی ہے۔ مجمع بڑا تھا اس لئے میں دور بیٹھا تھا۔ تقریر کیا ہوئی یہ نہ سن سکا۔ لیکن میں خوش تھا کہ ان رہنماؤں کی زیارت کر لی۔ اس کے دوسرے دن پھر مولانا محمد علی کی تقریر رکھی گئی۔ میں جلسہ سے بہت پہلے جلسہ گاہ میں پہنچ گیا تھا کہ مولانا محمد علی کو قریب سے بیٹھ کر دیکھوں۔ جلسہ مدرسہ کی مسجد کے صحن میں رکھا گیا تھا۔ جہاں ہندوؤں کو بلا روک ٹوک آنے کی اجازت تھی۔ ہندو مسلمانوں کی جذباتی ہم آہنگی اور قومی یک جہتی کا بڑا حوصلہ افزا منظر دیکھنے میں آیا۔ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح مل رہے تھے جیسے بھائی بھائی ہیں۔ مولانا آئے تو مسجد کے صحن میں ایک تخت پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے۔ ان کے ارد گرد ہندو بیٹھے تھے۔ تقریر کا کیا موضوع تھا یہ یاد نہیں۔ لیکن تخت پر وہ گھوم گھوم کر بول رہے تھے۔ جوش و خروش میں کبھی ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کبھی معلوم ہوتا کہ وہ آگ برسا رہے ہیں۔ کبھی اُن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تقریر کے دوران ہندو مسلمان مل کر محمد علی کی جے لگانا دھی جی کی جے۔ سوراخ کی جے کے نعرے لگاتے رہے۔^۱

مولانا نے ہندو مسلم اتحاد، قومیت متحدہ اور قومی یک جہتی کی وہ روح ملک اور قوم میں بیدار کر دی تھی کہ ان کا یہ کارنامہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔

اس کی تفصیل کے لئے مولینا مرحوم کے حالات اور سوانح پر جو متحدہ دکتا میں لکھی گئی ہیں ملاحظہ کی جائیں تو تھوڑے بہت حالات معلوم ہو جائیں گے۔ ہمارے موضوع کا مقصد تو مذکورہ بالا واقعہ سے اور اس کے ساتھ ہی مولینا کے مندرجہ ذیل فرمان سے حل ہو جاتا ہے۔ مولینا نے اپنے اخبار ہمدرد میں ایک مضمون کے سلسلے میں لکھا:

”ایک مسلمان قوم پرورد اور محب وطن اس لئے ہے کہ اسلام نے نہایت کشادہ دلی سے حقوق جار کو تسلیم کیا ہے۔ جس مذہب کے قانون نے غیر مسلموں کو بھی حق شفعہ دے کر پڑوسی کے بعض حقوق کو نگے بھائی اور مسلمانوں کے حقوق پر بھی ترجیح دی وہ قومیت مشترکہ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔“

کوئی جغرافیائی دلیلیں دیتا ہے کوئی متحدہ قومیت کو ملکی اور سیاسی لازمہ بتاتا ہے، مولینا محمد علی نے مذہب اور دین کے راستے سے اس کی ضرورت کو ثابت کیا۔ اور ایک شرعی دلیل بھی دے ڈالی۔ اب اس میں شبہ بھی کیا رہ جاتا ہے۔

اس کے بعد ہمیں اس معاملے میں مسٹر محمد علی جناح کے موقف اور پالیسی کا تذکرہ کرنا ہے۔ مگر ان سے بہت پہلے ایک بزرگ کا تذکرہ ضروری تھا۔ غلطی ہوئی کہ ان کا اسم گرامی کسی قدر متاخر ہو گیا۔ صاحبزادہ آفتاب احمد خاں مرحوم کا نام بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ آپ اپنے زمانے میں ملک کے آفتاب ہی نہیں، ماہتاب بھی شمار ہوتے تھے۔ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ سرسید کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ تھے۔ ان کے بعد یونیورسٹی کے سب سے پہلے مونس تھے۔ ۱۹۱۶ء میں انڈیا کے سکریٹری آف اسٹیٹ کونسل کے ممبر تھے۔ اور ۱۹۲۰ء میں کونسل آف اسٹیٹ کے ممبر تھے۔ ۱۸۹۲ء یا اس کے آس پاس انگلینڈ میں آپ کے ساتھیوں میں شہری آرد بندو گھوش بھی تھے۔ مختصر یہ کہ علی گڑھ یونیورسٹی اور مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کی سرگرمی میں صاحبزادہ صاحب سرسید کے براہ راست جان نشین تھے۔ ہندو مسلم اتحاد اور ہندوستانی قومیت کے بارے میں آپ کی رائے علی گڑھ تحریک کے قومی رجحان کا عکس ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”میں ہمیشہ سے پورے اخلاص کے ساتھ ہندو مسلم اتحاد کا حامی ہوں۔ مگر اس اتحاد کے لئے دونوں فرقوں کی غلغلہ اور ایماندارانہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنی ساری سرگرمیوں اور دلچسپیوں کا مرکز ہندوستان ہی کو قرار دیں۔ اور اور وطن کے وفادار رہ کر ہندوؤں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر ملک کی تعمیر میں مدد دیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے لئے ضروری ہے کہ پوری ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کی علمی، تعلیمی اور اقتصادی ترقی میں ساتھ دیں۔“

مسٹر محمد علی جناح کے قومی خیالات کا انکاگرہیس میں ان کی خدمات کا اور گاندھی جی کے ساتھ ان کی رفاقت کا مختصر سا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اب ان کے تعارض کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے مگر اس باب میں موضوعات کے نظریات اور ان کے بیان کی بڑی اہمیت ہے اس لئے ایک بار پھر ان کو تازہ کرتے چلیں تو اچھا ہے۔ جناح صاحب فرماتے ہیں:

”ماضی کو بھول جائیے۔ اور پورے عزم کے ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت یہ

سوچ کر کہ ہم سب ایک ہی ملک کے باشندے ہیں۔ اور ایک ہی ملک کے شہری

ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے حقوق یکساں ہیں۔ اس متحدہ اسپرٹ کے ساتھ

کام کیجئے تو آپ کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اقلیت اکثریت

ہندو مسلم قسم کے سارے سوالات اور اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ مذہب ہی اعتبار

سے نہ سوچئے۔ وہ ہر شخص کا ذاتی اور انفرادی مسئلہ ہے۔ سیاسی اور ایک

ہی ملک کے باشندے ہونے کی حیثیت سے سوچئے۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت

کے ساتھ نہ ہندو ہندو رہ جائیں گے نہ مسلمان مسلمان رہ جائیں گے۔“

آپ تعجب نہ کریں، یہ کسی دوسرے محمد علی جناح کے خیالات نہیں ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے سر ملک کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری رکھی جاتی ہے۔ جن کو پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے۔

اور جن کو پاکستان کے بیشتر باشندے قائد اعظم کہہ کر یاد کرتے ہیں، اور ہاں یہ بھی خیال رکھیے کہ یہ الفاظ پاکستان کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھنے والے مسلم لیگ کو مسلم فرقہ پرستی کی راہ پر لگانے والے اور مسٹر محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم بنانے والے چودھری خلیق الزماں نے نقل کئے ہیں اس لئے ان میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ کیجئے: گاندھی جی اور جواہر لال کے خیالات، نظریات اور پالیسی متحدہ قومیت کے بارے میں پیش کرنا ضروری نہیں ہے۔ گاندھی جی ہی کے نظریہ پر کانگریس نے متحدہ قومیت کی پالیسی اختیار کی تھی۔ اور جواہر لال ہی کے زیر اثر ہندوستان کا وہ کانٹٹی ٹیوش بنا جس میں ہندوستان میں ہر ملک کے رہنے والے سارے فرقوں کا برابری کے ساتھ حق تسلیم کیا گیا۔ اہمیت ان لوگوں کے نظریات، بیانات اور اقدامات کی ہے جن کو کھلے بندوں ہندو فرقہ واریت کا علمبردار کہا جاتا ہے۔ سوامی شر دھانند کی تعریف اور کسی قدر تاریخ تو گذشتہ اوراق میں کہیں گزر چکی ہے۔ اس جگہ اتنی بات اور یاد کر لیجئے کہ موصوف کی فرقہ واریت کا ہوا اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک مسلمان صاحب نے بستر مرگ پر ان کو قتل کر ڈالا اور عازمی کا خطاب حاصل کیا۔ انہی سوامی جی کا بیان ملاحظہ ہو:

”گاؤ کشی کے متعلق ہندوں کا طرز عمل مجھے ہرگز پسند نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں سال بھر میں تیس ہزار سے زیادہ گایوں کی قربانی نہیں کی جاتی۔ ایک مسلمان مذہباً یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک گائے کی قربانی سات مسلمانوں کو بہشت میں لے جائے گی۔ مگر تقریباً دس لاکھ گائیں اور بیل ہر سال فوجی چھاؤنیوں میں بڑا ذمی افواج کے لئے ذبح کی جاتی ہیں۔ تقریباً ۱۵ لاکھ ہندوستان کے عیسائیوں اور مسلمانوں کے لئے اور چالیس لاکھ کے قریب بیف (گائے کے گوشت) اور چرے کی تجارت کے لئے ذبح ہوتی ہیں۔ پھر ان سب گائے کشیوں پر ایک ہندو کو کیوں نہیں اذیت پہنچتی۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان قربانی کے جانوروں کی ایسی نائش کرتے ہیں جو طیش انگیز ہوتی ہے۔ اور اس لیے ہندو چراغ یا ہو جاتے ہیں۔ لیکن پچیس لاکھ گائیں اور بیل کھلے راستوں پر منزع میں ہٹکا کر لے جاتے ہیں۔ پھر ان لاکھوں گایوں کی

نمائش سے وہ کیوں برا بیگنہ نہیں ہوتے؟ مسلمان اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مذہبی ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ایک نادان بھائی کے کسی فعل نادانی پر ہمیں برا بیگنہ ہونے کا کون سا موقع ہے۔ ہندوؤں کو اپنے بھائیوں کے لئے خدا سے دعا کرنی چاہیے اور انھیں سمجھانا چاہیے کہ انسانی جنسبات اور نفسانی خواہشات کی قربانی نہ کر خون اور گوشت کی قربانی، مرن خدا کے نزدیک مقبول ہو سکتی ہے۔ اور نفرت کے بجائے ہمیں ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ روش اختیار کی گئی تو نہ صرف ہندوؤں کو چڑھانے کا یہ طرز عمل ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل سے نکل جائے گا بلکہ وہ سبیدگی سے اس امر پر غور کریں گے کہ آیا گائے کی قربانی مذہبی حیثیت سے ضروری بھی ہے یا نہیں؟ تین چار سال سے یہ غدر پیش کیا جاتا ہے کہ ایک بجر ادس روپیہ سے کم پر نہیں خریدا جاسکتا۔ مگر ایک گائے جو بیس روپیہ کی خریدی جانے میں سات آدمیوں کی طرف سے قربانی کے لئے کافی ہوتی ہے۔ اس کے لئے میری تجویز یہ ہے کہ تمام ہندو گوشت کھانا قطعاً چھوڑ دیں۔ تب بکرے وغیرہ ارزاں ہو جائیں گے اور مسلمان اپنے بڑے بوڑھوں اور بچوں کو گائے کے دودھ سے جو مال کے دودھ سے بڑھ کر بے محروم نہ رکھ سکیں گے!

شردھانند کے اس بیان پر تبصرہ غیر ضروری ہے۔ فراخ دل حضرات اس سے یہ نتیجہ ضرور اخذ کریں گے کہ سوامی جی مذکورہ بڑی قیمت دے کر بھی ہندو مسلم اتحاد اور رواداری کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ آخر میں تو ہم اس مسئلہ میں مولینا ابوالکلام آزاد کا بیان پیش کریں گے مگر اس سے پہلے ایک واقعہ ضرور سن لیجئے۔ ۱۹۲۲ء کا سال اور دسمبر کا مہینہ تھا۔ گاندھی جی نے ہندو مسلم اتحاد کے لئے اکیس دن کے برت کا اعلان کیا۔ ہندوستان کے لیسٹروں نے اس مقصد کے لئے ایک کانفرنس منعقد کی۔ اور اس میں ان تمام طریقوں پر بحث کی گئی جن

کے ذریعہ سے اتفاق و اتحاد کی بڑی مضبوط ہو سکتی تھیں :

”بڑا مسرکہ اس دن ہوا جب گائے کی قربانی کا مسئلہ پیش ہوا۔ مسلمان سب خاموش رہے۔ ٹیلنگوٹی پہنے ہوئے تھے۔ انھوں نے کہا کہ میں بھی ہندو ہوں گائے میرے نزدیک بھی مقدس اور تبرک ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ گائے کے بارے میں ہم اپنا عقیدہ مسلمان بھائیوں پر زبردستی تھوپیں۔ البتہ اگر وہ خود برضا و رغبت ترک کر دیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد لالہ لاجپت رائے کھڑے ہوئے اور انھوں نے طنزیہ انداز میں تقریر شروع کی۔ اور کہا کہ میں ہندوؤں کو مبارک باد دیتا ہوں کہ آج ان میں ایک ہندو کا اضافہ ہوا ہے۔ کل جھ سے ٹیل جی نے کہا تھا کہ میں ہندو نہیں ہوں اور آج کہہ رہے ہیں کہ میں ہندو ہوں۔ پنڈت مدن موہن مالویہ نے ایسی شستہ اردو میں تقریر کی کہ ہم سب موجودیت رہ گئے۔ انھوں نے کہا کہ درمیانی راستہ بہتر ہے۔ جہاں کہیں قربانی ہوتی ہو وہاں ہندو کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اور نہ قانونی جبر ڈالا جائے۔ لیکن جہاں نہیں ہوتی وہاں مسلمان نئے سرے سے گائے کی قربانی نہ کریں۔ کچھ اور تقریروں کے بعد مفتی کفایت اللہ نے بڑی مدلل تقریر کی اور ذبیحہ گاؤ اور قربانی گاؤ کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ مولینا محمد علی نے کہا کہ مسلمان کا ذبیحہ بالکل بند کر دیں۔ بحث ختم نہیں ہوئی۔ دوسرے دن میں نے دیکھا کہ پنڈت مالویہ جی مولینا کفایت اللہ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ مولینا ذرا غور کیجئے! اس پر نظر دوڑائیے کہ ہم ہندوؤں کے جذبات گائے کے بارے میں کیا ہیں؟ پھر بھی ہم اس پر راضی ہیں کہ جہاں گائے کی قربانی ہوتی ہے، ہو۔ اور اس پر بھی راضی ہیں کہ قانون سے کہیں روکا نہ جائے۔ جب ہم اس حد تک بھک رہے ہیں تو آپ بھی اپنی جگہ سے کچھ ہٹئے۔ آخر اس میں آپ کو کیا تباہت ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ جہاں نہیں ہوتی ہے نہ ہو۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں آج تک گائے کی قربانی نہیں ہوتی صرف انہی جگہوں پر آپ برضا و رغبت آئندہ بھی نہ کریں۔ مفتی صاحب

پہلے تو اڑے۔ مگر اڑنے کی گنجائش کہاں تھی۔ آخر کار مان گئے اور پنڈت رومی ہی کی تجویز پاس ہو گئی: ۱۔

دوبلہ بھائی پٹیل جیسے سیاسی شخص نے مسلمانوں کا یہ حق تسلیم کر لیا۔ پنڈت مدن موہن مالویہ جیسے ہندو نے قربانی اور ذبیحہ گاؤں کی اجازت دے دی۔ مولانا محمد علی جیسے مسلمان نے گاؤں کشی کا بالکل بند کر دیا۔ یہ سارا ایشیا، سارا اقصا اور ساری قربانیاں صرف اس لئے تھیں کہ ملک میں اختلاف اور افتراق نہ ہونے پائے۔ اور اس کے باشندے دو تالیوں میں ایک جان بن کر رہ سکیں۔ اب اس باب کے ختم سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات بھی پڑھ لیجئے:

”حضرات! میں نے آپ کا اس قدر وقت در دیوار کی فکر میں لے لیا۔ حالانکہ

ابھی یہ بات باقی ہے کہ ہماری جدوجہد کی بنیاد کا کیا حال ہے۔ میرا اشارہ ہندو مسلم اتحاد کی طرف ہے۔ یہ ہماری تعمیرات کی دو پہلی بنیاد ہے جس کے بغیر نہ صرف ہندوستان کی آزادی بلکہ ہندوستان کی وہ تمام باتیں جو کسی ملک کے زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لئے ہو سکتی ہیں، محض خواب و خیال میں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہمیں قومی آزادی نہیں مل سکتی بلکہ اس کے بغیر ہم انسانیت کے ابتدائی احوال بھی اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے۔ آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ سوراج ۲۴ گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے بشرطیکہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا مگر اس سے دستبردار نہ ہوں گا۔ کیونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانی کا نقصان ہے۔“

یہ تو اتحاد و اتفاق کی بات تھی۔ اب ذرا متحدہ قومیت کے بارے میں مولانا کا موقف

ملاحظہ کیجئے:

”میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ اسلام کی تیرہ سو برس کی شاندار روایتیں میرے درنے میں آئی ہیں۔ میں تیار نہیں ہوں کہ اس کا کوئی پھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ بحیثیت مسلمان کے میں مذہبی اور کچل ڈائرسے میں اپنی ایک خاص ہستی رکھتا ہوں۔ اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی دخلت کرے۔ لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے۔ اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی اور اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے۔ میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں۔ میں ہندوستان کی ایک اور ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں۔ میں اس متحدہ قومیت کا ایک ایسا اہم عنصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں اس کی تکوین اور بناوٹ کا ایک ناگزیر عامل (FACTOR) ہوں۔ میں اپنے اس دعوے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔“

اسی مضمون کے سیاق میں مولینانے کچھ تاریخی حقائق کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولینانے یہ گہرا نئے نایاب ہمارے اسی موضوع بلکہ اسی موقع کے لئے جمع فرمائے تھے:

”تاریخ کی پوری گیارہ صدیاں اس واقعے پر گزر چکی ہیں۔ اب اسلام بھی اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا دعویٰ ہندو مذہب کا ہے۔ اگر ہندو مذہب کئی ہزار برس سے اس سرزمین کے باشندوں کا مذہب رہا ہے تو اسلام بھی ایک ہزار برس سے اس کے باشندوں کا مذہب چلا آ رہا ہے جس طرح آج ایک ہندو فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہندوستانی ہے اور ہندو مذہب کا پیرو ہے ٹھیک اسی طرح ہم بھی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور مذہب اسلام کے پیرو ہیں۔“ دوچار سطر کے بعد فرماتے ہیں ”ہمارے رسم و رواج ہمارے روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی چھاپ نہ لگ گئی ہو۔ ہماری بولیاں الگ الگ تھیں مگر ہم ایک ہی زبان بولنے لگے۔ ہمارے رسم و رواج ایک دوسرے سے بیگانہ تھے مگر انھوں نے بل بل کر ایک نیا سانچا پیدا کر لیا۔ ہمارا پرانا لباس تاریخ کی پرانی تصویروں میں دیکھا جاسکتا ہے مگر اب وہ ہمارے

جسوں پر نہیں مل سکتا۔ یہ تمام مشترک سرمایہ ہماری متحدہ قومیت کی ایک دولت ہے اور ہم اسے چھوڑ کر اس زمانے کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ جب ہماری یہ ملی جلی زندگی شروع نہیں ہوئی تھی، ہم میں گرایسے ہندوئیاں ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک ہزار برس پہلے کی ہندو زندگی واپس لائیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایسے مسلمان موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی اس گزری ہوئی تہذیب و معاشرت کو پھر تازہ کریں جو وہ ایک ہزار برس پہلے ایران اور وسط ایشیا سے لائے تھے تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں بہتر ہے کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تکمیل ہے اور حقیقت کی زمین میں ایسے خیالات نہیں آگ سکتے۔

یہ تھیں قومی زندگی اور اتفاق، اتحاد اور رواداری کی وہ بنیادیں جن پر دو تین صدیوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد متحدہ قومیت کی تعمیر ہوئی۔ بری بھلی جیسی بھی ہوں یہ تعمیر آج تک قائم ہے اور اسی پر ہندوستان کی ترقی، تعمیر اور مشترکہ کلچر اور تہذیب کا دار و مدار ہے۔ اس کے سماروں میں خاک و خون میں لوٹنے والے، قید و بند میں سسک سسک کر جان دینے والے، جلاوطنی اور گھر بار سے محرومی کا عذاب ہنسنے والے، جوان اولادوں کی لاشوں کو کاٹنا دینے والے آنکھوں کے تاروں اور راج دلاڑوں کو اپنی چندھیائی ہوئی آنکھوں سے مٹی میں ملتے دیکھنے والی، عین جوانی میں اپنے سہاگ کو لٹتے ہوئے دیکھنے والی اور کلکاریاں مارتے ہوئے کھانے کھیلنے پڑھنے لکھنے کے عین درمیان میں کادانغ ہسنے والے ہزاروں، لاکھوں کڑیل جوان، بانگے پہلوان، مادر وطن کے پوتے، بوڑھے باپ، ضعیف مائیں، نسلی ذیلی دہنیں اور پھول ایسے پیارے بچے اور بچیاں سب ہی برابر کے شریک تھے۔ ان سب کی تفصیل اور فہرست تو اب ہندوستان کی لہلہاتی ہوئی مٹی اور چکدار ڈزوں کے علاوہ کون بتلا سکتا ہے۔ ہمیں تو صرف سرسید احمد، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی، مسٹر محمد علی جناح، پنڈت مدن موہن مالویہ وغیرہ وغیرہ چند افراد کا تذکرہ منظور تھا۔ بلکہ دراصل حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کا مسلک اس باب میں ذکر کرنا تھا جو اگلے باب میں آ رہا ہے۔

متحدہ قومیت حضرت کا موقف

حضرت کی پوری زندگی اور اس کا ایک ایک لمحہ اعلیٰ کلمۃ اللہ، اصلاح و تبلیغِ ارضائے باری تعالیٰ اور قرآن و حدیث کی خدمت کے لئے وقف تھا۔ تعلیم و تربیت کا وقفہ، اسکول کے ایام، دیوبند کی طالب علمی، مدینہ طیبہ میں قیام، حرم نبوی میں درس حدیث، مالٹا کی اسارت، کراچی اور ساہیوال کی قید، سلہٹ کی زندگی اور دیوبند کی صدر مدرسگی ان پورے زمانوں اور سارے مکانات میں اصلی سیاسی دلچسپیوں، مصروفیتوں اور سرگرمیوں کی ایک جھلک بھی تو کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ دوسری بات تھی کہ حرمین شریفین، خلافتِ اسلامیہ، بیت المقدس، دنیائے اسلام، ہندوستان کی مسلم حکومت، غرض مسلمانانِ عالم کی منظومیوں، محرمیوں، تباہیوں اور بربادیوں کے جو زخم حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اپنی روح پر برداشت کئے تھے اور اپنے جسم و جان پر بھیلے تھے ان کا درد، کرب، بے چینی اور آنچِ مسلسل ان کے دل و دماغ میں دک رہی تھی۔ اپنے مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ کی بنا پر ان سارے مصائب کا زمدار وہ حکومتِ برطانیہ کو سمجھتے تھے۔ وہ وقت بھی ایسا تھا کہ استعمار اور سامراج کا سب سے بڑا مرکز بلکہ اس پالیسی کا لیڈر برطانیہ ہی تھا۔ اور ہندوستان، ترکی، فلسطین، حرمین شریفین اور سارے ہی دولِ اسلامیہ کے خلاف جو کارروائیاں اور سازشیں دنیا میں سرگرم عمل تھیں ان کی ابتدا بھی برطانیہ ہی سے ہوتی تھی اور سرپرستی بھی وہیں سے جاری رہتی تھی۔ اس حقیقت کے پیش نظر حضرت کے نزدیک اس امر کی شرعی حیثیت سے بڑی اہمیت تھی کہ جہاں تک ممکن ہو برطانیہ کی مخالفت کی جائے بلکہ اس کی طاقت و قوت کو ختم کیا جائے، یہ نکتہ بھی قابلِ ملاحظہ ہے کہ آپ کسی دوسری قوم اور خاص طور پر ہندو قوم کو اسلام اور مسلمان کا ایسا خطرناک دشمن نہیں سمجھتے تھے جتنا برطانیہ اور انگریزوں کو خیال کرتے تھے۔ انہی کی زبانی سنئے :

”ہندوین بالفعل اتنی طاقت نہیں ہے جتنی انگریزیں ہے۔ اس لئے“

ماضی مستقبل اور حال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن انگریز ہے۔ ہندو کے تسلط کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے وہ مستقبل قریب میں ایسا ہی یا اس سے زیادہ ہو جائے مگر یہ امر منظور اور موہوم ہے۔ اسی بنا پر ہمیشہ اکابر نے ہندو سانس میں انگریز سے آزادی حاصل کرنا اور اس کے اقتدار کو ہٹانا ضروری سمجھا ہے۔

انگریزی سامراج اور برطانیہ کی سیاستوں، تجارتوں اور سازشوں کی ضرب کاری سارے عالم اسلام پر تو پڑی ہی تھی مگر ہندوستان میں تو انہوں نے مسلمانوں کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آدمی بھی مسلمانوں ہی کے قتل ہوئے اور پھانسی پر لٹکے۔ علاقے اور جاہلادیں بھی انہی کی ضبط ہوئیں۔ صنعت و حرفت اور تجارت بھی انہی کی پامال ہوئی۔ روزی روزگار سے بھی وہی محروم ہوئے۔ عزت و آبرو بھی انہی کی لٹی اور سلطنت و شوکت بھی انہی کے ہاتھ سے گئی۔ ہندوستان کے جو سربر آوردہ حضرات برطانیہ اور انگریزوں کے ہواخواہ اور حاشیہ بردار تھے ان کی تعداد اگرچہ کم تھی مگر اثر و نفوذ کے اعتبار سے ان کی آواز بھی حکومت نے ہر ہر طریقہ سے طاقت و برہنہادی تھی۔ ایسے لوگوں میں سب سے پہلے سرسید کا نام آتا ہے۔ ان کی سیکڑوں تقریروں اور تحریریں کا ذکر تو ناممکن ہے جن میں انہوں نے انگریزوں اور برطانیہ کی وفاداری، اطاعت شکاری اور مدح سرائی کی ہے۔ مگر ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی پر ان کی دو چار سطریں دل چسپی کا سبب ہوں گی:

"جن مسلمانوں نے سرکار کی نمک مزاجی اور برخواستہ کی میں ان کا طعنہ آرز

نہیں ہوں۔ میں ان سے بہت زیادہ ناراض ہوں اور ان کو حد سے زیادہ بُرا جانتا ہوں کیوں کہ یہ ہنگامہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے بموجب عیسائیوں کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ جو اہل کتاب اور ہمارے مذہب ہی بھائی بند ہیں۔ نبیوں پر ایمان لائے ہیں۔ خدا کے دیئے ہوئے احکام اور خدا کی دی ہوئی کتاب اپنے پاس

رکھتے ہیں جس کا تصدیق کرنا اور جس پر ایمان لانا ہمارا عین ایمان ہے۔ پس اس ہنگامے میں جہاں عیسائیوں کا خون گرا وہاں مسلمانوں کا خون بھی گرنے چاہیے تھا۔ پھر جس نے ایسا نہیں کیا اس نے علاوہ نمک حرامی اور گورنمنٹ کی نمک حرامی کے جو کسی حال میں رعیت کو جائز نہ تھی، اپنے مذہب کے بھی خلاف کیا۔^{۱۵}

ذاب وقار الملک نہ صرف یہ کہ سرسید کے دست راست اور وفات کے بعد ان کے جانشین ہوئے بلکہ مسلم یونیورسٹی کے موسسین میں بھی تھے اور ملک کی اہم ترین شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ آپ نے ۱۹۰۷ء مارچ ۱۹۰۷ء کو مدرستہ العلوم علی گڑھ کے طلباء سے فرمایا:

"ہماری تعداد بہ مقابلہ دوسری قوموں کے ہندوستان میں ایک ٹکس ہے۔

اب اگر کسی وقت خدا نخواستہ ہندوستان میں انگریزی حکومت نہ رہے تو ہمیں ہندوؤں کا محکوم ہو کر رہنا پڑے گا۔ اور ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو ہمارا مذہب سب خطرہ میں ہوگا۔ اگر کوئی تدبیر ان خطروں سے محفوظ رہنے کی ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو وہ یہی ہے کہ انگریزی حکومت ہندوستان میں قائم رہے، ہمارے حقوق کی حفاظت سمجھی ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت برطانیہ کی حفاظت پر کمر بستہ رہیں۔ ہمارا وجود اور گورنمنٹ (برطانیہ) کا وجود لازم و ملزوم ہیں۔ انگریزوں کے بغیر ہم اس قوت اور آسودگی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر مسلمان دل سے انگریزوں کے ساتھ ہیں تو انھیں ہندوستان سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ان کو اس عمدہ خیال کی تلقین کی جائے گی کہ وہ اپنے تئیں مثل ایک فوج کے تصور کریں۔ اور تاج برطانیہ کی حمایت میں اپنی جانیں قربان کریں۔ اور اپنا خون بہانے کے لیے تیار رہیں۔^{۱۶}

اسی نمونے کے سیکڑوں ہندو مسلمان، بڑے بڑے نام آور اور ذی اثر صاحبان برطانیہ کے طرفدار، ہی خواہ اور اطاعت گزار تھے۔ یہاں تک کہ بعض علماء، نفلدار اور مذہبی رہنما بھی برطانیہ اور اس کے ہونا خواہوں کے ساتھ تھے۔ ایسے حضرات کی فہرست تو لمبی ہے

مگر ہندوستان کی دو بڑی جماعتوں کے دو بڑے اکابر مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی زمرے میں شامل تھے۔ خلافت کی تحریک جس میں ملک کے ہندو مسلمانوں بڑھوں اور جوانوں، عورتوں اور بچوں تک نے شرکت کی تھی۔ یہ حضرات اس کے بھی خلاف تھے۔ ہمارے حضرات نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ:

"مولانا اشرف علی صاحب زید مجدہم کے خیال سے ان امور میں میں ہی مخالفت نہیں ہوں بلکہ حضرت مولانا شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز بھی خلاف تھے۔ خلافت کی تمام تحریک میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ شریک ہونا جہد و جہد کرنا ضروری اور واجب سمجھتے تھے اور مولانا تھانوی اس کو فتنہ و فساد سمجھتے رہے ہیں۔ میں حضرت شیخ الہند کا ادنیٰ خادم اور ان کی رائے کا متبع ہوں۔ باوجود اس اختلاف کے میں مولانا تھانوی کا دشمن نہیں ہوں۔ ان کی بے ادبی نہیں کرتا۔ ان کو بڑا اور بزرگ جانتا ہوں۔ مگر میرا خیال ہے کہ مولانا اس امر میں غلطی پر ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔"

خیر! یہ تو وہ حضرات تھے جو سرے سے ہندوستان کی آزادی اور برطانیہ سے گلو خلاصی ہی کے خلاف تھے مگر وہ لوگ جو آزادی کے بڑے علم بردار اور قومی تحریکوں کے سردار تھے ان کی لڑائی بھی صرف آزادی کے سوال اور مسئلہ پر تھی۔ جہاں بھی اور جب بھی برطانیہ کی حکومت ان کو نرم و ملائم نظر آتی تھی ان کے اختلاف کی درازیں اور سوراخ بند ہونے لگتے تھے۔ یہ صرف ۱۸۵۷ء کے مجاہدین اور خاص طور پر اکابر امت کی جماعت تھی جو برطانیہ سے کسی مرحلہ پر دستہ مصالحت کے لئے تیار نہیں تھے۔ ان علماء کا کسی قدر تذکرہ کچھ صفحات میں گزر چکا ہے اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی جماعت کے سالار کارداں تھے۔ وہ دنیائے اسلام اور مسلمانان عالم کی ذہنوں حالی اور زیاں کاری کا ذمہ دار برطانوی سامراج ہی کو قرار

دیتے تھے۔ اس بارے میں حضرت ہی کے قلم سے ان کے خیالات ملاحظہ فرمائیے:

”جب سے اسلام نے ظہور کیا ہے انگریز نے برابر اسلام اور مسلمانوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ کسی دوسری قوم نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ دو سو برس سے زیادہ عرصہ سے اسلام کو فنا کر رہا ہے۔ اس نے ہندوستان کی اسلامی طاقت کو فنا کیا“ اس کے بعد حضرت نے ہندوستان میں برطانیہ کے معاشی، اقتصادی اور اخلاقی مظالم اور ۱۸۵۷ء کی انسانیت سوز حرکتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد فرمایا: ”مگر اسی کے ساتھ عراق، شام، مصر، فلسطین، عرب، صومالی لینڈ، مشرقی افریقہ، سوڈان، برما وغیرہ کے اسلامی عروج کو پامال کیا۔ خلافتِ عظمیٰ کو زیرِ زبر کیا۔ جاز، جدہ، مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کی۔ چناق، قلعة سمرنا، استنبول وغیرہ میں کیا کیا نہیں کیا۔ اور ان مقامات پر کیسی کیسی خون کی ندیاں بہائیں۔ پھر اس پر طرہ یہ کہ یورپین طاقتوں میں اسلامی ممالک کو تقسیم کیا۔ طرابلس، صحرائے لیبیا، ادرز، سورگن وغیرہ اٹلی کو، ریف اسپین کو، الجزائر، تونس، ناس مراکش وغیرہ فرانس کو، وسط ایشیا اور شمالی ایشیا کے ممالک بخارا، سمرقند، گرجستان، ازبکستان، داغستان، فرختان وغیرہ روس کو برابر معاہدوں وغیرہ کے ذریعہ تقسیم کرتے رہے۔ ترکی سے بلگیریا، یونان، مقدونیہ، رومانیہ، ہرسلٹ، البانیہ، سروریہ، مانٹنگرو، کویٹ، بلقان وغیرہ کو مجبور کر کے آزاد کراتے رہے اور اسلامی طاقت کو فنا کراتے رہے۔“

یہ غول چکان داستان ہمہ وقت حضرت کے پیشِ نظر اور دل و دماغ پر طاری رہتی تھی کہ یہ وہ ناک تھی جہاں اسلامی شوکت و عظمت کے نقارے بجتے تھے اور جن کے آفتی پر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا کرتا تھا۔ ہندوستان کی غلامی کو بھی وہ عالمِ اسلام کا زیاں تصور فرماتے تھے اور ان کا نقشہ یہ تھا کہ اگر برطانیہ ہندوستان سے نکل جائے گا تو نہ صرف یہ کہ سارے ہی اسلامی ممالک آزاد ہو جائیں گے بلکہ برطانوی سامراج کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضرت کو یقین تھا کہ

برطانیہ اور انگریز اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور ان کا قلع قمع کرنا مسلمانوں کا فرض اولین ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ:

۱۔ روئے زمین پر اور ہندوستان میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن انگریز ہے۔ جتنا اس نے اسلام کو برباد کیا اور کر رہا ہے اور کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ دنیا بھر میں کسی قوم اور کسی ملک نے نہیں کیا: ۱

اپنی تقریروں اور تحریروں میں حضرت پوری تفصیل اور مکمل دلائل کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اسلامی کے گلے میں طوق غلامی کا بڑا سبب ہندوستان کی غلامی ہے اور اسی بنا پر وہ انگریز کی مخالفت کو مقدس فریضہ گردانتے تھے اور ملک کی جدوجہد آزادی کو جہاد کا درجہ دیتے تھے۔ اجمالی طور پر حضرت کی پالیسی پر ایک نظر ڈال لیجئے:

”ہندوستان کے علاوہ افغانستان، ایران، عراق، مصر، فلسطین، حجاز وغیرہ بھی انہی مصیبتوں کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ اور انہوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ممالک کی مصیبتیں صرف ہندوستان کی غلامی کے سبب سے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کا مذہبی اور دینی فرض ہے کہ اس ظالمانہ شاہنشاہیت کے بارگراں کو جلد از جلد ہندوستان سے ہٹا کر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے اور“

اس مقام پر ایک منٹ ٹھہر کر غور کر لیجئے کہ یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے حضرت نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اور یہی وہ منزل تھی جس کے لیے تمام عمر سنگلاخ صبر ادا کیا اور خارزار راہوں میں جاہد پیار ہے۔ دوسرے لیڈران، سیاسی جماعتیں اور ہندوستان کے اعیان جس جدوجہد کو تحریک آزادی ہندوستان جس جنگ کو سیاسی اور ملکی لڑائی اور جن قربانیوں اور سرفروشیوں کو کیلائے آزادی کے حضور نذرانہ قرار دیتے تھے۔ حضرت کے مسلک میں وہ ساری سرگرمیاں اور قربانیاں مذہبی اور دینی فریضہ تھیں۔ ایک ایسی جدوجہد جس کے ذریعہ حجاز مبارک، حرمین شریفین، بیت المقدس، عرب و مصر، خلافت اسلامیہ، ہندوستان اور خلافت

اسلامیہ سبھی اسلامی طاقتوں کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہوں اور بیڑیاں کٹ رہی ہوں۔ وہ جہاد مقدس اور دینی فریضہ کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتی ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ حضرت کے نزدیک جہاد آزادی ہندوہ معرکہ تھا جس کی راہ میں سردینے والا شہید اور سر لینے والا عسازمی کے مناصب عالیہ کا مستحق تھا۔ اس کے لئے حضرت یہ دلیل دیتے تھے :

"(ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں اگر مسلمان) کی جان بھی کام آجائے تو وہ سراسر سعادت اور نفعِ حدیث کے بموجب شہادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من قتل دون، مالہ فہو شہید، ومن قتل دون دمہ فہو شہید، ومن قتل دون دینہ فہو شہید، ومن قتل دون اہلہ فہو شہید اذکا قال (ترمذی)

یعنی جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے خون

کی یادین کی یا اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ (ترمذی)

سارے ہی ہندو مسلمان لیڈران اور عوام ہندوستان کی آزادی کے لیے کمر بستہ و سرکھن تھے۔ حضرت بھی اس رزم گاہ میں مردانہ وار صفت آراتھے۔ مگر آپ کی نیت بھی الگ تھی اور منزل بھی دوسروں سے جدا تھی۔ یہ بالکل الگ بات تھی کہ دونوں کی راہیں ایک تھیں۔ اس نکتہ کی وضاحت کے لیے حضرت کے ان الفاظ پر غور کریں :

"چونکہ برٹش گورنمنٹ کے جملہ لائن و گزائن تخت و سطوت، تعاطف و کبر، قوت و دبہ و غیرہ کا بڑا مدار ہندوستان کا غلام ہونا ہے اس لیے اس باعث تخت و کبر کو توڑ دینا ہر مسلمان کا مذہبی فرض ہوگا۔ اور یہی اعلیٰ درجہ کی جنگ اس گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی۔ یہی بات اس کے گھسنے لگا دے گی۔ ہندوستان کی مکمل آزادی اور اس کا سوراخ انگلتان کی موت کا مرادف ہے۔"

اس نکتہ کو ذہن میں تازہ رکھیے کہ یہ ساری سرگرمیاں اور معرکہ آرائیاں صرف اعلائے

کلمۃ الحق اور تبلیغ و اشاعت دین ہی کے لئے ہیں۔ حضرت اپنی تقریروں اور بیانات میں بار بار اس امر کا اعادہ فرماتے تھے۔ دین کی تبلیغ اور فریضہ اشاعت اسلام کی ادائیگی کے لئے حریت رائے، آزادی ضمیر اور فراغت بال بہت ضروری ہے۔ مظلوم و مقہور افراد اور جماعتیں نہ اپنی آواز بلند کر سکتی ہیں اور نہ ان کی دعوت و پیغام کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ اگر مسلمان اپنی آزادی کے لئے مکمل جدوجہد نہیں کرتے وہ ایک بنیادی اور مقصدی فریضے کی ادائیگی سے قاصر رہیں گے۔ اس فرض کی ادائیگی کس درجہ اہم اور اس مقصد کا حصول کس قدر لازمی ہے اس کی تفصیل ملاحظہ ہو:

• "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "افضل الجہاد کلمۃ حق عند

سلطان جائز" یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے انسان کی بات کہنا سب سے بڑا

جہاد ہے۔ آزادی وطن کی جدوجہد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آزادی وطن ہی آزادی ملت

کا ذریعہ ہے۔ اور آزادی وطن ہی کے بعد اسلام احکام نافذ کئے جاسکتے ہیں مظلوم

و مقہور رہ کر غلامانہ زندگی پر قناعت کرنا اسلامی نقطہ نظر سے قطعاً حرام ہے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من مات ولم یغز ولم یحدث بہ نفسہ

مات علی شعبۃ من النفاق (مسلم) یعنی جس شخص نے زندگی بھر جہاد نہیں

کیا۔ اور نہ ہی جہاد کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا اور اسی حالت میں مر گیا تو

وہ ایک قسم کے نفاق کی حالت میں مرا۔ اسلام اس لئے ہے کہ بلند و بالا ہو کر رہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "الاسلام یعلو ولا یعلو علیہ" ﷺ

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہندوستان کی تحریک آزادی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک

دراصل جہاد فی سبیل اللہ کا ایک شعبہ تھی۔ اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھیں کہ اس

سلسلے کا ہر قدم، عدم تعاون، ایچی ٹیشن، مظاہرے، قید و بند، تقریر و تحریر، ریزولیشن اور

کانفرنسیں، بدیشی مال کا بائیکاٹ، گرفتاریاں اور قید و بند وغیرہ وغیرہ ساری ہی سرگرمیاں اور

مصائب و آلام اسی جہاد کی مختلف شکلیں اور اسی میدان کارزار کے متعدد مراحل تھے۔ میدان جنگ میں لاشیں بھی گرتی ہیں، خون کے فوارے بھی اُبلتے ہیں، سر بھی اُچھلتے ہیں اور زخمیوں کی چیخیں اور کراہیں بھی ابھرتی ہیں نتیجہ ان تمام مظاہر کا ایک ہی ہوتا ہے جا بے اقدام عمل ساری ہی فوج کا کتنا ہی مختلف ہو۔ ہندوستان کے جیالوں نے، سپوتوں نے، معصوم بچوں نے اور کردیل جوانوں نے آزادی کی قربان گاہ پر کیسے کیسے اپنی اُننگوں بھری جوانیوں اور اُبلتے ہوئے خون کے نذرانے پیش کئے۔ یہ بڑی خوں چکاں داستان ہے۔ اور اس کا ایک ایک لفظ ملک کے ذرے ذرے پر ثبت ہے، دو چار حکایتیں راقم موصوف کے ذہن میں تازہ ہیں۔ ایک واقعہ کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ مہینہ تو اب یاد نہیں مگر زما ۱۹۷۲ء کا تھا۔ اور انگریز ہندوستان سے نکل جاؤ، یعنی کوئٹہ انڈیا کی تحریک زوروں پر تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد جیل میں قید تھے۔ میں حضرت سے ملاقات کے لئے مراد آباد گیا ہوا تھا، ایک دن صبح سے خبریں گرم ہوئیں کہ کانگریس کا جلوس نکلے گا اور حکومت کی طرف سے سخت پابندی اور انتظامات ہیں کہ یہ جلوس نہ نکلنے پائے۔ کانگریس نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ جلوس نکل کر رہے گا۔ سارے شہر میں بوڑھے جوان بچے بڑے ہندو مسلمان صبح ہی سے جلوس کے انتظامات میں اس طرح ذوق و شوق کے ساتھ مشغول تھے جیسے لوگ برات میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ دوپہر ہوتے ہوتے انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جلوس کی شکل میں اپنی منزل کی جانب گامزن ہوا۔ چند ہی قدموں کے بعد مسلح گارد نے سنگینوں کی نوک پر راستہ روکنا چاہا۔ مگر نشہ آزادی کے متوالوں نے آناً فاناً میں سنگینوں کا یہ گھیرا ہوا میں اُڑا دیا۔ جلوس کا ریلا آگے بڑھا تو جوش و خروش بھی بیسوں گنا بڑھ گیا۔ انقلاب زندہ باد، بھارت ماتا کی جے، نعرہ تکبیر اور کوئٹہ انڈیا کے نعروں سے زمین و آسمان گونج اُٹھے۔ میری عمر اس وقت چودہ پندرہ برس کی رہی ہوگی، تماشہ دیکھنے کے شوق میں مجمع کے درمیان پتے پساتے میں بھی آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ مجمع مقررہ منزل تک پہنچا تو اس کا نشہ بھی شباب تک پہنچ گیا۔ دو چار جوشیلے قسم کے نوجوان ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر انقلابی نعرے اور تقریریں پیش کرنے لگے۔ زجانے کیوں اور کیسے۔ شاید تماشے کا نظارہ مکمل کرنے کے لئے میں بھی کاندھوں کاندھوں اچک کر اس پلیٹ فارم تک پہنچ گیا۔ تاحہ نظر جوش و خروش دہلی میں چور انسانوں

کا سیلاب دیکھ کر مجھ پر ایک خمار آلودہ ہوشی سی طاری ہو گئی۔ اسی عالم میں چشم زدن میں کسی نے پیچھے سے گھسیٹ کر مجھے قریب کی دکان میں دھک دیا اور میں اسی لمحے آناٹا میں برٹانیہ کی طاقت نے بہتے عوام پر سنگینوں کی بارش سے آگ اُگل دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مادر وطن کے کئی پورتوں نے بھارت ماما کی بے اور کلہ شہادت پڑھتے پڑھتے اپنے تازہ تازہ خون سے سرزمین وطن کو لالہ زار بنا دیا۔ ان تمام سر فریشوں اور قربانیوں میں وطن اور اہل وطن کا جو بھی جذبہ رہا ہو مگر حضرت رتمہ اللہ علیہ کی نیت خالصتہً بوجہ اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہی تھی۔ ہندو مسلم اتحاد اور متحدہ قومیت بھی اسی میدان جہاد کا ایک تہیتی اور کارگر رہ گیا تھا۔ اس باب میں حضرت رتمہ اللہ علیہ کی بے شمار تقریروں اور خطبات میں سے دو ایک اقتباسات ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ دسمبر ۱۹۲۳ء میں

ہیتمہ غلام کے پانچویں سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں فرمایا:

”واعدو لہم ما استطعتم من قوۃ ومن مہابا الخیل ترہبون
 بہ عدد اللہ وعدو کم۔ (اللہ رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں جس قدر ہو سکے اور
 جتنی بھی طاقت اور سواریاں وغیرہ فراہم ہو سکیں وہ سب ہمیں اللہ کے اور اپنے
 دشمنوں سے مقابلہ کرو) یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ مسلمان ہند کے لئے یہ اتحاد
 (ہندو مسلم) ضروری ہے۔ کیونکہ وہ قوت جس کے ذریعے ہم دشمن کو ڈرا سکتے ہیں اور اس
 کے پتھر لے دل دماغ کو گھٹا سکتے ہیں وہ اہل ہند کے لئے ظاہری حیثیت سے اتحاد ہند
 مسلم اور صرف اتحاد ہند و مسلم ہے۔ اس لئے یہ اتحاد مذہبی حیثیت سے فقط جائز ہی
 نہیں بلکہ ضروری بھی ہوگا۔“

انکار خیالات اور تقاضے تو یہی تھے جن کی بنیادوں پر حضرت متحدہ قومیت کے حامی
 تھے مگر انہی نظریات کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا ماحول اور مشترک ماحول بھی آپ کے
 پیش نظر تھا جس میں اقراق، اختلان، دشمنی اور عداوت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ قبل اس کے
 کہ اس بارے میں حضرت کی رائے پیش کی جائے۔ اس موقع پر ایک خاص نکتہ ذہن میں

مخفوظ کر لیں کہ راقم موفت کے مشاہدے اور مطالعے کے مطابق حضرت کو اپنے وطن اور اہل وطن سے بہت محبت تھی۔ اس کی تفصیل بہت طویل ہے۔ کچھ تذکرہ آئینہ صفحات میں آئے گا۔ یہاں تو حضرت کا ایک بیان ملاحظہ فرمائیے جس میں انکار و نظریات نہیں بلکہ سیدھے اور سائے الفاظ میں نفس واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں فرمایا:

”مسلمان تو ہندوؤں سے اُس وقت سے ملے ہوئے ہیں جب سے کہ ہندوستان

میں اگر آباد ہوئے ہیں اور میں تو اس وقت سے ملا ہوا ہوں جب سے کہ پیدا ہوا ہوں کیونکہ میری ولادت ہندوستان ہی میں ہوئی اور یہاں ہی پرورش پائی۔ جب ایک ملک یا ایک شہر اور ایک آبادی میں رہیں گے تو ضرور ایک دوسرے کو دیکھے گا، ساتھ رہے گا، ساتھ چلے گا۔ معاملہ لین دین اور ہر قسم کے خرید و فروخت اجارہ و کالت عادتِ تعلیم و تعلم وغیرہ وغیرہ میں ایک دوسرے سے باتیں کرے گا، ہاتھ ملائے گا، ہنڈا میں اور تمام مسلمان جب تک ہندوستان میں ہیں ہندوؤں سے ملے ہوئے ہیں، بازاروں میں ملے ہوئے ہیں، مکاؤں میں، ریلوں میں، ٹراموں میں، لارپوں میں، اسٹیمرز میں، اسٹیشنوں میں، کالجوں میں، ڈاک خانوں میں، تھانوں میں اور پولیس کے اداروں میں، کچھریوں میں، کونسلوں میں، اسمبلیوں میں، ہسپتالوں میں وغیرہ یہی بتلائیے ملنا کہاں اور کب نہیں ہے۔ آپ زمیندار ہیں آپ کے کاشت کار کیا ہندو نہیں ہیں؟ آپ تاجر ہیں، کیا آپ کے خریدار اور معاٹے والے جن سے آپ کو خریدنا ہوتا ہے، ہندو نہیں ہوتے۔ آپ وکیل ہیں کیا آپ کے موکل یا آپ کے وہ حکام جن سے مقدمے کے معاملات میں تعلق ہے ہندو نہیں ہوتے؟ کیا ان سے ملنا نہیں پڑتا۔ آپ میونسپل بورڈ اور سکرٹری بورڈ، لوکل بورڈ، کونسل، اسمبلی وغیرہ کے ممبر ہیں۔ کیا ہندو ممبران اور سکرٹری اور پریزیڈنٹ سے ملنا، بحث کرنا، انسانی تہذیب اور آداب کو بجالانا نہیں پڑتا ہے۔ پھر بتلائیے اور غور کیجئے کہ کون اس سے بچا ہے۔ ہندوستان کے دس کروڑ مسلمانوں کو گردن زدنی قرار دے دیجئے۔ میں ابتدائی عمر میں مڈل اسکول میں پڑھتا تھا تو ہندو طلباء بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ کسی سال تک متعدد کلاسوں میں ساتھ رہا اور

بعض کلاسوں کے مدرس بھی ہندو تھے ان سے پڑھا ہوا۔
 مذکورہ بالا اقتباس پڑھنے کے بعد ایک بات کا خیال رکھئے۔ ملنے کا مطلب ملاقات اور
 سلام دونا نہیں بلکہ اپنے وسیع معنوں میں اشتراک عمل ہے۔ اور یہی حضرت کا طریقہ اور
 نظریہ تھا کہ ہندوستان میں رہ کر ملک کی ساری ہی آبادی کے ساتھ بلا لحاظ مذہب ملت اشتراک
 عمل ناگزیر ہے۔ اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر حضرت ہندوستان کے بھئی بنے والوں کو بلانا
 ہندوستان کے شہر بنی ہونے کے ایک قوم سمجھتے تھے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں ایک لمحو
 ٹٹھہر کر اگر حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن صاحب قدس اللہ سرہ کے خیالات و نظریات پر
 بھی چند سکند غور کر لیں تو موضوع اور بھی زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اس لئے کہ خدمت حدیث
 میں، تعلیم و تدریس میں، اچھے دین میں، سیاسی جدوجہد میں، قومی خدمات میں غرض عوامی
 زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے حضرت انہی شیخ الہند کے متبع، خوشہ چین اور جانشین رہے
 ہیں۔ بار بار اس امر کا اظہار و اعلان فرماتے رہے کہ میں حضرت شیخ الہند کا خادم اور متبع
 ہوں اور ان کے راستے سے ایک قدم نہیں ہٹا سکتا۔

انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی
 انہی کی محفل سنوارتا ہوں چسراغ میرا ہے رات ان کی

حضرت شیخ الہند کا فرمان سنئے :

کچھ شبہ نہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ہم وطن اور ہندوستان کی سب سے
 زیادہ کثیر التعداد قوم (ہندو) کو کسی نہ کسی طریق سے آپ کے ایسے پاک مقصد کے حصول میں
 مؤید بنادیا ہے۔ اور میں ان دونوں قوموں کے اتفاق و اتحاد کو بہت ہی مفید اور نتیجہ
 خیز سمجھتا ہوں اور حالات کی نزاکت کو محسوس کر کے جو کوشش اس کے لئے فریقین کے عالمہ
 نے کی ہے اور کر رہے ہیں اس کے لئے میرے دل میں بہت قدر ہے۔ کیوں میں جانتا
 ہوں کہ صورت حالات اگر اس کے مخالف ہوگی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو ہمیشہ

کے لئے ناممکن بنا دے گی۔ ادھر دقمری حکومت کا آہنی پنجہ روز بروز اپنی گرفت کو سنت کرتا جائے گا۔ اور اسلامی اقتدار کا اگر کوئی دھندلا سا نقشہ باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی ہماری بد اعمالیوں سے حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ کر رہے گا۔ اس لئے ہندوستان کی آبادی کے یہ دونوں بلکہ سکھوں کی جنگ آزما قوم کو ملا کر تینوں عنصر اگر صلح و آشتی سے رہیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ چوتھی قوم خواہ کتنی ہی طاقت ور ہو ان اقوام کے اجتماعی نصب العین کو محض اپنے جبر و استبداد سے شکست کر سکے گی! لے

یہ وہ عوامل تھے اور یہی وہ ماحول اور تقاضے تھے جن کی بنا پر حضرت ہندوستان میں رہنے اور بسنے والی بھی قوموں کے درمیان اشتراک عمل لازمی اور ضروری سمجھتے تھے۔ اور اپنی سیاسی زندگی کی بالکل ابتداء سے ہر اس فرد اور جماعت کے مؤید و معاون تھے جو اس نظریے کی حامی ہو۔ اور یہی وہ فکر اور اساس تھی جس پر متحدہ قومیت کی تعمیر قائم تھی۔ یہ بنیاد درمیان سے ہٹ جائے تو نفرت اور عدالت کی آگ پورے ملک بلکہ پوری انسانیت کو نکل لینے کے لئے دہک رہی تھی۔ اس نظریے کی تعریف اور خلاصہ حضرت سے سنئے:

”اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے

(عوام) مذہب و ملت کے لحاظ سے خواہ کتنا ہی اختلاف رکھتے ہوں مگر ہندوستانی

ہونے کا رشتہ ان سب کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے۔ اس رشتے کی بنا پر

ان کے مفادات مشترک ہیں۔ ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے جو چیز ہندو کے لئے

مفید ہے وہ مسلمان کے لئے بھی مفید ہے اور جو مسلمان کے لئے نقصان رساں

ہے وہ بالاحوال ہندو کے لئے بھی نقصان رساں ہے۔ اسی رشتے کی بنا پر ان

سب کا نیشن ایک اور ان کی قومیت متحد ہے۔“ لے

مذکورہ بالا مضامین سے متحدہ قومیت کی اہمیت اور اس بارے میں حضرت کامسک

واضح طور پر سمجھ میں آگیا ہوگا۔ اسی سلسلے میں کچھ آگے چل کر حضرت فیصلہ کن بات کہہ کر موضوع کو ختم کر دیتے ہیں :

”اگرچہ پہلے مضمون سے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو گیا ہے مگر یہ بات صاف نہیں

ہو سکی کہ متحدہ قومیت میرے نزدیک ایک اہم نظریہ ہے اور موجودہ احوال و احوال و احوال
میں ہندوستانی مسلمانوں کے لئے اس کو ضروری سمجھتا ہوں۔“

خوب دھیان رہے اور کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ لفظ اپنے عام معنی میں استعمال
ہو رہا ہے۔ مذکورہ بیانات میں بھی حضرت نے بار بار اس کی وضاحت کر دی ہے اور دوسرے
بے شمار مواقع پر اپنی تحریروں اور تقریروں میں اس کا اعلان فرمایا ہے کہ اس لفظ متحدہ
قومیت کا اطلاق اپنے خاص مفہوم، ہندوستانی ہونے اور ایک ملک کے باشندے ہونے کی
حیثیت میں ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں اور جب بھی مسلمانوں کے دین مذہب اور اسلامی شخص و
شعائر کا سوال پیدا ہوتا ہے وہاں ان کی حیثیت بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ پہلے اس سلسلے میں
حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کا فیصلہ سنئے :

”یہ میں پہلے بھی کہ چکا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ ان اقوام کی باہمی مصافحہ
اور آشتی کو اگر آپ پائدار اور خوش گوار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی حدود کو خوب اچھی
طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اور وہ حدود یہی ہیں کہ خدایا کی باندھی ہوئی حدود میں ان سے
کوئی رخص نہ پڑے۔ جس کی صورت بجز اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ اس صلح و آشتی
کی تقریب سے فریقین کے مذہبی امور میں سے کسی ادنیٰ امر کو ہاتھ نہ لگایا جائے
اور دنیوی معاملات میں ہرگز کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے کسی فریق کی
ایزارسانی اور دل آزاری منظور ہو۔“

یہ تقریر نہیں بلکہ قوم اور ملک کے نام حضرت شیخ الہند کا آخری پیغام تھا۔ اس تقریر کے
آٹھ ہی دن بعد حضرت موصوف نے جان عزیز جان آفریں کے سپرد کی۔ اس اعتبار سے

ملک کے اور اپنے چاہنے والوں کے لئے آپ کے یہ الفاظ وصیت کے درجے میں داخل ہو گئے۔ آپ کے جانشین حضرت مولینا حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کی پالیسی آخر دم تک انہی لائنوں اور خطوط پر عمل پیرا رہی۔ کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے، اعتراف کرے یا نہ کرے اور عمل کرے یا نہ کرے تاریخی حقائق زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر لوح و قلم سے پوری طرح بے نیاز ہو کر بھی ثبت ہو کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہندؒ کے اس آخری پیغام اور اس مقصد کے لئے ہمارے حضرت کی سلسلہ جدوجہد کے پچاس برس بعد جب ہندوستان کا کانٹنیٹیوشن بنا تو اس میں اس بات کو قانونی اور کانٹنیٹیوشنل درجہ دیا گیا کہ اسٹیٹ کو یہ حق کبھی نہیں ہوگا کہ وہ ملک کے رہنے والے کسی گروہ کے مذہبی امور میں سے کسی کو ہاتھ لگائے یا کسی فریق کی دلازاری کرے اس سلسلے میں حضرتؒ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے:

”ہماری مراد متحدہ قومیت سے اس جگہ وہی متحدہ قومیت ہے جس کی بنیاد جناب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دین میں ڈالی تھی۔ یعنی ہندوستان کے باشندے خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ہمیشہ ہندوستانی ایک قوم ہو جائیں۔ اور اس پر وہی قوم سے جو کہ وطنی اور مشترک مفاد سے محروم کرتے ہوئے سب کو فنا کر رہی ہے۔ جنگ کر کے اپنے حقوق حاصل کریں اور اس ظالم و بے رحم قوت کو نکال کر غلامی کی زنجیروں کو توڑ پھوڑ ڈالیں۔ ایک دوسرے سے کسی مذہبی امر میں تعرض نہ کرے، بلکہ تمام ہندوستان کی بسنے والی قومیں اپنے مذہبی اعتقادات، اخلاق اور اعمال میں آزاد رہیں۔ اپنے مذہبی رسم و رواج مذہبی اعمال و اخلاق آزادی کے ساتھ عمل میں لائیں اور جہاں تک ان کا مذہب اجازت دیتا ہو، امن و امان قائم رکھتے ہوئے اپنی اپنی نشر و اشاعت بھی کرتے رہیں۔ اپنے اپنے پرسنل لار، کلچر اور تہذیب کو محفوظ رکھیں۔“

یہ نشر و اشاعت ماڈرن زبان والا نہیں ہے جو پروپیگنڈہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ حضرت نے اس لفظ سے تبلیغ دین و اشاعت اسلام مراد لی ہے۔ وہ اپنی تقریروں اور گفتگوؤں میں بڑی صراحت اور اعلان کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کوئی کمزور جماعت نہیں جسے آسانی سے منسوب کیا جاسکے۔ اس ملک میں اسلام کی اشاعت اور ترقی اُس وقت شروع ہوئی جب وہ صرف چند سو کی تعداد میں تھے۔ اور آج سے بہت زیادہ کمزور اور معمولی اقلیت میں تھے مگر تعلق مع اللہ اور اخلاص فی سبیل اللہ وہ طاقتیں ہیں جن کے ذریعے اس ملک کے چمپے چمپے اور روئے زمین کے ذرے ذرے پر اسلامی افکار، آثار، تہذیب اور تعلیمات کے نقوش ثبت ہیں۔ آج بھی دنیا اسی طرح اللہ کے نام اور اسلام کے پیغام کی پیاسی ہے مگر بیجا مردوں میں وہ حرارت ایمانی اور جوش عمل مفقود ہے۔ حضرت مسلمانوں کو اس ملک میں اقلیت تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ وہ فقط عد کی اور کیت کی کثرت کو طاقت نہیں خیال کرتے تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ ایمان کا ایک ذرہ اور نفلہیت کا بلکا سا بندہ بھی بڑے بڑے پہاڑوں کے جگرش کر دینے کے لئے کافی ہے۔ لہذا انہا ہذا القمآن علی جبل لراہیۃ خاشعاً متصدعاً من خشیۃ اللہ۔ سیاسی اعتبار سے آپ ہندوستان میں بسنے والی ساری ہی قوموں کو ملک پر برابر کا حقدار قرار دیتے تھے۔ اور تنظیمی و انتظامی ترتیبات کو قوموں کے حقوق میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ۱۹۴۶ء کو ہیتہ علماء ہند کے سالانہ اجلاس شوقہ لاہور کے خطبہ صدارت میں فرمایا:

”ہندوستان کے داخلی مسائل میں مسلمانوں کا سہل خاص اہیت رکھتا ہے۔“

گذشتہ ایک صدی سے ہندوستان میں برطانیہ کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو بھی ہندوستان کی اقلیتوں میں داخل کر کے ان کے متعلقہ مسائل کو اقلیتوں کے مسائل کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ برطانوی سیاست دان اور مدبرین ہمیشہ مسلمانوں کو ایک سیاسی اقلیت کی صف میں شمار کرنے اور ان کے معاملات کو اقلیتوں کے معاملات میں شامل کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور اسی بنا پر ہندوستان کی غیر مسلم قومیں بھی ہندوستان کے سیاسی مستقبل میں مسلمانوں کے متعلقہ مسائل کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہیں جو اقلیتوں کے مسائل کے ساتھ کرنے والی ہیں۔ یہ خیال انگریزوں اور غیر مسلموں ہی تک محدود

نہیں رہا بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود مسلمانوں کے ایک طبقے کے دلوں میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ وہ ہندوستان میں ایک سیاسی اقلیت ہیں۔ اور اس درجہ سے وہ تمام انڈیشے، دوسرے اور خطرات ان کے دلوں پر چھا گئے ہیں جو ایک اقلیت کو اپنی زندگی اور انفرادیت کے متعلق اکثریت کی طرف سے پیش آتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہندوستان کی مجموعی مردم شماری میں تعداد کے لحاظ سے مسلمان عدوی اقلیت میں ہیں لیکن یہ بھی یقینی ہے کہ بجائے خود ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد یورپ کے کسی بڑے سے بڑے خطے کی آبادی سے کہیں زیادہ ہے۔ نیز ہندوستان کی تعمیر میں ان کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ ہندوستان میں ان کی تعداد نو اور دس کروڑ کے درمیان ہے۔ تہذیب اور ثقافت کے لحاظ سے وہ اہم خصوصیات کے مالک ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے انھیں قدرتی استحکام حاصل ہے۔^۱

یہ تھا وہ نظریہ تحدہ قومیت جس کی تائید اور حمایت حضرت رحمۃ اللہ علیہ علی الاعلان کسی لومہ لائم اور مخالفت و عداوت کا خیال کئے بغیر کرتے رہے۔ آپ اپنے اس نظریے میں منفرد نہیں تھے۔ ۱۸۵۷ء سے لے کر آج تک بلکہ اس سے بھی بہت پہلے سے بے شمار ہندوستانی بلکہ تمام دنیا کی سیاسی، ملکی اور انتظامی وحدتیں اس کو تسلیم کرتی رہی ہیں اسلامی احکام نے ان غیر مسلموں کے جزیے اور ٹیکس معاف کر کے ان کو اپنی صفوں میں لاکر برابر سے کھڑا کر دیا تھا جو ملک کے دفاع میں یک جہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ شریک ہو گئے ہوں۔ گذشتہ صفحات میں گزرا ہے کہ ہندوستان میں سرسید احمد بلکہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے لے کر ڈاکٹر سر محمد اقبال، مسٹر محمد علی جناح، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی وغیرہ وغیرہ صد بلکہ ہزار باربرین اسی نظریے کے علمبردار تھے۔ فرق صرف اتنا رہا کہ سیاسی مصالح اور نشیب و فراز کی رد میں وقت کے ساتھ بہت سے ہندو مسلم حضرات ہوا کے رخ کے ریٹے میں بہہ گئے اور حضرت نے ایک بار جو مسلک و موقف اختیار کر لیا تھا اس پر ہزار خطرات، اختلافات اور اعتراضات کے

باوجود قائم اور ثابت قدم رہے اور یہ حضرت رحمۃ اللہ کا مزاج تھا کہ بلاسوچے سمجھے کوئی طریقہ اور راستہ اختیار نہیں فرماتے تھے۔ مگر جب کوئی فیصلہ کر لیتے تھے تو عداوت و ملامت، سب و شتم، طنز و تشنیع، دست درازیاں اور گستاخیاں تو معمولی حوادث تھے۔ پھانسی کا تختہ اور تلوار کی دھارا بھی آپ کو استقلال، ثابت قدمی اور عزم راسخ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ فاذا اعزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یمحب المتوکلین۔

کوئی چیز گورنمنٹ کی ترغیب و تحریس مسلم لیگ کی مخالفت۔ مخالف ملہار کے ملے اور خوران کی قوم کے پھڑے ہوئے لوگوں کی گالیاں۔ آزادی ہند اور ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں جو انھوں نے پختہ اور پرجوش عقیدہ قائم کیا تھا اس سے ان کے ہائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ پیدا ہو سکتی تھی۔

حضرت رحمۃ اللہ کا یہ مسلک صحیح تھا یا نہیں؟ اس کا فیصلہ تاریخ کی غیر جانب دار عدالت کرے گی۔ ہمارا موضوع تو صرف یہ ہے کہ ہندوستان کے ماحول، حالات اور واقعات کے سیاق میں حضرت کے نظریہ پر نظر ڈال لیں۔

کانگریس میں شرکت۔ بدیشی مال کا بائیکاٹ

ہر چند کہ حضرت کی بنیادی سیاست جیتے علماء ہند کی پالیسی کی تابع تھی۔ مگر چونکہ کانگریس اور جیتے علماء میں بڑی حد تک اتحاد فکر و عمل تھا۔ اس لئے ملکی اصلاحات، سیاسی مطالبات اور آزادی کی تحریکات کی حد تک حضرت رحمۃ اللہ کانگریس کے دوش بدوش سرگرم عمل تھے۔ یہ اشتراک عمل حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کی زندگی سے اور جیتے علماء ہند کی ابتداء سے کبھی کبھی وقتی اور جزوی اختلافات کے باوجود مسلسل جاری رہا تھا۔ ہمارے حضرت مالٹا سے واپسی کے فوراً بعد کانگریس کے ممبر ہو گئے تھے اور اس کے بعد ساری ہی زندگی مختلف حیثیتوں میں صوبائی کانگریس کی سربراہی، کانفرنسوں کی صدارت، ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت وغیرہ کی شکل میں آخر تک تعاون و تائید جاری رہی۔ "میں کانگریس کا اُس وقت سے ممبر ہوں جب سے کہ مالٹا سے ہندوستان آیا تھا" حضرت پورے خورد و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کے لئے مکمل اخلاص اور جاں فروشی کے ساتھ جدوجہد کرنے والی جماعت صرف انڈین نیشنل کانگریس ہی ہے۔ اور دوسری ساری جماعتیں انگریز اور برطانوی حکومت کی تابع اور فرماں بردار ہیں۔ آزادی کو حضرت ملک و ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کا پہلا زینہ سمجھتے تھے اور اس راہ میں ہر فرد و جماعت سے اشتراک کے لئے تیار تھے۔ اگرچہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں آپ دنیا کے دوسرے مشاغل اور انکار سے قطع نظر کر کے صرف تدریس و تعلیم اور روحانی اور اصلاحی مشاغل میں مصروف تھے مگر اسی دوران قلب و دماغ میں انقلابی اور تشدد پسندانہ جذبات بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ مدینہ طیبہ میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کبھی کبھی ہوتا رہتا تھا اور پیچھے گزر چکا ہے کہ وہیں ایک عوامی جلسے میں حضرت نے اپنے سیاسی خیالات کا کھل کر اعلان کیا تھا اور مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کے لئے تقریر کی تھی۔

لیکن اس کے باوجود عملی سیاست میں مالٹا سے واپسی کے بعد ہی حصہ لیا۔ سیاسی زندگی کی ابتدا کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے:

”پہلے میں انقلابی تشدد آمیز خیالات کے ساتھ موجودہ انگریزی اقتدار کا مخالف تھا۔ اور اسی بنا پر مالٹا میں ۴ برس کی قید ہوئی تھی۔ اور واپسی مالٹا کے بعد عم تشدد کے ساتھ انگریزی اقتدار کا مخالف اور ہندوستان کی آزادی کا حامی ہو گیا۔ ۱۹۲۰ء سے برابر سالانہ فیس ممبری انڈین نیشنل کانگریس اور جیتہ علماء میں ادا کرتا ہوں۔ خلافت کا بھی اسی وقت سے ممبر ہوں۔ مگر خلافت فنا ہو گئی اس لئے اس میں اب کوئی حصہ نہیں رکھا اور میں ہر اس انقلابی جماعت میں شریک ہونے کو تیار ہوں جو انگریزی اقتدار کو ہندوستان سے ختم کرنے یا کمزور کرنے کی سبائی کے ساتھ کو نشان ہو۔“

یہ باضابطہ شرکت اور ممبری کا معاملہ تھا۔ مگر اس کے ساتھ ہی عملی سرگرمیوں میں بھی پورے حوصلے اور عزم و ہمت کے ساتھ شرکت ہمیشہ جاری رہی۔ اس سلسلے میں مختلف مقامات پر اسفار، اجلاسوں میں شرکت، کانفرنسوں میں خطبات اور تقریریں کانگریس کمیٹیوں کی صدارتیں تو اتر اور تسلسل کے ساتھ ہوتی رہتی تھیں۔ ان سرگرمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا:

”میں ۲۵ برس سے کانگریس کا ممبر ہوں۔ جلسوں میں شریک ہوتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں، فیس ممبری ادا کرتا ہوں، عہدوں کو قبول کرتا ہوں، جیل جاتا ہوں۔ اور اسی طرح اسی وقت سے جیتہ علماء کا بھی ممبر ہوں۔ ہاں کسی مذہبی و فرقہ داری غیر مسلم (ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی، پہلوی) جماعت کا نہ ممبر ہوں نہ ان کے جلسوں وغیرہ میں شریک ہوتا ہوں۔“

ایک اہم نکتہ اس جگہ قابل غور ہے۔ کانگریس میں یہ شرکت حضرت کے لئے فقط سیاسی یا عوامی سرگرمی نہیں تھی۔ بلکہ وہ اس کو ایک مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ ہندوستان کی آزادی اور

حکومت برطانیہ کے استیصال کو آپ اسلام کی ترقی اور عالم اسلام کی گلو خلاصی کی نظر پہا اور ضروری قدم خیال فرماتے تھے۔ اس اجمال کی کسی قدر تفصیل پچھلے ادراق میں گزر چکی ہے۔ حضرت کا ذوق اور طبیعت ثنائیہ یہ تھی کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر اقدام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لئے وقف تھا اور اپنے اسی مزاج کی روشنی میں وہ کانگریس کو ملک و قوم، مسلمانوں اور عالم اسلام کے لئے سب سے زیادہ قابل اعتماد جماعت قرار دیتے تھے۔ اور اس میں شرکت کو دینی ضرورت فرماتے تھے۔ اپنے اس مسلک کی وضاحت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بے شک میں کانگریس کا ممبر ہوں۔ اس میں کیا حرج ہے۔ یہ ملک کی ایک

مشترک جماعت ہے۔ اس میں ملک کا ہر باشندہ ممبر ہے اور ہو سکتا ہے۔ یہ ۱۸۸۵ء

سے قائم ہے۔ آٹھ یا نو اس کے صدر مسلمان رہ چکے ہیں۔ مسلم لیگ، خلافت کمیٹی، جیتہ علماء

۱۹۲۷ء سے برابر اس میں شریک ہو کر کام کرنے کی ہدایت کرتی رہی ہیں۔ یہ خالص

ہندوں کی جماعت نہیں ہے۔ ہندوں کی خالص ہندو جاسبھا ہے۔ وہ صرف ہندوں

کے فریقاً حقوق کا مطالبہ کرنے والی ہے۔ جس طرح مسلم لیگ خالص مسلمانوں کے حقوق

کی ذمے دار ہے۔ جس طرح بیونسٹیوں، ڈسٹرکٹ بورڈ، کونسلوں اور اسمبلیوں میں مسلمان

ملکی حقوق کی حفاظت وغیرہ کے لئے جاتے ہیں۔ اسی طرح کانگریس میں جانا اور تمام

ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا اور اس کے لئے جنگ بھارت کی ضروری ہے اور

میں اس کو اس وقت جہاد اور افضل الجہاد سمجھتا ہوں۔“ لہ

اس مسئلے میں ایک صاحب الرائے اور صاحب الرائے عالم اور عالم اسلام کی ایک

مقتدر شخصیت کی رائے بھی ملاحظہ فرمائیے جنہوں نے حضرت کے اس مسلک کی تائید فرمائی ہے۔

مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی مرتب مکتوبات شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ:

”محبت محرم مولانا سید ابوالحسن علی الندوی زید مجدہ نے میرا ہاتھ پکڑے

ہوئے فرمایا کہ مولوی نجم الدین! میں تم سے ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ

ہے کہ ہندوستان میں اگر کوئی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا شہنشاہ تھا تو وہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ تھے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ حضرت مدنی کا کانگریس کے اندر شرکت کرنا ان کے ہتھ سے کم نہیں تھا۔

اسی جدوجہد آزادی اور جذبہ جہاد کے راستے میں ایک معرکہ غیر ملکی مصنوعات کی مخالفت اور ملک کی صنعت کی ترقی کا بھی پڑا تھا۔ حضرت سال بہ سال کی اقتصادی رپورٹوں اور بیرونی مال کی درآمد کی تفصیلات اور اعداد و شمار سے بڑے اہتمام کے ساتھ باخبر رہتے تھے۔ اس کے اُن مواقع کا علم بھی رکھتے تھے۔ جہاں ملکی مصنوعات کی ترقی اور فروغ پر ٹکد کیا جاتا تھا۔ پبلک جلسوں اور اجتماعات میں بیشتر تقریروں میں گفتگوں یہ تفصیلات اور اعداد و شمار بیان فرماتے تھے۔ اپنی سوانح نقش حیات میں بھی بڑے شرح و بسط کے ساتھ یہ مضمون تحریر فرمایا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں :

۱۰ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسی یہ تھی کہ ہندوستان کی صنعت کو برباد کر دیا جائے۔ چنانچہ کھلے ہوئے احکامات صادر کئے گئے کہ بنگال میں ریشم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے لیکن ریشم کے کپڑے تیار کرنے کو روکا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ریشم بانوں کو جبراً کمپنی کے کارخانوں میں ملازم رکھ لیا گیا۔ اور دوسرے کسی گاہک کی فرمائش پر کپڑا بننے کی ممانعت کر دی گئی۔ ہندوستان کی ان صنعتوں کو تباہ کرنے کے لئے ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی حکومت دونوں یکجا آبرزد مند تھے۔ اس کا اندازہ اس شرح حصول سے کیا جاسکتا ہے جو برطانیہ کے ساحل پر ہندوستانی مال کے لئے مقرر کی گئی تھی۔ ۱۸۱۳ء میں انٹر ہندوستانی اکریڈٹ پر ۶۸ اور ۸۴ فیصدی محصول (کسٹ ڈیوٹی) لیا جاتا تھا۔

ہندوستانی صنعتوں اور ان کی اعلیٰ خصوصیات و امتیازات خصوصاً قالین بانی جواہرات تراشی، زرگری، طلائی و نقرئی ظروف سازی، عطر کشی، جرم سازی، لکڑی پتیل اور دوسری معدنی اشیاء پر نقش نگاری، پارچہ بانی و بنگار کی وغیرہ اور ان کے عروج و زوال کے بارے

میں جزیٰ جزیٰ تفصیلات حضرتؒ اپنی تقاریر میں بیان فرماتے تھے جنہیں سن کر ایک طرف فخر و مسرت کے احساسات موجزن ہوتے تھے تو دوسرے ہی لمحے دل رنج و صدمے سے چور ہو جاتا تھا۔ وہ تفصیلات تو تاریخی اور اقتصادی کتابوں ہی میں مل سکتی ہیں۔ ہمیں تو دو ایک ہی اقتباسات پر اکتفا کرنی پڑے گی اور وہ بھی اس لئے کہ اس مسئلے میں حضرتؒ کے موقف کی وضاحت ہو جائے۔ حضرتؒ فرماتے ہیں:

"واعیانِ خدمت انسانی اور دعویٰ دارانِ تمدن و تہذیب مامون تجارت

کی آرٹیں ایسے ایسے جابرانہ اور ظالمانہ قوانین ہندوستانی تجارت اور مصنوعات کو روکنے کے لئے بنائے کر دنیاے تجارت نے نہ کبھی دیکھے تھے نہ سنے تھے۔

(انگلینڈ) میں ہندوستانی مصنوعات پر حکومت کی طرف سے نہایت بوجھل محصول (کسٹم ڈیوٹی) لگائے گئے۔ حالانکہ ہندوستان برطانوی مقبوضات اور نوآبادیات برطانیہ میں قرار پا چکا تھا۔ ایسے ٹیکسز کی بنا پر لازم اور ضروری تھا کہ ہندوستانی مال انگلستان میں یک قلم بند ہو جاتا۔ اور ہندوستانی کاریگروں کی زندگی موت کے گھاٹ اُتر جاتی۔"

"ہنری سنٹ جارج محکمہ جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ہندوستان

میں بسر کیا تھا اور جو بعد واپسی انگلستان کمپنی کے ڈائریکٹروں میں داخل کر لئے گئے تھے۔ ۱۸۲۳ء میں مختصراً بیان کرتے ہیں۔ ہم نے ہندوستان سے کیسے تعلقات قائم کر رکھے ہیں؛ اس کے ریشمی کپڑے اور وہ کپڑے جو ریشم اور سوٹ سے مل کر بنے جاتے ہیں کچھ روز سے ہمارے بازاروں سے بالکل خالی کر دئے گئے ہیں اور حال میں کچھ ۶۷ فیصدی محصول درآمد کی بدولت اور کچھ کلوں کی ایجاد کی بدولت سوئی کپڑے جو کہ ہندوستان میں بکثرت تیار ہوتے تھے نہ صرف اس ملک میں آنے بند ہو گئے ہیں بلکہ ہم اٹلے انگلستان سے سوئی کپڑے اپنے ایشیائی مقبوضات میں بھیجنے لگے ہیں۔ اور اس طرح ہندوستان تجارتی ملک سے تنزل کر کے اب محض زراعتی ملک رہ گیا ہے۔"

”خلاصہ یہ کہ تین تجارت کی فرض سے انگلستان نے پہلے ہندوستانی مصنوعات پر ۸۰ فیصدی اور اس سے بھی زیادہ محصول (کسٹم ڈیوٹی) لگا کر اور پھر تنقید مانعت کر کے ہندب ڈاکر ڈالا تھا۔ اور پھر جب ان کے مالوں اور کارخانوں کی پیداوار بہت زیادہ تیز ہو گئی اور دوسرے ممالک میں ان کی کھپت نہیں ہو سکی تو آزاد تجارت کے ڈھونگ سے ہندوستان میں اپنی مصنوعات ٹھونسنے کی ضرورت سے محصول درآمد کم کر کے ہندوستان کو مجبور کر دیا جس سے وہ خام مال تیار کرنے پر بے دست پا ہو گیا اور دستکاری سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ سٹرانٹ گومری تاریخ نوآبادیات برطانیہ میں لکھتا ہے ہم نے رنج صدی کے دوران میں ہندوستانی طلاوتوں کو اپنی مصنوعات خریدنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس طریقے پر کہ ہمارے ادنیٰ مال پر ہندوستان میں کوئی محصول نہیں لیا جاتا۔ سوتی مال پر ۲۱ فیصدی محصول تھا۔ اور اسی نسبت سے دیگر اشیاء پر محصول لگایا گیا تھا۔ درآں حالیکہ اسی زمانے میں ہندوستان کے بنے ہوئے مال پر انگلستان میں ایسے سخت محصول لگاتے رہے کہ ہندوستانی مال کی درآمد بالکل ہی بند ہو جائے۔“

برطانیہ کی اس پالیسی اور ہندوستانی اقتصادیات پر ایسی ضرب کاری کے جواب میں ہندوستان نے بدیشی مال کا بائیکاٹ کر کے دیسی مصنوعات کو فروغ دینے کی تحریک چلائی۔ حضرت رحمۃ اللہ اس تحریک کے قائدین میں شمار ہوتے تھے۔ بہت ہی مجبوری ہو جائے تو دوسری بات ہے ورنہ جہاں تک ممکن ہوتا تھا حضرت کسی قسم کا کوئی بدیشی مال، سامان یا چیز استعمال نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ان فرسش و فروش پر نہیں بیٹھتے تھے جن کے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ غیر ملکی صنعت ہے۔ اگر اتفاق سے کوئی بدیشی چیز بھولے سے بھی گھر میں یا استعمال میں آجاتی تھی تو اندازہ ہوتے ہی اسے ضائع کر دیتے تھے۔ اپنے متعلقین، متبعین، مریدین اور مستحقین کو اگر کوئی غیر ملکی چیز استعمال کرنے دیکھتے تھے تو ناگواری کا اظہار فرماتے تھے اور حتیٰ الوسع اسے تبدیل کر دیتے تھے۔ کسی جنازے کا کفن غیر ملکی کپڑے کا ہونا تو نماز تو پڑھ لیتے تھے مگر اس کی امامت نہیں

کراتے تھے۔ حضرتؒ کے ایک مامول زاد بھائی سید خلیل احمد صاحب مرحوم کی وفات حسن اتفاق سے اس زمانے میں ہوئی جب حضرتؒ ٹانڈہ میں موجود تھے۔ سید صاحب کو حضرتؒ سے عزیز داری اور رشتہ داری کا تعلق تو تھا ہی مگر دینی اور مذہبی پہلو سے بھی بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ مرحوم خود بھی بڑے پابند اوقات اور متقی انسان تھے۔ بد قسمتی سے ان کے کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ دوسرے پس ماندگان کو اس کا خیال بھی نہ آیا کہ ان کے کفن کے بارے میں حضرت کی رائے کی رعایت رکھی جاتی۔ غالباً ان کو اس کا علم بھی نہ تھا۔ چنانچہ جنازہ آیا تو غیر ملکی لٹھے کا استعمال تھا۔ حضرت نے امانت فرمانے سے انکار کر دیا اور باوجود اصرار اور اعذار کے رضامند نہ ہوئے۔ البتہ نماز میں شرکت فرمائی۔ اس باب میں واقعات تو پچاسوں بلکہ سیکڑوں ہیں۔ مگر نمونے کے لئے ایک حکایت اور پیش خدمت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ ملل اور لٹھے کا لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت میں اور ان میں بڑے اخلاص اور اللہ فی اللہ کا تعلق تھا۔ شروع شروع میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انھیں بدیشی کپڑے استعمال کرنے پر ٹوکا۔ شیخ نے پھر بھی یہ کپڑے نہ چھوڑے تو حضرتؒ نے کچھ زبانی افہام و تفہیم کی۔ مگر اس پر بھی جب شیخ نے اپنا طریقہ نہیں بدلا تو ہمارے حضرتؒ نے اپنا طور بدل لیا۔ اب جب بھی شیخ کو دلائی کپڑے پہننے ہوئے دیکھتے بلا ایک لفظ کہے ہوئے اس کو چیر پھاڑ دیتے۔ شیخ الحدیث صاحب کے واقعات ان کے اپنے منفرد اسلوب میں زیادہ دلچسپ لگتے ہیں:

۵ " حضرت مدنی نور اللہ مددہ کو کھدر سے تو عشق تھا اور دلائی کپڑے سے نفرت

تھی یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن اس سید کار کے حال پر ایک مزید شفقت یہ تھی کہ میرے بدن پر جب بھی بدیشی کپڑے دیکھتے گریبان میں اتھ ڈال کر ایسے زور سے چاک فرماتے تھے کہ بچے تک وہ پھٹ جاتا تھا۔ حضرت قدس سرہ کی حیات تک ڈر کے مارے کھدر کا میرے یہاں بہت ہی اہتمام رہا چونکہ حضرت قدس سرہ کی آمد کا کوئی وقت مقرر نہ تھا، زندن رات اس لئے گرمی میں بھی کھدر کا کرتہ بھک مار کر پہننا پڑتا تھا! " لہ

اس بات کا اتنا اہتمام تھا کہ جلوسوں اور کانفرنسوں میں بدلائل و اضمحیہ بات ثابت کیا کرتے تھے کہ برطانیہ نے تجارت ہی کے راستے ہندوستان پر قبضہ کیا ہے اور تجارت ہی کے ذریعے سے ہمارے ملک کی ساری دولت سمیٹ کر اپنے ملک انگلستان پہنچا رہے ہیں۔ ایک تقریر آج بھی کانوں میں گونج رہی ہے: "ڈیلیو ڈیلیو ہٹرا اپنی کتاب 'ہمارے ہندوستانی مسلمان' میں لکھتا ہے کہ ہمارا طرز حکومت اسپنج کی طرح دریائے گنگا سے دولت چوس کر دریائے ٹینز کے کنارے لاکر نچوڑ دیتا ہے" اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ اگر ہندوستان اپنی ملکی مصنوعات کو فروغ دے اور غیر ملکی ایشیا کی خریداری بند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر حکومت نہیں کر سکتی۔ حضرت کی ایک تہنید اور نصیحت ملاحظہ ہو:

"پھر میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار! خبردار! انگریزوں کی ادنیٰ درجے کی بھی حیات، خیر خواہی اور مددگاری نہ کیجئے۔ یہ دُنیا اور آخرت کا سوال ہے۔ دلائی چیزوں خصوصاً کپڑوں سے خود رکے اور دوسروں کو روکے۔ اور جس قدر بھی ممکن ہو مسلمانوں میں اتحاد و تنظیم پیدا کیجئے اور گورنمنٹ برطانیہ کی قوت کو برباد کرنے کی کوشش کیجئے" یہ لے

باد جو اس اہتمام و اجتناب کے بعض چیزیں بدرجہ مجبوری استعمال ہی کرنا پڑتی تھیں۔ دوسرا غلامی نے ہندوستان کو بالکل مغلوب و ناکارہ کر دیا تھا۔ روزمرہ کے استعمال کی ساری ہی چیزیں لال ٹین، چھری، چاقو، مینہ، سوئی، بوتلیں، شیشیاں، ناڈٹین پن، قلم کی نب، روشنائی، چشمہ، تھرماس غرض استعمال کی ساری ہی چیزیں ولایت ہی سے آتی تھیں۔ ان تمام اشیاء میں حضرت صرف وہ چیزیں بجز درکارہ استعمال فرماتے تھے جن کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اپنی اس پالیسی کے بارے میں فرماتے ہیں:

"میں حتی الوسع غیر ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتا البتہ جو چیزیں ہندوستان میں تیار نہ ہو سکتی ہوں اور ان کی ضرورت بھی ہو ان کو بقدر حاجت

استعمال کرتا ہوں۔ میرے پاس سوائے گھڑی، عینک اور فاؤنٹین پین کے اور کوئی چیز غیر وطنی نہیں ہے۔ فاؤنٹین پین بھی سوائے سفر کے دوسرے اوقات میں استعمال نہیں کرتا۔ آپ کے مرسل کاغذات غیر وطنی تھے۔ مجھ کو اسلامیت اور وطنیت کا سودا سخت ہے۔ میں زیادہ ضروری سمجھ رہا ہوں کہ مسلمان اور اہل ہند کھدر کا استعمال کریں اور ولایتی چیزوں سے حتی الوسع گریز کریں۔“

یہ وہ حربہ تھا جس نے ایک طرف تو ہندوستان کے باشندوں میں احساس زبیاں اور جذبہ آزادی بیدار کیا اور دوسری طرف برطانیہ کے مصالح اور مفادات پر فیصلہ کن ضرب کاری لگائی جس کے نتیجے میں اس کو ہندوستان سے بوریابستر گول کرنا پڑا۔

معاندین و مخالفین

پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضرتؒ کے حامدین و معاندین کی شروعات ہو چکی تھی اور اس کی وجہ صرف حضرتؒ کی مقبولیت و محبوبیت تھی۔ اٹھارہ ماہ کے بعد آپ کی شہرت و مقبولیت سیاسی، تبلیغی اور اصلاحی خدمات میں روز افزوں ترقی ہونے لگی اور اسی کے ساتھ مخالفین اور متعزضین کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ حضرتؒ کی طبیعت انکساری، خوش اخلاقی اور ہر کس و نا کس کی دلداری اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیلی، تدریسی، روحانی اور سیاسی مشاغل میں انتھک انتھک کے پیش نظر یہ کہنا مشکل ہے کہ مخالفین کی تعداد حد کے کیا اسباب تھے۔ مگر حالات کے مشاہدے و مطالعے سے جو نتائج اخذ ہو سکتے تھے ان کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کے لوگ تین چار گروپوں میں تقسیم تھے۔

پہلی جماعت مولوی احمد رضا خاں صاحب کے تبیین اور مریدین کی تھی جن کو عرف عام میں بریلوی جماعت کہا جاسکتا ہے۔ ان کی مخالفت کی ابتدا جیسا کہ پچھلے صفحات میں گزرا ہے مدینہ طیبہ ہی سے ہو گئی تھی۔ یہ لوگ پوری دیوبندی جماعت اور مسلک سے بغض و عناد رکھتے تھے اور چونکہ اس مسلک کے مقتدا اور جماعت کے سربراہ اپنے وقت میں حضرتؒ ہی تھے اور انھوں نے المستشرق الکاذب لکھ کر اس جماعت کے مسلک اور طریقہ کو نمایاں کیا تھا اس لئے ان کو حضرتؒ سے خصوصی طور پر عناد تھا۔ یہ لوگ غلط، جھوٹے، نقلی اور بے بنیاد الزامات و اتہامات اور اعتراضات کی نشر و اشاعت بھی کرتے رہتے تھے اور جہاں جہاں وہ موقع ملتا تھا اعلیٰ طور پر بھی فتنہ و فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ ان کی جماعت حکومت برطانیہ کی حمایت اور تحریک آزادی کی مخالفت میں بھی بہت پیش پیش تھی۔ اس لئے کانگریس میں شرکت ہندو مسلم اتحاد، صلح و رواداری اور جدوجہد آزادی بھی ان کے الزامات اور اتہامات کی فہرست میں شامل تھی۔ اور ان کو وہ مختلف عنوانات سے عوام کے سامنے پیش کرتے تھے۔ مگر اس حقیقت کا بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس جماعت میں بعض افراد احاد ایسے بھی تھے جو حضرت

کی عظمت، عزیمت اور تربیت کے قابل اور معتقد تھے۔

دوسرا تھوڑا گروہ زمینداروں، رئیسوں، نوابوں، جاگیرداروں، تعلقداروں اور خطاب یافتوں کا تھا۔ فطری طور پر ان کے حاشیہ بردار اور مصاحبین بھی ان کے ساتھ بلکہ ان سے بڑھ کر تھے۔ ان لوگوں کا عیش و عشرت، شان و شوکت، راگ و رنگ، رقص و سرود اور استحصال بالجبر حکومت برطانیہ کے دم قدم سے زندہ اور اسی کا عطا کردہ تھا۔ یہ لوگ تحریک آزادی کو کچلنے میں اپنا مال، دوست، سپاہی، پیادے، گناشتے، ملازمین اور مصاحبین سب کچھ آخری حد تک استعمال کرتے تھے۔ حضرت کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ بہت شدید تھا۔ حکومت کی طرف سے بھی ان کو اشارہ اور حکم ملتا رہتا تھا کہ حضرت کے خلاف مختلف کارروائیاں کرتے رہیں۔ جلسوں میں، کانفرنسوں میں اور مجالس میں ان کے مقرر کردہ لوگ عین تقریر کے اور جلسوں کی کارروائیوں کے درمیان اٹھ کر شور مچاتے تھے۔ ہلڑ بازی کرتے تھے اور اینٹ پتھر پھینکتے تھے۔ جس شہر اور مقام پر حضرت تشریف لے جاتے تھے وہاں مخالفت میں اشتہارات شائع کر داتے تھے پوسٹر لگاتے تھے اور عوام کو درغلاتے اور بھڑکاتے تھے۔ حضرت کے معتقدین اور متبعین میں زیادہ تر عوام مزدور، کاریگر، صنعت کار، مدرسین، کسان اور معمولی دکان دار اور ملازمین شامل تھے۔ ان کمزور لوگوں پر ان صاحب اثر و نفوذ حضرات کا پورا بس چلتا تھا۔ مقامی افسران، کلکٹر، ایس پی، تھانیدار، داروغہ وغیرہ وغیرہ اس طبقے کی پشت پناہی کرتے تھے۔ حضرت سے ان کو ایک ذاتی پر خاش یہ بھی تھی کہ ایک مولوی مولینا بوریہ نشین اور مسجد و خانقاہ کے میمن کی یہ حیثیت اور جمال ہو گئی کہ ہماری رعایا کے لوگ اور ہماری ریاستوں کے عوام اس کے اشاروں اور احکام پر قربان ہونے اور ہمارے مقابلے پر آنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں۔ ان کے وظیفہ خوار، تنخواہ دار اور ایجنٹ جو ان کے ذریعے سے دراصل گورنمنٹ برطانیہ کے ایجنٹ ہوتے تھے، ہر شہر اور ہر علاقے میں موجود رہتے تھے۔ دیوبند اور مدرسہ دیوبند بھی ان سے خالی اور پاک و صاف نہیں تھا اور یہ لوگ اپنی سرکاروں کی خوشنودی مزاج کے لئے اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔ مدرسہ دیوبند کی سب سے بڑی اور با اختیار کمیٹی، مجلس شوریٰ میں بھی بعض ایسے

نواب جاگیردار اور خطاب یافتہ حضرات موجود اور اپنی ریشہ دوانیوں میں مشغول تھے۔ عرصہ دراز تک یہ لوگ اس ناکام کوشش میں مصروف رہے کہ مدرسہ دیوبند سے حضرت کو الگ کر دیا جائے۔

حضرت کے مخالفین کی تیسری جماعت حکومت کے عہدہ داران، بڑے بڑے افسروں، بیرسٹروں اور تمدن انگریزی کے علم برداروں اور ان کے حاشیہ نشینوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ کسی درجے میں توجہ اور توجہ سے اس لئے کہ ان کا حُب و بغض سرکار کے اشاروں کے تابع تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس طبقے کے ہمیشہ افراد حضرت سے شخصی اور ذاتی بغض و عناد رکھتے تھے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر تو یہ تھی کہ یہ جس طبقہ، اہول اور محبت نکر سے تعلق رکھتے تھے حضرت اسی کے استیصال کے لئے سرگرم عمل تھے۔ دوسرے اس معاملے میں حضرت کے طرز عمل اور برتاؤ کا بھی بڑا دخل تھا۔ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ چھوٹے بڑے، امیر فقیر، محتاج غنی، عامی اور عالی غرض ہر شخص کے ساتھ یکساں کشادہ روی اور خوش اخلاقی سے ملتے تھے اور ظاہری شان و شوکت اور دنیاوی اختیار و حیثیت کی بنا پر کسی کے ساتھ کوئی امتیازی معاملہ نہیں کرتے تھے۔ یہ مزاج صاحب جبر و اختیار لوگوں کے لئے اور وہ بھی حکومت برطانیہ کے سامنے و پرداختہ افراد کے لئے قابل قبول بلکہ قابل برداشت نہ تھا۔ حضرت وقتاً فوقتاً ان کو علی الاعلان مخاطب کرتے تھے کہ برطانیہ کی وفاداری میں اپنے وطن، اہل وطن اور قوم کے ساتھ عداوت اور بے وفائی تمہارے لئے ننگ و عار ہے۔ حکومت برطانیہ تمہارے کندھوں پر بندھن رکھ کر ہندوستان کو نشانہ بنا رہی ہے اور تمہارے ہاتھوں سے تمہارے ہی بھائیوں کو تباہ کر رہی ہے۔ انھوں نے بھی نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا۔ اور تیزی کے ساتھ ایسے مامن اور پناہ گاہ کی تلاش میں تھے جہاں یہ اپنے آقا یاں وئی نعمت کے پیر اکھر چانے کے بعد سر چھپا سکیں۔ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ اور ان کی جماعت شب دروز علوم اسلامیہ اور انکار دینیہ کی نشر و اشاعت میں مصروف ہے۔ مدارس اسلامیہ کی ترقی اور انکار دینیہ کی ترویج ان لوگوں کو سب سے زیادہ گراں تھی۔ اس سے ان کی زندگی پر بڑا اثر اور آزادی میں بہت فرق پڑتا تھا۔ چنانچہ یہ برصغیر کی شان میں تحقیر آمیز خیالات کا اظہار کرتے تھے اور علماء کے لئے

بڑے طنز یہ القاب قل اعزبے، سجد کے بدھنے، جبراتی مَلا وغیرہ وغیرہ ایجاد کرتے تھے۔ شعراء اپنے اشعار میں تحقیر و استخفاف کرتے تھے۔ اور مضمون نگار طنز یہ مضامین لکھتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ اسی جماعت علماء کے مقتدا و سربراہ تھے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان کے ہزاروں مدارس دینیہ و مکاتب اسلامیہ کے سرپرست تھے اس لئے قدرتی طور پر ان حضرات کے نشانوں کی زد سب سے پہلے اور سب سے زیادہ شدت کے ساتھ حضرت ہی پر پڑتی تھی۔ ان کے ساتھ ہی علماء و فضلاء کا بھی ایک گروہ حضرت کی مخالفت میں شامل تھا۔ یہ وہ حضرات تھے جو ملک کی آزادی اور برطانوی حکومت کی مخالفت کو مسلمانوں کے لئے نقصان و خسران کا سبب خیال کرتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ مسلم قوم کی حفاظت و بقا کے لئے انگریزوں کا وجود ضروری ہے۔ ان حضرات کو حضرت سے ذاتی عداوت و دشمنی نہیں تھی۔ مگر سیاسی مخالفت ضرور تھی اور وہ بعض اوقات اس قدر آگے بڑھ جاتی تھی کہ حدود و قیود سے تجاوز کر جاتی تھی۔ بہر حال یہ حقیقت اپنی جگہ پر قابل شکر ہے کہ انہوں نے حضرت کے خلاف کبھی زبان طعن اور قلم تنقید دراز نہیں کیا۔ لیکن ان کی مخالفتوں کی زد گھوم پھر کر ہی سہی مگر حضرت کی ذات پر پڑتی تو تھی ہی۔

مختصر یہ کہ حضرت نے اپنی زندگی میں چالیس پچاس برس تک دن رات جس وقار اور عزیمت کے ساتھ یہ عداوتیں، طنز و تشنیع، ناگفتہ بہ کلمات اور مختلف قسم کی ناروا حرکات برداشت کیں اس کی بہترین تفسیر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ وَاِذَا جَاءَ سَرْدٌ بِاللَّنْمِ سَرَدُوا وَمَا وَآذِ احْطَبْهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کسی بھی مخالفت، عداوت، سب و شتم، الزام تراشی اور ہڑ بازسی پر کبھی کسی زبانی یا عملی شکوہ و شکایت کا اظہار نہیں کیا۔ خود تو حلم و بردباری اور صبر برداشت کا ثبوت دیتے ہی تھے مخلصین و متعلقین کو بھی صبر و شکر کی تاکید کرتے تھے۔

”اگر میں حق پر ہوں اور مخلصانہ مذہب ہی اور اسلامی خدمات کرتا ہوں تو غیروں اور اپنوں سے جو کچھ بھی اذیتیں پیش آئیں یا آ رہی ہیں ان کے لئے اسلحہ کرام و رحمہم اللہ تعالیٰ کے احوال اور اعمال مشعل راہ ہیں۔ جو جو مصائب انبیائے کرام

اور اولیائے عظام اور مقدس علماء کو پیش آئے ہیں اُن کے سامنے ہائے معاصی
 تو وہ بھی نسبت نہیں رکھتے جو ذرے کو پہاڑ سے ہے۔ اشد الناس بلاء
 الانبیاء ثم الامثل فالامثل سے تو بشارت حاصل ہوتی ہے جس سے قبولیت
 عند اللہ کا پتہ چلتا ہے اور اگر خدا نخواستہ میں غلط راستے پر ہوں اور معاذ اللہ فضیلت
 اور گمراہی میں پھنسا ہوا ہوں تو اس کا مستحق ہی ہوں۔ لے

مالٹا سے رہائی کے بعد مدینہ طیبہ کا پہلا سفر

دیوبند میں مستقل قیام کے بعد اب حالات کے نشیب و فراز میں ظاہری طور پر کسی قدر سکون نظر آنے لگا تھا۔ مولینا وحید احمد کی شادی سے سبکدوشی ہو گئی تھی اور وہ مدرسہ عزیز بہار شریف ضلع پٹنہ میں ملازم بھی ہو گئے تھے۔ خود حضرت کے ایک صاحبزادے اسعد اب دو ڈھائی برس کے ہو گئے تھے اور عائلی زندگی کسی حد تک مطمئن محسوس ہونے لگی تھی۔ ہر چند کہ مدینہ طیبہ کی مستقل واپسی کا ارادہ ابھی نہیں کیا تھا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور ان گیلیوں کی یاد شب و روز بے چین رکھتی تھی۔ بڑے بھائی مولینا سید احمد صاحب اور چھوٹے مولینا سید محمود احمد صاحب کا تقاضا اور اصرار بھی دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر بھتیجا بھی وقتاً فوقتاً چچا سے اصرار کرتا تھا۔ آخر ۱۹۳۱ء میں سفر حج کا ارادہ فرمایا۔ یہ مالٹا کی رہائی کے بعد پہلا حج تھا اور اس میں حضرت، ان کی اہلیہ مرحومہ، ایک صاحبزادہ اسعد ملہ، ایک خادمہ حجن شہر اتن مرحومہ، مولینا وحید احمد مرحوم، ان کی اہلیہ مدظلہا، ایک تین برس کا لڑکا اور ایک شیر خوار بچی، کل آٹھ نفر شریک قافلہ تھے۔ اس سفر کے حالات خواب کی طرح یاد ہیں اور اکٹھا، انہی تفصیل پر کی جا سکتی ہے جو یاد ہیں۔ دیوبند سے بذریعہ ٹرین روانہ ہو کر پہلی منزل کراچی میں کی گئی۔ کراچی اس وقت ایک چھوٹا سا ساحلی شہر تھا۔ آبادی بہت ہو گئی تو چار پانچ یا چھ لاکھ رہی ہوگی۔ شہر میں عام لوگوں کے لئے ٹرام چلتی تھی اور خاص خاص لوگ ڈگھوڑوں کی گاڑی پر چلتے تھے جسے وکٹوریہ اور فنٹن کہتے تھے۔ کہیں کہیں اکا دکا موٹریں بھی نظر آ جاتی تھیں جو یقیناً انگریز عہدہ داران کی ہوتی ہوں گی۔ اس وقت ہندوستانی خواتین، چاہے کسی بھی طبقے یا جماعت سے تعلق رکھیں گھروں سے شاد و نادر ہی نکلتی تھیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نکلنا ہی پڑتا تھا تو پردے اور حجاب کے میسوں انتظامات ہوتے تھے انہی ضروریات کے لئے اس وقت کراچی کے صدر اور بندر روڈ پر ایسی ہی پردہ دار وکٹوریہ گاڑیاں اور فنٹن

نظر آتی تھیں جو چاروں طرف سے بالکل بند ہوتی تھیں اور ہوا کے لئے ان میں ریل کے ڈبوں کی طرح ہوادار کھڑکیاں لگی ہوتی تھیں۔ ایسی ہی ایک گاڑی میں حضرت کا خاندان بندرگاہ تک پہنچا تھا۔ کراچی میں حضرت کا قیام ملکہ کھڈہ مدرسہ عربیہ میں مولانا محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر ہوا تھا۔ کراچی سے جدہ کا سفر دخانی جہاز کے ذریعے ہوا جس میں اوپر کے طبقے پر ایک سائے دار سائبان میں چاروں طرف قناتیں لگا کر قیام کی آرام دہ جگہ بنائی گئی تھی۔ بحرئی سفر کے دوران کھانے کا انتظام خود کرنا پڑتا تھا جس کے لئے جملہ لوازمات و ضروریات پہلے ہی سے ساتھ لے لی گئی تھیں۔ اس سفر کے دوران حضرت کا زیادہ تر وقت ذکر و تفلح، عبادت و ریاضت اور تبلیغ و تذکیر میں خرچ ہوا۔ بارہ چودہ دن کے سفر کے بعد جہاز جدہ پہنچا تو کھلے سمندر میں لنگر انداز ہوا۔ اس وقت تک جدہ میں جہازوں کے پھرنے کے لئے پلیٹ فارم نہیں بنے تھے۔ مسافر ریلوں سے بندھی ہوئی سیڑھیوں کے ذریعے اترتے تھے جو جہاز سے لٹکی رہتی تھیں۔ اور جہاز سے اتر کر کشتی میں سوار ہوتے تھے جو ساحل تک پہنچاتی تھیں۔ مرد و کسی نہ کسی طرح اس آسمان میں پورے آتر جاتے تھے مگر خواتین خاص طور پر بچوں والیاں اور بوڑھیاں جب ان ہلتی اور ڈگمگاتی ہوئی سیڑھیوں سے اترتی تھیں اور پھر اس طرح کہ نیچے نہ کھولے سمندر لہریں بارہا ہوتا تھا اور سانے ڈولتی اور ہچکولے کھاتی ہوئی کشتیاں دل دہلائے دیتی تھیں اور آخری سیڑھی سے کشتی میں کسی قدر چھلانگ مار کر پہنچتی تھیں تو اللہ کی رحمت کاملہ سے امید ہے کہ کج کا آدھا ثواب تو اس پہلے ہی مرحلے پر مل جاتا ہوگا۔ حضرت کے استقبال کے لئے عام کشتی کے بجائے موٹر بوٹ پر ان کے دونوں بھائی مولانا سید احمد صاحب اور مولانا محمود احمد صاحب اور نوز عمر بیٹی سید حبیب صاحبہ حاضر تھے۔ جدہ میں حضرت کا قیام چھوٹے بھائی سید محمود احمد صاحب کے یہاں ہوا جو حکومت حجاز کی ملازمت کے سلسلے میں جدہ ہی میں مقیم تھے۔ پہلے مدینہ طیبہ کی حاضری سے مشرف ہوئے۔ یہ سفر اس زمانے کی موٹریا لاری میں ہوا جو آج کی طرح آرام دہ اور تیز رفتار نہیں تھی۔ یہ لاری دس دس بارہ بارہ میل پر کھڑی ہو کر ہانپنے لگتی تھی۔ پھر بڑی مشکل ایک دو تین پانی پلانے اور بیس بیس راؤنڈ ہینڈل مارنے کے بعد ہلتی تھی۔ سڑک کا تو کیا ریگستان

میں ایک بھی نہیں ملتی تھی، ہر آدھ پون گھنٹے کے بعد ریت کے جھکڑ نشان راہ کو سطح آب کی طرح سپاٹ کر دیتے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر دو دن میں طے ہوا۔ مدینہ طیبہ میں مولانا سید احمد صاحبؒ کا قائم کردہ مدرسہ باب جبریل سے ملا ہوا اور حرم پاک سے بالکل متصل تھا۔ اسی کے قریب حضرت موسس مدرسہ کا گھر تھا، وہیں حضرت اور آپ کے قافلے کا قیام ہوا۔ یہاں قیام کے دوران زیادہ تر وقت حضرت حرم پاک میں گزارتے تھے۔ خوب یاد ہے کہ موابہ شریف میں ساکت و صامت کھڑے ہیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہ رہی ہیں اور استغراق کی حالت طاری ہے، کئی گھنٹے اسی حالت میں گزر گئے، نہ لب ہلتے تھے نہ پیر بدلتے تھے۔ واپسی میں مکہ مکرمہ، منیٰ، عرفات اور مناسک حج کے لئے سفر اونٹوں پر طے ہوا۔ اونٹوں کی سواری قافلے والوں خصوصاً عورتوں اور بوڑھوں کے لئے تو بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہوگی۔ سارے راستے جان پتے پر رکھی رہتی تھی کہ اب گرے اور تب گرے۔ اونٹ کی پشت پر دونوں طرف جھولے کی قسم کے کھٹولے لٹکا کر ان میں حجاج کرام کو اس طرح سوار کرایا جاتا تھا کہ دونوں طرف وزن برابر رہے۔ اس کے لئے پہلے اونٹ والا نظروں ہی نظروں میں سواریوں کو تول لیتا تھا۔ اور سوار ہو جانے کے بعد ترازو کے باٹوں کی طرح ادھر ادھر کر کے پلڑے برابر کرتا تھا۔ اتنی احتیاط کے باوجود راستہ چلتے ہوئے کئی بار خبردار کرتا تھا کہ فلاں طرف کا پلٹا جھکا رہا ہے یا آٹھ رہا ہے۔ جلدی وزن برابر کرو۔ اونٹ آگے قدم بڑھاتا تو معلوم ہوتا تھا کہ اب اٹھتے ہی چلے جائیں گے اور جب پاؤں زمین پر رکھتا تو ڈر لگتا تھا کہ زمین پر جا لگیں گے۔ اس طرح یہ قافلہ رداں دواں رہتا تھا۔ روحانی اور دینی اعتبار سے ان قافلوں کی بلندی اور علوئے شان کا کیا ٹھکانہ تھا مگر ظاہری طور پر ہر اونٹ کی نخیل اگلے والے کی دُم سے بندھی ہوتی تھی۔ اس طرح بیسوں پچاسوں دسوں اور تیسوں کو باندھ کر ایک ایک میل لمبی قطار بن جاتی تھی۔ سب سے اگلے والے اونٹ کی نخیل پکڑ کر چلانے کے لئے ایک ہی بند (ساربان) پر اکتفا ہو جاتی تھی۔ دو ایک گارڈ اس پوری لائن کے آگے سے پیچھے تک چکر لگاتے رہتے تھے، مبادا کوئی نخیل کسی دُم سے کھل نہ جائے اور اس طرح کوئی ڈبہ اس ریل سے کٹ کر ٹپری سے الگ نہ ہو جائے۔

قرآن پاک کے فیصلے قیامت تک کے لئے کس درجہ ناطق اور بصیرت افروز ہیں! سبحان اللہ! انفلایں نظروں الی الابل کیف خلقت۔ ایسے ہی ایک قافلے کے ذریعے حضرت کی جماعت عنفات پہنچی تو شدید گرمی تھی۔ زمین آگ اُگل رہی تھی اور آسمان شعلے برسا رہا تھا۔ ہر چند کہ خیموں اور ٹینٹوں کا معقول انتظام تھا۔ کھانے اور پانی کا بھی دافر اہتمام تھا۔ مگر ان تپتے ہوئے خیموں میں کھانے پینے کا ہوش کس کو تھا۔ کسی کو کس پل چین نہ پڑتا تھا۔ ایسی چنگاریاں برساتی ہوئی دھوپ میں حضرت دو تین گھنٹے یا شاید اس سے زیادہ جبل الرحمۃ پر اس طرح مصروف عبادت و مجاہدہ رہے جیسے کوئی فرحت بخش نسیم سحر سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔

حج کے بعد بھائیوں نے بہت اصرار کیا کہ اب واپس نہ جائیے۔ اس وقت ملک عبدالعزیز آل سعود کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ حجاز میں چاروں طرف امن و امان کا دور دورہ تھا۔ مالی ترقیوں، فراخ دستیوں اور مرزا الحالی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ بھائیوں کا کہنا یہ تھا کہ جس خدمت کو درمیان میں چھوڑ کر جانا پڑا تھا اس کو اب پھر سے اختیار کیجئے اور جس گھر بار کو مجبوراً ترک کرنا پڑا تھا اس کو پھر آباد کیجئے۔ اب جب پورا خاندان ایک ایک بچہ اور عورتیں مدینہ طیبہ آگئی ہیں تو واپسی کی کوئی وجہ اور ضرورت نہیں ہے۔ مگر حضرت کی دلیل یہ تھی کہ ہندوستان میں اعلائے کلمۃ الحق کے لئے جہاد کی اور مسلمانوں کی دینی و روحانی ترقی کے لئے خدمات کی ضرورت شدید ہے۔ آج تن آسانی کے پیش نظر یہاں قیام کر لوں اور مشکلات سے فرار اختیار کر لوں تو کل اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ مجبور ہو کر بھائیوں نے کہا اگر آپ نہیں رکتے تو وحید کو چھوڑ دیجئے۔ مگر بھتیجے نے اس بار پھر جچا کی فرقت برداشت کرنے سے انکار کر دیا اور پورا قافلہ ہندوستان واپس ہو گیا۔

جمیۃ علماء اور مسلم لیگ میں اشتراک و اختلاف

۱۹۳۳ء سے ہندوستانی عوام حکومت برطانیہ کی مخالفت میں دن بدن آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ اسی دوران گاندھی جی نے نمک کی سیدہ گردہ میں ڈانڈی کی طرف پیدل مارچ کیا۔ اس قانون شکنی میں نمک تو گاندھی جی نے دو چار تولے ہی بنایا ہوگا مگر اسی ذرا سی مقدار نے ملک اور قوم میں جوش اور جذبے کی لہر دوڑادی اور آزادی کی تحریک کو پچاسوں برس آگے پہنچا دیا۔ آزادی کے اس قافلے میں کسی مذہب اور دھرم کی قید نہیں تھی۔ ہندستان میں بسنے والی سبھی قومیں ہندو، مسلمان، پارسی، سکھ اور عیسائی، سبھی قدم سے قدم ملا کر منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ مسلمانوں میں مولینا حسین احمد مدنی، مولینا ابوالکلام آزاد، مولینا محمد علی، حکیم اجمل خاں، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، مسٹر جناح اور ان کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں مسلمان کانگریس میں شریک تھے۔ جماعتی طور پر جمیۃ علماء ہند، مجلس احرار، خدائی خدمت گار اور بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی کانگریس کی موید و معاون تھیں۔ مسلم لیگ جماعتی حیثیت سے اس سے الگ تھی مگر اس کے اندر جو دو کمیپ ہو گئے تھے ان میں سے ایک نے لیگ سے باہر نکل کر نیشنلسٹ پارٹی کی حیثیت سے اس تحریک میں نمایاں حصہ لیا۔ اسی دوران ۱۹۳۳ء میں بمقام الہ آباد مسلم لیگ کا ایک سو سالانہ اجلاس ڈاکٹر سر محمد اقبال کی سدارت میں منعقد ہوا۔ اس میں کانگریس سے مخالفت کا عنصر اور ذہن غالب رہا اور اسی رجحان کے ماتحت سر اقبال نے پہلی بار مسلمانوں کے لئے ایک الگ ہوم لینڈ کا مطالبہ کیا۔ انھوں نے اپنے خطبہٴ سدارت میں فرمایا:

میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے۔ خواہ یہ ریاست سلطنتِ برطانیہ کے اندر خود مختار رہے یا آزاد۔ مجھے صاف نظر آتا ہے کہ اگر نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا ہی پڑے گی۔

اس تجویز کے بعد ڈاکٹر محمد اقبال صاحب انگلینڈ تشریف لے گئے، یہ وہ زمانہ تھا کہ موصوفی سیاست میں دلچسپی کے ساتھ حصہ لے رہے تھے اور مسٹر جناح کے ساتھ سیاسی مسائل میں خصوصاً مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کے بارے میں خط و کتابت بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب انگلینڈ گئے تو وہاں ہندوستانوں کے سامنے بھی اپنے خیالات پیش کرتے رہے۔ اس کے تین برس بعد برطانیہ میں مقیم ایک صاحب چودھری رحمت علی مرحوم نے مسلمانوں کے لئے ایک الگ ہوم لینڈ کی اسکیم پیش کی جس کے لئے زعفران ہندوستانوں ہی میں بلکہ انگریزوں اور حکومت کے ذمے داروں میں بھی انھوں نے میدان ہموار کرنے کا کام کیا۔ سب سے پہلے اس ہوم لینڈ کا نام پاکستان موصوفی ہی نے تجویز کیا تھا۔ اس وقت تو ان دنوں حضرات کی تجاویز اور دلائل کو ہندوستانوں اور مسلمانوں میں کوئی خاص قبولیت اور توجہ حاصل نہیں ہوئی۔ مگر اتنا ضرور ہوا کہ تقسیم ملک، مسلمانوں کے لئے ہوم لینڈ اور ہندو مسلم منافرت اور علیحدگی کی بنیاد کا کام مکمل ہو گیا اور فرقہ پروری اور تحریکِ آزادی کے مخالفین کو اپنی سرگرمیوں کے لئے ایک میدان ہاتھ آ گیا۔

۱۹۳۵ء کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے مطابق ملک میں عام انتخابات کا پروردگار سامنے آیا۔ اس ایکٹ کی رو سے صوبائی اسمبلیاں اور مرکزی کونسل منتخب ممبروں کے ماتحت رہنی قرار پائی تھی۔ لیکن آخری حکم گورنروں اور وائسرائے کے لئے محفوظ رکھا گیا تھا۔ کانگریس کو یہ نامکمل اور نام کی حکومت منظور نہیں تھی اور اس نے الگشن میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ مسلم لیگ اس وقت تک بحیثیت جماعت کانگریس کی مخالف نہیں تھی۔ اپنی عمدہ تنظیم، پالیسی،

اور قیادت کے باوجود ملک کی آزادی کے معاملے میں کانگریس کی موید تھی۔ کہیں کہیں سیاسی اور نظریاتی اختلافات رائے کے باوجود بھی تعاون اور اتحاد عمل برقرار تھا۔ کچھ بحث و مباحثہ اور تردد و توقف کے بعد جب کانگریس نے ۱۹۳۶ء کے الکشن میں حصہ لینا منظور کر لیا تو مسلم لیگ نے اس الکشن میں کانگریس اور دوسری جماعتوں کے ساتھ اشتراک عمل کا فیصلہ کیا۔

”۱۱ اپریل کو بمبئی میں مسلم لیگ کا اجلاس بصدارت سر وزیر حسن منعقد ہوا جس میں صدر اجلاس نے اپنے خطبے میں اس امر کو واضح کر دیا کہ کانگریس کے ذریعے اہل ہند کا قدم سوراخ کی طرت نہیں بڑھا بلکہ جدید آئین میں گورنر کے اختیارات پہلے سے زیادہ قائم ہو گئے۔ مسلم لیگ کے ذریعے بھی مسلمانوں کو ان کے واجبی حقوق نہیں ملے اس لئے نہ صرف کانگریس اور مسلم لیگ کو بلکہ ملک کی جملہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ حکومت خود اختیاری کے حصول، سخت قوانین کی منسوخی، تحریر و تقریر اور اخبارات کی آزادی، کاشت کاروں اور کارگریوں کے مالی حالات کی بہتری اور ابتدائی تعلیم کے اجراء کے لئے ایک متحدہ پروگرام بنا کر اس پر یکجہائی عمل کریں“۔

اس جذبے اور خیالات کے نتیجے میں کانگریس اور لیگ میں الکشنی اتحاد و فکر و اتفاق کی راہیں کافی حد تک ہموار ہوئیں۔ مسلم لیگ نے اسی ذہن کے مطابق جمیۃ علماء ہند کو بھی اشتراک عمل کی دعوت دی اور ایک ایسا پارلیمنٹری بورڈ بنانے کی تجویز کی جس میں ساری ہی مسلم جماعتیں خصوصاً جمیۃ علماء بھی شریک ہو۔ اس مقصد کے لئے مارچ ۱۹۳۶ء میں دہلی میں مسلم لیگ اور جمیۃ علماء وغیرہ کا ایک مشترک اجلاس منعقد ہوا جس میں کافی بحث و تمحیص کے بعد مسلم لیگ کے ایک معتد نے یہ تجویز پیش کی کہ بجائے کسی نئے پارلیمنٹری بورڈ کے مسلم لیگ ہی کے بورڈ اور اسی کے ٹکٹ پر مسٹر جناح کی قیادت میں الکشن لڑا جائے۔ اس پر نواب اسماعیل خاں صاحب اور چودھری خلیق الزماں نے کہا کہ مسٹر جناح کا ماحول ایسا

ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ دونوں صاحبان اس وقت صوبہ یوپی کے بڑے طاقتور لیڈر تھے۔ چودھری صاحب اپنی ذہانت، سرگرمی عمل اور قوت فیصلہ کی بدولت ہندو مسلمان دونوں میں مقبول و محبوب تھے اس کے علاوہ موصوف بیس برس تک کانگریس کے سرگرم ممبر رہے تھے اور اُس وقت بھی کانگریس حلقوں میں ان کا اثر تھا۔ نواب اسماعیل صاحب بھی اپنی شخصیت، رکھ رکھاؤ اور خوش اخلاقی کی وجہ سے صوبہ کے ممتاز افراد میں شمار ہوتے تھے۔

"ان دونوں کے اعتراض پر چودھری عبد المتین صاحب نے فرمایا کہ جناح صاحب وعدہ کرتے ہیں کہ میں آزاد خیال امیدوار لانا چاہتا ہوں۔ اس پر کہا گیا کہ یہ اُن کے قبضے کی بات نہیں ہے اور وہ اس جماعت کو چھوڑ نہیں سکتے اس بات کی مولینا شوکت علی نے بھی تائید کی اور اس پر بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔"

آخر میں یہ طے کیا گیا کہ جناح صاحب سے براہ راست گفتگو کی جائے۔ اگر وہ آزاد خیال افراد اور افکار کو ساتھ لینے اور ان کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہیں اور سلم لیگ بھی اس پالیسی سے اتفاق کرتی ہے تو صرف الگشن کا بلکہ مسلم حلقوں کی حد تک ملک کی سیاسی پالیسی کا فیصلہ ہو جائے گا۔

"چنانچہ دوسرے روز وقت مقررہ پر جلسہ ہوا۔ اس میں جو حضرات شریک ہوئے ان میں جو نام مجھے یاد پڑتے ہیں وہ تحریر کرتا ہوں۔ مولانا شوکت علی صاحب، جناح صاحب، چودھری عبد المتین صاحب، نواب اسماعیل خاں صاحب، مولینا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولینا احمد سعید صاحب، ناظم جیتہ علماء ہند، مولینا عنایت اللہ صاحب، سر سنجی محل، مولینا عبدالحامد صاحب، سید طفیل احمد صاحب، منگلوری، سید محمد احمد صاحب، کانپلی، مولینا منظور النبی صاحب، (مولینا) بشیر احمد (صاحب) سید ذاکر علی صاحب، چودھری ظفر اللہ صاحب، ان سب کی موجودگی میں گفتگو شروع ہوئی۔ معمولی بات چیت کے بعد بحث

شروع ہوئی کہ آزاد خیال پارلیمنٹری بورڈ کس طرح بنایا جاسکتا ہے۔ اس دوران میں اولاً جناح صاحب نے ایک مفصل تقریر فرمائی اور بڑی قوت سے ظاہر کیا کہ میں رجعت پسندوں سے تنگ آ گیا ہوں اور میں ان کو بالکل طمّہ کر دینا چاہتا ہوں حتیٰ کہ خود جناح صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اس قسم کے رجعت پسند ہیں کہ میری پارٹی میں ہونے کے باوجود اسمبلی میں گورنمنٹ کی رائے دیتے ہیں۔ تب ان سے کہا گیا کہ جب مسلم لیگ میں اکثریت رجعت پسندوں کی ہے پھر کس طرح آزاد خیال بورڈ متعین ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ وہاں چودھری عبدالمتین نے ممبران کو نسل مسلم لیگ کی فہرست پیش کی اور اس میں غور کیا گیا کہ آزاد خیال آدمی کس قدر ہیں اور رجعت پسند کس قدر۔ بہت سے نام گنا لے گئے۔ تین نام مجھ کو یاد ہیں جن کو ظاہر کر کے بحث کی گئی۔ سر محمد یعقوب صاحب، سر محمد یامین، مولوی منظر الدین، خصوصیت سے جناح صاحب نے مولوی محمد یعقوب کو طمّہ کرنے کو کہا۔ بہر حال یہ گفتگو ہوتی رہی اور سوچا جاتا رہا کہ کب طریقت آزاد خیال بورڈ بنانے کا اختیار کیا جائے۔ تب یہ ظاہر کیا گیا کہ اول تو رجعت پسندوں کی جماعت دہاں زیادہ جائے گی نہیں۔ اور پھر یہ کہ آزاد خیال آدمیوں کے ہونے کی پوری سہولت کی جائے۔ تب یہ بتلایا گیا کہ اکثر آزاد خیال آدمی مسلم لیگ کے ممبر ہیں۔ یہ سہولت جانے کے مصارف برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی تعداد کا اور ممبرانہ کا مزاد کیا گیا۔ اس پر جناح صاحب نے وعدہ کیا کہ ایسے حضرات کے لئے یہ سہولتیں جائز رکھیں۔ نیز وہ یہ بھی بھینچوں گا۔ اس کے بعد خواہش تو سب بڑے آدمیوں کی تھی مگر کھٹا کھٹا کہتا پسند نہیں کرتے تھے کہ جناح صاحب سے وعدہ لیا جائے۔ چنانچہ میں نے در زینا منازت انتہا صاحب قریب بیٹھے تھے۔ ان کے اشارے پر میں نے عرض کیا کہ اور حضرات تو کہنا نہیں چاہتے، میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری پارٹی میں ہمیں زیادہ پہنچ گئی تب آپ کیا کر لیں گے؟ تو انھوں نے یہ فرمایا کہ اس وقت آپ لوگ یہ کوشش کیجئے کہ پارلیمنٹری بورڈ بنانے میں مجھ کو تنہا اختیارات دے دیے جائیں چونکہ دوسری پارٹی بھی مجھ سے مطمئن ہے وہ اس میں اختلاف نہیں کریں گے، تب میں نے عرض کیا

سے کہا کہ احتمال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ہمارے ان جلسوں کی خبر ہو جائے اور وہ آپ پر اعتماد نہ کریں۔ لہذا ہم کو یہ بتلادیا جائے کہ اگر ہم یا آپ کس طرح بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکے کہ پارلیمنٹری بورڈ آزاد خیال منتخب ہو تو پھر آپ کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اس پر بہت جوش کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر میں کس طرح بھی اس پر قادر نہ ہو تو مسلم لیگ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آجاؤں گا۔ اس پر بے انتہا خوشی کا اظہار کیا گیا اور سب حضرات نے فرمایا کہ ہم یہی چاہتے تھے اور پوری سرت کے ساتھ جلسہ ختم ہوا۔

اس فیصلے، وعدہ وعید اور وضاحتوں کے موقع پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تائید و تصدیق شاید اس لئے ضروری سمجھی گئی کہ بغیر حضرت کے فکری اور عملی اشتراک کے اس میدان میں کوئی جدوجہد آسان نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ:

”دو یا تین اجتماع کے بعد قرار پایا کہ حسین احمد کو بلا یا جائے اور اس کو اس مفاہمت میں شریک کیا جائے۔ باوجودیکہ بعض رجعت پسندوں نے یہ کہا کہ سبھوں کے ساتھ اشتراک عمل کر سکتے ہیں مگر حسین احمد کے ساتھ اشتراک نہیں کر سکتے مگر مجھ کو تار دے کر ملتان سے (جہاں میں بعض جلسوں میں شرکت کی غرض سے گیا ہوا تھا) بلا یا گیا۔ وہی پہنچنے پر اراکین جمعیت کا اجتماع مسٹر جناح کے کمرے میں جبکہ وہ نئی دہلی کے ایک ہول میں ٹھہرے ہوئے تھے کرایا گیا۔“

بہتر ہے کہ یہ واقعہ چودھری خلیق الزماں کی زبانی بھی سن لیا جائے:

”مسٹر جناح سے مصاحبت

متین چودھری نے مجھ سے یہ بھی درخواست کی کہ ہم لوگ جناح صاحب سے گفتگو سے پہلے انتخابات کے متعلق کوئی فیصلہ نہ دیں تو مناسب ہوگا۔ میں نے ان کی یہ رائے قبول کر لی کہ ہم پانچ آدمی یعنی میں خود، مولانا شوکت علی، مفتی کفایت اللہ، مولانا

حسین احمد اور مولانا احمد سعید آج شام کو، بچے مسٹر جناح سے ان کے ہول میں ملیں گے۔“

”حسب وعدہ ہم لوگ مسٹر جناح سے ملے اور ان سے بہت دیر گفتگو کرتے رہے۔ مسٹر جناح نے ہم کو یقین دلایا کہ وہ مسلم لیگ کی زمینداروں اور تعلقہ داروں کی قیادت سے بہت غیر مطمئن ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے طبقے اور ذاتی مفاد کو مسلم قومی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں اور ہمیشہ برٹش سیاسی نظریات کو تقویت کا درجہ دیتے ہیں اس لئے ان کی بڑی خواہش ہے کہ مسلم لیگ کو نئے سرے سے ایک جاندار ادارہ بنایا جائے۔“

”قبل اس کے کہ کوئی اور بولے میں نے جناح صاحب سے کہا کہ آپ کا خیال معقول ہے اور میں اس کو قبول کرتا ہوں مگر باوجود اس کے مولانا حسین احمد سے نہ راگیا اور انھوں نے کہہ ڈالا کہ ہم لوگ تو کامل آزادی کے متمنی ہیں اور آپ کی مسلم لیگ اس کو قبول نہیں کرتی۔“

ان یقین دہانیوں پر اعتماد کر کے مولانا احمد سعید صاحب کی تحریک پر مسٹر جناح کو پارلیمنٹری بورڈ بنانے کا مکمل اختیار دیا گیا جس کے مطابق موصوف نے آزاد خیال افراد پر مشتمل مسلم لیگ کا پارلیمنٹری بورڈ منتخب کیا جس میں جیتہ علماء کے دیگر افراد کے علاوہ مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جیتہ علماء ہند، مولانا احمد سعید صاحب ناظم اعلیٰ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ اس بورڈ نے جو ایکشن مینی فیسٹوشن کیا اس کا پروگرام قابل غور ہے۔

”تمام جاہرا ز تو اینمن منسوخ کرائے جائیں گے۔ ملک کی اقتصادی لوٹ کو روکا جائے گا۔ ملک کے گران بار اخراجات کو گھٹایا جائے گا۔ فوج کے اخراجات گھٹا کر اُسے قومی بنایا جائے گا۔ صنعت و حرفت کو ترقی دی جائے گی۔ سکھ و شرح تبادلہ کا خیال رکھا جائے گا۔ زرعی قرضوں کے بار کو گھٹایا جائے گا۔ ابتدائی تعلیم کو مفت کیا

جائے گا۔ مسلمانوں کے مذہب اور زبان اور عروت کی حفاظت کی جائے گی، لہٰذا میں
رائے عامر بیدار کی جائے گی۔

اس مرحلے پر یہ تاریخی رکارڈ قابل غور ہے کہ مسلم لیگ انکشن کمیٹی کا یہ منشور بالکل وہی
تھا جو کانگریس کمیٹی یا کانگریس انکشن بورڈ کا تھا۔ اس طرح ان دونوں جماعتوں کے خیالات
ایسی اور میدان عمل میں بڑی حد تک اتفاق و اتحاد ہو گیا۔ موقع بے موقع دقتی اور عارضی اختلافات
کی گنجائش بھی کافی حد تک ختم ہو گئی۔ جیتے علماء ہند بھی اس اتحاد و اتحاد کے شہسواروں میں برابر کی

... اس وقت مسلمانوں کی حالت ...
... اس وقت مسلمانوں کی حالت ...
... اس وقت مسلمانوں کی حالت ...
... اس وقت مسلمانوں کی حالت ...
... اس وقت مسلمانوں کی حالت ...

... اس وقت مسلمانوں کی حالت ...
... اس وقت مسلمانوں کی حالت ...
... اس وقت مسلمانوں کی حالت ...
... اس وقت مسلمانوں کی حالت ...
... اس وقت مسلمانوں کی حالت ...

دو سالانہ چھ روپے چندہ بھی ادا کرے تو ان ضوابط کے ساتھ اس کے عوامی مسلم جماعت بننے کا کوئی امکان بھی نہ تھا۔ اس کے سالانہ جلسے ضرور ہوتے تھے جس کا اس سال کے لئے ایک صدر منتخب ہوتا تھا اور کچھ خطاب یافتہ زمیندار اور تعلقدار اس صدر کی بارات میں شریک ہو جاتے تھے اور اس اجلاس کے لئے کسی شہر کے کسی یونیورسٹی یا تھیٹر ہال میں دو تین دن کے لئے اجلاس کر لیا جاتا تھا۔ شہر کے عائدین کا روڈ دکھا کر اندر آتے تھے اور صدر، استقبالیہ صاحب جلسہ میں اس سال کے صدر مسلم لیگ کا قیودہ زیادہ اور مسلم لیگ کے کاموں کا ذکر کرتے تھے۔ ان کی فرسٹ اور سیکنڈ کلاس میں سفر کی صورتوں کا ذکر بڑے شاندار الفاظ میں کیا جاتا تھا اور معذرت خواہی کی جاتی تھی کہ ان کی آسائش و آرام کا کما حقہ انتظام منتظین کی طرف سے نہیں ہو سکا اور پان پر پان اور سگریٹ پر سگریٹ پی کر زمانے لیگ اپنے کارنامے سن کر خوش ہوتے تھے اور جلسے کے اختتام پر پلاؤ اور قورمہ کھا کر کچھ تجاویز پر لمبی لمبی تقریریں کر کے جس طرح مصیبتیں برداشت کر کے آئے تھے اسی طرح تکلیفیں برداشت کر کے واپس چلے جاتے تھے اور پھر سال بھر اپنی جماعت کی خبر نہ لیتے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ اخبارات میں ان کی تجاویز چھپ جاتی تھیں مگر اخبارات سے پہلے حکومت کو لیگ کے جلسوں کی ایک ایک منٹ کی کارروائی خصوصاً ذرائع سے معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ جب سے خلافت کمیٹی میدان میں آئی تھی یہ تمام جمہول سیاسی نقصان ہو گئی تھی۔ مگر جیسے ہی خلافت کا دور ختم ہوا مسلم لیگ پھر اپنی نوابوں اور زمینداروں کی خانہ زاد لوٹو ٹی بی گئی۔ "جنہوں نے اپنی استعداد بھر یہ عقیدہ رکھ کر مسلم لیگ کی پرورش کی کہ برٹش گورنمنٹ کو مسلم لیگ سے ناراض یا دل برداشتہ نہ کیا جائے کیونکہ اسی میں اس کی خیریت ہے"۔

اس ذہن، پالیسی اور طرز عمل کے لاتعداد واقعات اور مثالیں ملتی ہیں مگر چونکہ دھڑی حنا کے بیان کے بعد کسی مزید تفصیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مختصر یہ کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اسسٹو کی

آواز گاؤں 'دیہات' 'مزدور اور کسان' تک پہنچ رہی تھی۔ کانگریس کے پیٹ نارم سے بھی اس کے امیدواروں کے لئے اپیلیں ہوتی تھیں، 'عوامی جموں' میں بھی اس کا نام گونجتا تھا اور اس کا سبب بڑا سبب یہ ہوا تھا کہ علماء کرام پورے انڈیا میں 'عزم و ارادے' کے ساتھ اس کے لئے 'میدان' میں اتر پڑے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ کو انتھک جدوجہد اور مسلسل کام کا جو حوصلہ اللہ نے عطا فرمایا تھا اس کی مثال بہت کم نظر آتی ہے۔

دوسری بات یہ تھی کہ جماعتی فیصلوں اور مشترکہ پروگراموں کو جس تندہی، ذمے داری اور لگن کے ساتھ حضرت پورا کرتے تھے وہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اس موقع پر بھی حضرت نے دن رات ایک کر دئے۔ شہر شہر اور نگر نگر گھوم کر ایک ایک دن میں بارہ بارہ تقریریں کیں اور اجتماعات میں شرکت کی۔ مولانا ظفر احمد انصاری لکھتے ہیں:

"ان حالات میں ۱۹۳۶ء میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کو نئے عوامی قالب میں ڈھالنے کا بیڑہ اٹھایا۔ اس کے لئے نضا ہمارا کی۔ مولانا شوکت علی مرحوم نے تنظیمی دورے کئے۔ کانگریس سے پھرے گفتگوئیں ہونے لگیں اور ایسی نضا بنی کہ باہمی مفاہمت سے انتخابات لڑے جائیں۔ مولانا حسین احمد صاحب اور ان کے رفقاء جمعیتہ بھی لیگ کی حمایت پر کمر بستہ ہوئے اور قائد اعظم کی حمایت میں تقریریں کیں و بولے۔"

یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ مسٹر جناح نے لیگ کی عوامی قالب میں ڈھالنے اور کانگریس سے گفتگوئیں کرنے کا کیا بیڑہ اٹھایا اب یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ لیگ کو ایک نئی زندگی سے ہمکنار کرنے میں جمعیتہ علماء اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کون سا رول ادا کیا تھا جس کو مولانا ظفر احمد صاحب نے لیگ کی حمایت پر کمر بستہ ہونے اور قائد اعظم کی حمایت میں تقریریں کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ اس الگشن میں مسلم لیگ کو صوبہ یوپی میں جو کامیابی حاصل ہوئی تھی اس نے لیگ کو پورے ہندوستان میں کامیاب قرار دلوا دیا۔ ورنہ مسلم اقلیت والے صوبوں کا تو ذکر ہی کیا ہے مسلم اکثریت والے صوبوں میں بھی اسے خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکتی تھی۔ پنجاب میں یونیٹ پارٹی

کی حکومت بنی تھی جس کے وزیر اعلیٰ مسٹر سکندر حیات تھے۔ اس پارٹی کا لیگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ صوبہ سرحد میں کانگریس کی حکومت بنی تھی جس کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب تھے اور بنگال میں کرشک پارٹی کی حکومت بنی تھی جس کے وزیر اعلیٰ مسٹر اے کے فضل الحق تھے، بلوچستان اور سندھ میں کم و بیش یہی نتائج رہے تھے۔ مگر یوپی میں لیگ کی کامیابی اس درجہ تک پہنچ گئی تھی کہ اس کو اسی فیصدی کامیابی نصیب ہوئی۔ یہی وہ صوبہ تھا جہاں لیگ کے سارے پلان اور تجویزیں واسکیں تیار ہوتی تھیں۔ یہی مسلم لیگ کا قلعہ تھا اور وہ مسلم لیگ جس نے پاکستان بنوایا وہ تو پورے ہی طور پر یوپی ہی میں پر دان پڑھی تھی ہندوؤں کی تاریخ کے سارے ہی محققین جانتے ہیں کہ یہ صوبہ یوپی ہی تھا جہاں سے مسلم لیگ کی نشاۃ ثانیہ ہوئی ہے۔ "اسے اسی صوبے میں مسلم لیگ کو الکشن میں ایسی کامیابی ہوئی کہ اُسے نئی زندگی مل گئی۔ الکشن سے پہلے عوامی حلقوں میں لیگ کو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس کے ممبروں کی تعداد ہزاروں تک محدود تھی مگر اس کے بعد ہی اس کی آواز اور تعداد لاکھوں لاکھ پہنچ گئی۔ ۱۹۳۶ء کے الکشن کے بعد ایک سال سے کم ہی عرصے میں مسلم لیگ کے ممبروں کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں تک پہنچ گئی۔"

مزید تحقیق کی جائے تو تاریخ اس حقیقت کی بناہنگ ڈہل گواہی دے گی کہ لیگ کی یہ کامیابی مولینا حسین احمد مدنی اور ان کی جماعت جمیۃ علماء ہند کی اٹھک اور مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ تھی۔ مولینا ابوالکلام نے لکھا ہے:

"بیبی میں مسلم لیگ نے کئی سیشنیں حاصل کیں مگر جو عظیم اٹان کامیابی

اس کو یوپی میں ہوئی وہ کہیں نہیں ہو سکی اور یوپی میں لیگ کی یہ کامیابی بنیادی طور پر جمیۃ علماء ہند کے تعاون کی مرہون منت تھی۔ جمیۃ نے لیگ کے ساتھ یہ سمجھ کر

تعاون کیا تھا کہ الکشن کے بعد وہ کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔"

خود حضرت نے تحریر فرمایا ہے:

”ہم نے مسلم لیگ کے ساتھ پورا تعاون کیا اور تقریباً ہونے دو بیسے کی رخصت بوضع تنخواہ دار العلوم دیوبند سے لی۔ اور اتنی جدوجہد کی کہ ایگریکلچرل پارٹی اور دوسرے رحمت پسند امیدواروں کو شکست ہوئی اور تقریباً تیس یا اس سے زائد ممبر مسلم لیگ کے کامیاب ہوئے جس پر چودھری غلیظ الزماں نے مجھ کو ایک خط میں لکھا کہ آپ نے تیس برس کی مردہ لیگ کو از سر نو زندہ کر دیا۔“

اس انکشن کے نتیجے میں مسلم لیگ کے ساتھ کانگریس بھی زبردست اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی۔ مگر دونوں کامیابیوں میں فرق تھا۔ کانگریس اس پوزیشن میں آگئی تھی کہ دائرسائے نے اس کو گورنمنٹ بنانے کی دعوت دی۔ اس موقع پر کانگریس نے اس دعوت پر غور کرنے کے لئے کچھ وقت لیا اور دوسرے مسٹروں میں اپنے استغنیٰ کا ثبوت دیا۔ یہ بھی سنایا کہ وہ گورنمنٹ بنانے کے حق میں نہیں ہے مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس نے اشارتاً بھی انکار کر دیا تو مسلم لیگ اور دوسری پارٹیاں مل کر اپنی گورنمنٹ بنالیں گی۔ مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ کے صدر راجہ سلیم پور کانگریس کے اس تردد و توقع کے دوران موقع کو غنیمت سمجھ کر بغیر مسلم لیگ کی منظوری کے عارضی طور پر چیف منسٹر ہو بھی گئے تھے۔ اسی دوران کانگریس کے حکومت بنانے کی دعوت منظور کرنے سے پہلے مسٹر محمد علی جناح نے گاندھی جی کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی توجہ کر لیں تو ہندو مسلم اتحاد کا خواب اب بھی پوری طرح پورا ہو سکتا ہے اور اس طرح ملک کی تعمیر و ترقی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ قصہ دوسروں کی زبانی ملاحظہ فرمائیے:

۱۹۴۷ء میں جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ کانگریس کو بھاری اکثریت

سے فتح حاصل ہوئی ہے اور وہ گورنمنٹ بنانے کی پیشکش کو قبول نہیں کر رہی ہے تو جناح صاحب نے گاندھی جی کو ایک خصوصی اور زبانی پیغام بھیجا۔ گاندھی جی نے اگرچہ کانگریس سے ضابطے کے اعتبار سے علیحدگی اختیار کر لی تھی مگر اصل میں کانگریس کے

رہنا وہی تھے۔ یہ پیغام سٹریٹیجی کھیرنے کا مذہبی جی کو پہنچایا۔ کھیر بھٹی میں اسمبلی کے لیڈر اور وزیر اعلیٰ بنائے جانے والے تھے۔ اس پیغام میں کا مذہبی جی سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنی رہنمائی میں ہندو مسلم اتحاد کی فضا ہموار کریں۔ اگرچہ مزید تفصیلات کاظم نہیں ہے مگر اس پیغام کے وقت کا تعین، پیغام رسانی کے لئے کھیر کا انتخاب اور بعد کے واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دوسری باتوں کے ساتھ جناح صاحب کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لیگ اور کانگریس میں کوئی معاملہ طے ہو جائے اور صوبوں کے وزراء کے معاملے میں حصے مقرر ہو جائیں۔ مگر کا مذہبی جی نے جناح صاحب کو صاف جواب دے دیا اور لکھا کہ کھیر کے ذریعے آپ کا پیغام ملا۔ میری خواہش ہے کہ میں اس معاملے میں کچھ کر سکتا۔ مگر قطعاً مجبور ہوں، اتحاد کے بارے میں میرا ایمان آج بھی ہمیشہ کی طرح روشن ہے مگر مجھے اس کے لئے کوئی امید نظر نہیں آتی۔

تواضع، اخلاص، مصالحت و مفاہمت کا صحیح اعتبار اسی وقت ہوتا ہے جب وہ صاحب اقتدار و اختیار افراد یا جماعت کی طرف سے پیش ہو۔ صر تو واضح زگردن فردزاں نکوست۔ کانگریس کو پہلی بار اپنی قانونی طاقت کا اندازہ ہو رہا تھا اور گورنمنٹ بنانے کا موقع مل رہا تھا۔ تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے اتحاد و اتفاق کی اسپرٹ کو زندہ رکھنا ہر قیمت پر ضروری تھا مگر اب حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا تھا کہ کا مذہبی جی کو پہلی مرتبہ اتحاد کے لئے کوئی امید نظر نہیں آرہی تھی۔ اس باب کا ایک اور واقعہ مزید وضاحت اور دلچسپی کا سبب ہوگا:

”بھٹی میں مسٹرناریمان مقامی کانگریس کے ایک امانے ہوئے لیڈر تھے۔ کانگریس کے لئے جب بھٹی میں گورنمنٹ بنانے کا موقع آیا تو سابقہ خدمات اور ذاتی حیثیت کے اعتبار سے عام طور پر یہی توقع کی جا رہی تھی کہ کانگریس مسٹرناریمان ہی سے درخواست کرے گی کہ وہ گورنمنٹ بنائیں اور وزیر اعلیٰ کا عہدہ قبول کریں۔ لیکن چونکہ ٹیل اور ان کے ساتھی ناریمان سے خوش نہیں تھے اس لئے ان کے

بھائے سٹرلر جی کیر کو بمبئی کا پہلا وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ ناریمان پارسی تھے اور کیر ہندو تھے اس لئے اس فیصلے پر عام طور پر خیال پیدا ہو گیا کہ ناریمان کو صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ چاہے یہ خیال غلط نہیں اس پر مگر اسے غلط ثابت کرنا مشکل ہو گیا۔ فطری طور پر سٹر ناریمان کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوا۔ اس وقت کانگریس کے صدر جواہر لال تھے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جواہر لال فرقہ وارانہ تہذیب نے بالآخر جی اور یہ ناریمان کے معاملے میں انصاف کریں گے۔ اسی خوش فہمی کی بنا پر ناریمان نے اپنا معاملہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے سامنے پیش کیا۔ پٹیل اور جواہر لال میں بہت سی باتوں میں اختلاف رہتا تھا مگر اس معاملے میں انھوں نے یہ نہیں سوچا کہ پٹیل نے فرقہ پرورانہ ذہنیت سے کام لیا ہے اور انھوں نے بھی ناریمان کی عرضداشت کو نظر انداز کر دیا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ جواہر لال کے رویہ پر ناریمان کو سخت تعجب ہوا اور انھوں نے گاندھی جی سے کہا کہ یہ معاملہ میں آپ پر چھوڑنا ہوں۔ گاندھی جی نے پورے قہقہے پر ٹھنڈے دل سے غور کر کے کہا کہ ایک غیر جانبدار شخص کے ذریعے پٹیل کے خلاف الزامات کی تحقیقات کی جائے چونکہ ناریمان بھی پارسی تھے اس لئے پٹیل اور ان کے ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ تحقیقات کسی پارسی ہی کے سپرد کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے مختلف طریقوں سے اس طرح اپنے اثرات کا استعمال کیا کہ مسئلہ کا اصل پہلو دب گیا اور اصل تحقیقات شروع ہونے سے پہلے ہی ناریمان غریب مقدمہ ہار گئے۔ اور پٹیل کے خلاف کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ اس واقعے سے بھارے ناریمان کا دل ٹوٹ گیا اور ان کی سیاسی زندگی ہمیشہ کے لئے ختم ہو کر رہ گئی۔

یوپی میں بھی جب کانگریس نے گورنمنٹ قبول کر لی اور صوبے کی حکومت کے لئے وزراء کے انتخاب کا وقت آیا تو باوجود سارے ناموافق جذبات کے مسلم لیگ کے کامیاب ممبران اسمبلی

لیں سے ان کی تعداد کی مناسبت سے وزراء کو شامل کرنے کی مجبوری سامنے آئی۔ اصولی اور قانونی طور پر یہ بات کتنی بھی ضروری تھی مگر ایک خاص قسم کے لوگوں کے لئے یہ بڑی ڈیڑھی کھیر تھی کہ مسلم لیگ کو بھی اختیارات اور حکومت میں شریک کیا جائے۔ چنانچہ بہت غور و محض اور ادھیڑ بن کے بعد دلہ بھائی پٹیل نے یہ تجویز سامنے رکھی کہ پہلے مسلم لیگ کے ممبران اسمبلی کانگریس میں مل جائیں تب ہم ان کو وزارت میں لیں گے۔ یہ بات قابل عمل اور قبولیت کے لائق تھی یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ اس قسم کا ذہن کانگریس کی طرف سے صرف سامنے ہی آنے پر لیگ اور اس کے حلقے پر بہت ناگوار اثر پڑا۔ راج موہن گاندھی کے الفاظ دیکھئے:

”جولائی میں کانگریس نے گورنمنٹ سے طول و طویل گفتگو کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکومت میں شریک ہو جائے۔ چنانچہ صوبہ بمبئی اور یوپی میں جہاں لیگ کو قابل ذکر کامیابی ہوئی تھی لیگ اور کانگریس کے درمیان اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ وزارتوں کی تقسیم کس طرح ہو کہ دونوں پارٹیوں کے پاس طاقت رہے۔ بمبئی میں سٹرجناح اور کھیر میں ایک غیر رسمی اور مختصر گفتگو ہوئی اور یوپی میں مولینا ابوالکلام نے جن کو کانگریس نے نارتنہ انڈیا کی وزارتیں بنانے کا کام سپرد کیا تھا، یوپی مسلم لیگ کے لیڈر چودھری خلیق الزماں سے بات کی۔ بمبئی والی گفتگو اس بنیاد پر فیمل ہو گئی کہ دلہ بھائی نے کانگریس کی طرف سے یہ مطالبہ کیا کہ پہلے مسلم لیگ کے ممبران اسمبلی کانگریس اسمبلی پارٹی میں داخل ہو جائیں تب ہی وہ وزارت میں لے جا سکیں گے۔“

”یوپی منسٹری میں شرکت کی جو گفتگو مسلم لیگ سے ہو رہی تھی اس میں سٹرجناح کا کوئی حصہ نہیں تھا اور اسی بنا پر جناح صاحب کی خواہش تھی کہ یہ گفتگو کامیاب نہ ہو اور خلیق الزماں اور ان کی مسلم لیگ کے ساتھ کانگریس کا کوئی پیکٹ نہ ہو سکے۔ مشترکہ گورنمنٹ بنانے یا کانگریس میں مل جانے کا مسئلہ یوپی میں بھی

زیر بحث تھا۔ مگر جناح صاحب اس گفتگو کے خلاف تھے اس لئے کہ یہ بات پتہ ان کے مشورے سے نہیں ہو رہی تھی۔

کونیشن اور شرکت کی بات اور تھی۔ جناح صاحب اسی بنیاد پر کانگریس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے تھے مگر چٹیل کے کانگریس میں مل جانے والے مطالبے نے دونوں پارٹیوں کے درمیان تعلقات پر بڑا خراب اثر ڈالا۔ مسلم لیگ نے محسوس کیا کہ کانگریس طاقت کے نشے میں توہین آمیز رویہ اختیار کر رہی ہے۔ تاہم ایک امید ابھی باقی تھی۔ ایکشن سے ان دونوں میں جو منفاہت اور اشتراک عمل کی نفا پیدا ہو گئی اس کے پیش نظر یہ خیال تھا کہ جیسے بھی ہوسوہوں کی حکومتوں میں مسلم لیگ کو اس کا جائز حصہ ضرور ملے گا۔ مگر وزارت کی تشکیل کا وقت آیا تو کانگریس نے ایک مسلم لیگی ممبر کا تو لیگ کو اختیار دیا دوسرے کے لئے یہ کہا کہ جس کو ہم چاہیں گے اسے لیں گے۔ نام مسلم لیگ کے ممبر کا ہو اور انتخاب کا اختیار کانگریس کو ہو یہ بات مسلم لیگ کے لئے قابل قبول نہیں ہوئی۔ یوپی مسلم لیگ کا الیکشن چودھری خلیق الزماں اور نواب محمد اسماعیل خاں نے لڑا تھا۔ اور بجا طور پر یہ دونوں منسٹری میں شمولیت کے امیدوار تھے۔ مگر اس کے ساتھ ہی چودھری خلیق الزماں کانگریس کے ساتھ اس قسم کا سمجھوتہ کرنا چاہتے تھے جس میں مسلم لیگ کا وقار بھی باقی رہے۔ چودھری صاحب صوبے کے مسلم لیڈر اور ہندو مسلمانوں میں یکساں مقبول تھے۔ یوپی کی سیاست کا کوئی معاملہ بھی بغیر ان کے مشورے کے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ وہ بیس برس تک کانگریس کے ممبر اور صاحب رائے رکن رہے تھے۔ پنڈت موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ ۱۶ برس تک لکھنؤ کی اُس میونسپلٹی کے چیرمین رہے تھے جس میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ مگر گورنمنٹ بنانے اور صوبے کی حکومت میں مسلم لیگ کے وزراء کو شریک کرنے کے مرحلے پر کانگریس نے لیگ کو اپنے میں ضم کرنے کے ایسے شرائط پیش کئے جو کسی بھی جماعت کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتے تھے۔ تصویر کا صحیح رخ اس تفصیل کو دیکھنے ہی سے سامنے آسکتا ہے جو چودھری صاحب نے اپنی کتاب شاہراہ پاکستان میں لکھی ہے۔ اس

کے ساتھ ہی کانگریس نے مسلم لیگ کے دو وزراء لینے سے انکار کر کے دو دوسرے مسلم وزراء رفیع احمد قدوائی اور حافظ محمد ابراہیم کو وزارت میں شامل کر لیا۔ قدوائی صاحب اور حافظ جی کے بارے میں کچھ لکھنے سے قبل اس واقعے کا تذکرہ مولینا آزاد سے سینے:

۳ (الکشن کے بعد) جب میں یوپی کی وزارت بنانے کے لئے لکھنؤ پہنچا اس وقت چودھری خلیق الزماں اور نواب اسماعیل خاں یوپی مسلم لیگ کے لیڈر تھے میں نے ان دونوں صاحبان سے بات چیت کی انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ نہ صرف یہ کہ ہم کانگریس کے ساتھ تعاون کریں گے بلکہ اس کے پروگرام کی پوری طرح تائید کریں گے۔ قدرتی طور پر ان کو یہ توقع تھی کہ نئی وزارت میں مسلم لیگ کا بھی حصہ ہوگا۔ مقامی سیاست کچھ اس طرح کی تھی کہ ان میں سے کسی کو اکیلے نہیں لیا جاسکتا تھا۔ یا تو دونوں ہی لئے جائیں ورنہ کوئی نہ ہو۔ چنانچہ مجھے امید تھی کہ یہ دونوں صاحبان وزارت میں لے لئے جائیں گے۔ اگر وزراء کی کل تعداد سات ہوگی تو دو مسلم لیگی ہوں گے اور باقی کانگریسی ہوں گے۔ اگر وزارت ۹ ممبروں پر مشتمل ہوئی تو کانگریس کی اکثریت مزید طاقت ور ہو جائے گی۔ میرے ساتھ مشورے کے بعد ایک تحریر تیار کی گئی کہ مسلم لیگ اسمبلی پارٹی کانگریس کے ساتھ تعاون کرے گی اور کانگریس کے پروگرام کی تائید کرے گی۔ نواب اسماعیل خاں اور چودھری خلیق الزماں دونوں حضرات نے اس تحریر پر دستخط کئے۔ اس کے بعد چونکہ بہار کی گورنمنٹ بنانے کے لئے میری ضرورت تھی اس لئے میں پٹنہ کے لئے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد میں واپس الہ آباد پہنچا اور یہ دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ جواہر لال نے چودھری خلیق الزماں اور نواب اسماعیل خاں کو یہ لکھا ہے کہ ان دونوں میں سے صرف ایک ہی وزارت میں لیا جاسکتا ہے اور یہ کہ وہ اپنا فیصلہ لکھ کر روانہ کریں کہ دونوں میں سے کس کو لیا جائے، مگر جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے کہ ان میں سے ایک بھی اکیلے گورنمنٹ میں آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے معذرت کر دی کہ وہ اس پیش کش کو منظور نہیں کر سکتے۔

یہ ایک نازک صورت حال تھی اگر مسلم لیگ کے تعاون کی یہ پیشکش قبول کر لی جاتی تو عملی طور پر مسلم لیگ کانگریس میں مل جاتی۔ مگر جواہر لال کے اقدام نے یوپی مسلم لیگ کو زندگی کا ایک نیا موقع فراہم کر دیا۔ ہندوستانی سیاست سے وقف سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ کی نشاۃ ثانیہ یوپی ہی سے ہوئی ہے۔ مسٹر جناح نے اس صورت حال کا پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ایسے ایسے جارحانہ اقدامات کئے ہیں جنہوں نے آخر کار ملک کو "پاکستان" پہنچا کر دم لیا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس معاملے میں پرشوتم داس ٹنڈن نے بڑا بنیادی پارٹ ادا کیا ہے اور جواہر لال کو اس اقدام کے لئے ہوا کیا ہے۔ میں نے ٹنڈن کے نظریات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اور جواہر لال کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے موقف میں اصلاح کر لیں۔ میں نے ان سے کہا کہ لیگ کو وزارت میں نہ لے کر انہوں نے زبردستی غلطی کی ہے۔ میں نے انہیں اس بات پر بھی خبردار کیا کہ ان کا یہ اقدام مسلم لیگ کو نئی زندگی حاصل کرنے کا موقع دے گا اور ملک کی آزادی کے راستے میں بڑی مشکلات کھڑی کرے گا۔ مگر جواہر لال نے میری ایک نہیں سنی اور اپنے فیصلے پر اڑے رہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ چھبیس ممبروں کی پارٹی کو وزارت میں صرف ایک ہی سیٹ دی جاسکتی ہے۔ جب میں نے ان کو اتنا سخت دیکھا تو واردہا جاکر پورا معاملہ گاندھی جی کے سامنے رکھا۔ انہوں نے میری تائید کی اور کہا کہ میں جواہر لال سے کہوں گا کہ وہ اپنے فیصلے میں ترمیم کریں۔ مگر جب جواہر لال نے اپنے طریقے سے انہیں سمجھایا تو وہ مان گئے۔ اور معاملہ کو صحیح طریقے سے حل نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسئلہ سلجھ نہیں سکا۔ مسٹر جناح نے موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور پوری مسلم لیگ کو کانگریس کا مخالف کر دیا۔ الکشن کے بعد مسٹر جناح کے بہت سے حمایتی قریب قریب ان سے علاوہ ہو چکے تھے مگر اس واقعہ کے بعد وہ ان لوگوں کو ایک بار پھر اپنے گرد پ میں لالینے پر قادر ہو گئے۔

در اصل کانگریس کو مسلم لیگ سے دوہی ممبران وزارت میں لینے تھے۔ مگر ایک ممبر حافظ محمد ابراہیم کو وہ پہلے ہی طے کر چکی تھی۔ یہ مجبور سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے۔ تھے۔ صوبے میں اس الیکشن سے پہلے ان کی کوئی سیاسی اہمیت تو نہیں تھی مگر بعض ترجیحات کی بنا پر جمیۃ علماء اور اس کے اراکین کو ان کے شمول پر اصرار تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی خصوصی تائید فرما رہے تھے۔ اور اسی بنیاد پر ان کو یوپی کی وزارت میں لے لیا گیا۔ اس پر مسلم لیگ نے اعتراض کیا کہ اگر حافظ جی کو وزارت میں آنا ہے تو لیگ سے استعفیٰ دے کر کانگریس کی طرف سے الیکشن لڑیں اور کامیاب ہو جائیں تو وزارت میں آئیں حافظ جی کو لیگ سے استعفیٰ دینا پڑا اور نینگینہ ہی سے وہ کانگریس کے ٹکٹ پر لڑے۔ یہ الیکشن تمام ہندوستان میں اہمیت کی نگاہ سے دیکھا گیا اور جمیۃ علماء نیز دیوبند کے لوگوں نے اس میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ مسلم لیگ کو یہ بات ناگوار گزری کہ باوجود اتحاد و اتفاق کے جمیۃ علماء نے اس الیکشن میں مسلم لیگ کی مخالفت کی۔ یہ اختلاف یہاں تک بڑھا کہ حافظ جی کے ایک مؤید اور کارکن مولوی محمد نصیر صاحب فیض آبادی کو اسی دوران بے رحمی کے ساتھ پتھر اگھونپ دیا گیا۔ موصوف کی زندگی ہی تھی جو وہ بچ گئے ورنہ حملہ آور نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خوش قسمتی سے حافظ جی کامیاب ہو گئے اور مسلم لیگ کو شکست ہوئی۔ اس کامیابی پر دارالعلوم دیوبند میں حافظ جی کا ایسا استقبال کیا گیا جیسے کسی بڑے قومی ہیرو کا ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ حافظ جی تو وزیر ہو ہی گئے۔ اس کے بعد وہ مرکزی حکومت میں وزیر رہے اور جب بالکل ہی کمزور ہو گئے تو پنجاب کے گورنر بنا دئے گئے مگر جیسا کہ مولینا آزاد نے فرمایا ہے ہندوستان کی سیاست سے واقف حضرات اس بات پر متفق ہیں اگر کانگریس اس موقع پر ذرا مساوات اور مصالحت سے کام لیتی تو پاکستان وجود میں نہ آتا۔ بعض اہل رائے حضرات کا خیال ہے کہ کانگریس کامیابی اور غرور کے نشے میں بہتلا ہو گئی تھی۔ مولوی طفیل احمد صاحب نے لکھا ہے :

”اب ایک اور واقعہ پیش آیا کہ مجلس احرار نے اپریل ۱۹۴۷ء کے اجلاس

میں جو لکھنؤ میں ہوا مسٹر کرپانی سکریٹری کانگریس کو مدعو کیا۔ انھوں نے جواب دیا

کہ وہ نہیں آسکتے اس لئے کہ وہ بیمار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ اگر میں اچھا
 بھی ہوتا تب بھی نہ آتا کیونکہ مجلس احرار ایک فرقہ وارانہ جماعت ہے۔ اس سے مسلم
 ہوتا ہے کہ کانگریس والوں کو اپنی کامیابی پر اس قدر غرور ہو گیا تھا کہ انہیں اپنے ساتھیوں
 کا دل دکھانے میں بھی تامل نہ ہوتا تھا۔

مختصر یہ کہ یہی وہ پہلا موقع تھا جب مسلم لیگ اور خاص طور پر چودھری خلیق الزماں، نواب
 اسماعیل خاں ذفیور کا کانگریس کی مخالفت میں کھل کر میدان میں آگئے۔ مسلم لیگ کے افراد میں اندرونی
 طور پر جو کچھ اختلاف و انتشار تھا ان کو ختم کر کے اس کو ایک زبردست آل انڈیا جماعت بنا دیا
 گیا۔ یوپی لیگ والے کتنے بھی طاقت ور تھے مگر ایسے مضبوط نہیں تھے کہ آل انڈیا بنیادوں
 پر لیڈری کا بوجھ سنبھال سکیں۔ مسٹر جناح کی ذہانت، تیزمی طبع، سیاسی سوچہ بوجھ اور قابلیت
 متفقہ طور پر مسلم تھی مگر مشکل یہ تھی کہ ان کو شمالی ہند میں اس وقت تک تعارف اور شہرت
 حاصل نہیں تھی مسلم لیگ والے ان کو اپنا لیڈر بناتے بھی تو بعض مشکلات سامنے تھیں۔ وہ
 اپنی وضع قطع، تراش و خراش، زبان و بیان کے اعتبار سے یوپی، دہلی، بہار وغیرہ کے مسلمانوں
 کی لیڈری کے لئے فٹ نہ تھے اور مشکل یہ تھی کہ موصوف آسانی کے ساتھ اپنی وضع کو تبدیل
 کرنے پر بھی رضامند نہ تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک اس وقت جناح صاحب کی حیثیت کے بارے
 میں گذشتہ صفحات میں چودھری خلیق الزماں کا بیان گزر چکا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ بھی حقیقت کو
 مزید واضح کر رہا ہے۔ چودھری صاحب نے کانگریس سے مقابلے کا پلان پوری طرح تیار کر لیا اور
 اس پر عملدرآمد شروع کیا تو

”دسمبر ۱۹۳۶ء میں میں نے (چودھری خلیق الزماں نے) لکھنؤ میں مسٹر جناح
 کو دعوت دے کر بلایا کہ وہ ہمارے لئے چندہ کرانے میں ہماری مدد کریں۔ گنگا پرشاد
 میوریل ہال میں اس سلسلے میں ایک جلسہ کیا گیا جہاں مسلم لیگ سے عوام کی بے تعلقی کا یہ
 حال نظر آیا کہ شاید سو سے زائد آدمی اس جلسے میں نہ تھے۔ کل ۲۱ ہزار روپیہ چندہ

کا اعلان ہوا۔ تین ہزار راجہ محمود آباد تین ہزار راجہ سلیم پور (دونوں شیخہ) تین ہزار میرے بہنوئی مسٹر ویم کل ۲۱ ہزار روپے ہوئے جن میں سے بالآخر تین ہزار وصول بھی نہیں ہوئے۔^{۱۷}

یہ تو مسلم لیگ اور خاص طور پر جناح صاحب کی مقبولیت اور شہرت کا حال تھا۔ اس ہاتھ ہی ان کے طرز زندگی کے بارے میں بھی بعض شہادتیں قابل غور ہیں۔ نواب شمس الحسن صاحب تیس چالیس برس تک مسلم لیگ کے سکریٹری رہے ہیں۔ وہ کچھ واقعات بیان کرتے ہیں :

"بدقسمتی سے مقامی لوگ ذاتی طور پر قائد اعظم سے واقف نہ تھے اور اسکی

معقول وجہ بھی تھی۔ ان کی پیدائش کراچی کے دور دراز شہر کے ایک متوسط اور غیر

معروف گھرانے میں ہوئی تھی جس میں تعلیم سے زیادہ تجارت و قیج کبھی جاتی تھی۔ اُن

کے چچانے جب پرائمری اسکول میں انھیں داخل کرایا تو ان کا نام محمد علی جناح

بھائی لکھوایا، جو سندھ مدرسہ کراچی، انجمن اسلام اسکول بمبئی اور چرچ مشن

سوسائٹی ہائی اسکول کراچی میں برقرار رہا لیکن جب وہ انگلستان پہنچے تو انھیں

اس کی (اپنے نام کی) بوائے کا احساس ہوا۔ اور انھوں نے ایک عدالتی حکم

کے ذریعے چودہ اپریل ۱۸۹۵ء میں اس نام کو منسوخ کرا کے ایم۔ اے جناح میں

تبدیل کرایا۔ اور ساتھ ہی تاریخ پیدائش ۲۳ اکتوبر ۱۸۷۵ء کے بجائے ۲۵ دسمبر

۱۸۷۶ء منظور کرائی۔ اس سلسلے میں ایک بڑی عجیب بات شمس الحسن صاحب

نے یہ بیان کی کہ قائد اعظم کے ہزار ہا دستخطی خطوط دستاویزات اور چیک ان کے

ہاتھ سے گزرے مگر انھوں نے مدت العمر قائد اعظم کو پنا نام محمد علی جناح لکھتے

ہوئے نہیں دیکھا۔ بلکہ وہ دوسروں سے بھی اپنے آپ کو ایم۔ اے جناح ہی کہہ کر

معارف کراتے تھے۔^{۱۸}

یہ تو آپ بعد میں غور کیجئے گا کہ وہ کون سی بوائے تھی جس کا جناح صاحب کو احساس

ہوادہ کون سی ملائیں تھیں جنہیں سوچتے کر کے انہوں نے اپنے نام سے منوایا۔ اور وہ کون سے نام تھے جس سے وہ مدت العمر اجتناب کرتے رہے۔ سردست تو یہ دیکھئے کہ ان خیالات اور ان حالات میں مسٹر جناح کو یونی اور ڈی والوں کے سامنے کھڑا کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ مگر مسلم لیگ والوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے کوئی ترکیب نہیں چھوڑی جو آزمائی نہ ہو۔ لکھنؤ کے ایک جلسے میں جناح صاحب تشریف لائے؛ بائیان جلسہ نے آپ کے تعارف کے لئے اور پبلک کو جمع کرنے کے لئے جو اشتہار شائع کیا وہ قابل ملاحظہ ہے:

”مولانا محمد علی جناح کی عروس البلاد میں تشریف آوری

ایلیان شہر کو مبارک ہو کہ بطل علیل مولانا محمد علی جن کی ہر تقاریر نے حکومت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے آپ کے یہاں پہلی مرتبہ رونق افروز ہو رہے ہیں۔^۱ ہندوستان کے لوگ ہندو مسلمان چھوٹے بڑے مولانا محمد علی کے نام پر جان لیتے تھے۔ ہزاروں افراد تو مولانا محمد علی جناح اور مولانا محمد علی کے درمیان فرق بھی نہ کر سکے۔ اور جو لوگ کسی قدر سمجھے بھی ان کے لئے مولانا کا لفظ ہی دوڑ پڑنے کے لئے کافی ثابت ہوا:

”اب صورت حال یہ تھی کہ لوگ جوق در جوق آکر ان کا (مسٹر جناح کا)

نام دریافت کرتے تھے جو صحیح طور پر ہم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وزیر حسن سب کو محمد علی بتا دیتے تھے اور چونکہ اُس زمانے میں چوٹی کے تمام لیڈر مولینا کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے اس لئے اشتہاروں ہی میں نہیں بلکہ بعض اخباروں میں بھی انہیں مولانا محمد علی جناح لکھ دیا تھا۔^۲

بڑی مشکل اُس وقت پیش آئی جب مولانا صاحب قبلہ بنفس نفیس عوام کے سامنے نمودار ہوئے تو لوگوں کو بید تعجب ہوا۔ وہ اس امید میں تھے کہ عبادتِ قبا میں نہ ہی مولانا صاحب اسلامی وضع قطع میں تو ضرور رہی ہوں گے:

”لیکن اسے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔ قائد اعظم ریل سے اترے تو پکے بادامی

رنگ کا بے داغ اور بلا سلوٹ کا سوٹ زیب تن کئے آسانی رنگ کی ٹائی لگائے اور ہیٹ پہنے ہوئے تھے۔ اور بقول شمس الحسن صاحب مولینا کے بجائے فرنگی نظر آ رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام میں کوئی انھیں پہچان نہ سکا اور وہ اسی انتظار ہی میں کھڑے رہ گئے کہ مولینا کی ایک جھلک کب نظر آئے اور وہ نعرہ بکیر اللہ اکبر سے ان کا خیر مقدم کریں۔ ادھر منتظرین اجلاس اس گتھی کو حل کرنے کی فخر میں تھے۔ آخر یہ طے ہوا کہ ان کے لئے راتوں رات ایک شیردانی تیار کرائی جائے۔ لیکن جب یہ تجویز قائد اعظم کے سامنے رکھی گئی تو انھوں نے یہ کہہ کر یکسر انکار کر دیا کہ جس لباس کا میں عمر بھر عادی نہیں اسے پہن کر میں خود کو بھی عجیب معلوم ہوں گا۔

اس کے بعد کچھ اور تفصیلات ہیں اور آخر میں یہ لکھا ہے کہ :

"قائد اعظم کے استقبال میں لکھنؤ کے عوام سے ناواقفیت کی بنا پر جو غلطی سرزد ہو گئی تھی اس کی ہم نے اس طرح تلافی کی کہ مسٹر ایم۔ اے جناح کو اگر مولانا نہیں تو کم از کم محمد علی جناح ضرور بتادیا جس نام سے وہ آج تک مشہور ہیں۔"

غرض اب مسلم لیگ اور خصوصاً یو پی کی مسلم لیگ چودھری صاحب وغیرہ نے یہ طے کر لیا کہ کسی حالت میں اور کبھی کانگریس کے ساتھ مفاہمت نہ ہو سکے گی اور جہاں تک ممکن ہو اس جماعت کی مخالفت کرنی ہے اس مقصد کے لئے ہر جائز ناجائز ذرائع استعمال کئے گئے اور جناح صاحب کو ان طریقوں سے یو پی وغیرہ میں مشہور و مقبول بنایا گیا۔ موصوف پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے، اب میدان ہموار پایا تو مہینوں کی منزل دلوں میں اور دلوں کی گھنٹوں میں طے ہونے لگی۔ اس موقع پر یہ نکتہ قابل غور ہے اور آگے آنے والے واقعات بھی یہ حقیقت ثابت کریں گے کہ پاکستان کے قیام، ہندو مسلم اختلافات کے نام اور کانگریس مسلم لیگ کے درمیان بغض و عناد میں سیاست اور فرقہ واریت سے کہیں زیادہ ذاتی اور شخصی مصلحت پسندی اور اتماد و اختیار کی سیاست کا دخل تھا :

۱۹۳۷ء میں مسلم لیگ کو گورنمنٹ میں شریک نہ کر کے مسلمان قوم کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیا۔ گاندھی جی کے پرائیویٹ سکریٹری اور سوانح نگار پیارے لال نے اس کو بہت بڑی سیاسی غلطی سے تعبیر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کانگریس ہالی کمان نے مسلم لیگ کو الگ کر کے گاندھی جی کے بہترین فیصلے کے خلاف کیا۔ فرہنگ مورس کی رائے یہ ہے کہ اگر کانگریس نے مسلم لیگ کے ساتھ ہوشیاری کا معاملہ کیا جو تاتو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا۔ مسٹر پینڈرل مون ہندوستان میں آزادی کے بعد آئی سی ایس افسر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی تخلیق کا سب سے بڑا سبب یہ ہوا کہ ۱۹۳۷ء میں کانگریس نے مسلم لیگ کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔

کانگریس کے ساتھ مسلم لیگ کا رویہ اور پالیسی بدلی تو جمعیتہ علماء اور مسلم لیگ میں بھی اختلافات ہو گئے۔ الٹن سے پہلے لیگ اور مسٹر جناح نے وعدے وعید کئے تھے ان پر جمعیتہ والوں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو تکمیل یقین ہو گیا تھا کہ اب ہمارے درمیان مقاصد کا کوئی اختلاف و افتراق نہیں رہ جائے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طبیسی اور مزاجی انداز یہ تھا کہ گفتگو میں وعدوں میں اور معاہدوں میں داؤ پیچ بالکل نہیں جانتے تھے۔ اور مخاطب کی گفتگو اور یقین دہانی میں کبھی کوئی ٹشک نہیں کرتے تھے۔ جمعیتہ علماء کے دوسرے اراکین بھی پوری طرح مخلص اور بے غرض تھے وہ کسی منہ بیاہ عہدے اور دنیاوی ترقی کے لئے سیاسی جدوجہد میں شریک نہیں تھے بلکہ محض الحب للندو والبغض للندو پر ان کا عمل تھا۔ مسلم لیگ کی یقین دہانی پر وہ کس درجہ مطمئن ہو گئے تھے؟ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنئے:

”مسلم لیگ کی ہالی کمان اور مسٹر جناح کے اعلانات اور مواعید سننے پر جمعیتہ علماء کے اراکین کے قلوب کو جذب کر لیا۔ ان کو لیگ میں اپنی امیدوں کی جھلک نظر آئی اور یہ یقین ہو گیا کہ لیگ کی پالیسی اور طریق کار اب بدل گیا ہے

اور اب وہ اپنی گم کردہ قناع کو لیگ میں پا جائیں گے۔ اور مسلمانوں کو کم سے کم یہاں تک لایا جاسکے گا اور اسی ذریعے سے مسلم قوم کی بے بسی کو دور کیا جاسکے گا۔ یقیناً یہ اطلاعات بتا رہے تھے کہ لیگ کا طریق کار اور پالیسی ہر دو بدل گئے ہیں۔ اور اب لیگ مردانہ دار ہندوستان اور مسلمانوں کے لئے میدان میں کود پڑی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر باوجود نصب العین کے اختلاف کے جمیۃ کے بہت سے اراکین اس سے اشتراک عمل کے لئے تیار ہو گئے۔

علماء کو تحریک کے میدانوں میں کود پڑنے کے لئے ذاتی اغراض اور مالی و جاہی حاجات باعث نہیں ہوئی تھیں۔ اور نہ ان کو آزاد ہندوستان میں عہدہ ہائے حکومت حاصل ہونے کی امید تھی، ان کو اس میدان میں لانے والے اسلام اور ہندوستان کے وہ مصائبِ آلام ہیں جنہوں نے تمام ہندوستانی اقوام اور اسلامی دنیا کو زندہ درگور بنا دیا ہے وہ اخلاص اور لہیت کے ساتھ میدان عمل میں اترے تھے اور اسی لئے باوجود مسٹر محمد علی جناح کے صورتاً اور سیرۃً غیر مذہبی ہونے کے ان کے ساتھ اور انہی کی قیادت میں قومی اور ملکی خدمات انجام دینے کے لئے تیار ہوئے تھے۔

گذشتہ صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ ماحول میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی۔ الیکشن سے پہلے والے جذبات، خیالات اور حالات الیکشن کے بعد از سر تا پا بالکل بدل گئے اور نتیجے کے طور پر لیگ نے اپنی پالیسی کا دھارا مثبت سے منفی روانی کی طرف موڑ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب لیگ کے سامنے کانگریس کی مخالفت کے علاوہ کوئی مقصد اور ہدف باقی نہیں رہ گیا تھا۔ جمیۃ علماء کے لئے لیگ کی اس پالیسی کے ساتھ ساز باز کرنا مشکل تھا۔ اس نے مسلم لیگ کو اس بدلی ہوئی سیاست کی طرف توجہ دلائی تو مسٹر جناح نے بڑا مایوس کن رویہ اختیار کیا۔ یہ حکایت بھی حضرت ہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے :

”الیکشن کے بعد پارلیمنٹری بورڈ کی ورکنگ کمیٹی اور منتخب شدہ ممبروں کے ۱۳ مارچ والے لکھنؤ کے پہلے ہی اجلاس میں مسٹر جناح نے انتہائی جدوجہد کی کہ

لے مسٹر جناح کا پراسرار وعدہ اور اس کا عمل۔ از حضرت رحمۃ اللہ علیہ

ایگزیکٹو پارٹی کے اور انڈیپنڈنٹ پارٹی کے تمام کامیاب ممبران ہمیشہ پارٹی کے لیگ پارٹی میں شامل کرنے جائیں حالانکہ اکشن سے پہلے وہ لوگ زمرہ یہ کہ لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہونے سے متفرق تھے بلکہ انہوں نے لیگ کی مخالفت اور اس کو ناکامیاب بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ لیگ کے درکرس کو ان کے مقابلے میں بڑی جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ ان میں سے متعدد استیوں نے مسٹر جناح کی ایگیم کو باشارہ حکام برطانیہ ٹھکرا دیا تھا۔ حالانکہ مسٹر جناح نے مرکزی بورڈ میں ان کا نام چن لیا تھا۔ مگر انہوں نے مخالفت کی تھی اور اپنی علحدگی کا اظہار کیا تھا۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کی سیاسی زندگی بہت تیرہ و تار تھی۔

جب مسٹر جناح سے کہا گیا کہ آپ نے تو یہ ظاہر فرمایا تھا کہ ہم رجعت پسند اور خود غرض افراد کو ریاست کے میدان اور لیگ سے خارج کر دیں گے اور ان کے بجائے آزاد خیال ترقی پسند اور غلص لوگوں کو لیگ میں بھرتی کریں گے تو مسٹر جناح نے فرمایا کہ وہ سیاسی وعدے تھے۔

اس واقعے کے بعد جمعیت اور مسلم لیگ میں اتحاد و اتفاق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اکابر جمعیت علماء کے بارے میں اس قسم کے بیانات شروع ہوئے جن میں ذاتی اہانت کا پہلو غالب ہوتا تھا۔ خاص طور پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تنقید و تنقیص کا ایک سلسلہ جاری کر دیا گیا اور کوشش کی گئی کہ حضرت کی تخفیف و توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے۔

”جناح صاحب نے ایک تقریر کی جس میں کہا گیا کہ جمعیت علماء یا احسار کو کاٹ کر میں داخل ہوں گا۔ لیکن یہ لوگ بورڈ میں داخل ہو چکے ہیں کوئی حق نہیں ہے اور یہ ان کی انتہائی بے اصولی ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہم صرف اکشن کے لئے داخل ہوئے تھے۔ اپنی پارٹیوں، عقیدوں اور نصب العین کو نہیں

چھوڑا تھا۔ ہم کو ہر وقت اس چیز کا اختیار ہے کہ ہم اپنی جمیعتوں کے لائحہ عمل پر غور کریں۔ اس پر جناح صاحب نے پھر اپنا جواب دہرایا اور مزید وضاحت سے تفسیر فرمائی جس کا ماحصل یہ تھا کہ جمیعت کو سیاست میں رائے قائم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تقریر نہایت تلخ اور جیتہ کے لئے نہایت تذلیل کن تھی۔^۱

لیگ کے اعتراضات اور اپانٹوں کا نشانہ علماء اور جمیعت علماء تو تھی ہی مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان کے حلوں کا رخ بہت شدید ہوتا تھا۔ ان کی کسی قدر تفصیلات ہم اگلے صفحات میں بیان کریں گے، سردست موضوع کی مناسبت سے دو ایک واقعات پر اکتفا کرتے ہیں۔ منجملہ دوسرے اتہامات اور سب و شتم کے ارکان جمیعت پر حسابات میں بے احتیاطی اور روپے لینے کا الزام بھی لگایا جاتا رہا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ چودھری خلیق الزماں کے الفاظ میں ملاحظہ ہو:

”اس الکشن کے سلسلے میں پنڈت جواہر لال کا ایک خط ریفی احمد کے نام مسلم لیگ والوں کے ہاتھ لگ گیا جس میں مولینا حسین احمد کو روپیہ دینے کے متعلق ذکر تھا۔ اس کو مسلم لیگ والوں نے خوب خوب اچھالا تاکہ عوام یہ سمجھ لیں کہ نثار احمد شیروانی جن کی جمیعت علماء تائید کر رہی تھی۔ وہ دراصل کانگریسی نمائندے ہیں یہ تو واقعہ تھا کہ وہ کانگریسی نمائندے تھے۔ مگر مولینا حسین احمد کو روپیہ دینے کے معاملے میں ان پر الزام صحیح نہیں تھا۔ کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب کبھی میں نے ان کو انتخابات کے دورے وغیرہ کے مصارف کے متعلق روپیہ دیا تو اس کا ایک ایک پیسے کا حساب انھوں نے مجھے دیا اور بقیہ رقم مجھے واپس کر دی اس لئے میرا خیال ہے کہ جس روپے کا ذکر تھا وہ انھیں الکشن کے مصارف کے متعلق دیا گیا ہوگا۔“^۲

یہ تو کبھی کبھی ہوا ہے کہ حضرت کو امانت و دیانت کی بنا پر کسی نے کوئی رقم کہیں

پہنچانے کے لئے دی اور حضرت نے پہنچادی مگر یہ راقم السطور کا ذاتی مشاہدہ و مطالعہ ہے کہ پیبلک فنڈ کا کوئی پیسہ نہ حضرت نے کبھی اپنے پاس رکھا نہ اس کی کوئی ذمہ داری لی۔ مگر لیگ نے حضرت پر اس قسم کے اتہامات بھی لگائے اور اس کو ایک مستقل موضوع بنا کر برسوں اچھالتے رہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ان اختلافات کے بعد حضرت نے مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ سے استعفیٰ دیا۔ اس کے کافی دن بعد راجہ سلیم پور نے بھی اس بورڈ سے استعفیٰ پیش کیا۔ دونوں استعفیٰ ایک ہی مجلس میں پیش ہوئے۔ راجہ سلیم پور کا استعفیٰ منظور کیا گیا اور حضرت کا بورڈ سے اخراج کیا گیا۔ حضرت لکھتے ہیں:

”صدر پارلیمنٹری بورڈ یوپی راجہ سلیم پور نے لیگ سے کھلی ہوئی غداری کی اور جا کر کیمپٹ میں وزارت پر فائز ہو گئے۔ چاہیے یہ تھا کہ ان کا لیگ سے اخراج کیا جاتا مگر پارلیمنٹری بورڈ کے اجلاس میں جو کہ وزارت کے عرصے کے بعد منعقد ہوا تھا ان کا استعفیٰ پیش کیا جاتا ہے اور وہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی جاتی۔ اس کے برخلاف جبکہ میرا استعفیٰ سٹی میں پیش ہو چکا تھا اگت میں بجائے اس کی قبولیت کے میرے اخراج کا اعلان کیا جاتا ہے“

یہ برتاؤ ان مخلصانہ اور بے غرضانہ خدمات کے بعد تھا جنہوں نے مسلم لیگ کو نئی زندگی عطا کی تھی اور مسلم عوام سے متعارف کرایا تھا اور جس کا اعتراف مسلم لیگ کے لیڈران مختلف مواقع پر کرتے رہے تھے۔ پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ میں بھی منصف مزاج ممبروں کی طرف سے اصرار ہوا کہ جیتے علماء کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا جانا چاہیے۔

”بعض ریزولیشنوں کے پاس کرتے وقت مسٹر ظہیر الدین فاروقی اور بعض دیگر اراکین نے کہا کہ جیتے علماء نے ہماری مدد کی ہے اور ہم اس کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اس بورڈ کو ان کے خیالات کا اندازہ کر کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے“

لہ راجہ سلیم پور اس سخت دہز کے درمیان گورنر سے مل کر یوپی کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہو گئے تھے۔
 لہ مسٹر جناح کا پراسرار دستہ سے

اہلیہ کا انتقال اور چوتھی شادی

گو ناگوں مشاغل اسفار اور تعلیمی و تدریسی مصروفیتوں کی وجہ سے حضرت گھر اور گھر والوں کے معاملات کے لئے اتنا وقت نہیں دے سکتے تھے جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ سیاسی اور اصلاحی تبلیغی اسفار تو عمر بھر جاری رہے مگر اس سال الکشن کی مصروفیات اور دورے معمول سے کہیں زیادہ ہوتے رہے۔ تیسری اہلیہ سال چھ مہینے سے علیل تھیں۔ اس زمانے میں بڑے چھوٹے ہر گھر انے کا یہ معمول تھا کہ جب تک ممکن ہوتا حکیم ہی کا علاج ہوتا تھا۔ چنانچہ کم و بیش سال بھر تک حضرت کی اہلیہ کا علاج بھی مقامی اطباء کی زیر نگرانی ہوا۔ مگر افاقے کی کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ آخر مجبور ہو کر ان کو بغرض علاج دئی لے جایا گیا۔ جامع مسجد کے پاس عورتوں کا ایک مخصوص اسپتال ہے، اُس وقت اُس کا نام وکٹوریہ اسپتال تھا۔ اُس کے ایک مخصوص کمرے میں مریضہ اور تیمار داروں کا قیام ہوا۔ اتنی فرصت تو حضرت کو نہ مل سکی کہ تیمارداری کے لئے مستقل دئی میں قیام کر سکتے مگر جب تک اہلیہ کا قیام وہاں رہا پابندی سے ہر ہفتے پرسش احوال اور تسکین و دلا سے دینے کے لئے جاتے رہے۔ اصل مرض تو اللہ جانے کیا تھا مگر بچا پس پچپن برس کی کان میں پڑی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ پیٹ میں ٹیومر ہو گیا تھا۔ آخر کار کوئی علاج کارگر نہ ہوا اور مرحومہ عین عالم نوجوانی میں ۴ اور ۵ نومبر ۱۹۳۶ء کی درمیانی رات کو ایک نو برس کے صاحبزادے اسد کو پھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملیں۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت نے اس حادثے کا ذکر اپنے ایک والا نامہ میں فرمایا ہے :

”نہایت انوس کے ساتھ مطلع کرتا ہوں کہ ۱۸/۱۹ شعبان ۱۳۵۵ھ

چہار شنبہ پنجشنبہ کی درمیانی شب میں والدہ اسد دہلی میں اس دارسانی سے عالم جاودانی کو سدھار گئیں۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ مجھ کو شب ہی میں تارلا۔ دہلی پہنچا۔ جنازہ دیوبند لایا اور پنجشنبہ کی شام کو مرحومہ کو سپرد خاک

کہا گیا۔ دعائے مغفرت فرمائی:

حضرت کی زندگی میں نہ سرت کی کوئی قیمت تھی اور نہ صدمے کی کوئی اہمیت تھی کوئی بھی حالت ہو ان کے شب و روز یکساں صبر و شکر اور وقار کے ساتھ گزرتے تھے۔ مگر اس سانچے پر حضرت کو بڑا صدمہ گزرا۔ مرحوم بڑی وضعدار، مہاں نواز، پیکر اخلاص، دن اشعار اور متقی و پربہیزگار، صابر و شاکر بیوی تھیں۔ حضرت کی مزاج شناس تھیں اور ان کی ذات سے حضرت کے آستانے پر غیر معمولی برکت و رونق رہتی تھی۔ ان کی رخصتی کے ساتھ گھر تو گھر پورا اجول سونا ہو گیا۔ مذکورہ بالا والا نامہ میں حضرت نے جو نہایت افسوس کے الفاظ لکھے ہیں یہ کوئی محاررے کے روزمرہ اور رسمی الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت اس قسم کے الفاظ کے عادی نہیں تھے۔ دل پر جو بھی گزر جائے مگر زبان و قلم سے افسوس، صدمہ اور شکوہ آمیز کلمات کا استعمال کبھی نہیں کرتے تھے۔ یہ غیر معمولی تاثر ہی تھا کہ قلم سے افسوس کے الفاظ نکل گئے۔

حضرت اہلیہ مرحومہ کا جسد خاکی دیوبند لائے۔ اب خیال ہوتا ہے کہ تیس پینتیس برس پہلے یہ اہتمام اس لئے کیا ہوگا کہ قیامت تک کے لئے مرحومہ کو اپنے قدموں کی رفاقت سے آسودہ کر سکیں۔ رحمہم اللہ و برّو اللہ مضاجعہم

اس حادثے کے ایک ہفتے بعد حضرت دیوبند سے حسب معمول سلہٹ کے لئے روانہ ہو گئے۔ راستے میں اپنے آبائی وطن ٹانڈہ میں دو ایک روز کے لئے قیام فرمایا اور اسی دوران اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں چوتھا عقد منون ہوا۔ اس کی تفصیل حضرت سے سنیں :

"میں شب میں ٹانڈہ پہنچا۔ وہاں میرے تانے زاد بھائی محمد بشیر صاحب کی لڑکی دو سال سے بیوہ تھی۔ اس کو نکاح کے دو تین سال بعد بیوگی کا منہ دیکھنا پڑ گیا تھا۔ صرف ایک بچی پیدا ہوئی تھی جو کہ تھوڑے ہی دنوں زندہ رہ کر راہی ملک بنا ہو گئی تھی۔ اس بیوہ کے نکاح کا عرصہ سے جھگڑا چلا آتا تھا۔ مختلف مقامات پر اس کے نکاح کے لئے گفتگو ہوئی تھی مگر کوئی مناسب جگہ

ہاتھ نہ آئی تھی۔ میرے احباب نے بغیر میری منشاء اور تحریک کے اس میں تحریک شروع کر دی تھی۔ کیوں کہ بھائی محمد ظہیر صاحب جو کہ بھائی محمد بشیر کے بڑے بھائی ہوتے ہیں بطور تعزیت دیوبند گئے تھے۔ میں اس جگہ کو غیر مناسب نہیں سمجھتا تھا بالخصوص اس بنا پر کہ اپنے ہی گھر کا معاملہ تھا۔ اگرچہ اس وجہ سے کہ میں ساٹھ برس کی عمر کو پہنچ رہا ہوں اور لڑکی کی عمر تقریباً بائیس سال ہے۔ عدم تناسب بھی تھا۔ مگر اتحاد خاندانی اور اس کی بیوگی اور کسی موزوں جگہ کا ہاتھ نہ آنا۔ کیوں کہ جن جگہوں سے اس کے رشتے آرہے تھے ان کی بیویاں موجود تھیں۔ مگر وہ اپنی بیویوں سے خوش نہ تھے وغیرہ امور اس کے متقاضی ہوئے کہ میں اس کو منظور کروں۔ میں نے استخارہ کیا۔ اس سے پہلے دیوبند میں اور دوسری جگہوں میں آٹھ نو جگہوں سے پیغام کنواری اور بیوہ لڑکیوں کے لئے آیا تھا مگر میں نے وقت کیا تھا۔ بہر حال صبح بروز دوشنبہ ۳۰ شعبان کو میرے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا۔ لڑکے کے تائے نے یہ ظاہر کیا کہ گھر میں سب لوگ راضی ہیں۔ جب تو سلہٹ سے واپس ہو تو عقد کر کے ساتھ لیتے جانا۔ میں نے ان کو نشیب فراز پر متنبہ کیا۔ بالخصوص اپنی عمر کے متعلق۔ چونکہ وہ ہمارے خاندان میں مردوں میں سب سے زیادہ عموالے ہیں۔ ہم بھائی ان کے سامنے بچتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ میں بخوبی واقف ہوں اور جملہ امور پر کافی غور کر چکا ہوں اور گھر میں بھی عورتوں مردوں نے کافی غور کر لیا ہے۔ تب میں نے کہا کہ اگر لڑکی اور اس کی ماں وغیرہ راضی ہیں تو کیوں نہ عقد ابھی کر دیا جائے۔ میں عقد کر دینے کے بعد اس وقت چلا جاؤں گا اور واپسی پر لیتا جاؤں گا۔ جو لوگ ٹھہ کو اپنی محبت کی وجہ سے مختلف مقامات سے پیغام دیتے اور تحریک کر رہے ہیں ان لوگوں کو مزید تکلیف کی حاجت نہ رہے گی۔ بہت سے جھگڑے بند ہو جائیں گے۔ انھوں نے کہا اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ میں مشورہ کر کے خبر دیتا ہوں۔ الحاصل انھوں نے مشورہ کر کے چھو بارے منگا کر اس مجلس میں جس

میں کچھ اجاب ملنے کی غرض سے آئے تھے مہرِ فاطمی پر عقد کر دیا۔ اس کے بعد وحید اور اس کے خسر وغیرہ کا اصرار ہوا کہ ایک شب یہاں قیام کر لیا جائے۔ زیاد اصرار پر بجز اس کے کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ چنانچہ یکم رمضان ۱۰۰۰ھ کو میں ۱۰۰۰ھ سے روانہ ہو گیا۔ جو حالت مشاہدہ ہوئی مجھ کو قوی امید ہے کہ یہ عقد باعث طہارت خاطر ہو گا۔

ایک مولانا اسعد صاحب کے علاوہ حضرت کی ساری سات اولادیں انہی چوتھی اہلیہ کے بطن سے تولد ہوئیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سات بچے حضرت کی ساٹھ برس کی عمر کے بعد کی اولادیں ہیں۔ بلکہ سب سے چھوٹے صاحبزادے اسجد سلمہ تو کم ذبیش ۸۰ برس کی عمر میں تولد ہوئے تھے سلمہم اللہ۔ ان کی تفصیل کتاب کے آخر میں آئے گی۔ جیسا کہ حضرت نے توقع کی تھی یہ اہلیہ حضرت کے لئے ہر طرح کے ظاہری و معنوی اطمینان اور راحت کا سبب ہوئیں۔

بھتیجے کی وفات

گذشتہ صفحات میں دو تین جگہ حضرت رحمۃ اللہ کے بھتیجے مولانا وجد احمد صاحب مرحوم کا تذکرہ آچکا ہے۔ موصوف بچپن اور مدینہ طیبہ کے زمانہ قیام ہی سے حضرت ہی کی شفقت اور تربیت کے سایے میں رہتے چلے آئے تھے اس لئے چچا ہی کو باپ کی جگہ جانتے اور مانتے تھے۔ حضرت کے اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی اور چاروں بھائیوں کے درمیان یہ اکیلے لڑکے تھے اس لئے بسبھی کی توجہ اور محبت کا مرکز تھے۔ مگر تسلیم و تربیت کی وجہ سے حضرت سے خصوصی قربت تھی۔ اسارت مالٹا کی گرفتاری کے وقت آپ نو عمر تھے۔ کچھ مخلصین نے آپ کی رہائی کے لئے تنگ و دو کرنی چاہی مگر آپ نے حضرت شیخ الہند اور چچا سے الگ ہونا منظور نہ کیا اور برضا و رغبت طوق و سلاسل کو گلے لگا لیا۔ مالٹا سے رہائی ہوئی تو مدینہ طیبہ میں مقیم چچاؤں نے واپسی کے لئے اصرار کیا مگر آپ نے چچا حضرت مولینا حسین احمد سے مفارقت گوارا نہیں کی۔ مدینہ طیبہ کی حاضری کے وقت بھی چچاؤں نے روکنے کی بڑی خواہش کی مگر وہ حضرت سے الگ نہ ہوئے۔ حضرت رحمۃ اللہ بھی بھتیجے کو اولاد ہی کی طرح چاہتے اور رکھتے تھے۔ اپنی بے حد مصروفیتوں روز روز کے اسفار اور شب و روز کے تدریسی مشاغل کے باوجود ان کی تسلیم و تربیت و دلداری اور ناز برداری سے کسی وقت غافل نہیں رہتے تھے۔ اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے حضرت سر تا پا مہر و محبت اور شفقت و مروت تھے۔ اعزہ اقربا و مسترشدین اور متبیین میں ہر فرد یہ سمجھتا تھا کہ حضرت کو سب سے زیادہ خصوصیت میری ہی ذات سے ہے۔ مگر مولینا مرحوم سے حضرت کو جو تعلق تھا اس کی مثال ہزاروں چچاؤں میں تو مل نہیں سکتی۔ لاکھوں میں شاید مل جائے۔ سا برمتی جیل سے حضرت نے مولینا کو جو خطوط لکھے تھے ان میں سے دو خطوط ملاحظہ فرمائیے:

مہرِ نیرم و حید احمد سلطہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 تمہارے مزاج کی کیفیت عرصے سے معلوم نہیں معلوم ہوئی۔ نہ معلوم
 مدینہ منورہ سے کوئی خط آیا یا نہیں؟ وہاں کی کیا حالت ہے؟ حجاج بھی واپس
 آئے ہوں گے۔ ان کے ہمراہ بھی شاید خطوط آئے ہوں۔ بعض واقف حجاج بھی
 شاید ہوں گے جن سے مزید احوال کا بھی پتہ چل سکے گا۔ شیخ حسن عبدالجواد واپس
 گئے یا ابھی ہندوستان ہی میں ہیں۔ اگر ہندوستان میں ہیں تو کہاں ہیں؟ میں
 نے جو خطوط مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے لئے روانہ کئے تھے وہ تم نے روانہ کئے یا
 نہیں؟ ادن کے جواب آنے پر بلاتا خیر تم ہمارے پاس روانہ کر دو۔ خبردار!
 تم دیوبند کے کسی فتنہ و تفسیہ میں شریک نہ ہونا۔ مولوی عسکری گل صاحب
 سے بھی نہ توڑنا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جلد اغزہ کے احترام و تعظیم میں کمی
 نہ کرنا۔ ان دنوں جو قصہ سفر نامہ مالٹا کا مولوی بیمن صاحب کے خانان چل رہا ہے
 اور عزیز محمد احمد نے اپنی بیوقوفی سے اس میں شرکت کی ہے ہرگز ہرگز تم ذرا
 بھی اس میں ملوث نہ ہونا۔ تم کو اپنے علمی مشغلے کے سوا کسی امر سے سروکار نہ
 ہونا چاہیے۔ مولوی بیمن صاحب سے سابقہ تعلق میں ذرا بھی تغیر نہ ہونا چاہیے
 سب سے چھوٹے بن کر رہو۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ جناب مولانا
 صیب الرحمن صاحب، جناب مفتی صاحب، جناب حکیم صاحب، جناب شاہ صاحب،
 مولانا مرتضیٰ حسن، سید اصغر حسین صاحب، مولانا شبیر احمد صاحب، مولانا
 عبد الباقی صاحب، مولانا محمد ابراہیم صاحب، قاری عبدالوحید صاحب، منشی
 امداد الحق صاحب اور دیگر واقفین صاحبان کی خدمت میں سلام عرض کر دو۔

مولوی محمد طاہر صاحب، مولوی سید صاحب گنگوہی، اراکین جمعیۃ طلباء
 و محمودیہ وغیرہ حضرات سے بھی، مولوی عتیق، مولوی رحمت علی، صوفی محمود صاحب،
 مولوی عبد الاحد صاحب سے سلام سنون کہہ دو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ
 صاحبزادیوں، مولوی رفیع، مولوی سعید صاحب سے سلام عرض کر دینا اور

خط، جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں، مستقل طور پر جیل کے پتے پر بھیجیو۔ فقط (ساہرمتی جیل احمد آباد گجرات) انگریزی میں ہو اور میرا نام اردو میں 'مجھ کو مل جائیگا۔ (انشاء اللہ) رجسٹری ہرگز مت بھیجنا، مشکل ملے گی۔ ہم کراچی والوں کو جو باہر خط لکھنے کا استحقاق تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب تیسرے پینے خط اور ملاقات کا حکم عام قیدیوں کے لئے آگیا ہے جن میں ہم بھی ہیں۔ ہم کو پولیٹیکل حقوق ملنے کا ریزرویشن اگرچہ اخیر جولائی میں بمبئی گورنمنٹ نے پاس اور منظور کر لیا ہے مگر ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ مولوی عزیز گل صاحب، مہدی حسن صاحب اور اراکین خلافت سے میرا سلام کہدو۔ والسلام حسین احمد غفرلہ از ساہرمتی جیل۔

خط کا مضمون کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ جو اسمائے گرامی اس میں مذکور ہیں ان کا تعارف کرایا جائے تو اس کے لئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ اس مختصر فرصت میں اتنی گنجائش کہاں سے لائی جائے۔ سردست تو ایک دوسرا والا نامہ دیکھ لیجئے اور پھر آگے کی بات سماعت فرمائیں :

درس عربیہ دیوبند عزیزم وحید احمد سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے پہلے خط میں جو کہ ۲۵ ذی قعدہ کو لکھا تھا مگر بوجہ منسر کے تاخیر ہو گئی۔ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے خطوط روانہ کر چکا ہوں۔ غالباً پہنچے ہوں گے ان کو بلا تاخیر روانہ کر دو اور جو خطوط وہاں سے آئیں ان کو مع اپنے خط کے مستقل لفافے میں رکھ کر یہاں میرے پاس روانہ کر دیا کرو۔ اب خطوط کا انتظام قدسے قابل الطینان ہو گیا ہے۔ پچھراؤں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تم کو خطوط وہاں سے پہنچا کریں گے۔ فیض آباد بھجوری بھیج دی گئیں یا نہیں؟ تم اب کیا کتابیں پڑھتے ہو شوق اور محنت سے جلد کتابیں ختم کرو۔ مولوی عزیز گل صاحب کے قصے میں خبردار فریقِ بند نہ ہونا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اعزہ و اقارب سے ہمیشہ نہایت خلوص اور ادب سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ مولوی مرتضیٰ حسن صاحب کی خدمت میں بعد ادب فدویانہ و تسلیمات نیاز مندانہ عرض ہے کہ آپ نے اپنے قدیم والا نامہ میں

میری سوال کردہ چیزوں کا بھی جواب نہ دیا۔ خصوصاً بریلوی صاحب کی کیفیت کچھ تو ذکر کی ہوتی۔ مجھ کو اپنا خادم قدیم اور غلص دغاگو تصور فرماتے رہیں۔ حاجزادوں کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، جناب مفتی صاحب، جناب حکیم صاحب، مولوی محسن صاحب، شاہ صاحب، مولوی شبیر احمد صاحب، مولوی ابراہیم صاحب، بلیاوی، مولوی سراج احمد صاحب، مولوی عبدالسیح صاحب، مولوی رحمت علی صاحب، مولوی عبدالاحد صاحب، مولوی طاہر صاحب، مولوی سعید صاحب گنگوہی اور اراکین جمعیتہ مع جناب قاری عبدالوہید صاحب، و دیگر پرسان حال و واقفین کو سلام مسنون معروض ہو۔ منشی امداد الحق صاحب اور جہ صاحبزادیوں اور مولوی محمد رفیع صاحب کو سلام مسنون عرض کر دو۔ والسلام حسین احمد غفرلہ! اگر مجھے خط لکھو تو میرا نام لفظ پر آردو میں اور پتہ انگریزی میں۔

ایک مدت تک ہندوستان میں مسافرت اور غریب الوطنی کی حالت میں گزر کرنے کے بعد یہ نظر آیا کہ مستقبل قریب میں مدینہ طیبہ واپسی نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ مولینا وحید احمد صاحب بہار شریف ضلع پٹنہ میں وقف بنی بنی صغریٰ اسٹیٹ کے بروس عزیز میں مدرس ہو گئے۔ اور حضرت نے ان کے لئے اپنے آبائی وطن ٹانڈہ ضلع فیض آباد میں اپنی موروثی زمین پر نہایت اعلیٰ درجے کا دیسح شان دار اور آرام دہ مکان تنگ تری کی حالت میں قرض اُدھار لے کر تعمیر کرایا۔ ابھی اس مکان کی آبادی کو سال بھر بھی نہیں گزرا تھا کہ مولینا وحید احمد صاحب بہار شریف سے بیمار ہو کر شعبان کی ۵ تاریخ کو ٹانڈہ پہنچے۔ دوا علاج حکیم ڈاکٹر کے لئے دوڑ دھوپ کی جانے لگی تو آپ نے مایوسی کا اظہار کیا کہ اب میرا آخری وقت ہے اور سختی سے منع کیا کہ دوا علاج بیکار ہے۔ تاہم جو کچھ بن پڑا دوا دارو کی گئی مگر کوئی افادہ نہ ہوا۔ دن بدن مرض بڑھتا ہی رہا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ تار نراکت حالات کی اطلاع دی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت دیوبند سے سلہٹ کے لئے روانہ ہوا کرتے تھے۔ یہ تار پا کر حضرت راستے میں لکھنؤ سے ڈاکٹر حکیم مولینا سید عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم ندوۃ العلماء کو لے کر ٹانڈہ پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب

طیب حاذق ہونے کے علاوہ نہایت متقی پرہیزگار اور حضرت کے مخلص ارادتمند تھے۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ معائنہ فرما کر دو ایسے تجویز کیں اور کسی قدر اطمینان بھی دلایا۔ اس کے بعد حضرت اپنے اگلے سفر سلہٹ کے لئے روانہ ہو گئے۔ مولینا محمد جلیل صاحب کیرانوی مدرس مدرسہ دیوبند حضرت کے ساتھ تھے، آپ نے یہ واقعہ بتلایا کہ کلکتہ پہنچ کر ایک رات قیام ہوا تو حضرت کی طبیعت میں بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں یہ کیفیت اتنی بڑھی کہ آدھی رات گئے ڈاکٹر بلوانا پڑا۔ اس نے ہر طرح معائنہ کر کے بتلایا کہ جسمانی طور پر کوئی ناسازی یا کمزوری نہیں ہے۔ کوئی وقتی تاثر ہے جو جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر صبح تک یہی کیفیت رہی اور رات بھر جاگ کر ٹہل ٹہل کر وقت گزرا۔ صبح کو آگے کے سفر کے لئے روانگی سے پہلے حضرت نے ارجنٹ تار دلویا کر دیکھ کر خیریت سے مطلع کروا کر۔ تاریخ رمضان کو صبح دس بجے ملا۔ اور مولینا کارات کو ۱۰ بجے وصال ہو چکا تھا۔ تاریخ پہنچا تو جسد خاکی کو آخری غسل دیا جا رہا تھا۔ غسل دینے والوں ہی میں سے ایک بزرگ مولینا عزیز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت تار کا جواب لکھا جو حضرت کو سلہٹ پہنچنے کے بعد ملا۔ حاضرین اور مسترشدین میں ایک بزرگ کو منتخب کیا گیا کہ وہ حضرت کو حادثہ کی اطلاع دیں۔ موصوف کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت تلاوت فرما رہے تھے۔ پانچ دس منٹ بعد تلاوت روک کر دریافت کیا کہ وحید کے بارے میں کوئی اطلاع آئی یا نہیں؛ حادثے کی اطلاع پائی تو انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھ کر دوبارہ تلاوت میں مشغول ہو گئے۔

یہی ہے سیر فیروں کی اور یہی فریادِ زمیں پہ بیٹھ گئے سوئے آسماں دیکھا
یاد کر لیجئے کہ آج سے کم و بیش بیس برس پہلے بھی مانٹا کی قید کی حالت میں
اس سے کہیں زیادہ جگر سوز سانحہ پیش آیا اور اس وقت بھی حضرت انا اللہ بہڑھ کر اسی طرح
تلاوت میں مشغول ہو گئے تھے۔

رمضان شریف میں حضرت کو عبادت، ریاضت، تلاوت اور تراویح و تہجد کے علاوہ
کسی دوسرے مشغلے یا گفتگو کا موقع نہیں ملتا تھا۔ مگر افطار اور رات کے کھانے کے وقت
حاضرین سے کچھ شگفتہ باتیں کر لیتے تھے۔ مگر اس رمضان میں سارے مہینے نہ حضرت نے

کسی سے کوئی بات کی نہی خدام کو کس گفتگو کی ہمت ہوئی۔ عید کے بعد واپسی میں جب ٹانڈہ تشریف فرما ہوئے تو اسٹیشن سے لانے والی سواری بجائے قیام گاہ کے سیدھے قبرستان پر روکی۔ اور دیر تک فاتحہ درود میں مصروف رہے۔ وہاں سے سیدھے مرحوم بھتیجے کے گھر تشریف لائے۔ حضرت کی آمد پر مرحوم کی بیوہ ایسی بیتاب اور بے قابو ہوئی کہ آداب و سلام بھی مشکل ہی سے عرض کر سکیں اور اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئیں کہ دیکھنے والوں کا کلیجہ نکل پڑے۔ بہت دیر تک پورا گھر آہ و بکا سے معمور رہا۔ ایسے ماحول میں حضرت مکمل طور پر خائب و محسوس اور سکت رہے۔ شدت تاثر سے چہرے پر سرخی کی جھلک نمودار ہوئی اور کیفیت متغیر ہوتی محسوس ہوئی مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا حتیٰ کہ تسلی و تشفی کے کلمات بھی ارشاد نہیں فرمائے۔ زندگی بھر مصائب و آلام کے طوفان صحن دل ہی پر جھیلے آئے تھے اور صبر و شکر کی ایک عظیم مثال روایت برقرار رکھی تھی۔ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اندیشہ تھا کہ اگر ایک لفظ بھی بول دیں گے تو عمر بھر کی صبر و شکر کی یہ روایت کہیں ٹوٹ نہ جائے۔

حضرت نے مرحوم بھتیجے کے بال بچوں کی پرورش، تربیت اور کفالت کا بار جس فرائض حوصلگی اور شفقت کے ساتھ برداشت کیا اس کی مثال آج کی دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی۔ اپنی اولاد اور مرحوم کی اولاد میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ اور یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ یتیم ہو چکے ہیں۔ ہر قسم کی تنگی ترشی برداشت کی بعض اوقات مقروض ہو گئے۔ مگر گھر کا پورا خرچ پورا کیا۔ ان کے تین لڑکوں اور دو لڑکیوں کی شادیاں پورے انتظام اور اہتمام سے انجام دیں۔ ہر چند کہ اسلامی سادگی اور سنت نبویؐ کی پابندیوں کا پورا خیال رکھا مگر شادیوں کی قدرتی رونق اور وضعاری میں بھی کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ زیورات اور ملبوسات کا جتنا کچھ بھی انتظام اپنے بچوں کے لئے کیا ٹھیک وہی ان یتیم بچوں کے لئے بھی ہمایا۔ غرض جب تک جسے اپنی ذات کی حد تک ان کی دلداری اور ناز برداری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ بڑے صاحبزادے مولانا اسعد صاحب کی شادی کے سلسلے میں اہلیہ محترمہ کو جیل سے کچھ ہدایات لکھی تھیں اس کا ایک اقتباس اس بے مثال حسن سلوک کی یاد تازہ کرتا ہے:

”بنارس سے خط آیا ہے کہ وہاں سے ۲۳ جولائی کو کپڑے روانہ ہو گئے۔“

ان تھانوں میں سے آدھا آدھا اُن دو جوڑوں کے لئے لے لو جو کہ اسد کی بیوی کے لئے بناؤ گی اور آدھا آدھا فرید کے لئے رکھ لو۔ اس کی شادی بھی انشاء اللہ سعید کے بعد ہو جائے گی۔" لے

یہ بنارس پکڑے یا بنارس پوت نئی نسل کی سمجھ میں بھی نہ آئے گی۔ ایک زماز تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی ملبوس نہیں تھا۔ اسی کی ایک قسم کنوٹ سے رانیوں، شہزادیوں اور راہکاریوں کے لباس تیار ہوتے تھے۔ ہمارے زمانے تک شادیوں اور بار اتوں میں اس کے ایک دو جوڑے تو ضرور ہی دئے جاتے تھے۔ مگر اب تو اس کا نام بھی آہستہ آہستہ مٹا جا رہا ہے۔ آخر میں ایک نادر اور بے مثال واقعہ حضرت کی شفقت اور دستِ قلب کا اور ملاحظہ کر لیجئے۔

وصال سے کچھ دن پہلے حضرت نے خیال فرمایا کہ وجد کے لئے میں نے جو مکان تعمیر کرایا ہے اس پر قانوناً اس کے پتوں کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اس لئے کہ وہ موروثی جائیداد پر تعمیر ہوا ہے اور پتے شرعاً محروم الوراثة ہیں۔ چنانچہ حضرت نے وہ مکان پتوں کے نام ایک ہزار روپے میں بیچ کر دیا۔ رجسٹری تیار ہوئی اور اس پر دستخط کرنے لگے تو مرحوم کے بڑے لڑکے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب یہ مکان تیار ہوا تو تیرے باپ نے کہا کہ اس میں چوکی، تخت، آئینے اور چوبی صندوق وغیرہ رہنے ضروری ہیں۔ اس کی ضد پر میں نے یہ سامان اور کچھ دوسرا سامان پلنگ پٹریہ وغیرہ کہیں باہر سے منگوائے ان پر کم و بیش ایک ہزار روپیہ لگ گیا تھا۔ اور آج تو نے پورا مکان ایک ہزار میں لے لیا اور وہ بھی نہیں دیا۔ اُس مکان کو بنے ہوئے آج کچھ اوپر پچاس برس ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ابھی کچھلے ہی برس بن کر تیار ہوا ہے۔ ایسی شاندار اور وسیع جوہلی بنوانی آج کے زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کی طاقت سے بھی باہر ہے۔ رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ڈاکٹر اقبال کی تنقید

مدرسہ دیوبند اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے اختلاف و انتشار کا واقعہ ناظرین بھولے نہ ہوں گے۔ اس موقع پر ملک کے بہت سے علماء اور معتدّر حضرات شاہ صاحب کے موید تھے اور ان کا خیال تھا کہ شاہ صاحب مدرسے سے قطع تعلق کر لیں گے تو دارالعلوم دیوبند کی وہ مقبولیت اور حیثیت باقی نہ رہے گی جو شاہ صاحب کی موجودگی میں ہے۔ مگر مدرسے میں حضرت کی تشریف آوری سے مدرسے کے فیض، مقبولیت اور شہرت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا تو شاہ صاحب کے مویدین کو ایک عرصے تک حضرت سے گرانی رہی۔ اگرچہ پروردِ وقت کے ساتھ اس تشبیہ کی تلخیاں دلوں سے محو ہوتی گئیں۔ پھر بھی معدودے چند حضرات ایسے تھے جن کو یہ واقعہ بھولا نہیں تھا۔

ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم کو بھی حضرت علامہ انور شاہ صاحب سے ان کی علیت، لہیت تقویٰ و بزرگی کی بنا پر بڑی عقیدت و ارادت تھی۔ مذکورہ بالا اختلاف کے موقع پر ڈاکٹر صاحب نے حضرت علامہ کے لئے اپنی خدمات پیش کی تھیں کہ مدرسہ دیوبند سے قطع تعلق کے بعد شاہ صاحب لاہور تشریف فرما ہو کر یہیں سے اپنے تبحر علمی اور محدثانہ فیوض و برکات کے چشمے جاری کریں۔

ایک تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کا تصور سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہی نے پیش کیا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی ذہن میں تازہ رہنی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم محمد علی جناح صاحب سے بہت متاثر تھے اور ان کی قیادت سے انھیں بہت کچھ امیدیں تھیں۔

ان عوامل کے ساتھ بعض حقائق اور بھی تھے جن کی بنا پر ڈاکٹر صاحب کو حضرت

کے سیاسی نظریات، خصوصاً متحدہ قومیت اور کانگریس میں شمولیت سے اختلاف و اعتراض تھا۔

ڈاکٹر اقبال صاحب شاعر بھی تھے، فلسفی اور بیرونی بھی تھے۔ اپنی فکر و نظر میں اسلام کا درد بھی رکھتے تھے اور ساتھ ہی اپنے وطن سے وسیع المشرقی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی شاعری کو ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے بعض دوسرے ملکوں میں بھی قبولیت اور شہرت نصیب ہوئی۔ ہندوستان اور ہندوستان کی سبھی اقوام کے لیے اُن کے دل میں بھی وہی عزت اور وقعت تھی جس کو اتحاد قومیت کے ساتھ تعبیر کیا جاسکتا تھا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ بچے بچے کی زبان پر ان کے یہ اشعار جاری تھے۔ آج بھی ترانہ ہندی بیشتر تعلیمی ادارہ حضرات کے لیے اجنبی نہ ہوگا۔ پوری نظم گذشتہ صفحات میں نقل ہو چکی ہے۔ دو تین شعر دوبارہ بھی پڑھ لیجئے :

ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا	سائے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا
بکھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا	غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں
ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا	مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا
اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا	یونان و مصر و روم اب مٹ گئے جہاں سے

غور فرمائیے اتفاق، اتحاد، حب وطن اور متحدہ قومیت کا اس سے اچھا ترانہ اور اس سے زیادہ موثر پیغام اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اسی پر بس نہیں ہے۔ ہندوستان کی تعریف و توصیف اور وطن پروری کے اس سے کہیں بڑھ کر جذبات بھی دیکھے، عنوان ہے ”ہندوستانی بچوں کا گیت“ نظم اس کی مستحق ہے کہ پوری نقل کی جائے۔ مگر اس وقت تو دو تین ہی بندوں پر اکتفا کیجئے :

چشتی نے جس زمیں میں پیغام حق سنایا	ناہک نے جس جن میں وحدت کا گیت گایا
تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا	جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا
میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے	

یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا
مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا ترکوں کا جس نے دامن ہیر و کب بھر دیا تھا

میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے

بندے کلیم جس کے پر بت جہاں کے سینا نوح نبی کا اگر کھمبہ را جہاں سفینا
رعت ہے جس نہیں کی باہم فلک کا زینا جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا

میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے

انصاف سے بتلائے کوئی بڑے سے بڑا محب وطن اتفاق و اتحاد کا علمبردار اور متحدہ
قومیت کا دعویٰ دار بھی اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وسیع المشرب بھی تھے۔
غیروں کے لیے بھی ان کے دل میں وہی عزت و وقعت اور احترام تھا جو اپنوں کے لیے
تھا۔ راجندر جی کی شان میں قصیدہ مدحیہ فرماتے ہوئے تو قلم ہی توڑ دیا ہے:

بریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند سب فلسفی ہیں خطہ مغرب کے رام ہند
یہ ہندیوں کے فکر فلک رس کا ہے مقام رعت میں آساں سے بھی ادنیٰ ہے باہم ہند
ہے رام کے وجود پر ہندوستان کو ناز اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند

گانڈھی جی کی منقبت میں بھی ان کے اشعار بہت بلند پایہ تھے۔ ہمیں وہ اشعار
دستیاب نہیں ہو سکے، صرف مندرجہ ذیل حوالہ ملا ہے جو پیش ہے:

”علامہ اقبال نے گانڈھی جی کی تولین میں چھ اشعار لکھے جس میں انھیں

مردِ نچوڑے کا روحِ اندیش و باصفا سے مخاطب کیا۔ یہ اشعار ۱۳۱۳ھ کے زمیندار

میں چھپ چکے ہیں۔“

آفتاب عالمیاب کے حضور ڈاکٹر صاحب نے جو اشعار پیش کیے ہیں وہ گائتری منتر کا
ترجمہ ہیں۔ اس منتر کو ترجمے کے لیے منتخب کرنا اور پھر اس کو اپنے مجموعہ بانگ درا میں شامل کرنا
ان کی دستِ قلب و نظر کی دلیل ہے اس کے دو اشعار آپ بھی پڑھ لیجئے:

اے آفتاب ہم کو ضیائے شورشے چشم خرد کو اپنی تجلی سے نور دے ۔
 ہر محفل وجود کا سماں طسرازتو یزدان ساکنانِ نیشب و فراز تو
 ہر چیز کی حیات کا پروردگار تو زائیدگان نور کا ہے تاجدار تو
 نے ابتدا کوئی نہ کوئی انتہا تری آزاد قیدِ اول و آخر ضیاء تری
 بہتر ہے کہ اس موقع پر آفتاب کی رفعت کے بارے میں مسلمان، اسلام اور
 قرآن پاک کا فیصلہ بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے :

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر الاله الخلق والامر
 تبارک اللہ رب العالمین۔

(سورج، چاند اور ستارے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور ہیں۔ تخلیق اور فیصلے
 اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کی بڑی شان ہے)

اپنے ان خیالات و افکار کے باوجود ایک موقع پر ڈاکٹر صاحب نے تین اشعار کی
 ایک تنقید میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو ان کے معاندین، حاسدین، مخالفین
 اور متعرضین نے جلسوں، نعروں اور اخباروں میں غدار، زر خرید، ملت فروش، بے دین
 وغیرہ وغیرہ عنوانات سے پندرہ سولہ برس کے عرصے میں پورا کیا۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ،
 "۸ جنوری ۱۹۳۶ء کی شب میں ص. ماہ اردہلی متصل پل بنگلش زیر صدارت

مولانا نور الدین صاحب جلسہ کیا گیا۔ اس میں میں نے بعض ضروری مضامین
 کے بعد ملک کی بیرونی ممالک اور غیر اقوام نیز اندرونی ملک میں آزادی کا
 ہمبیدی مضمون شروع کیا تو کہا کہ موجودہ زمانے میں تو میں اوطان سے بنتی
 ہیں نسل یا مذہب سے نہیں۔ اگلے روز "الامان" میں چھپا کہ حسین احمد نے تقریر
 میں یہ کہا کہ قومیت وطن سے ہوتی ہے مذہب سے نہیں ہوتی اور اس پر شور و غوغا ہوا
 اس کے بعد الامان میں اور دیگر اخبارات میں سب و شتم چھا پائی۔" لہ

ڈاکٹر صاحب نے حضرت کی اس تقریر کے بارے میں مسلم لیگی اخبارات الامان، احسان، زمیندار وغیرہ کی خبروں پر اعتماد کیا۔ دئی ہی کے دوسرے اخبارات انصاری، تیج وغیرہ میں تقریر کی جو رپورٹیں شائع ہوئی تھیں وہ صحیح حقائق پر مبنی تھیں مگر جلدی میں موصوفہ پوری حقیقت نہ کر سکے اور تین شعروں کی ایک بڑی تقریر فرمادی:

عجم ہنوز نہ داند رموز دیں ورنہ زید بوند حسین احمد ایں چہ بوا بھئی است
سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است
بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمدست اگر بہ او نہ رسیدی تمام بوا بھئی است
ان اشعار کی بنیاد ڈاکٹر صاحب نے خواجہ حافظ شیراز کی غزل پر رکھی جس کا ایک

شعریہ ہے:

حسن زبیرہ بلال از جہش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل ایں چہ بوا بھئی است

ناظرین یہ غزل دیوان حافظ میں ملاحظہ فرمائیں۔ تنقید و اعتراض کا انداز، الفاظ، زمین، بحر و قوافی اور مزاج وہی ہے جو حافظ کے اس شعر کا ہے۔

معاندین و مخالفین تو پہلے ہی سے حضرت کو ہر قسم کی گفتنی ناگفتنی، سب و شتم، طعنہ و دشنام کا نشانہ بناتے رہتے تھے اب ان کو ایک ادبی، علمی اور فلسفیانہ گالی ہاتھ آگئی۔ پہلے تو شاید کچھ لحاظ ملاحظہ بھی کر لیتے ہوں گے مگر اب تو پکارے گلے صاف چلا چلا کر جو چاہتے تھے کہتے تھے اور شاعر اسلام، حکیم الامت اور دانائے راز کی یہ گوہر افشانی جھوم جھوم کر اور مست ہو ہو کر سنتے اور سناتے تھے۔ حضرت کے معتقدین، مسترشدین، مریدین اور تلامذہ نے یہ بوجوسی تو ان کے قلوب غم و غصہ سے بھر گئے اور انھوں نے چاروں طرف سے انفرادی اور اجتماعی طور پر اظہار ناراضگی اور ناپسندیدگی کیا۔ بے شمار شعراء نے اسی بحر اور انہی ردیوں و قوافی میں ڈاکٹر صاحب کے اشعار کے جوابات لکھے۔ حضرت سے عقیدت اور محبت رکھنے والے لاکھوں سے متجاوز تھے جو آپ کی شان میں ادنیٰ گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان جوابات میں رطب و یابس،

تلخ و ترش اور نرم و گرم سبھی قسم کے اشعار شامل ہو گئے تھے۔ حضرت کے ایک جاں نثار خادم اور مرید مولینا سید عزیز احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کا ابھی پہلی رمضان ۱۹۲۱ء میں بمقام دیوبند وصال ہوا ہے۔ ان کی جوانی نظم بڑی ترکی بہ ترکی جواب تھی۔ اس کا ایک شعر اقم المرون کو آج تک یاد ہے:

نموش شاعر گستاخ قدر خوش شناس ز حد خویش گذشتن کمال بے ادبی است

غرض یہ کہ اتنی جوانی نظیں کہی گئیں کہ عامی معمولی اور تند و تیز قسم کے اشعار الگ کر دئے جائیں تو بھی معقول و مدلل جوانی قطعات و قصائد کی تعداد دیکھ لوں تک پہنچتی ہے۔ کچھ خدام نے ان کو مجموعہ کی شکل میں طبع کرنے کا ارادہ کیا مگر حضرت کو علم ہو گیا اور آپ نے سختی کے ساتھ ممانعت و مخالفت کی۔ آج تو اگر کھل تحقیق و تفتیش بھی کی جائے تو مشتے نمونہ از خردار بھی مشکل ہی سے ہاتھ لگے گا۔ ایک جوانی نظم مولینا اقبال سہیل مرحوم کی دستیاب ہوئی ہے وہ ملاحظہ ہو:

سبک بختیم فروز این سباب بے بسی است
زبان او عجمی و کلام در عربی است
دردغ گوئی و ایراد این چہ بولعجمی است
کہ مستفاد از فرمودہ خدا و نبی است
کہ فرق ملت و قوم از لطائف ادبی است
یکے زیکش در کشوریت یا نسبی است
دلے بہ قوم جہازی نسل مطلبی است
رسول پاک کہ نامش محمد عربی است
دلے بہ نکتہ کجا پے برد کے کہ غبی است
پراز حکایت یا قوم مصحف عربی است
کہ جبل دین قوی تر ز زنتہ نسبی است

معاندے کہ شیخ الحدیث خردہ گرفت
بیان او ہمسہ تخمیل و بحث در تفسیر
کہ گفت بر سر منبر کہ ملت از وطن است
درست گفت محدث کہ قوم از وطن است
زبان طعن کشودی مگر نہ دانستی
تفاوتے است فراواں میان ملت و قوم
بملت ارچہ براہیسی است سردرما
ز قوم خویش شمر اہل کفر را بہ احد
خداے گفت بقسراں بلکل قوم ہاد
بقوم خویش خطاب پیمبراں بنسگر
بلند تر بود از قوم رتبہ ملت

کے کہ ملت اسلام نورسینہ اوست
وے بہم وطنان در معصاف آزادی
سلوک رفت و مدادا بہ جبار ذمی القربا
مجت وطن است از شخایر ایماں
نظر نہ بودن و بادیدہ در در افتادن
رموز حکمت ایماں ز فلسفی جستن
نموشی از سخن ناسزا گریدہ تراست
بہ دیوبند گذرا گر نجات می طلبی

برادر است اگر زنگی است در طبی است
بجاہان تعدادن جہاد حق طلبی است
عمل بہ حکم الہی و اتباع نبی است
ہیں حدیث پیمبر فدیتہ باہی است
دو گونہ شیعہ بوجہلی است دیوبہی است
تلاش لذت عنان زبادہ عنہی است
کہ ہرزہ لان زدن خیرگی و بے ادبی است
کہ دیوبند سلخ شور و دانش توحی است

بگیر راہ حسین احمد ار خدا خواہی

کہ نایب است نبی را دم زائل نبی است

اصحاب فکر و نظر دار باب علم و فن اس کا اعتراف کریں گے کہ الفاظ و تراکیب
اسالیب و فن شاعری قرآنی و شرعی دلائل و اقتباسات تاریخی و دعویٰ شواہد اور براہین کے
اعتبار سے علامہ اقبال سہیل مرحوم کی مذکورہ نظم ڈاکٹر اقبال صاحب کا سکت جواب ہے۔
سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ جس بنیاد پر سر اقبال نے جو فرمائی ہے وہ بات حضرت رحمۃ اللہ
نے کہی ہی نہیں تھی ظ کہ گفت بر سر منبر کہ ملت از وطن است۔ دروغ گوئی الخ۔ حضرت
رحمۃ اللہ علیہ نے جو مفصل جواب خود تحریر فرمایا اس کے کچھ اجزاء حاضر ہیں :

• کیا یہ انتہائی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ملت اور قوم کو سر اقبال ایک
قراردے کہ ملت کو وطنیت کی بنا پر نہ ہونے کی وجہ سے قومیت کو بھی اس سے
منزہ قرار دیتے ہیں۔ یہ بول بھی نہیں تو کیا ہے۔ زبان عربی اور مقام محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بے خبر ہے۔ میں نے اپنی تقریر میں لفظ قومیت کا کہا ہے
ملت کا نہیں کہا ہے۔ دونوں لفظوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ملت کے
معنی شریعت اور دین کے ہیں اور قوم کے معنی عورتوں اور مردوں کی جماعت کے
ہیں۔ قاموس میں ہے الملة۔ بالکسر۔ الشریعة اول الدین — القوم۔

الجماعة من الرجال والنساء معاً والرجال خاصة اذ تدخله
النساء تبعيةً^۱

اس باب میں مولینا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمۃ کا مقالہ وحاکمہ حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخی اور علمی حیثیت سے مقالہ اس اہمیت کا حامل ہے کہ پورا ہی نقل کیا جائے مگر اپنی گنجائش اور موضوع کی رعایت سے ہم اس کی تلخیص پر اکتفا کرتے ہیں:

”جناب مولینا حسین احمد صاحب مدنی کے سیاسی خیالات سے کسی ء کو کتنا ہی اختلاف ہو، مگر اُن کی شخصی عزت و احترام، علمی فضل و کمال اور تقویٰ اور حسن نیت کی نسبت ایک لمحے کے لیے بھی کوئی خلاف بات گوارا نہیں کی جاسکتی۔“

دل کے بعض اخباروں میں مولینا کی تقریر کے ایک فقرہ کو جس طرح سیاق و سباق سے قطع کر کے اُچھالا گیا ہے، اور اُس کے جو جو معنی پہنائے گئے، وہ صریحاً دیانت کے خلاف تھے، اور اسی لئے اُن کا اعتبار کر کے شاعر اسلام ڈاکٹر اقبال کا ایک ایسا قطعہ کہہ دینا جس میں حدودِ رجب کی بُری تلیح حافظ شیراز کے شہور شعر کی بنا پر تھی۔ صاف کہہ دوں کہ باوجود ڈاکٹر صاحب سے میرے خاص تعلقات ہونے کے میرے لئے بہت اندوہناک تھا، میں بے چین ہو گیا۔^۲

”صحیح و فصیح عربی اور قرآن پاک کے محاورے میں ”ملت“ کے ایک ہی

معنی، اور وہ مذہب کے، ملت ابیکم ابراہیم (ج) ہے۔^۳

”قوم کا لفظ عربی ہے، اس کے معنی مطلق گروہ کے ہیں۔ یہ قرآن پاک اور عربی محاورہ میں تین معنوں میں آیا ہے۔ مطلق گروہ اور جماعت کے معنی ہیں جیسے

۱۔ مکتوبات، ج ۳۔ ص ۱۲۵

۲۔ اخبار مدینہ بجز ۱۳۰۱ اپریل ۱۹۳۸ء

ذالک بانصہ قوم لایعقلون (انہ) یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔
 بانصہ قوم لایفقہون (توہ) اس لیے کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے۔
 انکم قوم منکرین (جہ) تم انجان لوگ ہو۔
 وغیر بہت سی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں قوم کا ترجمہ لوگ، گروہ اور جماعت ہو سکتا ہے۔

”ان اوپر کی سطروں کی بنا پر ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر قوم، ملت اور اُمت کی جو تشریح ہے وہ فلسفیانہ اصطلاحوں میں صحیح ہو تو ہو مگر قرآن کے لفظوں میں میرے خیال میں صحیح نہیں لیکن اپنے اس خیال کی قطعیت پر اصرار نہیں کہ دُفوق کل ذی علم علیم۔

اب دوسری بات سامنے آتی ہے کہ مسلمان جس ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں دوسری قومیں بھی آباد ہیں تو کیا اس ملک کے ناسلوں کے ساتھ مسلمان مل کر، اس ملک کی کوئی مشترک سیاسی باطنی خدمت انجام دے سکتے ہیں یا نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نقطہ میں بھی یہ دونوں بزرگ مختلف نہیں۔ اقبال کا ہندی ترانہ جتنا تک موجود ہے، اُن کے وطنی جذبہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیا وہ اقبال ہی نہیں ہیں جنھوں نے ہماری لوجوان نسلوں کو یہ سکھایا ہے :

خاکِ وطن کا بھگو ہرزوہ دیوتا ہے
 مولانا حسین احمد صاحب تو وطن کی محبت میں اس منزل سے بہت پیچھے
 ہیں، وہ ڈاکٹر اقبال ہی ہیں جنھوں نے ہندوستانی بچوں کو یہ تومی گیت غایت
 کیا ہے :

میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے
 ہندی مسلمانوں کو بھی یہ ترانہ انہی کا بخشا ہوا ہے :

ہندی ہیں ہم، وطن ہیں ہندوستان ہمارا

پھر ڈاکٹر صاحب اسی مضمون میں لکھتے ہیں:

”میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ مولینا کا یہ ارشاد کہ ”قوم اوطان سے بنتی ہیں“ قابل اعتراض نہیں، اس لئے کہ قدیم الایام سے اقوام اوطان کی طرف اور اوطان اقوام کی طرف منسوب ہوتے چلے گئے ہیں۔ ہم سب ہندی ہیں اور ہندی کہلاتے ہیں کیونکہ ہم سب کرہ ارضی کے اُس حصہ میں بودو باش رکھتے ہیں جو ہند کے نام سے موسوم ہے علیٰ ہذا القیاس چینی، عربی، جاپانی، ایرانی وغیرہ وطن کا لفظ جو اس قول میں مستعمل ہوا ہے، محض ایک جغرافیائی اصطلاح ہے اور اس حیثیت سے اسلام سے متصادم نہیں ہوتا.... ان معنوں میں ہر انسان فطری طور پر اپنے جنم بھوم سے محبت رکھتا ہے اور بقدر اپنی بساط کے اس کے لئے قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے۔“

مولینا حسین احمد صاحب نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، اور نہ اس سے زیادہ اُن کا کچھ اور منشا ہو سکتا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وطن کے مشترک مفاد میں اس ملک کی دوسری بسنے والی قوموں کے ساتھ اشتراک کیا جائے اور وہ بھی ”ملت“ ہی کی خاطر! جیسا کہ ابھی آسام کی ایک تقریر میں فرمایا: ^۱

”آخر میں صرف ایک سوال ہے کہ ہم مسلمان ہندوستان میں دوسری قوموں کے ساتھ ایک ملک میں شازہ برشا ز رہتے ہیں اس سے ہمارے اُن کے درمیان ہم وطنی کی جامعیت بہر حال پیدا ہوتی ہے۔ اس جامعیت کی تعبیر کے لئے ہماری زبان میں کون سا لفظ ہے۔ ملت و امت کے لفظ تو قطعاً نہیں ہیں۔ اور اب قومیت کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ تو کیا اس کے لئے ”جنیت“ کا لفظ بول سکتے

ہیں؛ مگر بولنے سے پہلے قوم کے غصیوں اور غصیوں کی قوم سے بہر حال پوچھ لینا چاہیے۔
مجھے امید ہے کہ اب اس فتنہ کو یہیں دبا دیا جائے گا۔ اور ملت کے شہرینا
کو ایک غلط روایت کی بنا پر اور زیادہ پرانگندہ بنانے کی حکمت عملی سے گریز کیا جائے گا۔

یہ بحث جاری رہی تھی اور اللہ ہی جانے کہاں تک جاری رہتی مگر اچانک ان
ارشادات کے فرمانے کے تین چار ماہ بعد ڈاکٹر صاحب موصوف کا انتقال ہو گیا۔ انا اللہ
دانا الیہ راجعون اس کے بعد کچھ خوش فہم حضرات نے یہ مشہور کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے
اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا اور حضرت سے معافی مانگ لی تھی۔ دل چاہتا ہے کہ خدا
کرے یہ بات صحیح ہو اور ظاہراً علماً و بیاناً نہ سہی ڈاکٹر صاحب نے دل ہی دل میں اعتراف
کر لیا ہو اور حضرت سے نہ سہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہو تاکہ انما الاعمال بالنیات اللہ
کے دربار میں بری الذمہ ہو گئے ہوں۔ اس لئے کہ تاریخی اور ظاہری طور پر اعتراف تصور
اور رجوع کا جو معاملہ پیش آیا وہ اتنا صاف نہیں تھا جسے معافی کہا جاسکے، واقعہ یہ ہوا کہ
دیوبند کے ایک فاضل و عالم مولانا عبدالرشید نسیم طالوت نے اس ناگوار قضیہ سے متاثر
ہو کر حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض لکھا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی توجہ دلائی۔ ملاحظہ فرمائیے؛

۱۶ فروری ۱۹۳۵ء

جناب من۔ مولانا حسین احمد صاحب کے متقدّمین اور احباب کے بہت سے خطوط
میرے پاس آئے۔ ان میں سے بعض میں تو اصل معاملے کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا
ہے مگر بعض نے معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کیا ہے اور مولوی صاحب کو بھی
اس ضمن میں خطوط لکھے ہیں۔ چنانچہ آپ کے خط میں مولوی صاحب کے خط کے اقتباسات
درج ہیں۔ اس واسطے میں نے آپ ہی کے خط کو جواب کے لئے انتخاب کیا ہے۔
جواب انشاء اللہ اخبار "اسان" میں شائع ہوگا۔ میں فرداً فرداً علالت کی وجہ سے
خط لکھنے سے تاصر ہوں۔ فقط مخلص اقبال

اس خط کے بعد ڈاکٹر اقبال صاحب نے روزنامہ "احسان" لاہور میں ایک خط بغرض اشاعت روانہ کیا جس کو اخبار نے اپنی طرف سے سرخی لگا کر مندرجہ ذیل انداز میں ۲۸ مارچ ۱۹۳۶ء کو شائع کیا:

"میں نے مسلمانوں کو وطنی قومیت قبول کرنے کا مشورہ نہیں دیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا بیان۔

"مجھے اس اعتراف کے بعد ان پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ علامہ اقبال کا مکتوب۔

قومیت و وطنیت کے سلسلے میں ایک علمی بحث کا خوش گوار خاتمہ۔

جناب ایڈیٹر صاحب احسان لاہور اسلام علیکم

میں نے جو تبصرہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے بیان پر شائع کیا ہے اور جو آپ کے اخبار میں شائع ہو چکا ہے، اس میں اس امر کی تصریح کر دی گئی تھی کہ اگر مولانا کا یہ ارشاد کہ "زمانہ حال میں اقوام اوطان سے بنتی ہیں" محض برسپیل تذکرہ ہے تو اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اگر مولانا نے مسلمانان ہند کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ جدید نظریہ وطنیت کا اختیار کریں تو دینی پہلو سے اس پر مجھ کو اعتراض ہے۔ مولوی صاحب کے اس بیان میں جو اخبار انصاری میں شائع ہوا مندرجہ ذیل الفاظ ہیں:

"لہذا ضرورت ہے کہ تمام باشندگان ملک کو منظم کیا جائے اور ان کو

ایک ہی رشتے میں منسلک کر کے کامیابی کے میدان میں گامزن بنایا جائے۔ ہندستان کے مختلف عناصر اور متفرق مل کے لئے بجز رشتہ اتحاد کے اور کوئی رشتہ نہیں جس کی اساس محض یہی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔"

ان الفاظ سے تو میں نے یہی سمجھا کہ مولوی صاحب نے مسلمانان ہند

کو مشورہ دیا ہے۔ اسی بنا پر میں نے وہ مضمون لکھا جو اخبار احسان میں شائع ہوا ہے۔

لیکن بعد میں مولوی صاحب کا ایک خط طالت صاحب کے نام آیا جس کی ایک

نقل انھوں نے مجھ کو بھی ارسال کر دی۔ اس خط میں مولانا ارشاد فرماتے ہیں،
 مہترم سر صاحب کا ارشاد ہے کہ اگر بیانِ واقعہ مقصود تمہارا تو
 اس میں کوئی کلام نہیں اور اگر مشورہ مقصود ہے تو وہ خلافتِ دیانت ہے۔ اس
 لئے میں خیال کرتا ہوں کہ پھر الفاظ پر غور کر لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ
 تقریر کے سیاق و سباق پر نظر ڈالی جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو وہ زمانے میں
 تو میں اوطان سے بنتی ہیں۔ یہ اس زمانے کی جا رہی ہونے والی نظریت اور ذہنیت
 کی خبر ہے، یہاں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے۔ خبر ہے انشاء نہیں
 ہے کسی اہل نے مشورہ کو ذکر بھی نہیں کیا پھر اس کو مشورہ قرار دینا کس قدر
 غلطی ہے۔

خط کے مندرجہ بالا اقتباس سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا اس بات سے صاف
 انکار کرتے ہیں کہ انھوں نے مسلمانانِ ہند کو جدید نظریہٴ قومیت اختیار کرنے کا مشورہ
 دیا۔ لہذا میں اس بات کا اعلان ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھ کو مولانا کے اس اعتراف
 کے بعد کسی قسم کا کوئی حق اس پر اعتراض کرنے کا نہیں رہتا۔ میں مولانا کے ان
 عقیدت مندوں کے جوشِ عقیدت کی قدر کرتا ہوں جنھوں نے ایسا ہی امر کی توضیح
 کے صلے میں پرائیویٹ خطوط اور پبلک تحریروں میں گالیاں دیں۔ خدائے تعالیٰ ان کو
 مولانا کی محبت سے زیادہ مستفید کرے۔ نیز ان کو یقین دلاتا ہوں کہ مولانا کی حیستہ
 دینی کے احترام میں میں ان کے کسی عقیدت مند سے پیچھے نہیں ہوں۔ عموماً اقبالؒ

مذکورہ بالا اقتباسات اور توضیحات سے یہ بات پوری طرح واضح ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب
 نے کس دوسے میں معافی تلافی کی ہے اور کہاں تک قائل قول کی بحث کی ہے۔ بہر حال اب تو دونوں
 ہی حضرات اس دربار میں پہنچ چکے ہیں جہاں قول و عمل اور نیتوں کے ذرے ذرے کا حساب دینا
 ہوگا اور اس میں کسی منطقی اور فلسفی بحث کی گنجائش نہ ہوگی۔ اس لئے اللہ کی ذات سے قوی امید
 ہے کہ مجموعہٴ اقبال میں یہ نظم جب تک چھپتی رہے گی حضرت کے اجرو ثواب و درجات میں لاکھوں

گناہ نمانہ ہوتا رہے گا۔ آخر میں عظمت و عہدیت اور اخلاقِ حسنہ کی ایک مثال بطور عبرت و نصیحت سن لیجئے:

ہماری انجمن اصلاحِ مسلمین کا جلسہ تھا جس رات مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ سرہ کی تقریر تھی اسی دن مولینا کو جامع مسجد میرٹھ کے باہر کار سے اترتے وقت اطلاع دی گئی تھی کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور رات کو جلسے میں تقریر سے پہلے اس حادثے کا دلہوز انداز میں تذکرہ فرمایا اور حاضرین سے کہا کہ سب ڈاکٹر صاحب کی مغفرت کے لئے دعا کریں۔ چنانچہ مولانا کے ساتھ ہزاروں کے مجمع نے دعائے مغفرت کی۔ یہ بات غیر معمولی نہ ہوتی اگر ڈاکٹر سر محمد اقبال نے حضرت مولینا کے خلاف قومیت کے مسئلے پر اتنے سخت الفاظ استعمال نہ کئے ہوتے؟

لاکھوں درود اور سلام سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت کو عفو و درگزر اور اخلاقِ عالیہ کے راستے پر چلایا۔ انی بخت لا تم مکارم اخلاقکم اور صد ہزار رحمتیں ہوں ان امتیوں پر جنہوں نے اپنی زندگیاں سنتِ نبوی کے اتباع میں وقف کر دیں۔

سلام اُس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو تباہیں دیں
سلام اُس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں

جمعیتہ علماء ہند کی صدارت

شہرت اور عمل کے اعتبار سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی دن سے طبقہ علماء کے سرخیل اور صدر ہو گئے تھے جس دن آپ کے شیخ اور اتاذ مولانا رشید احمد گنگوہی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن کا وصال ہوا۔ قوم اور ملک نے ان دونوں بزرگوں کی جانشینی کے فرائض آپ کے سپرد کر دئے تھے۔ قومی مسائل، علمی ہوں یا تعلیمی، روحانی ہوں یا اخلاقی، سیاسی ہوں یا اجتماعی حضرت سے استصواب اور شورے کے بغیر طے نہیں پاتے تھے مگر جمعیتہ علماء ہند کی قانونی اور رسمی صدارت ابھی تک حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے تھی۔ آپ بحر علمی، تفتقہ دینی اور فہم و فراست کے اعتبار سے جماعت کے ممتاز ترین افراد میں شمار تھے۔ لیکن مختلف عوارض اور امراض نے مفتی صاحب کو بہت خستہ و شکستہ کر دیا تھا۔ ادھر ۱۹۳۹ء میں جنگ عظیم دوم نے ایسی تباہ کاریوں کا آغاز کیا کہ ہندوستان میں اجتماعی اور انفرادی زندگیاں انتہائی بھیانک مسائل کا شکار ہونے لگیں۔ اُس جنگ کے ہولناک اور خون آشام قہقہے ہزار ہا ہزار صفحات لکھے جانے کے باوجود آج تک پورے نہیں ہوئے۔ پورے پورے ملک برباد ہو گئے تھے۔ چہل پہل اور زندگی سے بھر پور بستیاں نیست و نابود ہو گئی تھیں۔ بھرے پُرے بارونق شہر ہوا میں اڑ گئے تھے۔ وہ جو سنتے ہیں کہ زمین شق ہو جائے گی، آسمان پھٹ پڑے گا، سمندر ابل پڑے گا۔ پہاڑ روٹی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے، پیٹر پودے، چرند پرند، انسان، حیوان سب پلک بھپکتے میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس قیامت کا ہلکا اور حقیر ہی سا ہی سگر ایک نمونہ اس جنگ میں دیکھا جا چکا ہے۔ ایک خوفناک آواز آئی۔ کانوں کے پردے پھٹ گئے، کیلے اچھل کر حلق میں آ گئے اور چشم زدن میں مخلوق منہ کے بل گر پڑی۔ اس کے معاً بعد ایک بجلی جیسی جس کی روشنی سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور اس کی خوفناک چمک سے سر ہلکا

عسارتیں شجر جھڑیلے پہاڑیاں سب زمین میں دھنس گئیں۔ جنگ میں ایک طرف برطانیہ تھا دوسری طرف جرمنی تھا۔ ان قیامتوں اور آفتوں میں یہی دونوں یا ان کے طرفدار برباد ہوتے تو تک کی بات تھی۔ مگر ہندوستان مفت میں ان کے درمیان گھن کی طرح پس رہا تھا۔ جنگ سے دو روز پہلے ہندوستان کے بازاروں اور منڈیوں میں سودگیوں اور زندگیوں کی فراوانی تھی۔ ایک روپیے کا نمبری ایک سیر گھی، چار آنے کی سیر بھر شکر اور سیر بھر اعلیٰ درجے کا بکری کا گوشت، دو پیسے کا نمبری سیر بھر بڑا گوشت، دھانی آنے کا ایک گڑ فیص کا ڈوریہ، بارہ آنے کا ایک جوڑا جوتا اور زندگی کی ساری ہی ضرورتیں اسی حساب سے مل رہی تھیں۔ ریلیں وقت پر چلتی تھیں، مسافر لیٹ کر اور سو کر سفر پورا کرتے تھے۔ دوران سفر چور ڈاکو تو دور کی باتیں تھیں پرندہ پر نہیں مازتا تھا۔ سامان خریدتے بیچتے ہوئے دیکھا اور پرکھا اس وقت بھی جاتا تھا مگر ملاوٹ سڑاوٹ کا اس وقت تصور بھی نہیں تھا۔ رواج کے طور پر اتنا دیکھ لیتے تھے کہ سودا زیادہ پرانا اور بوسیدہ تو نہیں ہے۔ ایسے حالات میں اچانک جنگ چھڑی اور بازار میں زندگی کی ساری ہی ضروریات گراں نہیں بلکہ ناپید ہو گئیں۔ اسی وقت زندگی میں پہلی بار سنا کہ گھی سبزیوں سے بنایا جائے گا۔ روپیہ کاغذ کا چلے گا اور لوگ فوج میں بھرتی ہوں گے۔ ریلیں بند ہو گئیں، بازار اُجاڑ ہو گئے۔ آبادیاں تارک ہو گئیں، بستیاں ویران ہو گئیں۔ قانون بھلا کہ بازاروں میں سڑکوں پر گھروں میں اور سواریوں پر کہیں روشنی کی کرن نہ ہو۔ سارے ملک میں دہشتناک اندھیرا چھا گیا۔ ہندوستان کی ہر پیداوار کی جنگ میں ضرورت تھی۔ ہندوستانی نوجوان میدان جنگ میں زندہ دیوار بن کر کھڑے ہو سکتے تھے۔ برطانیہ کی جنگی ضرورتوں کے لئے ہندوستان کے جسم کا آخری قطرہ بلا کسی قیمت کے حاصل کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے برطانیہ نے ہندوستان کو بھی جنگ میں شریک کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر مشکل یہ تھی کہ ملک کی سیاسی جماعتوں بالخصوص کانگریس اور مسلم لیگ کو اعتماد میں لئے بغیر اور ان کی تائید کے بغیر ہندوستانی عوام برطانیہ کا ساتھ دینے اور جنگ میں شریک ہونے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ وائسرائے نے ان جماعتوں کو اس مسئلے پر گفتگو کی دعوت دی۔ گاندھی جی ذاتی طور پر برطانیہ کے طرفدار

تھے۔ انہوں نے وائسرائے سے کہا:

”میری ہمدردیاں انسانیت کی خاطر انگریزوں اور فرانس کے ساتھ ہیں۔ میں یہ خیال کر کے ڈر جاتا ہوں کہ لندن جو اب ہم کو ناقابلِ تفسیر سمجھا جاتا تھا تباہ ہو سکتا ہے۔ جب اُن کے سامنے میں نے پارلیمنٹ کی عمارت اور ویسٹ منسٹراے بے کی تباہی کا امکانی نقشہ پیش کیا تو میں رو دیا۔“

مگر ان جذبات کے باوجود انہوں نے جنگ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ جنگ تو اُن کے نظریہ حیات کے بالکل ہی خلاف تھی۔ وہ عدم تشدد کے پیغامبر تھے۔ کانگریس نے بھی برطانیہ کی حمایت اور جنگ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ پہلے یہ طے کر دیا جائے کہ جنگ کے بعد ہندوستان مکمل طور پر آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی ہندوستان برطانیہ کی مدد کر سکتا ہے۔ حمایت اور مدد کے لئے شرط مسلم لیگ نے بھی پیش کی۔ انکشن کے بعد کانگریس کے رویے اور اس کی سیاست سے مسلم لیگ بیزار تو ہو ہی چکی تھی۔ چنانچہ اب اسکی ہڈیاں برطانیہ کے ساتھ تھیں اور اس نے یہ شرط رکھی کہ کانگریسی گورنمنٹوں کے نظام سے مسلمانوں کو نجات دلائی جائے تاکہ وہ بھرپور حوصلے کے ساتھ برطانیہ کے دوش بدوش کھڑے ہو سکیں۔ کانگریس کی شرط کے مقابلے میں برطانیہ کے لئے یہ شرط بہت آسان تھی۔ مسلم لیگ نے ان نظام کی تفصیل مختلف رپورٹوں میں شائع کرائیں۔ یوپی سے پیر پور رپورٹ، بہار سے شریف رپورٹ اور بنگال سے مسٹر فضل الحق کی رپورٹیں اور پمفلٹ چھاپے گئے۔ کانگریس والوں نے اور صوبوں کے انگریز گورنروں نے ان میں لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد اور بلا دلیل و ثبوت اتہامات پر مبنی قرار دیا۔ مگر جذباتی مقرروں اور ہنگامی سیاستوں میں تحقیق و تصدیق کا ہوش کسے رہ جاتا ہے۔ یہ رپورٹیں اپنا کام کر گئیں۔ ایک طرف تو برطانیہ کو کانگریس حکومتوں کو نظر انداز کرنے کا موقع مل گیا۔ دوسری طرف ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خلیج پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہو گئی۔ حکومت نے جنگ میں

ہندوستان کی شرکت کا حکم جاری کیا تو کانگریس نے دسمبر ۱۹۳۹ء میں صوبائی حکومتوں سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نے برطانیہ کی حمایت کا اعلان کیا اور کانگریسی حکومتوں کے استعفیٰ پر ملک بھر میں ۲۳ دسمبر ۱۹۳۹ء کو یوم نجات منانے کا فیصلہ کیا۔ ملک میں یہ نازک، خطرناک اور ابلّھے ہوئے حالات تھے جب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کمزور مٹی صحت کی بنا پر قیادت کے فرائض ادا کرنے سے معذوری ظاہر کی اور جمیۃ علماء ہند کے ذمے داروں کے سامنے یہ سوال آیا کہ جماعت کی صدارت کے لیے ایک مسلمہ عالم، متفقہ شخصیت اور صاحب عظمت و عزیمت قائد کا انتخاب کیا جائے اور ملک کے تمام برگزیدہ اور چیدہ علماء کی متفقہ رائے سے حضرت کو جماعت کا صدر مقرر کیا گیا۔ چنانچہ ۸، ۹ اور ۱۰ جون ۱۹۴۰ء کو چون پور میں جمیۃ علماء ہند کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے لئے حضرت کے نام کا اعلان کیا گیا۔ اس زمانے میں ہندوستانی عوام جنگ آزادی کے رہنماؤں کے اجلاس کئی کئی میل لمبی لائنیں بنا کر نکالا کرتے تھے اور ان کی سواری کی گاڑیاں گھوڑوں اور بیلوں کے بجائے اپنے ہی ہاتھوں اور کاندھوں سے کھینچا کرتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو صرف جنگ آزادی ہی کے نہیں عوام کے روحانی اور دینی پیشوا اور مقتدا بھی تھے۔ اجلاس کے ذمے داروں کو عام شہریوں کو اور شہر کے مسلمانوں کو کیسے کیسے ارمان استقبال کے اور کیسا کیسا جذبہ انظار محبت و عقیدت کاربہا ہوگا۔ مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھل درویشانہ اور عالمانہ شان کے ساتھ ہر قسم کی تقریب اور استقبال سے بے نیاز اور متعفی شام کو تین بجے کی ٹرین سے پہنچتے ہیں اور شدید گرمی اور دھوپ میں اسٹیشن سے قیام گاہ کی طرف پیدل روانہ ہو جاتے ہیں۔ ساتھی اور استقبال کے لئے آئے ہوئے عقیدت مند بھی پاپیادہ مشایعت کرتے ہیں، اس طرح علماء و فضلاء کی جماعت کا یہ جلوس فقیرانہ اور درویشانہ شان سے جلسہ گاہ تک پہنچتا ہے۔ اس اجلاس میں حضرت نے بڑے سائز کے چالیس صفحات کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کا ایک ایک لفظ درس عبرت و نصیحت ہے، پڑھنے ہی کے نہیں بار بار مطالعے اور غور و فکر کے قابل ہے مگر اتنی گنجائش کہاں سے لائی جائے کہ پورا خطبہ نقل کیا جائے۔ چیدہ چیدہ اقتباسات اور خلاصہ ہی پر

اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے دنیا کی بے ثباتی اور بے تمیزیت کا نقشہ کھینچنا۔ اس کے بعد ملک کی سیاسی اور اقتصادی ابتری کی تفصیل بیان کی کہ ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور عوام مظالم اور نا انصافیوں کے بوجھ کے نیچے پستے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انگریز مورخین اور سیاست دانوں کے بیانات سے یہ ثابت کیا کہ برطانوی اقتدار کا مقصد وحید یہ ہے کہ ہندوستان کو سیاسی اور معاشی اعتبار سے منطس اور کنگال بنا دیا جائے۔ ان تمام تمہیدات اور مقدمات کے بعد وقت کے سب سے اہم مسئلے، جنگ میں ہندوستان کی پالیسی کا اعلان کیا۔ کانگریس نے شرط لگائی تھی کہ حکومت ہماری بات مان لے تو ہم جنگ میں اس کی تائید کریں گے۔ مسلم لیگ نے بھی حمایت کے لئے مطالبات پیش کئے۔ مگر حضرت نے صاف صاف الفاظ میں بلا کسی شرط و قید برطانوی جنگی حکمت عملی کی مخالفت کا اعلان کیا اور عالم اسلام پر برطانیہ کے مظالم کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا:

”وہ ایک طرف تو آزادی کا راگ الاپ رہا ہے۔ دوسری طرف آزادی کے پر دانوں، احرار اور کانگریسوں کو جیل کی سلاخوں میں بند کر رہا ہے۔ ان کھلے ہوئے کارناموں اور مظالم کے بعد بھی اگر کوئی ہندوستانی اس کے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کی عقل اور کچھ پر روز نا چاہیے۔ ۱۸۳۲ء کے تجربات کثیر و کب کافی نہیں ہیں۔ لایلدغ المؤمن من جحر مرتین۔ اسی گزشتہ جنگ عظیم میں ہندوستانیوں نے کس قدر وفاداری کی، کس قدر اپنا خون بہایا، کس قدر اپنا مال ضائع کیا۔ مگر صلہ کیا ملا، بجز خوش کن الفاظ اور ان کے ساتھ رولٹ بل جلیان والا باغ، مارشل لاء وغیرہ کے اور کیا چیز ہاتھ آئی؟ من جرب المجرور حلت بہ الندامہ۔ آزمودہ را آزمودن جہل است۔ اس وقت برطانیہ کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اس کو اس کے مظالم سے روکا جائے تاکہ اس پر عذاب اور تہر الہی نہ نازل ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے انصر و اخاک ظالماً اور مظلوماً قیل یا رسول اللہ! کیف انصرک ظالماً قال تکفہ عن الظلم (اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم کسی نے پوچھا:

ظالم کی مدد کیسے کریں، فرمایا اس کو ظلم سے (ذکو)

آج بہت سے ناعاقبت اندیش کہتے ہیں کہ برطانیہ کی امداد و اعانت اس میں ہے کہ اس کو لڑنے کے لئے سپاہی اور ضروریات جنگ کے لئے مال دولت دی جاے۔ ہمارے خیال میں با اعتبار نفوس شرعیہ یہ لوگ برطانیہ کے سخت ترین دشمن ہیں اور اس کو اور اس کی قوم کو قہر جہنم میں جھونکنا چاہتے ہیں۔

برطانیہ کی امداد اس میں اور صرف اسی میں ہے کہ اس کو ان افعال شنیعہ سے روکا جائے۔ اگر خدا نخواستہ برطانیہ کی امداد فوج، مال یا رسد وغیرہ سے کی گئی تو امداد کرنے والے اس کے تمام مظالم اور گناہوں میں شریک اور موید ہوں گے۔ وہ خلق خدا کو اور ستانا چاہتے ہیں۔ بے شک ایسے تمام لوگ خدا کے قہر عظیم کے مستحق ہوں گے اور سخت ترین پکڑ میں مبتلا کئے جائیں گے۔

یہ حقیقت ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اعلانِ حق کو بلند کرنے کا یہ وقت جنگ عظیم والا زمانہ تھا۔ جرمنی کا ہر ہٹلر آندھی طوفان کی طرح برطانیہ اور اس کے حلیفوں کو تہس نہس کر رہا تھا۔ اس کی توپیں لندن میں اور جاپان کے بم کلکتہ میں برس رہے تھے۔ برطانیہ کی جان پریشانی ہوئی تھی اور وہ اس جنگ میں سردھڑکی بازی لگائے ہوئے تھا اور اعلان کیا تھا کہ جو کوئی جنگی معاملات میں ہماری مخالفت کرے گا اپنی جان سے ہاتھ دھوئے گا۔ ایسے خطرناک حالات اور ہولناک ماحول میں برطانیہ کی تائید، امداد و اعانت اور حمایت کے خلاف قومی دینے کی جرات ایسے مجاہدین کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں افضل الجمہاد کلمۃ الحق عند سلطانِ جانٹو کے لئے وقف کر دی ہوں۔ اس بیان کے بعد سیاسی طور پر ملک اور عوام الناس کے سامنے برطانوی جنگی پالیسی کے بارے میں جمیۃ علماء ہند کے فیصلے کا واضح الفاظ میں اعلان کر دیا:

”اسی بنا پر میرٹھ کے جلسے میں جمیۃ علماء ہند نے اپنا اعلان موجودہ جنگ کے متعلق

صاف اور واضح الفاظ میں شائع کر دیا تھا جس کا حزن حزن صبح اور قابل عمل ہے اور وہ یہ ہے۔ جیتہ علماء ہند کا نصب العین ہمیشہ سے مکمل آزادی رہا ہے اور وہ اس کو پانا شرعی، سیاسی اور اخلاقی حق سمجھتی ہے اور کوئی چیز جو اس حق کے راستے میں مزاحم ہو اس کے لئے ناقابل برداشت ہے۔ جیتہ علماء ہند کی مجلس عاملہ کسی نقطہ نظر سے بحالت موجودہ جنگ میں برطانوی امپریزم کی امداد کرنے کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں پاتی۔^۱

لاہور ریزولوشن اور پاکستان کا اعلان

۱۹۴۷ء

پچھلے صفحات میں ڈاکٹر سراقبال اور چودھری رحمت علی کی تجویز پاکستان اور تقسیم ملک کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اب پورے دس برس بعد مسلم لیگ نے مارچ ۱۹۴۷ء میں بمقام لاہور مسٹر محمد علی جناح کی صدارت میں اس تجویز کو ضابطے کی شکل میں منظور کیا۔ بہتر ہے کہ اصل تجویز اور پاکستان کی تصویر دیکھنے سے پہلے اس کے پس منظر پر ایک اجالی نظر ڈال لی جائے۔ تاکہ اصل منظر واضح اور عیاں تر ہو جائے۔ چودھری رحمت علی کی تجویز چودھری غلیق الزماں کی زبانی سنیں :-

”چودھری رحمت علی نے ۱۹۳۷ء اور ۱۹۳۸ء میں جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں ایک اسکیم پاکستان کے نام سے تیار کی تھی جس میں انھوں نے لفظ پاکستان کے پی سے پنجاب، اے سے افغان، کے سے کشمیر، س سے سندھ اور تان سے بلوچستان رکھا۔ اور اسی سال ۱۹۳۷ء میں علامہ اقبال نے اپنے خطبہ صدارت الہ آباد میں اپنا نظریہ تقسیم ہند کا پیش کیا۔ اور بعد ازاں ایک چار صفحے کا پمفلٹ ”ابھی یا کبھی نہیں“ (NOW OR NEVER) چودھری رحمت علی، محمد اسلم خاں اور شیخ محمد صادق کی طرف سے جنوری ۱۹۳۷ء میں کیمرج میں تقسیم ہوا جس میں انھوں نے ’وئی کیا وہ تین کروڑ تیس لاکھ اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف سے جو پاکستان میں بستے ہیں اُسے شائع کرتے ہیں۔ انھوں نے اس میں یہ ظاہر کیا کہ پاکستان کے اجزاء ملحقہ ’صوبہ پنجاب‘، ’صوبہ سرحد کشمیر اور صوبہ سندھ اور بلوچستان ہوں گے۔ ان حضرات نے اس میں یہ رائے بھی ظاہر کی کہ وہ آل انڈیا فیڈریشن کی تجویز کے جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں پاس ہوئی ہے بالکل خلاف ہیں۔ اس میں انھوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی مسلمان ایک منفرد قومیت

ہیں جن کا وطن اپنی دست اور آبادی کے اعتبار سے فرانس کے برابر ہے اور وہ اس کی ایک عمدہ قومی حیثیت کو تسلیم کئے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔

یہ بعینہ وہی نقشہ تھا جس کی بنیاد پندرہ سال بعد نوابزادہ لیاقت علی اور چودھری خلیق الزماں نے کانگریس کی مخالفت اور تقسیم ہندوستان کی پالیسی کا آغاز کیا اور جسکی قیادت جناح صاحب نے شروع کی۔ ۱۹۳۶ء سے پہلے ہم نہ اس مطالبے پر کسی نے توجہ کی نہ مسلم لیگ کی ملک میں کوئی اہمیت تھی۔ جناح صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ۱۹۲۰ء اور ۱۹۳۰ء میں کانگریس نے اپنے آپ کو گاندھی جی کے ہاتھوں میں ڈال دیا، تو وہ بالکل یائوس ہو گئے اور ان کو اپنی سیاسی زندگی کے لئے کوئی پلیٹ فارم نظر آنے کی امید نہ رہی۔ چنانچہ انھوں نے انگریزوں میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ "میں اس قدر ناامید ہو گیا کہ میں نے انگریزوں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لئے نہیں کہ مجھے ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا بلکہ اس لئے کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل مجبور محسوس کیا۔"

"چنانچہ انھوں نے انگریزوں کے ہسپتال میں ایک تین منزلہ کوٹھی خرید لی ان کی بہن فاطمہ جناح نے جو ان کے ساتھ تھیں گھر گری ہستی کا انتظام نبھال لیا ان کی تیرہ سالہ لڑکی رینا ایک انگریز بورڈنگ اسکول میں داخل ہو گئی جہاں سے وہ چھٹیوں میں باپ کے پاس آجاتی تھی۔ یہاں ان کی وکالت بھی کامیابی کے ساتھ چک اٹھی۔ اتوار کے روز وہ انگریزوں کے خوبصورت مناظر کی سیر کے لئے جاتے تھے اور یہاں ان کی زندگی ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ پرسکون ہو گئی تھی۔ لیکن انھوں نے ہندوستان سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑا۔ دوسری رائڈ ٹیبل کانفرنس سے کچھ ہی پہلے وہ ہندوستان آئے اور کانگریسی مسلمانوں کو

ایک متحدہ مسلم جماعت میں شریک کرنے کی کوشش کی۔ مگر اس مقصد میں انھیں کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے چودہ نکات پر بھی زور دیتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ ذاتی طور پر میں مشترکہ انتخاب کا قائل ہوں مگر اس کے ساتھ ہی انھوں نے گورنمنٹ کو وارننگ دی کہ اگر اس نے ہندوؤں کی مرضی کے مطابق کوئی دستور منظور کر لیا تو مسلمان اس دستور کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔

جولائی ۱۹۴۷ء میں سینتیس برس کے ایک صاحب جو اپنی نئی (دوسری) بیوی کے ساتھ انگلینڈ میں ہی بون منانے گئے تھے جناح صاحب سے ملنے آئے۔ ان کا نام لیاقت علی خاں تھا اور یہی آئندہ پاکستان کے پہلے وزیرِ اعظم ہونے والے تھے۔ بیگم لیاقت علی خاں نے بتلایا کہ ان کے شوہر کو یہ یقین ہو گیا کہ جناح صاحب ہی وہ شخص ہیں جو مسلم لیگ اور مسلمانوں کو بچا سکتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی نے ان پر بہت زور دیا کہ وہ واپس ہندوستان چلیں مگر جناح صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ میں بہت مطمئن ہوں۔ لیاقت علی صاحب اپنے اصرار پر جتے ہی رہے آخر کار جب ان دونوں کو یہ محسوس ہوا کہ جناح صاحب اب انگلینڈ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوں گے تو ایک شاندار ڈنر کے بعد انھوں نے کہا کہ آپ لوگ جائیے اور حالات کا مطالعہ کیجیے۔ ملک کے ہر حصے کا اندازہ کیجئے اگر پھر آپ کی رائے یہی ہوتی ہے کہ میں واپس چلوں تو میں یہاں کی ساری آسائش تہ کی واپس آجاؤں گا۔ یہ وعدہ لے کر لیاقت علی خاں ہندوستان واپس آئے اور یہاں سے پیغام بھیجا کہ واپس آجائیے۔ اس پر جناح صاحب نے اپنی کوٹھی فروخت کر ڈالی۔ سامان اپنے اپنے پرانے بیچ ڈالا اور اپنی بہن فاطمہ کو لے کر واپس آگئے۔ ان کا ایک بڑوسی بتلاتا تھا کہ اس طرح روانہ ہو رہے تھے جیسے کوئی شخص بڑے عظیم انان مشن پر جا رہا ہو۔ ہندوستان پہنچ کر ۱۹۴۷ء میں وہ متفقہ طور پر مسلم لیگ کے دائمی صدر بنا دئے گئے۔

اب مسلم لیگ اور خاص طور پر مسٹر جناح کا کانگریس نیشنلسٹ مسلمانوں اور متحدہ قومیت کے نظریے سے براہ راست مقابلہ تھا۔ ان کی سیاست کا اہم ترین مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ کو ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمایندہ جماعت تسلیم کرائیں۔ اور اس کے لئے انھیں لازمی طور پر کانگریس کو خالص ہندو جماعت کہے جانے پر اصرار تھا۔ پہلے مقصد کے لئے جناح صاحب نے قانونی نوٹسکافیوں کا سہارا لیا اور نہایت کچھ داری اور ذرا نیت کے ساتھ سیاسی ذرائع استعمال کئے۔ برطانوی افراد اور حکومت کے حلقوں کو ان پر اعتماد تھا اور براہ راست ان سے سیاسی اور اجتماعی روابط تھے۔ گورنمنٹ وقتاً فوقتاً مسلم لیگ کے لیڈران سے ملک کی سیاسی بساط پر بہت سی غیر متوقع اور اچانک صورت حالات کو دبانے کا کام لیتی رہتی تھی۔ اس لئے ہر سیاسی اقدام پر مسلم لیگ سے استرجاع ضروری سمجھتی تھی۔ علاوہ ازیں کانگریس کی پالیسی یہ تھی کہ آزادی کی راہ ہموار رکھنے کے لئے ہر اہم موڑ پر ملک کی سبھی سیاسی جماعتوں کی تائید و اعانت شریک رکھی جائے۔ اس طرح مسلم لیگ کو تحریک آزادی میں شرکت اور دخل اندازی کے مواقع حاصل تھے۔

لندن میں دوسری راڈ ہڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تو گاندھی جی نے اس میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری کو بھی شرکت کی دعوت دینے کی درخواست کی کیوں کہ وہ نیشنلسٹ مسلمانوں کے سربراہ تھے مگر داسرائے نے ڈاکٹر صاحب کو شریک کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر گاندھی جی نے کہا کانگریس ہندو نہیں بلکہ ہندوستانی جماعت ہے اس لئے کہ اس میں مولانا ابوالکلام آزاد اور ڈاکٹر انصاری اور بہت سے دوسرے مسلمان شریک ہیں مگر مسٹر محمد علی جناح اور جناب سر آغا خان نے کانگریس کو ہندوستانی جماعت ماننے سے انکار کر دیا۔^۱

۱۹۳۷ء کے بعد جب مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اختلافات شدید ہو گئے تو گاندھی جی نے صلح کی کافی کوششوں کے بعد مسٹر جناح کو وار دھا آنے اور بات کرنے کی دعوت

دی مگر جناح صاحب نے واردہا جانے سے انکار کر دیا۔ نتیجے کے طور پر گاندھی جی نے خود جناح صاحب کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور اس بات چیت میں مولینا آزاد کو بھی شریک رکھنا چاہا مگر جناح صاحب نے اس سے انکار کر دیا اور گاندھی جی کو تار دیا کہ میں آپ سے اکیلے ہی ملوں گا۔ گاندھی جی کے اس رویے نے جناح صاحب کے اعتماد کو بہت مضبوط کر دیا اور انھوں نے گاندھی کے نام ایک خط میں لکھا کہ :

”اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک نمائندہ اور ذمہ دارانہ جماعت ہے اور دوسری طرف آپ سارے ملک کے ہندوؤں اور کانگریس کے نمائندہ ہیں۔ ہم آئندہ صرف اسی بنیاد پر بات چیت کریں گے“

اس واقعہ نے اور مولینا سے ملنے سے انکار نے مسلمانوں میں جناح صاحب کی شخصیت کو بہت مشہور کر دیا اور مسلم لیگ والوں نے مختلف اسلوب اور پیرایہ بیان میں اس کی شہرت کی کہ جناح صاحب کی شخصیت اس قدر اہم ہے کہ گاندھی جی کو ہر قیمت پر ان کے دروازے پر جانا ہی پڑا۔ اسی ریلے میں ایک اور اہم ترین واقعہ سامنے آیا جس نے جناح صاحب کو اپنی فوقیت ثابت کرنے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا۔

کانگریس اپنے اس مطالبے پر سختی سے قائم تھی کہ ایک ایسی قومی حکومت بنائی جائے جس میں سارے ہی ہندوستانی عوام کی نمائندگی ہو۔ حیثیت صدر کانگریس مولینا ابوالکلام آزاد نے جناح صاحب کو لکھا کہ کانگریس اس گورنمنٹ کی ترکیب و ترتیب میں آپ سے تعاون چاہتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت میں سبھی پارٹیاں شامل ہوں گی۔ مسٹر جناح نے مولینا کے پیغام کا جو جواب دیا وہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے انھوں نے لکھا :

”میں تم سے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ چاہے وہ خط و کتابت ہو اور کسی طریقہ سے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کانگریس نے صدر بنا کر تم کو ایک شوبوائے بنایا

ہے۔ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے۔ اگر تم میں ذرا بھی غیرت اور احساس ہے تو فوراً کانگریس سے استعفیٰ دو۔ آج تک تم مسلم لیگ کو شدید نقصان پہنچاتے رہے ہو لیکن اب سمجھ لو کہ تم بالکل ناکام ہو گئے ہو اور اب یہ فضول بجواس بند کر دو۔

انگریزی زبان میں تو تم اور آپ کے لئے ایک ہی لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے مگر کلام کے سیاق و مزاج سے یہ متعین ہوتا ہے کہ مخاطب میں مراد آپ ہے یا تم۔ جناح صاحب کے اس خط کا مزاج اس قسم کا تھا کہ اس میں "تو" کا ترجمہ تم ہی سے ہوتا ہے۔ مسلم لیگ اور اس کے حلقوں نے مذکورہ بالا جواب کو جناح صاحب کی تاریخ میں زیریں الفاظ میں جگودی۔ اس کو حکمت و سیاست کا شہ پارہ قرار دیا اور برسوں تک بلکہ تقسیم ہندوستان کے دن تک اس پر شروح و حواشی کے اضافے کر کر کے بیان و اعلان کرتے رہے۔ یہ تمام واقعات ۱۹۳۳ء کے الکشن کے بعد پیش آرہے تھے جب لیگ نے از سر نو زندگی شروع کی تھی درہ اس سے پہلے عوام میں لیگ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس موضوع پر مفصل بیان پچھلے اوراق میں گزر چکا ہے اب جناح صاحب پورے دعوے کے ساتھ اعلان کرنے لگے تھے کہ ہندوستان کی کسی پارٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے معاملے میں دخل اندازی کرے:

"۱۹۳۴ء میں جناح صاحب نے کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سنٹرل

کیٹی میں کسی مسلمان کو منتخب نہ کرے مگر سمجھنا جس چند برس نے جو ابدیا کہ کانگریس اپنے عقیدے سے منحرف نہیں ہو سکتی اور اپنے مسلمان ساتھیوں کو نہیں چھوڑ سکتی ہے

۱۹۳۴ء کے بعد اب مسلم لیگ کانگریس سے مقابلے کے لئے کھل کر میدان میں آگئی۔

مسلم لیگ کے سربراہ اور وہ حضرات میں مسٹر جناح اور نواب زادہ لیاقت علی خاں تو کئی برس سے مقابلے میں تھے اب چودھری خلیق الزماں بھی ان مقصد میں شریک ہو گئے تو ان کی طاقت اور تدبیروں میں دن دن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چودھری صاحب کا فیصلہ ملاحظہ فرمائیے:

"۲۶ جولائی کو نواب اسماعیل خاں اور میں دونوں صبح کی گاڑی سے کھنڈ پونج گئے اور ہم لوگ سیدھے پتہ جی کے گھر گئے۔ جہاں مولینا اپنی صبح کی چائے پی رہے تھے۔ سلام اور دعا کے بعد میں نے جیب سے مولانا کا شرائط نامہ نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دیا اور ان سے کہا کہ مولینا آپ کو معلوم ہے کہ یہ گفتگو میں مسلم قوم کی طرف سے کانگریس سے کر رہا تھا۔ اس میں میرا کوئی ذاتی سوال نہیں تھا اس لئے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان شرائط سے آپ پوری مسلم قوم کی توہین کر رہے ہیں۔ بہر ذریعہ کل میں اپنی پارٹی کو لے کر آپ کا مقابلہ کر دوں گا۔ کچھ آگے چل کر چودھری صاحب نے لکھا ہے۔ اپنی تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں نے کانگریس کی ہر تحریک میں پورا پورا ساتھ دیا تھا اور وزارتوں کے سلسلے میں میں نے مولینا کو یہاں تک لکھ کر دے دیا تھا کہ ملکی مسائل میں مسلم لیگی ممبر کانگریس کا گلے گلے ساتھ دیں گے۔"

پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ مسلم لیگ مصر تھی کہ اس کے دو ممبر چودھری خلیق الزماں اور نواب اسماعیل خاں یوپی کی وزارت میں لئے جائیں اور کانگریس ایک مسلمان ممبر اپنی طرف سے بھی شامل کرنے پر اڑھی ہوئی تھی۔ اسی کو چودھری صاحب نے مسلم قوم کی طرف سے کانگریس سے گفتگو کہا ہے۔ مولینا اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح جواہر لال (کانگریس) مسلم لیگ کا یہ مطالبہ مان لیں یا پھر چودھری صاحب کسی درمیانی راستے پر سہج کر لیں۔ اسی موضوع پر انھوں نے چودھری صاحب کو خط لکھا تھا جس سے چودھری صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ مولینا کی کوششیں بار آور نہیں ہو سکیں گی۔ کانگریس وزارت میں ان دونوں صاحبان کی شمولیت پر رضامند نہیں ہوئی۔ اسی کو انھوں نے پوری مسلم قوم کی توہین قرار دیا ہے۔ اس قضیے پر جو کچھ ہم لکھ چکے ہیں اس پر مزید اضافہ کرنے کے لئے کہاں سے گنجائش لائیں اور کسی نہ کسی طرح کوئی موقع نکالیں بھی تو اس تفصیل کا ہمارے موضوع سے تعلق کیا ہے، ہمیں تو یہاں پر صرف یہ بتلانا تھا کہ اگر کانگریس لیگ کے مطالبے کو اس طرح پس پشت نہ ڈال دیتی تو چودھری صاحب نے لکھ کر دیدیا تھا

کو ملکی مسائل میں مسلم لیگی ممبر کا انگریس کا گلے گلے ساتھ دیں گے مگر جماعت موجودہ انہوں نے اپنی پارٹی (مسلم لیگ) کو لے کر انگریس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر مقابلے کے لئے ان کے سامنے متعدد مشکلات تھیں۔ ان میں بڑی مشکل مسلمانوں پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور جیتہ علما کے اثرات اور مقبولیت تھی۔ حضرت اور ان کی جماعت ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی تائیس کے مخالف تھے اور مسلمانوں کو حضرت کی مخالفت پر آمادہ کرنا آسان کام نہ تھا۔ چودھری صاحب کا انگریس سے مقابلے کی مشکلات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”دوسری دقت یہ ہے کہ سارا قصہ یورپی سے شروع ہوتا ہے جو اعلیٰ صورت میں معلوم نہیں مسلم اکثریتی صوبوں پر ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ اگر ہم ان کو اپنی قربانیوں سے بگاڑ سکے تو ہماری لڑائی انگریس جیسی جماعت سے کے دن کی؟ خود اپنے صوبہ میں جیتہ علما سب سے زیادہ با اثر جماعت ہے۔ اس کے مقابلے کے لئے سرفروش نوجوان کارکنوں کی ضرورت ہوگی“

بہر حال چودھری صاحب میدان میں صاف آوا ہو گئے اور اپنے روابط، تعلقات، ذہانت اور سیاسی تدابیر کے بل بوتے پر مارچ ۱۹۴۵ء میں بمقام لاہور پاکستان کا منڈیہ ذیل ریڈولیشن پاس کرایا :

آل انڈیا مسلم لیگ اپنی تجاویز ۲۷ اگست ۲۲ اکتوبر ۱۹۳۹ء اور ۳ فروری ۱۹۴۰ء کی تائید کرتے ہوئے بہ اصرار اعادہ کرتی بنے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کے آل انڈیا فیڈریشن کی اسکیم بالکل نامناسب اور ملک کے حالات کے اعتبار سے ناقابل عمل ہے۔ اور وہ مسلمانوں کے لئے ناقابل قبول ہے۔ وہ پُر زور طریقے سے اپنا خیال ظاہر کرتی ہے کہ، گو گذر اکتوبر ۱۹۳۹ء کا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹوریٹ کا یہ بیان کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء مختلف پارٹیوں کے مشورے کے بعد دوبارہ زیر غور آئے گا، اطمینان بخش ہے۔ پھر بھی مسلم لیگ یہ

واضح کر دینا چاہتی ہے کہ جب تک تمام دستوری اسکیم پر از سر نو غور نہ کیا جائے گا جس میں مسلم لیگ کی مرضی اور قبولیت شریک نہ ہو، قابل تسلیم نہ ہوگا۔

تجویز ہو اگر مسلم لیگ کی یہ غور شدہ رائے ہے کہ کوئی دستوری اسکیم ملک میں مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہ ہوگی جو حسب ذیل بنیاد پر نہ قائم ہو۔ یعنی وہ جغرافیائی ہمسائے (اقطاع یا اکائیاں) (یونٹ) ریجن یا زون حسب ضرورت اقطاع کے لین دین کے ساتھ اس طریقے سے شامل کئے جائیں کہ وہ تمام حصے جن میں عدوی اعتبار سے مسلمان اکثریت میں ہوں جیسے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے ہیں ان کو لاکر آزاد اسٹیٹس بنائی جائیں جو خود مختار اور آزاد ہوں۔

یہ کہ مناسب، بااثر اور قانونی تحفظات دستوری اقلیتوں کے لئے رکھے جائیں جس سے ان کے اپنے کلچرل، اقتصادی اور سیاسی مفادات محفوظ کئے جائیں اور دوسرے حصوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اسی قسم کے تحفظات دستور میں ان کے لئے بھی رکھے جائیں۔“

اس تجویز میں اقلیتوں کے کلچرل، اقتصادی اور سیاسی مفادات کے تحفظ کی بات قابل غور ہے۔ ہندوستان کے دستور کی حد تک ان تحفظات کا پورا پورا قانونی خیال رکھا گیا ہے مگر عملدرآمد ان قانونی قرار دادوں پر کس حد تک کیا گیا؟ اس کے لئے آزاد ہندوستان میں مسلمانوں، اچھوتوں، عیسائیوں اور دوسری اقلیتوں کی سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی پس ماندگی سے سوال کرنا پڑے گا۔

پاکستان اور حضرت کا موقف

پاکستان اور تقسیم ہندوستان کا مطالبہ دو تومی نظریے پر مبنی تھا۔ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ حضرت ہندوستان میں بسنے والی تمام جماعتوں کو جنگ آزادی کی حد تک ایک قوم سمجھتے تھے اور ان میں تفریق، تقسیم اور اختلاف کے سخت خلاف تھے۔ اسی بنیاد پر وہ اور ہندوستان کے لاتعداد نیشنلسٹ اور حریت پسند مسلمان تقسیم ہندوستان اور پاکستان قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ اس سیاست کو نہ صرف ہندوستان بلکہ خاص طور پر مسلم قوم کے لئے سیاسی مذہبی، اقتصادی اور ہر اعتبار سے نقصان اور گھائلے کا سودا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دس بارہ کروڑ افراد کی ایک وحدت کسی بھی ملک میں مخالف سے مخالف ماحول میں بھی مغلوب اور کمتر ہو کر نہیں رہ سکتی۔ مسلمانوں میں خاص طور پر نظری جرات، 'موروثی شجاعت'، تاریخی شہامت، شوق شہادت اور عظمت و عزیمت جیسی صفات اور خصوصیات موجود ہیں۔ یہ اگر جادہ مستقیم پر گامزن رہیں تو صرف ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں مظفر و منصور ہو کر رہ سکتے ہیں حضرت کا خیال تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کا منصوبہ اور سازش سامراجی سیاست اور برطانوی پالیسی نے تیار کی ہے۔ وہ تاریخی حوالوں اور مدلل شہادتوں کے ذریعے یہ بتلاتے تھے کہ اسلام دشمن طاقتیں اسی تقسیم اور تفرقہ اندازی کی سیاست کے ذریعے مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ میں ہمیشہ ان کی جہت کو کمزور اور طاقت کو پارہ پارہ کرتی رہی ہیں۔

حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ مطالبہ پاکستان کو مسلمانوں کے لیے نقصان سمجھتے

تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سیاست نہ صرف یہ کہ مسلم قوم کی اجتماعیت اور وحدت کے لیے ایک خطرہ ثابت ہوگی بلکہ یہ اسی مقصد کے تحت انگریزی حکومت کی پیدا کردہ ایک سیاسی چال ہے۔ چنانچہ آپ نے پورے اظہار اور یقین کے ساتھ اس نظریہ کی مخالفت کی اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو تقسیم کے نتائج سے آگاہ کیا۔ اس سلسلے میں حضرت کو قدم قدم پر ایجنوں اور بیگانوں کی ملامتوں، تنقیدوں، اعتراضات اور مخالفتوں

کا مقابلہ کرنا پڑا۔ مگر آپ نے پورے صبر و استقامت کے ساتھ اشد پر بھروسہ کر کے سارے مصائب برداشت کیے اور جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے وہ قوم کے سامنے پیش کی لیے۔
حضرت کا بیان ملاحظہ ہو:

”یہ برطانوی حکومت ہی ہے جس نے مسلمانوں کی جمیعت کو پارہ پارہ کر ڈالا ہے۔ ان کے تعلیمی اداروں کو برباد کر ڈالا ہے۔ شرعی قوانین کو شاکر ان کی جگہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جاری کر دئے ہیں۔ اسلامی عدالتوں اور تصنادد اقتاد کو ختم کر ڈالا ہے۔ ان کو اتھنڈی اور معاشی طور پر برباد کر ڈالا ہے۔ آج اچانک ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کیسے پیدا ہو گئی۔ اور کیسے مسٹر ایمرے سکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ہندوستانی مسلمانوں کی حالت پر ملک مظم کی حکومت کی اس پریشانی کا اظہار ۱۹۴۷ء میں مندرجہ ذیل الفاظ میں کر رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔

یہ تو صحیح ہے کہ کانگریس ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے لیکن ہندوستان کی مشترکہ قومی زندگی کے اہم عناصر کانگریس کے اس دعویٰ کا انکار کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سیاست میں بولنے کا حق تنہا اسی کو ہے۔ یہ عناصر اپنا یہ حق ثابت کرتے ہیں کہ ان کو نہ صرف یہ کہ موثر اقلیت مانا جائے بلکہ ہندوستان کا دستور بنانے میں برابر کا حق دیا جائے ان میں سب سے زیادہ مضبوط نوے ملین افراد پر مشتمل مسلمانوں کی عظیم الشان قوم ہے جو شمال مشرقی اور شمال مغربی صوبوں میں تو اکثریت میں ہے مگر متحدہ ہندوستان میں اقلیت شمار ہوتی ہے۔

”ذہبی معاشرتی، تاریخی اور تمدنی اعتبار سے مسلمانوں اور ان کے ہجرتوں ہندوؤں میں اتنا ہی گہرا فرق ہے جتنا یورپ کی کسی بھی دو قوموں میں ہوتا ہے۔ اکثریت کے بل بوتے پر جغرافیائی حدود کی بنیادوں پر منتخب کی ہوئی دستور ساز اسمبلی

میں بنائے ہوئے دستور میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو گا۔

برطانوی ذمے داروں کی اس قسم کی تقریروں 'تجویزوں اور تائیدوں کی بنیاد پر ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں اور لیڈروں کو یقین تھا کہ اس تحریک کے پیچھے برطانوی سامراج کی مصلحت اور مفاد موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کو معاشی اور اقتصادی پہلو سے بھی تقسیم پر اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ صدیوں کی محنت اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے مسلمانوں نے صنعت، حرفت، تجارت، زراعت اور فنی کاریگری میں معاشی استحکام حاصل کیا ہے۔ بہت سے فنون مثلاً پارچہ بانی، اجرم سازی، شیشہ گری، جواہر تراشی، نقشہ نویسی، باغبانی، ڈھلانی، مہاری، نجاری وغیرہ وغیرہ میں مہارت، شہرت اور ایک تمام بنایا ہے جن میں کوئی دوسری قوم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جو ہندوستان بھسر میں اپنے مخصوص علاقوں اور مقامات کی نسبت ہی سے بگتی اور بچھلتی پھولتی ہیں۔ اس بارے میں مولانا حفظ الرحمن صاحب نے فرمایا:

”پاکستانی اسکیم ایک جانب ہندو ہندوستان کے عظیم الشان رقبے میں مسلمانوں کو وہاں کے طبعی وسائل و ذخائر سے محروم کرنے کے سامان مہیا کرتی ہے اور دوسری طرف مسلم ہندوستان (پاکستان) میں انہی سرمایہ کار ہندوؤں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ بقول ناضل مذکور، پیدائشی تنگ نظری اور فرقہ پرستی کو دل میں لے ہوئے کپنیوں کی صورت میں مسلم ہندوستان کے معاشی اور طبعی ذخائر پر قابض ہو جائیں اور یورپ کے یہودی سرمایہ داروں کی طرح حکومت کے صلح و جنگ پر بالواسطہ مالک ہو جائیں اور پھر انگریزوں ہی سے رجوع کریں کہ وہ اس معاشی اور اقتصادی گتھی کو اپنے سرمائے سے حل کرنے کے لئے ہمارے اسی طرح آقا اور حاکم بنے رہیں جس طرح آج ہیں۔“

لے ضیاء الرحمن فاروقی۔ دیوبند اسکول اینڈ دی ڈیمانڈ فار پاکستان، ص ۱۰۰، بحوالہ مکتبہ شیح الاسلام مرتبہ فریدالوجیدی لے تحریک پاکستان پر ایک نظر۔ مولانا حفظ الرحمن، ص ۲۳

سماجی اور اجتماعی اعتبار سے صدیوں کے رہن سہن 'میل ملاپ اور معاشرت سے مسلمانوں کی ایک مخصوص تہذیب، تمدن اور روایت ملی بڑھی تھی۔ اس کے حدود و قیود اور خدو خال کو لاتعداد گردشہائے روزگار، مخالفتوں، موافقتوں اور قربانیوں نے سنوارا تھا۔ خطہ ہٹھا کر بستیاں اُجڑیں گی تو صدیوں کی ترقی یافتہ یہ تہذیب و معاشرت بھی مٹ جائے گی۔ اس کی دلیل ملاحظہ ہو:

"اگر ہم ہندوستان کے ایک حصہ کو پاکستان بنا کر پچھلے ہندوستان سے جدا کر لیں گے تو اگرچہ پچھلے ہندوستان (پاکستان) کی سرکاری زبان اُردو قرار پائے گی لیکن پچھلے ہندوستان (بھارت) کی سرکاری زبان خالص ہندی اور رسم الخط دیوناگری ہو کر رہے گا۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ ہندو ریاستوں کے مسلمانوں کی طرح تقریباً تین کروڑ (اب دس کروڑ) مسلمان جو ہندو ہندوستان (بھارت) کے باشندے ہوں گے اُردو زبان سے بڑی حد تک بیگانہ ہوں گے اور چند خاص علمی حلقوں کے علاوہ یہ زبان ہندوؤں میں تو کیا مسلمانوں میں بھی مذہبی زبان "عربی" کی طرح تبرک کے طور پر بولی اور لکھی جائے گی۔ اس کا جو اثر ہماری تہذیب و تمدن اور معاشرت پر پڑے گا وہ ظاہر ہے"۔^۱

دینی، تبلیغی اور اسلامی میدانوں میں مسلمانوں نے ہندوستان جیسے عظیم ملک میں صدیوں کی سرفروشیوں، قربانیوں اور جاں نثاریوں کے ذریعے جو کامیابیاں حاصل کی تھیں اور جس کامیابی کے ساتھ ہندوستان کے نئے والوں پر اثر انداز ہوئے تھے وہ اسلامی تاریخ کا زرین کارنامہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ملک کی تقسیم سے ان سرگرمیوں اور تحریکوں پر بڑے خراب اثرات مرتب ہوں گے۔ اس موضوع پر جمعیتہ علماء ہند کا نکتہ "نظر مولینا حفظ الرحمن کی زبان سے سنئے":

"جو حضرات اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ہندوستان میں برٹش حکومت

سے پہلے اور ہندو حکومتوں کے راج میں اسلام نے کس طرح اپنا پیغام پہنچایا اور یہاں کے باشندوں نے کس طرح اس کو قبول کیا نیز برٹش حکومت کے قیام کے بعد کس طرح یہاں کی مسلم آبادی دو چند ہو گئی اور جو حضرات اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ اسلام کی اس روز افزوں ترقی کے پیش نظر سیاسی اور مذہبی نکتہ نگاہ سے کس طرح ہندوں میں آریہ سماج تحریک نے نشوونما پائی وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی برتری اور ترقی کا ملاح پاکستان ہی کے ذریعے کیا گیا تو اس سے اسلامی تبلیغ کو بڑا دھکا اور ناسا بل تلافی نقصان پہنچے گا۔

ہندوستان میں اسلام کی ترقی کی تاریخ اور تبلیغ اسلام کے راستے میں تقسیم کے مضر اثرات بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں :

”آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ اور فتح عرب کا پیش خیمہ ہے جس روز یہ تمام وکمال کو پہنچا اسی روز انا فتحنا الایہ نازل ہوتی ہے جس پر حضرت عترت مجب کرتے ہوئے استفسار فرماتے ہیں ”افتح ہو یا رسول اللہ“ آپس میں اختلاط کا ہونا، نفرت میں کمی آنا مسلمانوں کے اخلاق اور ان کی تعلیمات کا معائنہ کرنا دلوں سے ہٹ اور ضد کا اٹھ جانا یہی امور تھے جنہوں نے انفرادی آباد قریش کو کھینچ کھینچ کر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان بنا کر مکہ سے مدینہ پہنچایا۔ حضرت خالد بن ولید، عمر ابن العاص وغیرہ رضی اللہ عنہم اس طرح حلقہ بگوش اسلام بن گئے کہ قریش کی ہستی فنا ہو گئی۔ الفرض اختلاط باعث عدم تنازع ہے وہ اقوام کو اسلام کی طرف لانے والا ہے۔ اور تنازع باعث عناد اور ضد نیز عدم اطلاع علی المحاسن ہے۔ وہ اسلامی ترقی میں سدراہ ہے اور چونکہ اسلام تبلیغی مذہب ہے اس لئے اس کا فریضہ ہے کہ جس قدر ہو سکے غیر کو اپنے سے قریب

کرے نہ یہ کہ ان کو دور کرے۔ اسلام پر شفیق ہے، مادر مہربان ہے، 'ماصح خیرۃ'
ہے، 'جالب اقوام ہے، 'ہمدرد بنی نوع انسان ہے۔ اس کو غیروں کے ساتھ
جزاء سنیۃ سنیۃ مثلاً ہر کار بند ہونا نمایاں شان نہیں ہے۔"

حضرت کا خیال تھا کہ علمی اور تعلیمی میدان میں بھی تقسیم سے مسلمانوں کا بڑا نقصان
ہوگا اور ان کا ہزار سالہ در نہ تباہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے علمی، تہذیبی، ثقافتی، دینی اور تاریخی
مراکز و مراکز ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے چھپے چھپے پر پھیلے ہوئے ہیں جن میں دارالعلوم
دیوبند، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، ندوۃ العلماء لکھنؤ، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد
اور دوسرے ہزاروں ایسے ہی اہم اور مرکزی ادارے شامل ہیں اور ان کے ساتھ ہی
یکڑوں بیس قیمت اور نادر الوجود کتب خانے اور دارالاشاعت و مکتبہ دارالعلوم دیوبند، نولانا آزاد
لابٹری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، خدائش لائبریری بیٹنہ، رضالابٹری رام پور، مکتبہ دارالعلوم
ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالمصنفین اعظم گڑھ، ندوۃ المصنفین دہلی، نیز لاکھوں مسجدیں، درگاہیں اور
خانقاہیں سب غیر مسلموں کے رحم و کرم پر رہ جائیں گی اور ان کو غیروں کے دست برد سے بچانا
بہت مشکل ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی صدیوں پرانی علمی، فکری، تعلیمی اور دینی بنیادیں ہل
جائیں گی۔ اس موضوع پر حضرت دلائل واضحہ کے ساتھ گھنٹوں گفتگو اور تقریر فرماتے تھے کہ
بزرگوں سے ملی ہوئی یہ وراثتیں اتنی قیمتی ہیں کہ مسلمانوں کو جان دے کر بھی ان کی حفاظت
کرنی چاہیے اور ان کو چھوڑ کر جانے کا خیال بھی نہ کرنا چاہیے۔ ایک اہم حقیقت کی طرف
حضرت مسلمانوں کو توجہ کرتے تھے اور پورے دلائل کے ساتھ ثابت کرتے تھے کہ پاکستان کے
دو علاقوں، مشرقی پاکستان اور مغربی علاقے کے درمیان اس قدر دوری ہے۔ آمدورفت، اتصالات،
وسائل، ریل وسائل اور نظم و ضبط کی اتنی مشکلات پیش آئیں گی۔ اور رہن سہن، زبان، تمدن اور
ماحول میں ایسا اختلاف ہے کہ ان کا متحد ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ حضرت اسی کی زبان سے
نمونے کے طور پر اس بارے میں چند جملے سن لیجئے :

’دوڑوں حصوں‘ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو الگ الگ بری۔
 بحری اور فضائی فوج رکھنا پڑے گی اور مشرقی حصہ خاص طور پر ایک بڑیہ بن جائے
 گا۔ فرقہ وارانہ کشیدگی میں تلخی بڑھے گی۔ مجموعی ہندوستان اور وفاقی حصوں میں مسلمان
 بے بس اقلیت ہو کر رہ جائیں گے۔ پنجاب اور بنگال دونوں کے اہم حصے کاٹ دینے سے
 ان کی موجودہ اہمیت ختم ہو جائے گی، مالی بحران پیدا ہوگا اور پاکستان اس حالت میں
 صحرا اور بنجر علاقوں کا چوکیدار ہو کر رہ جائے گا اور پھر مشرقی اور مغربی پاکستان کو
 ایک دوسرے سے ملانے کا کبھی سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ اور موجودہ شکل میں یہ
 نقشہ تیس چوبیس سال تک بھی بشکل ہی قائم رہ سکے گا۔

مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان کے بارے میں یہ تذکرہ آپکا ہے کہ حضرت ان کو حکومت برطانیہ
 کی سازش سمجھتے تھے۔ آپ کی دلیل یہ تھی کہ مسلم لیگ کے موسسین، ذمہ داران اور لیڈران برطانوی
 حکومت کے پروردہ آوردہ، وظیفہ خواران، تربیت یافتگان، فرزندان دلبندگان، راجہ، مہاراجہ،
 خطاب یافتگان ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ بڑے اثر انداز اور مدلل طریقے سے اپنی اس رائے کو ثابت
 کرتے تھے۔ ان دلائل کو بجا کرنا اگرچہ اب بیکار ہے مگر تاریخی اعتبار سے اتنا ہی اہم بھی ہے۔
 لیکن کئی سالوں کے خطبات، تقاریر اور مضامین میں نے یہ اقتباسات جمع کرنا کافی وقت اور دقت
 طلب کام ہے۔ تاہم مندرجہ ذیل چند دانوں سے ناظرین اس خرمین کا پوری طرح ذہنی کشش کسی
 قدر اندازہ تو کر ہی لیں گے۔ مسلم لیگ کی بنیاد اور اس کے مقاصد کے بارے میں حضرت نے
 لکھا ہے کہ :

”مسٹر بیک، مسٹر مارس اور مسٹر کلائیو کالون وغیرہ کی انتہائی انفرادی
 اور پھر ۱۹۱۵ء میں اجتماعی ماسعی اس کی شاہد عمل ہیں جس کے ماتحت اولاً اسی سال
 میں یونائیٹڈ انڈین پیپریٹیک ایسوسی ایشن قائم کرائی گئی جس کا دوسرا نام اینٹی کانگریس

لے ڈاکٹر ابوسلمان شاہچاچا پوری شیخ الاسلام۔ مولانا حسین احمد مدنی۔ ایک سیاسی مطالعہ جس ۱۹۵۳ء۔ مطبوعہ پاکستان۔

تھا۔ اور پھر ۱۸۹۳ء میں عدٹن اینگلو انڈین ایجنسی ایشی ان ایشیا تھلیس کی گئی جس کے مقاصد حسب ذیل قرار دئے گئے۔

(۱) مسلمانوں کی رائیں انگریزوں اور گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے پیش کر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا۔

(۲) عام سیاسی سورشس کو مسلمانوں میں پھیلنے سے روکنا۔

(۳) ان تباہیوں میں امداد دینا جو سلطنت برطانیہ کی حفاظت اور استحکام میں ممد ہوں۔ ہندوستان میں امن قائم رکھنا اور لوگوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا۔

یہ سٹریٹجک اور مسٹر کالون وغیرہ کی انفرادی مساعی ہی کا نتیجہ تھا کہ سرید جیسے تیز اور سخت سیاسی آدمی کے خیالات پر نہایت زہریلا اثر ڈالا گیا۔ اسباب بغاوت ہند کے لکھنے والے شخص کے عقائد اور ارادوں کو روزانہ اور پیہم مساعی نے بالکل ہی جامد ڈرپوک اور انگریز پرست بنا دیا۔ اپنی مساعی کی بنا پر ۱۸۹۰ء میں لارڈ میکڈالڈ نے اردو اور ناگری کا قصہ اٹھایا اور انہی وجوہ کی بنا پر ۱۹۰۶ء میں متعدد ذمہ داران برطانیہ کی کوششوں سے مسلم لیگ کی تخلیق شملہ کی چوٹیوں سے ظور پذیر ہوئی اور آج تک اسی پالیسی پر گامزن ہے۔ اسی بنا پر بار بار امن سبھائیں قائم کرائی گئیں اور اسی بنا پر شادی اور سنگٹھن کو میدان میں ٹھہرایا گیا۔

یہ ایک اجمالی بیان ہے جس سے ہمیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اپنی بصیرت و بصارت مشاہدہ و مطالعہ کی بنیادوں پر حضرت کو یقین تھا کہ ہندوستان کی ساری فرقہ وارانہ تحریکیں اور تنظیمیں 'شادی سنگٹھن' ہندو مہا سبھا، محمدن ایسوسی ایشن، مسلم لیگ وغیرہ تحریک آزادی کی مخالفت میں برطانیہ کی تائید اور اشارے سے وجود میں آئی ہیں اور اسی ایک مقصد کے لئے سرگرم ہیں۔ حضرت نے اپنے بیان میں شملہ کی چوٹیوں کا جو ذکر کیا ہے آج کے قارئین بمشکل ہی سمجھیں گے کہ اس کا مطلب وائسرائے اور برطانوی حکومت کا دفتر ہے جو سال کے آدھے حصے تک شملہ میں رہا کرتا

تھا۔ حضرت کا موقف سمجھنے کے لئے اس اجمال کی کسی قدر تفصیل پر بھی ایک نظر ڈال لینا ضروری ہے:

”اتفاق سے سٹراچولڈ پرنسپل علی گڑھ کالج کے زمانے میں دہری حکومت کو پھر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت بنا لی جائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنگالیوں کی قوت توڑنے کے لئے لارڈ کرزن وائسرائے ہند نے ۱۹۰۲ء میں اعلان کیا کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کشمیری چٹاگانگ، ڈھاکہ اور مین سنگھ کو صوبہ بنگال سے نکال کر آسام میں شامل کر دیا جائے۔ اس کے خلاف بنگالیوں نے ہزار ہا جلسے کر ڈائے، اور لاکھوں دستخط کر کے عرضداشتیں بھیجیں اور تمام ملک میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس وقت نواب سلیم الشرفاں آن ڈھاکہ نے بھی فرمایا کہ یہ ایک وحشیانہ تجویز ہے۔ لارڈ کرزن اس مخالفت کو برداشت نہ کر سکے اور فروری ۱۹۰۳ء میں گلگتہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد میں ہندوستانیوں کے متعلق یہ کہا کہ وہ سچے نہیں ہوتے اور یہ بولنا کبھی ان کا نسب انہیں نہیں رہا ہے۔ اس پر بنگالیوں نے طوفان برپا کر دیا اور ایک عظیم الشان جلسے میں لارڈ کرزن اور ان کی پالیسی پر طاعت کی۔ یہ جلسہ ۱۹۰۳ء کو ہوا تھا اور اس پر لارڈ کرزن کو اس قدر اشتعال ہوا کہ وہ بذات خود ڈھاکہ پہنچے اور وہاں ایک جلسہ عام میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تقسیم بنگال سے ان کا مقصد صریحاً یہ نہیں تھا کہ بنگال گورنمنٹ کے بار کو ہٹا لیا جائے بلکہ ایک اسلامی صوبہ بنانا تھا جس میں مسلمانوں کا غلبہ ہو۔“

حکومت برطانیہ، وائسرائے ہندوستان اور انگریزوں کو مسلمانوں سے کیسی ہمدردی تھی؟ اور مسلمانوں ہی کی کیوں؟ اسلام کی کیسی خیر خواہی تھی کہ وہ ایک الگ اسلامی صوبہ بنانا چاہتے تھے۔ جو کام مسلم لیگ نے ۱۹۰۴ء میں پورا کیا۔ برطانوی حکومت اور اس کے وائسرائے نے پچاس سال پہلے ہی اس کی ابتدا کر دی تھی۔ مگر کچھ افراد اور جماعتیں ایسی تھیں جنہیں برطانوی حکومت کی ”ڈیوائڈ اینڈ رول“ کی پالیسی سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ انہوں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اسی

زمانے میں کلکتہ سے بچنے والے ایک انگریزی اخبار نے کرنل کی اس تجویز کے مندرجہ ذیل مقاصد بیان کئے تھے:

(۱) بنگالیوں کی اجتماعی قوت کو کمزور کرنا۔

(۲) کلکتہ کی سیاسی برتری کو گرانا۔

(۳) مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی طاقت کو اس لئے بڑھانا تاکہ ہندوؤں کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکا جاسکے۔

بہر حال ۱۹ اکتوبر ۱۹۰۵ء کو تقسیم بنگالہ کا اعلان ہو ہی گیا۔ مگر اس کے خلاف بنگالیوں نے وسیع پیمانے پر ولایتی مال کے بائیکاٹ کی تحریک شروع کی اس وقت اگرچہ نواب زادہ صہیب اللہ خاں برادر حقیقی نواب سلیم اللہ خاں اور سنٹرل مٹن ایسوسی ایشن کلکتہ کی طرف سے اس کے سرٹیری نواب امیر حسن خاں سی۔ آئی۔ اسی نے تقسیم بنگالہ سے اختلاف کا اظہار کیا مگر تقارخانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ جب عام مسلمانوں کو یہ سمجھا گیا کہ ان کی عظمت رنتہ واپس آجائے گی تو انھوں نے وہ سب کیا جو انھیں کرنا چاہیے تھا!

ٹھیک پچاس برس بعد بھی مسلمانوں کو یہی یقین دلایا گیا لیکن اب سامراجی سیاست کا زور کام کر چکا تھا۔ اور اب اسلامی صوبے سے آگے بڑھ کر اسلامی ملک کا نعرہ مسلمانوں کو دیا گیا۔ علاوہ ازیں اس مرتبہ مسلمانوں نے وہ سب کچھ بھی کیا جو کرنا چاہیے تھا اور وہ بھی کیا جو نہ کرنا چاہیے تھا۔ مختصر یہ کہ تقسیم بنگالہ کا کام پورا ہو چکا تو کارروائی آگے بڑھانی گئی۔ چند ہی مہینوں بعد:

”۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء کو نواب حاجی اسماعیل خاں صاحب نے جوینی تال میں

تھے اور حکام رس تھے، نواب محسن الملک بہادر آزریری سکریٹری کالج علی گڑھ کو ایک سورد تیار کر کے بھیجا کہ مسلمان بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ عام طور پر تعلیم یافتہ مسلمانوں نے اس طرف توجہ کی۔ اس زمانے میں علی گڑھ کالج کے پرنسپل مسٹر آرج بولڈن نے جو چٹھی

۱۹۰۶ء کو نواب محسن الملک مرحوم کو لکھی اور جو طبع ہو کر ممبرانِ وفد کے پاس بھیجی گئی اس کے خلاصے سے معلوم ہوگا کہ علی گڑھ کالج کے پرنسپل تمام سیاسی جزئیات میں مسلمانوں کی کس طرح رہنمائی کیا کرتے تھے اور وہ علی گڑھ میں بمنزلہ گورنمنٹ کے ریزیڈنٹ کے ہوتے تھے۔ چھٹی کا خلاصہ یہ ہے جس کا ایک ایک لفظ توجہ کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہے۔

کنزل ڈپلٹیمتھ پرائیویٹ سکرٹری ڈائریکٹوریٹ ہند اب نکلے لکھتے ہیں کہ حضور ڈائریکٹوریٹ ہند مسلمانوں کا وفد منظور کرنے کے لئے تیار ہیں اور نکلے بریت کرتے ہیں کہ اس کے لئے ایک باضابطہ درخواست بھیجی جائے۔ اس کے تسلسل حسب ذیل امور غور طلب ہیں۔ اول درخواست بھیجنے کا مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک یہ کافی ہوگا کہ مسلمانوں کے کچھ نمائندے، اگرچہ ان کا انتخاب نہ ہوا ہو، درخواست پر دستخط کریں۔ دوسرا مسئلہ ممبرانِ وفد کا ہے۔ یہ لوگ جملہ صوبہات کے نمائندہ ہوں۔ تیسرا مسئلہ ایڈریس کے مضمون کا ہے۔ اس کی نسبت یہ ہے کہ ایڈریس میں وفاداری کا اظہار کیا جائے۔ اس امر کا شکر یہ ادا کیا جائے کہ طے شدہ پالیسی کے مطابق حکومت خود اختیاری کی طرف قدم اٹھایا جانے والا ہے جس کی رو سے ہندوستانوں کے لئے عہدوں کے دروازے کھول دئے جائیں گے مگر اس سے یہ اندیشہ ظاہر کیا جائے کہ طریقہ انتخاب جاری کرنے سے مسلمان اقلیت کو نقصان پہنچے گا اور یہ امید ظاہر کی جائے کہ نامزدگی کا طریقہ جاری کرنے یا بند ہونے کا بنیاد پر نیابت دینے میں مسلمانوں کی رائے کو مناسب اہمیت دی جائے گی۔ اس رائے کا اظہار کیا جائے کہ ہندوستان جیسے ملک میں یہ ضروری ہے کہ زمینداروں کی رائے کو اہمیت دی جائے۔ ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ عقلمندی اس بات میں ہوگی کہ وہ نامزدگی کے طریقے کی تائید کریں کیوں کہ ابھی انتخاب کا وقت نہیں آیا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے لئے نہایت مشکل ہوگا کہ طریقہ انتخاب جاری ہونے میں انھیں مناسب حصہ مل سکے۔ مگر میں اس تمام کارروائی میں پردے کے پیچھے رہنا چاہتا ہوں اور یہ تحریک تمھاری طرف سے ہونی چاہئے مگر آپ واقف ہیں کہ مسلمانوں کے نمائندے کس قدر دل سے خواہاں ہوں اور اس کے لئے میں

نہایت خوشی سے ہر قسم کی امداد کروں گا۔ میں تمہارے لئے ایڈریس تیار کرنے یا اس پر تنقید کرنے کا کام کر سکتا ہوں۔ اگر وہ بمبئی میں تیار کی جائے تو میں اس کا مسودہ دیکھ سکتا ہوں کیوں کہ مجھے عدہ الفاظ میں استدعا کرنے کا فن آتا ہے، مگر نواب صاحب! یاد رکھیے، اگر تھوڑے عرصے میں کوئی با اثر اور زبردست تحریک پیدا کرنی ہے تو ہمیں فی الواقع بہت جلدی کرنی چاہیے! ۱۰

پرنسپل علی گڑھ کالج کی اس اسکیم میں چند اہم باتیں تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ انگریز اور ان کی حکومت ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ملازمتیں، عہدے، نیا بتیں اور ممبریاں دینا چاہتے ہیں اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ مذہبی عقائد کی بنا پر۔ اس اخلاص اور شفقت کی انتہا ملاحظہ کیجئے کہ یہ ساری مہربانیاں اور عطایا بالکل خاموشی اور پردے کے پیچھے سے ہوں گی جن کے بدلے میں کچھ عہد، وفاداریاں، انتخابات کی مخالفت اور مسلمانوں کے حقوق کے مطالبے اور تحریکوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیں۔ آخر کار ایڈریس (درخواست) تیار ہوا۔ سربراہ اور وہ چیدہ مسلمانوں کے دستخط لے گئے۔ لوگوں کو ساری اسکیم پڑھائی گئی۔ انتخاب و الکشن کی مخالفت سکھلائی گئی۔ مذہبی عقائد کی بنیادوں پر نامزدگیوں کے مفادات بتلائے گئے اور وفد بنایا گیا۔ آخری مرحلہ وفد کی لیڈری کا تھا اس کے لئے نظر انتخاب مسلمانوں کے سب سے بڑے ہمدرد اور حکومت کے سب سے بڑے وفادار سرآغا خاں کے علاوہ کس پر پڑ سکتی تھی۔ چنانچہ ستم رسیدہ اور مفلوک الحال مسلمانوں کی نمائندگی کے لئے آپ کو لندن سے شملہ بلایا گیا۔ وفد کی اہمیت اور شان ملاحظہ کیجئے :

”اس وفد کی خبروں کا ہندوستان سے انگلستان تک یہ انتظام کیا گیا تھا کہ یکم اکتوبر ۱۹۰۹ء کو وائسرائے کی خدمت میں ایڈریس پیش کیا جاتا ہے اور اسی تاریخ کو لندن ٹائمز میں کئی کالموں کا ایک مضمون شائع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کی عظمت کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ یورپ کے نمونہ کی نیابتی مجلسوں (الکشن) کے

کبھی فریفتہ نہ تھے۔ ہندوستان میں انجمنستان کی طرح ایک قوم نہیں ہے۔ وہاں مختلف مذاہب ہیں۔

”پچھر دوسرے روز ۲ اکتوبر ۱۹۰۱ء کو ٹائمز آن لندن میں ایک طویل مضمون شائع ہوا ہے جس میں جنگال کے شورش پسند ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کے اعتدال کی تعریف کی جاتی ہے کہ مسلمان سیاسی زندگی کے اہل معلوم ہوتے ہیں۔ انگریزوں کے اخبار دیسٹرن پریس برٹل میں لکھا گیا کہ اس وقت میں وہ مضبوط اور جنگجو اور دلور ناتین ہندو قوموں کے لوگ تھے جو کالجوں میں تفسیر کرنے والوں سے سخت نفرت کرتے ہیں اور انہیں کم مرتبہ سمجھتے ہیں وہ اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ گورنمنٹ کے لئے بہتر ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کی پیچ و پھار کی طرف زیادہ توجہ نہ کرے جو اپنی جرب زبانی اور ذاتی دعوؤں کی وجہ سے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ ایک قوم ہیں۔ مسلمان ہندوؤں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کسی ایسی چیز کا وجود یہاں نہیں ہے جسے ہندوستانی قوم کہہ سکیں اور نہ ایسی چیز کا وجود ہو سکتا ہے“

”سر آغا خان، نواب حسن الملک، پرنسپل آریج بولڈ اور سب سے زیادہ لارڈ کرزن وائسرائے نے مسلمانوں کی کیسی خدمت کی۔ ایک ہی دن میں اس قدر اور قابل گردن زدنی قوم کو اس درجہ بام عروج پر پہنچا دیا کہ یہ بہادر، جنگجو، عقلمند، سیاسی زندگی کی اہل اور فاتح ہندو قوم کہلائے جانے کی مستحق ہو گئی۔ خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ انگریز قوم اور حکومت برطانیہ کیسی کیسی نوازشیں، عنایتیں اور دلداریاں مسلم قوم اور اسلام کی کر رہی ہے اور بدلے میں صرف یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ایک سبت دل سے یاد کر لیں۔ ہندوستان میں ایک قوم نہیں ہے، یہاں مختلف قومیں رہتی ہیں۔ نہ یہاں ایک قوم ہے نہ آئندہ کبھی رہ سکتی ہے۔

اس درجہ اور اس معیار تک مسلمانوں کو عقلمند، سیاسی اور سمجھ دار بنانے

کے بعد ان کے لئے ایک سیاسی انجمن اور پلیٹ فارم بنانے کی بھی فوری ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ ۳۰ دسمبر ۱۹۰۷ء میں نواب وقار الملک صاحب کی صدارت میں ایک جلسہ ڈھاکہ میں منعقد ہوا جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ صدارت کے لئے انہی مسلم قوم کے سب سے بڑے خیر خواہ اور گورنمنٹ برطانیہ کے سب سے مخلص و فادار سر آغا خاں سے بہتر اور کون ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہی آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر ہوئے اور نواب وقار الملک سکرٹری منتخب کئے گئے۔ مسلم لیگ کے قیام کی خبریں جب انگلستان پہنچیں تو وہاں کے اخبار ٹائمز نے بقول سر سید رضا علی پریزیڈنٹ مسلم لیگ اجلاس بمبئی نے اس بات پر غلیں بجائیں کہ مسلمانوں کی ایک مضبوط سیاسی انجمن قائم ہو جانے کے بعد اب ہندوستانیوں میں صلح باقی نہ رہے گی۔^{۱۷}

اس عظیم الشان کامیابی کے بعد نواب وقار الملک نے علی گڑھ کے جلسہ کے سامنے جو تقریر فرمائی اور جس میں مسلمانوں کی سیاسی پالیسی اور آئندہ پروگرام کی تفصیل بیان کی اس کا کسی قدر حصہ ہم پچھلے کسی موقع پر لکھ چکے ہیں مگر موضوع کی وضاحت کے لئے اس موقع وہ تقریر کچھ اور اخٹانے کے ساتھ دیکھ لینا چاہیے:

"ہندوستان میں ہماری تعداد بہ مقابلہ دوسری قوموں کے ایک تیس ہے۔ اب اگر کسی وقت ہندوستان میں خدانخواستہ انگریزی حکومت نہ رہے تو ہمیں ہندوؤں کا حکوم ہو کر رہنا پڑے گا۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو، ہمارا مذہب سب خطرے میں ہوگا۔ اگر کوئی تدبیر ان خطروں سے محفوظ رہنے کی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو وہ یہی ہے کہ انگریزی حکومت ہندوستان میں قائم رہے۔ ہمارے حقوق کی حفاظت تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم گورنمنٹ برطانیہ کی حفاظت پر کمر بستہ رہیں۔ ہمارا وجود اور گورنمنٹ کا وجود لازم و ملزوم ہیں۔ انگریزوں کے بغیر ہم اتنی قوت و آسودگی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر مسلمان دل سے

انگریزوں کے ساتھ ہیں تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اپنے تئیں مثل ایک فوج کے تصور کریں اور تاج برطانیہ کی حمایت میں اپنی جانیں قربان کریں اور اپنا خون بہانے کے لئے تیار رہیں۔ اور گورنمنٹ سے اپنے حقوق نہایت ادب اور قناعت کے ساتھ طلب کریں نہ کہ اس طریقے سے جس پر ہمارے اہل نامہ وطن مہمل ہے۔ اس سے میری مراد ایچی ٹیشن کا طریقہ ہے اس سلطنت کی حمایت کرنا تمہارا ذمہ فرض ہے۔ تم اپنے تئیں انگریزی فوج کے سولجر خیال کرو۔ تم تصور کرو کہ انگریزی پرچم تمہارے سر پر لہرا رہا ہے۔ تم فوج برطانیہ پر اگر ضرورت پڑے تو اپنی جانیں نثار کرو۔ اور انگریزی فوج کے ساتھ مل کر اسکے دشمنوں کے ساتھ کلابہ کلڈ لڑو۔ تب تم اپنی قوم کیلئے باعث فخر ہو گے اور آئندہ نسلیں تمہاری شکر گزار ہوں گی اور تمہارا نام ہندوستان کی انگریزی حکومت کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائیگا۔

مسلم لیگ کے مذکورہ بالا مقاصد ملک کے فطیہین، علماء اور حریت پسند طبقے کے لئے قابل قبول نہیں تھے۔ مولینا شبلی نعمانی نے اس کے بارے میں جس رائے کا اظہار کیا وہ قابل توجہ ہے:

”ہم کو اپنا راستہ خود متعین کرنا چاہیے۔ ہم کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ ہماری ضروریات ہندوں کے ساتھ مشترک بھی ہیں اور جدا گانہ بھی، اس لئے ہم کو ایک جدا پولیٹیکل ایٹیج کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ہمارے سامنے ایک چیز نمودار ہوتی ہے اور وہ مسلم لیگ ہے۔ یہ عجیب الخلفت چیز کیا ہے؟ کیا یہ پالیٹکس ہے؟ خدا نخواستہ نہیں۔ اینٹی کانگریس ہے؟ نہیں۔ کیا ہاؤس آف لارڈس ہے؟ ہاں سوائے تو کچھ اسی قسم کا ہے۔“

مسلم لیگ کا نظام ترکیبی کیا ہے؟ اور کیا وہ قیامت تک درست ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ اس خصوصیت کو چھوڑے گی کہ سب سے پہلے اس کو دولت و جاہ کی تلاش ہے۔ اس کو اپنے صدر انجمن کے لئے، نیابت صدر کے

لے، سکرٹری شپ کے لئے، ارکان کے لئے، اضلاع کے عہدہ داران کے لئے وہ مہرے درکار ہیں جن پر طوائف رنگ ہو۔ لیکن پولیٹیکل بساط میں ان مہروں کی کیا قدر ہے؟ کیا ایک معزز رئیس، ایک بٹاز زمیندار، ایک حاکم ایک دولت مند اپنی فرضی آبرو کو نقصان پہنچانا گوارا کر سکتا ہے۔ ہندوؤں کے پاس زمینداری، دولت اور خطاب کی کمی نہیں ہے۔ لیکن کیا انھوں نے تیس برس کی طویل مدت میں کسی بڑے زمیندار یا تعلقدار کو پریزیڈنسی کا صدر نشین کیا؟ کیا ان کے پریزیڈنٹوں میں کسی کا سر خطاب کے تاج سے آراستہ ہے؟

مولینا شبلی نعمانی کے بارے میں یاد کر لیجئے کہ یہ وہی بزرگ ہیں جو باوجود اپنے علم و فضل کے اسی جماعت میں شریک تھے جو علی گڑھ سے برطانیہ کی وفاداری کی تبلیغ کر رہی تھی۔ سرسید کے دست راست بھی تھے اور ان کی تحریک کے سرگرم رکن بھی تھے مگر باوجود اس کے مسلم لیگ کی ترکیب، تاسیس اور مقاصد کے بارے میں اپنے اختلافات کو نہ دبا سکے۔ اس پورے قصے کو مولینا ظفر علی خاں صاحب نے بڑے بیخ انداز میں بیان کیا ہے۔ اس موقع پر اس کا تذکرہ کچھ نہیں تو دل چسپی کا سبب تو ضرور ہی ہوگا،

سننے ہیں کہ کوزن کے اشارے پر سر آغا	ظلمت کدہ ہند کو آباد کریں گے
خسرو سے چھڑائیں گے اُدھر دامن شیریں	شیریں کو اُدھر مائل فرما د کریں گے
کہہ دو یہ سر آغا سے کہ اسلام کے فرزند	خود اپنے خدا سے طلب امداد کریں گے
ہرگز نہ گدائی کے لئے جائیں گے لندن	ترک آج سے یہ شیوہ معتاد کریں گے
اللہ کے دربار سے جو فیصلہ ہوگا	انگریز اسی فیصلے پر مصداق کریں گے

حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور تمام حریت پسند افراد اور جماعتیں حکومت برطانیہ کے ان اطاعت گزار اور وفادار لوگوں اور انجمنوں کو مسلم قوم اور ہندوستان کے لئے ناقابل اعتبار اور ضرر رساں یقین کرتے تھے اس لئے کہ ان کی ساری سرگرمیوں اور پالیسیوں کا سارا مقصد صرف برطانیہ سے وفاداری اور فرماں برداری ہوتی تھی۔ حضرت مسلمانوں سے پوچھتے ہیں:

(۱۱) کیا مسلم لیگ کی درگاہ کیسی اور کونسل میں زواہین، راجہ، ہمارا جہ، سرکاری خطاب

یا ننگان، زمینداران، تعلقہ داران، پشترس، اور سرکار پرستوں کا طبقہ نہیں ہے؟

(۱۲) کیا یہ لوگ ہمیشہ سے سرکار پرست نہیں رہے ہیں؟

(۱۳) کیا لیگ نے انگریزوں ہی کی غایتوں کے پیٹ سے جنم نہیں لیا ہے؟

(۱۴) کیا لیگ کے ہائی کمان اور اعلیٰ عہدہ داروں کو اسلام اور مذہب سے قریب

کا تو کجا دور کا بھی کبھی واسطہ رہا ہے؟

(۱۵) کیا مسلم لیگ کے زعماء میں کلیت یا اکثریت مخلص اور غیر لوگوں کی ہے یا جاہ

پرستوں اور وزارت و اقتدار پسندوں کی ہے؟

ان سوالات کے ساتھ ہی مسلم لیگ کی جانب سے مختلف بیانات اور اس کی پالیسی

کے اعلا مات کا تذکرہ فرماتے ہیں:

”زمیندار مورخہ ۲۵ مارچ ۱۹۴۱ء کے صفحہ ۸ کالم اکو دیکھئے جس میں فرماتے

ہیں ہم بانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانان ہند اسلامی قومیت ہی نہیں بلکہ اس

ملت عظیم کا ایک جز ہیں جو بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل تک پھیلی ہوئی ہے۔ ترکی بھی

اسی ملت کا ایک حصہ ہے، افغانستان و عراق بھی۔ ہمیں خوشی ہے کہ اس جنگ

میں یہ طاقتیں برطانیہ کے ساتھ ہیں اور ہم ہندوستان میں مسلمان بھی خواہی میں کتنا

ہی اختلاف کیوں نہ رہا ہو، مگر اس وقت انگریزوں کے ساتھ ہیں اور ان کی مدد کرنا

چاہتے ہیں۔ ہم مسلم لیگ بھی اس ملک کی دوسری جماعتوں کی طرح برطانیہ ہی کی توجہ چاہتے

ہیں اور انگلستان کو مظفر منصور دیکھنا چاہتے ہیں۔“

پچھے گزر چکا ہے اور آگے بھی اس کی تفصیل آرہی ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان

کی جماعت اور ان کے متبعین کسی بھی عنوان سے انگریزوں، برطانوی سامراج اور ہندوستان

پر غیر ملکی حکومت کو فاتح اور مظفر و منصور دیکھنا نہیں چاہتے تھے اور دینی و مذہبی نکتہ نظر سے

ان کے ساتھ موالات کو حرام کہتے تھے۔ ایک دوسرا اعتراض حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اور جمعیتہ علما

کو یہ تھا کہ عام مسلمانوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لئے مسلم لیگ اسلامی حکومت کا نام لیتی ہے مگر قانونی اور رسمی بیانات میں یہ اعلان نہیں ملتا کہ پاکستان میں اسلامی حکومت ہوگی۔ یہ حضرات کہتے تھے کہ پاکستان بنانے والے عناصر میں قادیانی، آغا خانی، بوہری، اثنا عشری اور دوسرے بہت سے عقیدے جماعتیں اور افراد شامل ہیں۔ ایسی صورت میں کسی ایک عقیدے کی حکومت اور دستور بنانا کس طرح ممکن ہو سکے گا اپنے اس خیال کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں:

کراچی میں سٹر جناح نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ہندو مسلم اخبارات کے ایڈیٹرز شریک تھے۔ ایک اخبار نویس نے جناح صاحب سے دریافت کیا کہ وہ پاکستان کی ایسی تولیف کریں جس سے اس کا صحیح نقشہ واضح ہو سکے۔ جناح صاحب نے جواب دیا کہ مجھے اس وضاحت کے لئے کچھ وقت درکار ہے تاکہ میں پوری طرح اس کا مطالعہ کر سکوں۔ لیکن پریس نمائندوں کی طرف سے مسلسل مطالبہ رہا کہ وہ سمجھائیں کہ پاکستان کیا چیز ہوگی۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو جناح صاحب نے کہا کہ جو رسالے اور مضامین اب تک پاکستان کی تائید میں شائع ہوئے ہیں ان کو پڑھ لو اس پر ایک مسلمان اخبار نویس نے کہا کہ میں نے وہ سب پڑھے ہیں مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سن کر جناح صاحب ناراض ہو گئے اور کہا کہ وہ اس مسئلے پر مزید گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔

پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا؟ پاکستان کیا چیز ہوگی؟ اس کا دستور کیا ہوگا؟ اگر اس کا صاف اور سادہ جواب دینا منظور ہو تو یہ ایسا الجھا ہوا سوال نہیں ہے جس کے لئے وقت درکار ہو یا ناراضی کی صورت پیش آئے۔ دو لفظوں میں جواب لے لیجئے۔ جمہوری حکومت ہوگی، ڈکٹیٹر شپ ہوگی یا یہ کہ اسلامی حکومت ہوگی۔ مگر شبہ اور اعتراض کی بات یہ ہی تھی کہ اس قسم کے سوالوں کے جواب میں اسلامی حکومت کا نام کیوں نہیں لیا گیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جب ذمے دار حضرات کی طرف سے صراحتاً اسلامی حکومت کی نفی ہو جائے تو پھر یقین اور اس

لے حضرت مرنی؟ پاکستان کیا ہے۔

کے نتیجے میں مخالفت میں کیا کسر وہ جاتی ہے۔ یہ صراحت بھی ملاحظہ فرمائیے:

”شہباز لاہور مورخ، اکتوبر ۱۹۴۵ء لکھتا ہے کہ مسلم لیگ کے ذمے دار سرکاری ترجمان ’ڈان‘ کا بیان ہے کہ ’سٹر جناح نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کوئی دینی و مذہبی حکومت ہرگز نہیں ہوگی بلکہ خالصتاً ایک دنیوی حکومت ہوگی۔ اور مسلمانوں کی حکومت اہلیہ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔‘ منامندہ نیوز کرائیکل کو بیان دیتے ہوئے سٹر جناح نے فرمایا کہ پاکستان کی حکومت یورپین جمہوریت کے طرز پر ہوگی۔ ہندو اور مسلمان اپنی اپنی آبادی اور مردم شناری کی حیثیت سے رائے شناری کر کے فیصلہ صادر کریں گے۔ اور دزارتوں اور لیجسلیٹر میں سب ذمے دار ہوں گے۔“

مسلم لیگ کی تحریروں، تقریروں اور بیانات میں اسلام کا نام ضرور لیا جاتا تھا مگر اس سے یہ صراحت نہیں ہوتی تھی کہ اس کا مقصد اور پروگرام اسلامی حکومت کا قیام ہے بلکہ بیان اس طرح دیا جاتا تھا کہ اسے ہے اور نہیں دونوں طرف استعمال کیا جاسکے جسٹرت نے جناح صاحب کی ایک تقریر نقل کی ہے اس سے ایسی ہی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جناح صاحب فرماتے ہیں:

”ہمارے لئے پاکستان کے معنی ہیں ہمارا تحفظ، ہماری تجارت اور ہمارا مستقبل۔ اور یہی واحد ذریعہ ہے جس سے ہماری آزادی متعین ہو سکتی ہے اور ہماری عزت اور اسلام کی شوکت برقرار رہ سکتی ہے۔“

پاکستان کا دستور ملت اور عوام ہی بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور اس کا اہتمام کریں کہ آپ ایسا دستور بنائیں جو آپ کے دلوں کی تمنا کے مطابق ہو۔ اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی ہے اور بڑا اثر پیدا کر دیا گیا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ (پاکستان) اسلامی حکومت ہوگی؟ کیا یہ بے معنی سوال نہیں ہے؟ کیا ایسا سوال کرنا خود اپنے خلاف ملامت کا دوٹ پاس کرنا نہیں ہے؟

لے حضرت مئی؟۔ پاکستان کیا ہے؟ مطبوعہ دہلی

” ” ”

سیاسی اور اقتصادی حیثیت سے بھی حضرت کو یہ اعتراض تھا کہ پاکستان خود مختار اور آزاد حیثیت برقرار نہیں رکھ سکے گا اور اسے اپنی بقا کے لئے غیر ملکیوں اور خصوصاً اسلام دشمن طاقتوں کا دست نگر ہونا پڑے گا۔ اس کی خارجہ پالیسی تمام تر سامراجی ملکوں کے زیر اثر رہے گی۔ اس بارے میں حضرت کا ایک بیان صرف نمونہ کے طور پر درج ذیل ہے:

”غیر ملکیوں کی منظم اور موثر اقلیت کے ساتھ مقابلہ وغیرہ پاکستان کے وہ داخلی مسائل ہوں گے جن سے حکومت عہد برآ نہ ہو سکے گی اور اپنی حالت کو نبھانے کے لئے کسی دوسری طاقت کا سہارا لینے پر مجبور ہوگی۔ جس کی وجہ سے اقتصادی زندگی کا توازن بیردنی حکومتوں اور غیر ملکی سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی۔ مزید برآں یہ حکومت (پاکستان) اپنے وسائل کی قلت اور مصارف کی زیادتی کی وجہ سے ملک کی دفاعی ذمے داریوں کو بھی صحیح طور پر پورا نہ کر سکے گی اس ملک کے دفاع کو دولت مشترکہ برطانیہ کے دفاع سے وابستہ کرنا پڑے گا۔ یا اپنے سیاسی مستقبل کی باگ اس کے ہاتھوں میں دینی پڑے گی۔ اور اس طرح یہ نام نہاد سیاسی استقلال روس یا برطانیہ کی سیاسی و اقتصادی غلامی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اپنی کمزوری اور بد حالی کی وجہ سے نہ اس کو بین الاقوامی سیاست میں کوئی اہمیت حاصل ہوگی اور نہ یہ حکومت اسلامی دنیا میں کوئی موثر کردار ادا کر سکے گی بلکہ روس اور برطانیہ کی سیاسی ریشہ دوانیوں کی آماجگاہ بن کر رہ جائے گی۔ ہندوستان اور پاکستان کے باہمی تعصبات سے برطانیہ کو پورا پورا فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا اور اس طرح ہندوستان سے برطانوی تسلط کے خاتمے کے باوجود براعظم پر اس کا اقتدار قائم رہے گا۔“

اس موقع پر ایک اہم نکتہ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ اقتدار اختیار اور اثر و نفوذ کے اعتبار سے آج جو حیثیت و منصب امریکہ کو حاصل ہے، جس وقت حضرت مذکورہ بالا گفتگو فرماتے ہیں

یہ منصب برطانیہ کے پاس تھا۔ اس لئے اگر یہ حقیقت ذہن میں رکھی جائے کہ حضرتؑ کا مفہوم کسی خاص ملک کے بجائے پاکستان پر مغربی سامراج کا اقتدار و تسلط ہے اور مذکورہ اقتباس میں جہاں جہاں برطانیہ کا نام آیا ہے وہاں امریکہ پڑھ لیا جائے تو حضرتؑ کا اعراض اور تنقید واضح ہو جاتی ہے۔ دینی اور مذہبی پہلو کے علاوہ یہ سیاسی اور اقتصادی کمزوریاں تھیں جن کو حضرتؑ پورے ملک ایشیا اور عالم اسلام کے لئے ایک خطہ قرار دیتے تھے۔ حضرتؑ کا خیال تھا کہ سرمایہ دار طاقتیں اور مغربی استعمار و سامراج پاکستان کے راستے سے ایشیا کو اپنے اقتدار میں رکھنے کے لئے اڑا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مسلم لیگ، پاکستان اور اس کے لیڈروں سے حضرتؑ کا اختلاف انہی بنیادوں پر مبنی تھا۔ درنہ اگر دیانت، امانت اور وضاحت کے ساتھ ذمے داران مسلم لیگ یہ اعلان کرتے اور اسے ثابت کرتے کہ پاکستان کا مقصد اسلامی حکومت کا قیام اور عالم اسلامی کی ترقی و استحکام ہے تو حضرتؑ پورے عزم و ارادہ کے ساتھ اس تحریک میں شرکت کے لئے تیار تھے۔ بلکہ ایک بار اپنی صفائی قلب اور نیک نیتی کی بنا پر اس قسم کی یقین دہانیوں کے نتیجے میں مسٹر جناح اور مسلم لیگ کے ساتھ پورے جوش و شعل کے ساتھ شریک بھی ہو چکے تھے۔ حضرتؑ کے خلوص نیت کا اندازہ انہی کے الفاظ سے کیجئے:

"اس زمانے میں پاکستان کی اسکیم زبان زد خاص و عام ہے۔ اگر اس

کا مطلب حکومت علیٰ منہاج النبوۃ ہے جس میں تمام احکام اسلامی، قوانین محدود و قصاص وغیرہ جاری ہوں، جن کو مسلم اکثریت والے صوبوں میں قائم کرنا ہے تو:۔
ماشاء اللہ نہایت مبارک اسکیم ہے۔ اس سے دنیا کا کوئی بھی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا۔ کوئی گفتگو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد انگریزی حکومت کی مقاصد برآری کے لئے کوئی ایسی حکومت قائم کرنا ہے جس کو نام مسلم حکومت کا دیا جائے تو میرے نزدیک یہ اسکیم محض بزدلانہ اور سفیہانہ ہے۔"

اسی ضمن میں حضرتؑ کا ایک بڑا اعراض، اختلاف اور خطرے کا اظہار یہ بھی تھا کہ

اگر ہندوستان میں مسلم اقلیت کو غیر مسلم اکثریت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تو ہندو یہاں ہندوستان میں رام راج ہندو راشٹر اور ہندو مذہب کی حکومت قائم کرنے کی تدبیریں کریں گے اور مسلمانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ غیر اسلامی نظریات قبول کریں۔ حضرت کی ایک اور تقریر سنئے :

"بہت سے سادہ لوح مسلمانوں کو یہ دھوکا دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں خالص اسلامی حکومت بطور خلفائے راشدین قائم کی جائے گی۔ یہ خواب تو نہایت شیریں ہے۔ کاش ایسا ہو۔ اگر ذمے داران مسلم ایک اس کا اطمینان دلا دیں تو ہم اراکین جمیعت سب سے پہلے اس آواز پر لبیک کہنے کے لئے تیار ہیں۔ مگر کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کو دین اور مذہب اسلام اور شہادۂ اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ نہ صورت اسلامی ہے نہ سیرت۔ وہ اسلامی حکومت قائم کریں گے اور اس کو بطور خلفائے راشدین چلائیں گے۔ اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو کیا مسلم اقلیت والے صوبوں میں اس کا رد عمل نہ ہوگا کہ وہاں خالص ہندو راج اور رام راج قائم کیا جائے اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کے سامان کر دئے جائیں"۔

ایک خاص اور تاریخی حقیقت اور بھی قابلِ توجہ ہے اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ حضرت ہندوستان میں فرقہ وارانہ تعصب کو ہندوستانی عوام کے لئے زہرِ قاتل سمجھتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی فرقہ پرستی اور تعصب کے خلاف بھی آواز اٹھاتے تھے اور ہندو فرقہ پروری کے خلاف بھی سینہ سپر ہوتے تھے انھیں ہندو فرقہ پرستی سے ایسی عداوت تھی جو شاید سیاسی افراد اور جماعتوں کو نہ ہوگی ملاحظہ ہو :

"مولانا حسین احمد مدنی نے مولانا شوکت علی کو غالباً ۱۹۲۵ء میں حسب ذیل خط لکھا میں آل جناب کی توجہ ایک مسئلہ پر مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ آزادی کا مل ہمارا مذہبی، سیاسی اور وطنی نصب العین ہے اور ہر حیثیت سے ہم کو اس کی کوشش کرنی چاہیئے۔ مگر اسی کے ساتھ ہم اپنے مذہب اور قوم کو فسروری

سمجھتے ہیں۔ بلکہ آزادی کو مذہب و قوم کی وجہ سے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ مذہب برباد ہو جائے اور مسلمان فنا ہو جائیں تو ایسی آزادی سے کیا فائدہ؟ جو مسلمان ہندوستان میں اقلیت میں ہیں اور ہندو اکثریت میں ہیں اور اکثریت بھی غیر معمولی ہے تین اور ایک کی نسبت ہے اور ان کی یہ حالت ہے کہ آج تک ڈاکٹر مونجے ہی فرانس ہے ہیں کہ یہ سرزمین کسی مسلمان یا کسی فرنگی کی سرزمین نہیں ہے پہلا جو بھی راج ہوگا وہ ہندو راج ہوگا۔ مجھے کئی کروڑ ہندو رضا کاروں کی ضرورت ہے۔ اخطیہ صدارت ڈاکٹر مونجے سندھ، جو مظالم آئے دن دفتروں، شہروں اور ریاستوں میں کے جا رہے ہیں اور جس عدم رواداری کا ثبوت حسب تصریح جناب ہندو لیونگانڈھی جی اور نہرو صاحب نے دیا اس کی بنا پر ہم کسی طرح بھی اپنا وطن کے ساتھ متحدہ قومیت کی توقع نہیں کر سکتے۔ بلاشبہ متحدہ قومیت عمدہ اور اعلیٰ چیز ہے اور حصول آزادی کے لئے کارآمد نئے ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہندو اکثریت نہایت تنگ دل ہے اور پھر ہم سے بدتر جا زیادہ منظم اور تعلیم یافتہ ہے۔ تعصب اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس حالت میں اقلیت، بالخصوص مسلم اقلیت کس طرح مطمئن ہو سکتی ہے۔ (حوالہ سیاست ملیہ از محمد امین زبیری، ص ۲۸-۲۷۷)۔

یہ حضرت رحمۃ اللہ کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ اسی مسئلے پر مولانا حفیظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ کی رائے بھی ملاحظہ فرمائیے:

”ظاہر ہے کہ اس مسئلے میں ہندوؤں کی عام ذہنیت ہمیشہ سے تنگ نظری سے طوف ہے اور وہ ناپ تول کی زندگی کے عادی ہونے کی وجہ سے سیاسیات میں بھی سخت تنگ دل واقع ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں قوم پرورد مسلمانوں اور فرقہ پرست مسلمانوں کے درمیان نیز پاکستانی اور غیر پاکستانی مسلمانوں کے درمیان کبھی بھی دو رائیں نہیں رہی ہیں۔“

لے سید صباح الدین عبدالرحمن۔ مولانا محمد علی کی یاد میں۔ ص ۲۷۶

لے مولانا حفیظ الرحمن۔ نظریہ پاکستان پر ایک نظر

تعصب، تنگ نظری اور مسلم دشمنی کے جس جذبے اور ذہن سے فرقہ پرست مسلمانوں کو خطرہ اور اختلافات تھا بالکل وہی شبہات اور اعتراضات حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور قوم پرورد مسلمانوں کو بھی تھے۔ فرق صرف سیاسی مزاج اور مسئلے کے حل کی تدابیر میں تھا۔ حضرت کی رائے یہ تھی کہ سارے ہندو اس ذہنیت سے مسوم نہیں ہیں۔ کچھ افراد، جماعتیں اور گروہ اپنے ذاتی مفادات کے لئے مسلم دشمنی کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ اگر مسلمان بھی یہی ذہنیت اختیار کریں گے تو زہر رگ دپے میں سرایت کرتا چلا جائے گا۔ دوسرے حضرت کی سیاست یہ بھی تھی کہ ہندو مسلم مسائل کا حل نفرت و عداوت میں نہیں مصالحت و مفاہمت میں اور تقسیم و افتراق میں نہیں بلکہ اتحاد و اتفاق میں ہے۔ حضرت کا خیال تھا کہ بزرگمذہب کے مسلمان اگر افتراق و تقسیم کا شکار ہو گئے تو ان کی جڑیں ہل جائیں گی اور متحدہ مربوط رہے تو کبھی کسی دشمن کی یہ مجال نہ ہو سکے گی کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ فرماتے ہیں:

”ہمارا فرض ہے کہ ہم معاملات کو محض ہندو دشمنی ہی کی عینک سے نہ دیکھیں بلکہ پاکستان کے سوال پر سنجیدگی سے غور کر کے فیصلہ کریں کہ کیا یہ پاکستانی حکومتیں ہمارے لئے باعثِ رحمت ہو سکیں گی، اپنے تحفظ کے قابل ہو سکیں گی، اور بین الاقوامی سیاست میں اپنا وقار قائم رکھ سکیں گی یا نہیں؟ دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلم اکثریت کے صوبوں کے لئے باقی زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کر کے ان کو متحدہ ہندوستانی وفاق میں شامل رکھا جائے اور متحدہ ہندوستان کے وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود مملکت اسلامیہ کی اس طرح تنظیم اور اصلاح کی جائے کہ وہ زندہ اور طاقتور قوم بن جائے۔“

اتفاق و اتحاد کا یہ پلان محض زبانی اور ذہنی نظریے تک محدود نہیں تھا بلکہ حضرت نے اس کے دستور کے لئے ایک کانٹٹیٹیوشنل فارمولا پیش کیا تھا جس کو قوم پرورد مسلمانوں نے مدنی فارمولا کے نام سے ملک کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس فارمولے پر ایک اجمالی نظر

لے حضرت مدنی نئی زندگی کتاب دوم، ص ۱۹، جوال شیخ الاسلام ایک سیاسی مطالعہ، ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری

دالنی ضروری ہے مگر اس سے پہلے حضرت مولینا حفظ الرحمن کا تعارف پڑھ لیجئے،

مسلمانوں کے حقوق کے مسئلے میں قوم پرور مسلمان اور جمیۃ علماء ہند
 کبھی ان کی کوتاہیوں سے پیچھے نہیں رہی ہے۔ اور جب کبھی یہ مسئلہ زیر بحث
 آیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایسی تجاویز مرتب کیں۔ جن میں مسلمانوں کی بہتر سے
 بہتر حفاظت ہوتی ہے اور وہ ہندوؤں کے سادھی ہو کر ہندوستان کی حکومت میں
 سادھی حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جمیۃ علماء ہند نے سہارن پور کے ۱۹۴۱ء والے
 فارمولے میں اس وقت کے پیش کردہ سٹرجناح کے مطابقت سے زیادہ بہتر طریقے
 پر مسلمانوں کا معاملہ حل کیا تھا اور آج بھی جمیۃ علماء ہند کا لاہور ریزولیشن مسلمانوں
 کے لئے کیونل اور فرقہ وارانہ نکتہ نظر سے مسلم لیگ کے ریزولیشن (پاکستان) سے
 زیادہ مفید اور بہتر ہے۔ وہ اقوام ملک کے درمیان مذہبی اور قومی منافرت بھی
 نہیں پیدا کرتا اور اجنبی اقتدار کو یہ بھی موقع نہیں دیتا کہ وہ ملک کے حصے بخرے کر کے
 ہمیں اپنے اقتدار و استحکام کا آڈا کار بنائے؟

آخر میں وہ فارمولا بھی دیکھیے جو حضرت نے اور قوم پرور مسلمانوں نے مسئلے کے حل کے
 لئے پیش کیا تھا:

”جمیۃ علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس بعدد اربعہ شیخ الاسلام حضرت مولانا یحییٰ
 احمد صاحب مدنی مدظلہ صدر جمیۃ علماء ہند ۳۱ جنوری ۱۹۴۵ء کو دفتر جمیۃ علماء ہند
 میں منعقد ہوا مجلس عاملہ نے تین دن کی بحث و تمحیص کے بعد ہندوستان کے موجودہ
 جمود و تعطل کو دور کرنے اور مسلمانان ہند کے آئینی درجے کو واضح کرنے کے لئے
 حسب ذیل فیصلہ کیا ہے:

(۱) ہمارا نصب العین آزادی کا مل ہے۔

(ب) وطنی آزادی میں مسلمان آزاد ہوں گے۔ اُن کا مذہب آزاد ہوگا۔ مسلم کلچر اور

تہذیب و ثقافت آزاد ہوگی۔ وہ کسی ایسے آئین کو قبول نہ کریں گے جس کی بنیاد ایسی آزادی پر نہ رکھی گئی ہو۔

(ج) ہم ہندوستان میں صوبوں کی کامل خود مختاری اور آزادی کے حامی ہیں غیر متصرہ اختیارات صوبوں کے ہاتھ میں ہوں گے اور مرکز کو صرف وہی اختیارات ملیں گے جو تمام صوبے متفقہ طور پر مرکز کے حوالے کریں اور جن کا تعلق تمام صوبوں سے یکساں ہو۔

(د) ہمارے نزدیک ہندوستان کے آزاد صوبوں کا وفاق ضروری اور مفید ہے مگر ایسا وفاق اور مرکزیت جس میں اپنی مخصوص ثقافت و تہذیب کی مالک نوکروڈ نفوس پر مشتمل مسلمان قوم کسی عدوی اکثریت کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو، ایک لمحہ کے لئے بھی گوارا نہ ہوگی۔ یعنی مرکزی تشکیل ایسے اصول پر ہونی ضروری ہے کہ مسلمان اپنی مذہبی، سیاسی اور تہذیبی آزادی کی طرف سے مطمئن ہوں۔

وفاق کی تشکیل اس طرح ہو کہ مرکز کی غیر مسلم اکثریت مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی اور تہذیبی حقوق پر اپنی عدوی اکثریت کے بل بوتے پر تعدی نہ کر سکے۔ ایسی تشکیل میں باہمی افہام و تفہیم سے مندرجہ ذیل صورتوں میں سے کسی صورت پر یا ان کے علاوہ کسی ایسی تجویز پر جو باہمی اتفاق سے طے ہو جائے، ممکن ہے۔

(۱) مثلاً مرکزی ایوان کے ممبروں کی تعداد کا تناسب یہ ہو۔ ہندو ۴۵، مسلم ۴۵، دیگر اقلیتیں ۱۰۔

(۲) مرکزی حکومت میں اگر بل یا تجویز کو مسلم ارکان کی بڑا اکثریت اپنے مذہب یا اپنی سیاسی آزادی یا اپنی تہذیب و ثقافت پر مخالفانہ اثر انداز قرار دے تو وہ بل یا تجویز ایوان میں پیش یا پاس نہ ہو سکے گی۔

(۳) ایک ایسا سپریم کورٹ قائم کیا جائے جس میں مسلم و غیر مسلم جوں کی تعداد سادی ہو اور جس کے جوں کا تقویر مسلم و غیر مسلم صوبوں کی سادی تعداد کے ارکان کی کمیٹی کرے۔ یہ سپریم کورٹ مرکز اور صوبوں کے درمیان تنازعات یا صوبوں

کے! یہی تنازعات یا ملک کی قوموں کے اختلافات کا آخری فیصلہ کرے گا۔ نیز تجویز نمبر ۲ کے تحت اگر کسی بل کے مسلمانوں کے خلاف نہ ہونے میں مرکزی اکثریت مسلم ارکان کی ہے اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کرے تو اس کا فیصلہ بہریم کرٹ سے کرایا جائے گا۔

(۴۱) یا کوئی اور تجویز جسے فریقین یا ہی اتفاق سے طے کریں!

یہ حضرت کے پیش کردہ فارمولے کا بنیادی خاکہ ہے۔ بحکم فارمولا اس کی تشریح در تشریح حواشی، بین السطور اور وضاحتوں کے ساتھ مل کر بنتا تھا۔ اب ان تمام تفصیلات و توضیحات سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ اس کے اعادہ کی ضرورت ہے۔ تاہم اتنا تو تاریخی حقیقت کی حیثیت سے باقی ہی رہنا چاہیے کہ تقسیم ملک اور پاکستان کے مقابلے میں حضرت کی تجویز یہ تھی کہ بڑے ہندوستان میں مسلمانوں کی طاقت پارہ پارہ اور ریزہ ریزہ نہ ہونے پائے بلکہ تنظیم، اجتماع اور اصلاحات کے ذریعے اس میں روز افزوں ترقی کی کوششیں تیز تر ہوتی رہیں۔

”ایک مسلم اسکالر (عالم) کی حیثیت سے ان کا کامل یقین تھا کہ قرآن، کلام الہی اور حدیث کے ارشادات اور اعمال کا مجموعہ انسانی زندگی کے ہر در پہلو کے لیے سبکدہ ہدایت و رہنمائی رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب کلی طور پر انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ صرف اعتقادات، عبادات اور اخلاقیات ہی کو اس کے زیر ہدایت نہ برتنا چاہیے بلکہ ان امور کو بھی، جن کا تعلق، سماج، اقتصادیات، سیاسیات اور کلچر کے معاملات سے ہے۔ روحانی اور دنیوی معاملات میں کوئی تضاد نہ ہونا چاہیے۔“

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ سیاسی، مذہبی اور تہذیبی انداز فکر تھا جس کے لیے مسلم لیگ نے حضرت کو تنقید و ملامت، سب و شتم، الزامات و اتہامات اور حملہ و ایذا رسانی کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تفصیل ہم آئندہ صفحات میں پیش کر رہے ہیں۔

لے تاریخ جیتہ علمائے ہند

۵۰ ڈاکٹر تارا چند۔ تاریخ تحریک آزادی ہند، ج ۳، ص ۳۶۴۔ مطبوعہ ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی

حضرت مولانا سید احمد کا وصال

حضرت رحمۃ اللہ کی تعلیم و تربیت پرورش اور پرداخت میں آپ کے بڑے بھائیوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہی صاحبان آپ کو دیوبند لائے۔ انھوں نے ہی شیخ الہند مولانا محمود حسن کی نظر کی میاںے اثر سے بہرہ ور کرایا۔ انہی کے ذریعے قطب الاقطاب مولانا رشید احمد کے دربار تک باریابی ہوئی۔ سو قسمتی سے سب سے بڑے بھائی مولانا صدیق احمد صاحب کا وصال عین عالم جوانی میں بہت پہلے ہو چکا تھا مگر بھائی مولانا سید احمد صاحب ابھی تک بقید حیات اور چھوٹے بھائیوں کے لئے شفقت و محبت کا گہوارہ تھے۔ یہی خاندان کی ہجرت کے محرک اور سبب تھے، انھوں نے مدینہ طیبہ میں خاندان کی ذمے داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر حضرت کو تدریس و خدمات حدیث کے لئے فارغ رکھا تھا اور انہی کی انتھک جدوجہد سے درتہ العلوم الشرعیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ قدرتی طور پر حضرت کو ان سے بہت محبت اور قربت تھی۔ رہتے تو ہندوستان میں تھے مگر ہر ہر قدم پر بڑے بھائی سے مشورہ اور اجازت لے کر ہی کسی کام میں آگے بڑھتے تھے۔ مولانا سید احمد صاحب اپنے طرز کے منفرد انسان تھے۔ عبادت ریاضت خدمت خلق اور تواضع و انکسار کے علاوہ صحیح معنوں میں زاہد انسان تھے اور ایسی زندگی کے نتیجے میں کمزوری اور امراض کا شکار رہتے تھے۔ انہی حالات میں ناسازگار واقعات اور حادثات بھی پیش آتے رہے اور مولانا کا کمزور جسم بیماریوں کی آماجگاہ بنتا گیا۔ آخر کار اگست ۱۹۴۲ء میں آخری بیماری قلب کے عوارض کا حملہ ہوا۔ اُس زمانے میں مدینہ طیبہ ایک محدود سی بستی تھی اور اس میں طبی و ڈاکٹری سہولتیں بھی محدود ہی تھیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھائی کی بیماری اور اس کی تفصیلات کی اطلاع ملی تو بے چین ہو گئے اور فوراً مدینہ طیبہ روانگی کا ارادہ کیا مگر اس زمانے کے سفر میں اور پھر غیر ملکوں کے سمندر پار سفر میں آج کی طرح آسانیاں نہیں تھیں۔ ایک دو ماہ تو انتظامات اور کارروائیوں ہی کی نذر ہو گئے۔ مولانا سید احمد صاحب بھائی سے ملاقات کے لئے

قیاب تھے۔ خط پہ خط اور تار پہ تار آرہے تھے۔ ایک شکل یہ بھی تھی کہ مہینوں میں خط اور ہندہ میں دن بعد تار پہنچتے تھے۔ غرض روانہ ہوتے ہوتے سوال کا مہینہ آگیا اور حضرت اپنے خاندان کے ساتھ آخر سوال ہی میں مازم سفر ہو سکے۔ ابھی کراچی ہی تک پہنچے تھے کہ اطلاع ملی کہ بھائی حسرت ملاقات دل ہی میں لئے راہی ملک بقا ہو گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ دل پر جو گزری ہوگی وہ تو گزری ہی مگر سفر جاری رہا۔ یہ بھی حضرت کا مخصوص مزاج اور ذوق تھا کہ شدتیں اور کلفتیں روزمرہ کے معمولات و طمانیت میں کوئی تبدیلی یا نخل نہیں پیدا کر سکتی تھیں۔ اس سفر کی مختصر سی روداد حضرت ہی کے قلم سے ملاحظہ ہو :

• میں ۴ ذیقعدہ کو جدہ پہنچا۔ کراچی سے عزیزم محمود کو تار دے چکا تھا۔ وہ اسی روز اپنی موٹر لاری لے کر جدہ پہنچ گئے اور کوشش کی کہ مجھ کو سٹ مارکو کے کوشاں دماجیوں کے ٹیکس سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ یہ امر اس بنا پر مقبولیت کو پہنچ گیا کہ میں عرصہ دراز تک مدینہ منورہ میں رہ چکا ہوں۔ اگلے روز یعنی ۵ ذیقعدہ کو ہم مدینہ منورہ اسی لاری میں روانہ ہو گئے۔ ۸ روزی الحج تک مدینہ منورہ میں قیام رہا۔ ۸ روزی الحج کو شب میں مکہ معظمہ پہنچا ہوا۔ ۱۰ روزی الحج کو مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر ۱۲ روزی الحج کو جدہ سے روانگی ہوئی آج تاریخ ۲۸ روزی الحج بخیر دعائیت سب کراچی پہنچ گئے۔

مالا سے رہائی کے بعد یہ حضرت کا دوسرا حج تھا اور اس میں مدینہ طیبہ کے رفیق اور شاگرد رشید مولانا عبدالمتی صاحب مدنی مع اپنے خاندان کے شریک سفر تھے۔ اس سفر کی ایک خصوصیت قابل ذکر ہے کہ حضرت کے دل پر اس دوران بڑا جانگاہ حد مرگزا مگر جیسا کہ مذکورہ بالا تحریر سے واضح ہے کہ سفر کے دوران یا واپسی کے بعد تحریر بیان تذکرہ یا پرسش احوال کے جواب میں اس سنج و غم 'عدم ملاقات یا حادثہ کا ادنیٰ اشارہ اور اظہار کسی سے کبھی نہیں فرمایا۔ پچھلے صفحات میں مولانا سید احمد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ گزر چکا ہے۔ اسکنہم اللہ فیہم جنتہ۔

آل انڈیا جمعیتہ کا نفرنس کی صدارت

دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریاں روز بروز بھیاں تک تر ہوتی جا رہی تھیں۔ دنیا کے سارے ہی ملک موت کے دہانے پر کھڑے تھے۔ بڑی سلطنتیں برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی وغیرہ صدیوں کی ترقی یافتہ، آزاد اور مال دار حکومتیں تھیں بڑی بڑی جنگوں اور حملوں کو آسانی سے برداشت کر کے بھی اپنی جگہوں پر ثابت قدم تھیں ان کے مقابلے میں ہندوستان گذشتہ سو سال سے غلامی بیگار، افلاس اور استحصال بالجبر کے غلاب بہتے بہتے زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ اب اچانک جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آیا تو اس کی ہڈیوں میں گودا تک گھل گیا۔ گاڑھے خون پینے کی آگلی ہوئی پیداوار، چھاتی سے نکلی ہوئی معذنیات، اپنے مویشی چوپائے پر نر پرند اور انسان و حیوان، بھرد و کراہ دوسروں کے لئے قربان ہوتے دیکھ رہا تھا اور آہ تک کرنے سے مجبور تھا۔ کانگریس اور حریت پسند جماعتوں کے لیڈر جیل خانوں میں بند تھے۔ بھاشا چندر بوس سابق صدر کانگریس ملک بدر اور روپوش تھے۔ رنگون انگریزوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ کلکتہ جاپانیوں کی توپوں کے دہانے پر تھا۔ جاپانی ہوائی جہاز کلکتہ کے قریب تک آ کر داؤ لگا رہے تھے کہ بسم اللہ کہاں سے شروع کی جائے۔ رنگون کے بعد یہاں بھی بس صبح دشام لگی ہوئی تھی۔ کانگریس نے جنگ کے بارے میں برطانیہ کی حمایت سے صاف انکار کر کے اس کے خلاف کوٹ انڈیا کی تحریک کا ارادہ کر لیا تھا۔ مگر مسلم لیگ نے برطانیہ کی مکمل حمایت اور ممکنہ خدمات کا وعدہ کر لیا تھا۔ "مسلم لیگ درکنگ کمیٹی نے اپنے اجلاس میں قائد اعظم کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ حالات کا مطالعہ کر کے حکومت برطانیہ کو یقین دلا دیں کہ مسلمان ہند اہتمام جنگ میں برطانیہ کی تائید اور اس کے ساتھ تعاون کریں گے" مسلم لیگ

کا یہ اعلان اور وفاداری کی یقین دہانی واقعہ کے مطابق نہ تھی۔ مسلمان برطانیہ کی تائید اور تعاون کے لئے تیار نہ تھے۔ ان مسلم لیگ کی یہی پالیسی تھی اور اس نے حق خدمت ادا کرنے میں پوری کوششیں صرف کیں۔ مسلم لیگ کو برطانیہ کی مکمل سرپرستی اور خوشنودی حاصل رہی لیکن حریت پسند جماعتوں اور افراد پر برطانیہ کے شدائد اور مظالم اور مقابلے میں ان کا عدم تعاون روز بروز فروں ہوتا گیا۔ حکومت برطانیہ نے دیکھا کہ ٹھکی بھر شرپرستوں کی تائید سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو ۱۹۴۲ء کو برطانیہ کے وزیر اعظم مسٹر چرچل نے اعلان کیا کہ سر اسٹیفورڈ کریپس کی سرکردگی میں برطانیہ کا ایک وفد ہندوستانی لیڈروں سے گفتگو کرنے کے لئے ہندوستان جانے والا ہے۔ ان حالات اور ایسی فضا میں جمعیت علماء ہند نے اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا کہ جنگ کے دوران ہندوستانی عوام کے الجھے ہوئے مسائل اور دھندلا ہوئے مستقبل کے بارے میں مسلمانوں کے موقف اور پالیسی کا اعلان کر سکے۔ چنانچہ ۲۰ مہر ۱۹۴۲ء کو جمعیت علماء ہند کا سالانہ اجلاس بصدارت حضرت شیخ الاسلام جانشین شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی لاہور میں منعقد ہوا۔ جمعیت علماء کا اجلاس؛ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت اور وہ بھی لاہور میں؛ جو حضرت رحمۃ اللہ کے مخالفین و معاندین کا مرکز تھا۔ یہیں ڈاکٹر اقبال رہتے تھے جنھوں نے ابھی حضرت کی مخالفت میں ہجو لکھی تھی۔ یہیں پاکستان کی تجویز پیش اور پاس کی گئی تھی۔ بڑی دھمکیاں دی گئیں کہ خیریت چاہتے ہیں تو یہاں قدم نہ رکھیں۔ بڑا شور اٹھا کہ جان کا خطرہ ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی پوری تیاری تھی کہ جنگ کے بارے میں برطانیہ کے خلاف ایک لفظ نہ بول پائیں مگر حضرت ان تمام خطرات سے بالکل بے خبر تھے یہ ان کی عادت اور طبیعت تھی کہ ایک ایک لمحہ اپنے مقاصد اور ممولات میں بہر تن مشغول رہتے تھے۔ تنقید، تبصرہ، مخالفت، عداوت وغیرہ کی طرف نہ صرف یہ کہ ادنیٰ توجہ نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے بالکل لاعلم رہتے تھے۔ اِذَا هُمُ الْفَتَىٰ بَيْنَ عَيْنَيْهِ هُمَةٌ وَنَكَبٌ عَنِ نَكَرِ الْعَوَابِ جانبا۔ چنانچہ اجلاس کے مقررہ وقت پر مزاجی شان استغناء بے خوفی اور بے جگری کے ساتھ لاہور میں رونق افروز ہو گئے۔ یہ تفصیل مولانا محمد میاں کی زبانی سنئے :

”اجلاس کے لئے شہر لاہور طے کیا گیا تھا جہاں چند روز مسلم لیگ کا اجلاس

عام ہو چکا تھا۔ اور گویا لاہور کے درو دیوار میں جمیہ علماء سے مخالفت کے کانٹے پھوپھو چکا تھا۔ مسلمہ قومیت اور اقبال مرحوم کے اشعار مخالفین کے ہاتھ میں تھے اور جگہ جگہ سڑکوں، گلیوں اور چوراہوں پر اشتعال انگیز زہریلے پوسٹر چسپاں تھے مگر خطرات و خدشات سے بھرے ہوئے شہر میں صدارت کے لئے وہ شیردل رہنا مستحب ہو چکا تھا جو خندہ پیشانی اور مکر اتے ہوئے چہرے کے ساتھ سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کا عادی تھا۔

خطبہ صدارت شروع ہی ہوا تھا کہ پنڈال کی ایک جانب سے پاکستان زنا بادی کے نعرے بلند ہونے لگے۔ جلسے کا بڑا حصہ درہم برہم ہو گیا اور اضطراب و انتشار کی لہر پنڈال کو تروبالا کرتی ہوئی اسٹیج تک پہنچی۔ مگر بہادر صدر بدستور اپنی جگہ پر خطبہ دے رہا تھا۔

صدر کے استقصال نے پورے مجمع کو استقصال و استقامت کی دعوت دی اور چند منٹ بعد ہیجان و اضطراب کی جگہ متانت اور سکون نے لے لی۔ پورے پنڈال پر خاموشی چھا گئی اور اطمینان کے ساتھ خطبہ صدارت جاری رہا۔

حضرت نے اپنے خطبے میں سب سے پہلے قرآن و حدیث اور تاریخ عالم کے حوالوں سے اسلام کی ہمہ گیری، اسلامی نظام اور فیوض و برکات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

”خدائی نظام یقیناً ہر قسم کے غل و غش اور تمام آلائشوں سے پاک ہوگا۔ اس میں اغراض پرستی اور دوسروں کی اہانت و تذلیل کا شائبہ بھی نہ ہوگا۔ اس کے نظام میں حقیقی جمہوریت و شورایت پائی جاتی ہے۔ اس میں ہر فرد انسانی سے وہ محبت و اُلفت بھری ہوگی جو کہ ان کے مال باپ اور عزیز و اقارب میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اس میں کسی سے دشمنی و رقابت وغیرہ نہ ہوگی۔ اس میں اچھوت

برہن اور شور و اید اور شیخ بڑی ذات چھوٹی ذات وغیرہ کی کوئی تمیز نہ ہوگی ہاں فرق اس قدر ضرور ہوگا کہ نظام میں داخل ہونے والے مطیع و فرمان بردار مستحق اعزاز و اکرام اور نظام سے گریز کرنے والے باغی و نافرمان خواہ وہ کسی بھی نسل اور قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس میں کسی جماعت یا قوم پر ظلم و تعدی گوارا نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یجب الظلمین دهن ینظلم منکم مذتہ عذاباً کبیراً۔

اس کے برخلاف انسانوں کا بنایا ہوا نظام خواہ شخصی ہو یا اجتماعی 'نوبی ہو ایسا ہی اقتصادی ہو یا تجارتی 'حکمار و فلاسفہ کا بنایا ہوا ہو یا ارباب حکومت و سیاست کا 'اگر خداوندی نظام کے زیر سایہ نہ ہوگا اور اس کی روشنی سے استفادہ نہ ہوگا تو اس میں ایسی خامیاں اور خود غرضیاں ہوں گی جن سے ہر قسم کے فتنہ و فساد، ظلم و عناد، ہلاکت و بربادی کا نشوونما ہوگا۔ خواہ وہ نازی ازم ہو یا اشتونیزم 'نیشنل ازم ہو یا سوشل ازم 'ناسٹنزم ہو یا کوئی بھی ازم ہو۔ میرے مختصرم بزرگو! آج اسلام ازم ہی وہ خداوندی نظام ہے جس میں حقیقی جمہوریت اور کچی آمریت کو باحسن و جہ جمع کر دیا گیا ہے اور جس میں ہر فرد و بشر کے ساتھ انصاف و عدالت کی تاکید کی گئی ہے۔

و اذا حکمتم بین الناس ان تحکوا بالعدل۔ (سورہ نساء)	لوگوں کے معاملات میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔
یا ایہا الذین آمنوا کوذوا قرابین	ایمان والو! عدل و انصاف کا ساتھ
للہ شہداء بالقسط و لا یجبر منکم شیئان قوم علی الا تعدلو اعدلوا لہر اقرب للتعوی۔ (انہ)	دینے والے تیار رہو۔ تعصب اور دشمنی کی بنا پر انصاف کا دامن ہرگز نہ چھوڑو۔ ہمیشہ انصاف ہی کرو۔ یہی تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔
ان آیتوں میں عدل و انصاف کا حکم صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں ہوئے زمین	

کے تمام انسانوں کے لئے ہے اور یہ حکم ہے کہ تعصب اور دشمنی کی وجہ سے کسی قوم کے ساتھ عدل و انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہئے۔ سچی بات کو ہرگز نہ چھپایا جائے اور اغراض کا بندہ نہ ہونا چاہیے۔" لہ

اس ذیل میں بڑی طویل بحث فرماتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ دنیا کے مصائب و آلام کا حل شریعت اسلامیہ کا نفاذ اور اصل نظام مملکت حکومت الہیہ کا قیام ہی ہو سکتا ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل سے واضح کیا کہ کسی قوم، کسی گروہ اور کسی جماعت کے لئے دشمنی اور عناد کو دل میں جگہ نہ دی جائے اور عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑا جائے۔

یاد کر لیجئے کہ حضرت ہندوستانی قومیت کے حامی اور متحدہ قومیت کے طرفدار تھے اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اس پالیسی کو وہ اچھے کلمہ اللہ اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ کا صرف ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔

اس کے بعد خطبے میں جنگ عظیم دوم کی ہولناکیوں اور تباہیوں کے ساتھ حضرت نے جنگ کے باب میں جمیہ علماء ہند کی پالیسی کا تذکرہ فرمایا:

"اسلام نے صرف خاص حالات میں اور خاص خاص شرائط کے ساتھ اجتماعی مقاصد کے لئے جنگ کی اجازت دی ہے۔ اگر کسی جدوجہد کے نتیجے میں خدا کی ایک فرماں بردار ملت کو دنیا کے کسی حصے میں خدائی احکام کے مطابق یا اس سے قریب تر کوئی اجتماعی نظام قائم کرنے کے مواقع حاصل کرنے ہوں تو اس کو اسلام کی تائید حاصل ہو سکتی ہے اور صرف اسی جدوجہد کو اسلام نے جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا ہے اس کے بعد اگر کسی جنگ کا نتیجہ ایسی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے کہ حتیٰ کی راہ میں مزید مشکلات پیدا ہو جائیں اور حتیٰ پرستوں کی پابندی اور مجبوریوں میں مزید اضافہ ہو جائے تو اسلام کی شرعی زبان میں اس کو محض قتال فی سبیل الطاغوت کہا گیا ہے اس لئے جس وقت موجودہ جنگ کے

سلی مقاصد کا اعلان کیا گیا تو مجیہ علماء ہند نے مذہبی اور سیاسی نکتہ نظر سے ان کا جائزہ لیا اور اکتوبر ۱۹۳۱ء میں ایک مفصل تجویز کے ذریعے پوری جسرات و بیباکی کے ساتھ اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ (کہ موجودہ جنگ میں شرکت کے لئے ہندوستان کسی حالت میں تیار نہیں ہے) اور اب تک نہایت مضبوطی کے ساتھ اپنے اس فیصلے پر قائم ہے۔

اس وقت کی ہندوستانی سیاست کے یہ اہم مسائل تھے جن کے بارے میں حضرت نے تاریخی جرات اور بے باکی کے ساتھ اپنا اور اپنی جماعت کے موقف کا پوری وضاحت اور دلائل کے ساتھ اعلان فرمایا کہ حکومت الہیہ کے علاوہ کوئی نظام انسانی سائل کامل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے کسی ملک کسی قوم اور کسی فرد کے ساتھ عناد و دشمنی کر کے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور موجودہ جنگ عظیم دوم میں برطانیہ کی حمایت و نصرت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔

اس کے بعد خطبے میں برطانیہ اور برطانوی حکومت کے سامراجی مزاج اور پالیسی کا تذکرہ ہے جس میں بڑے تفصیلی حوالے اور اقتباسات پیش کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ برطانیہ ہندوستان کے ساتھ غیر منصفانہ اور استعمالیہ بالآخر کا معاملہ کر رہا ہے اور یہی اس کا مقصد ہے۔ حکومت کی اس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستانیوں کو آزادی کی راہ میں ہر قسم کی قربانی اور جدوجہد کے لئے میدان میں صف آرا ہو جانا چاہیے۔ پھر حضرت نے ہندوستان کے روایتی اور قدیم اتفاق و اتحاد کا تذکرہ کرتے ہوئے حوالوں کے ساتھ یہ حقیقت ثابت کی کہ ماضی میں ہندوستان میں مختلف طاقتوں اور ریاستوں کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں، جنگیں بھی ہوئیں مگر مذہبی عداوت و نفرت کبھی نہیں رہی اور عدلوں تک تمام ہندوستانی اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہتے رہے مگر برطانوی سیاست نے اپنا اقتدار قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لئے ان میں انفرق و عناد پیدا کیا اور

اس طرح اپنے اقتدار کی مدت دراز تر کر رہے ہیں۔ اس تفصیل کے بعد حضرت نے اپنی اس رائے کا اظہار فرمایا ہے کہ جداگانہ انتخاب مسلمانوں کے لئے مضر ہے اور اس سے ان کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جمہوری اور نیابتی طرز حکومت میں مخلوط انتخاب ہی پیچک کے درمیان رابطہ اتفاق و اتحاد قائم رکھ سکتا ہے۔ ایک خاص نکتہ اس موقع پر قابل توجہ ہے کہ حضرت نے مخلوط انتخاب کی تائید اسی صورت میں کی ہے جب حکومت جمہوری اور نیابتی طرز کی ہو۔ یہ بالکل علیحدہ بات تھی کہ حضرت سمجھتے تھے کہ بصورت موجودہ ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت کے سوا کسی طرز حکومت کی تائید نہیں کی جاسکتی۔

اس کے بعد حضرت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان ہندوستان میں کوئی سیاسی اقلیت نہیں ہیں، یہ ایک سیاسی حملہ ہے جو مسلمانوں پر انگریزوں اور قوموں کی صفوں سے کیا جا رہا ہے کہ انھیں اقلیت شمار کیا جاتا ہے۔ خود مسلمان بھی اس فریب میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ہندوستان کی تعمیر کا لازمی عنصر ہیں۔ ملک کے استحکام میں ان کا حصہ دوسروں سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں ان کی تعداد لگ بھگ دس کروڑ ہے۔ ”وہ یہاں پوری آزادی اور پوری تہذیبی و ثقافتی برتری کے ساتھ زندہ رہیں گے اور غیر کی غلامی پر عزت کی موت کو ترجیح دیں گے“ لے

آخر میں آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی مقام کے بارے میں تین نظریات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ مسلمان اکثریت کے ماتحت اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہیں۔ اس کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ یہ محض ایک خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعمیر نہ ہوگا۔ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے لئے فوری اور مفید تر بات یہ ہے کہ اس بات کو جلد از جلد دماغوں سے نکال دیا جائے۔

دوسرے نظریے کا تفصیلی تذکرہ کر کے حضرت نے کہا کہ یہ طبقہ اکثریت کے تصور اور اس کے عواقب و نتائج سے گھبرا کر تقسیم ہند اور اقلیت کے لئے علیحدہ ہوم لینڈ کا مطالبہ

کر رہا ہے اس میں بہت سے اشکالات اور خطرات ہیں۔ مسلمانوں کی وحدت منتشر ہو جائے گی اور ان کی طاقت پارہ پارہ ہو جائے گی۔ تیسرے گروہ کا نظریہ ہے کہ سارے صوبے ایک وفاق اور مرکز کے ماتحت ہوں۔ مگر مرکز کے اختیارات محدود ہوں اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل ہوں۔

حضرت کی سیاسی زندگی اور نظریہ اس خطبے میں بڑے جات اور مانع طریقے سے منعکس ہے۔ بڑے تفصیلی مضامین اور ایک عصر کی تاریخ اس مختصر خطبے میں پہنچا ہے پھر بھی ہمارے لئے یہ مشکل ہے کہ ۴۵ نل سیکپ سائز کا یہ مضمون ان صفحات میں نقل کر سکیں اس کے لئے ناظرین کو حضرت کے خطبات کی اشاعت کا انتظار کرنا پڑے گا۔

الہ آباد جیل

۱۹۴۲ء - ۱۹۴۴ء

سیاسی تحریک اور آزادی کی جدوجہد شباب پر پہنچ رہی تھی۔ برطانیہ کے قدم ڈانگنا رہے تھے۔ باہر سے جرمنی اور ہٹلر کا ریلنا بڑھتا ہی آ رہا تھا۔ جاپان آندھی طوفان کی طرح چڑھتا آ رہا تھا اور ملک کے اندر مہینوں سے بغاوت کی تیاریاں تیزی پر تھیں۔ عوام نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ مکمل اور غیر مشروط آزادی سے کم کسی قیمت پر ہندوستان جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ان حالات سے گھبرا کر سراسیمگی کے عالم میں گورنمنٹ نے ملک کے لیڈروں کی گرفتاری شروع کر دی تھی۔ اسی ضمن میں مہینوں سے حضرت کی گرفتاری کی خبریں بھی آ رہی تھیں مگر حضرت کی سرگرمیوں اور حکومت کے خلاف جدوجہد میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ تقریریں، تحریریں، پکار اور للکاریں پورے جوش و خروش اور عزم و ہمت کے ساتھ جاری تھیں۔ اسی درمیان ۲۵ اپریل ۱۹۴۲ء کو مراد آباد کے قصبہ پچھراؤں میں ضلع جیتہ علماء کی کانفرنس ہوئی۔ اس میں تقریر کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ ملک کے مختلف فرقوں کے درمیان اتحاد ہی ایک ایسا حربہ ہے جس کے ذریعے ہمیں طوق غلامی سے آزادی مل سکتی ہے۔ برطانیہ کی نا انصافیوں اور مظالم کا تذکرہ کیا اور خود انگریز موزین اور مدبرین کے حوالوں اور مقالوں سے ان پر دلیلیں قائم کیں۔ یہی مضامین آپ ہمیشہ بیان فرمایا کرتے تھے مگر اس بار حکومت گرفتاری کی گھات میں تھی۔ چنانچہ اسی تقریر کی بنا پر گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مگر حکومت کراچی کے مقدمہ کے موقع پر گرفتاری کا ماحول اور دشواریاں ابھی بھولی نہ تھی۔ اس لئے ایسے انتظامات کئے گئے کہ کسی کو کانوں کان گرفتاری کی خبر نہ ہونے پائی۔ ۲۴ جون ۱۹۴۲ء کی رات کو ایک بچے صاحب پنجاب کی ایک اتحاد کانفرنس میں شرکت کے لئے حضرت دیوبند سے جھنگ کے لئے روانہ ہوئے۔ گاڑی تیسرے اسٹیشن پر پہنچی تھی کہ پولیس آفیسر وارنٹ لئے ہوئے ڈبے میں

داخل ہوا اور جب گاڑی چل پڑی تو وارنٹ پیش کر دیا۔ اگلے اٹیشن سہارن پور پر حضرت کو اتار لیا گیا اور پہلی ٹرین سے مراد آباد پہنچا دیا گیا۔ یہ خبر عام ہوئی تو منکرات، احتجاجات اور اجتماعات کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ گاڈوں گاڈوں اور شہر شہر لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ نعرہ تکبیر انقلاب اور آزادی کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ جلوس نکلے، جلسے ہوئے، تجویزیں آئیں، تفسیریں ہوئیں غرض مہینوں تک گورنمنٹ کی نیندیں حرام رہیں۔ ان تمام سرگرمیوں سے حضرت رہا تو نہ ہو سکے اور نہ ملک فوری طور پر آزاد ہوا۔ مگر جذبہ آزادی کی لہریں دسوں بیسوں گنا اونچی اٹھ گئیں۔ اُس وقت کے مشہور اور مقبول انقلابی شاعر علامہ انور صابری کا ایک قطعہ آج تک کانوں میں گونج رہا ہے:

غلام آباد میں کیسا فائدہ بے کیف جینے کا
 خدا شاہد ہے اب صحن چمن بھاتا نہیں جب تک
 جینا ہے سلیقے کا نہ مرنا ہے قرینے کا
 قفس میں ہے مراد آباد کے بلبل دینے کا

موقع کی مناسبت، دلوں کی درد انگیزی، شاعرانہ فن کاری اور اس پر علامہ صاحب کی کھنکھاتی ہوئی پُرسوز آواز۔ اشعار سن کر ایک عظیم الشان مجمع میں لوگوں کی جھینجھکیں نکل گئیں۔ مراد آباد جیل میں حکومت نے حضرت پر مقدمہ چلایا۔ حافظ محمد ابراہیم جو آزادی کے بعد تاجر وزیر رہے، ان کی سرکردگی میں وکیلوں اور بیرسٹروں کے ایک پینل نے پیروی کی۔ یہ سب لوگ بڑے بیدار منہ اور قابل قانون والے تھے۔ گورنمنٹ کا دعویٰ بے جان تھا۔ جب سی آئی ڈی انسپکٹر محمود نے حلیفہ بیان کے بعد مقدمہ پیش کیا اور فاضل دیکھ کر نے بحث کرتے ہوئے سوالات قائم کئے تو حکومت کے وکیلوں اور گواہوں کے پھکے چھوٹ گئے۔ ادھر حضرت نے خود جو بیان برسر عدالت دیا وہ بھی اس قدر مدلل، مضبوط اور مسکت تھا کہ راتوں رات یہ خبر عام ہو گئی کہ حقائق کے پیش نظر خود جج کا ردحان یہ ہے کہ سزا نہیں ہو سکتی۔ بہتر ہے کہ ایک اچھٹی سی نظر حضرت کے بیان پر ڈالے چلیں:

”ہر شخص کو اپنے وطن سے قدرتی طور پر سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو مجھ کو بھی ہے۔ تاریخ، جغرافیہ اور علم دین کے مطالعے، ہندوستان کے باہر آزاد ملکوں میں قیام اور غیر ملکی شخصیات سے تبادلہ خیالات کے نتیجے میں اپنے وطن کی قدر و منزلت اور محبت میرے دل میں دن بدن فروز تر ہوتی چلی گئی۔ مالٹا کی

قید نے حریت پسندی اور آزادی کے جذبات میں ہمیشہ بہا اضافہ کیا۔ میں جب انڈیا واپس آیا اور میں نے اپنے وطن کو جلیاں والا باغ، رولٹ ایکٹ اور مارشل لا ایکٹ میں جکڑا ہوا پایا تو میرا دل غلامی اور غیر ملکی حکومت کے ظلمتِ نفسرت سے بھر گیا اور میں نے نان کو آپریشن اور نان والٹنس کی بنیادوں پر آزادی کے لئے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ میرا عقیدہ ہے کہ جس طرح انگریز، فرانسیسی، جرمن، جاپانی امریکن اور دنیا کی ہر قوم کو پیدائشی بنیاد پر آزاد رہنے کا حق ہے اسی طرح آزادی ہندوستان اور ہندوستانیوں کا پیدائشی حق ہے۔ اسی آزادی کی تبلیغ میں نے بھڑاؤں کے اس جلسے میں کی تھی جس کی رپورٹ گورنمنٹ کو غلط طریقے سے پیش کی گئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ موجودہ جنگِ عظیم کے نتیجے میں اور برطانوی حکومت کی خود غرضانہ اور غلط پالیسیوں کے سبب ہندوستان تباہی، فلاکت اور ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ باتیں تخمینی اندازوں اور بے بنیاد دعویٰ کی بنیاد پر نہیں کہی تھیں، میرے پاس اس کے دلائل اور تاریخی شہادتیں موجود ہیں۔ اپنے وطن کی محبت، آزادی وطن کی تمنا اور اس کی جدوجہد میں میں کسی ہندوستانی سے پیچھے نہیں ہوں۔ مذکورہ ایسج ملک کو متحد، منظم اور پُر امن رکھنے کے لئے دی گئی تھی۔ اس کو وہی لوگ قابل اعتراض کہہ سکتے ہیں جو ہندوستان میں ہمیشہ اختلاف و خناد باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ میں اتحاد کا فرض ہی میں شرکت کے لئے جھنگ جا رہا تھا مگر تعجب کی بات ہے کہ حکومت کو اس اتحاد کی کوشش سے اختلاف ہوا ناضل بمسٹریٹ نے میری تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے مجھ سے کہا ہے کہ

آپ کی تقریر کے شروع حصے میں ایسے جملے استعمال کر گئے ہیں جن سے خیال ہوتا ہے کہ انگریزی سرکار ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا سبب ہے اور آپ کی پوری تقریر سے انگریزی سرکار کی طرف سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے اور میرے پاس اس کے دلائل موجود ہیں۔

(تلمیحیں) الجلیتہ شیخ الاسلام نمبر مطبوعہ مکتبہ مدینہ۔ بانجھانپورہ۔ گوبرانوالہ

اس بیان میں جرات اے باکی، کلمۃ الحق عند سلطان جابر کے عناصر بیان سے ظاہر ہیں مگر ان کے علاوہ اس میں قانونی حیثیت سے ایسے مضبوط دلائل موجود تھے کہ بیج اور جوہر بیجی متاثر اور قابل نظر آئے، مگر مقدمہ کا یہ سلسلہ تو محض خانہ پُرسی کے لئے تھا۔ گورنمنٹ سزاکا فیصلہ مقدمہ سے پہلے کر چکی تھی۔ چنانچہ اسپیشل مجسٹریٹ درجہ اول مسٹر سروا استو کو ۶ ماہ قید باسقت اور پانچ سو روپے جرمانہ کا حکم سنانا ہی پڑا۔ مگر تاہم اس نے جیل میں حضرت کو اے کلاس میں رکھے جانے کی ہدایت کی۔ عام حالات میں تو اس سزاکا صحت اتنی سی حیثیت تھی کہ ہائی کورٹ میں اپیل کر کے ضمانت پر رہا کر لیا جائے اور اپیل میں رہائی ہو جائے۔ مگر اس مقدمہ میں جہاں صحت گورنمنٹ ہی نہیں برطانوی سامراج کی پالیسی مدعی ہو اور دعا علیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسا علمبردار جہاد ہو ان آسانیوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ فیصلے کے فوراً بعد مسٹر کٹ مجسٹریٹ نے بیج کو خبردار کر دیا کہ اگر تم نے گورنمنٹ برطانیہ کے ایسے خطرناک دشمن کی ضمانت منظور کرنی تو گورنمنٹ فوراً ان کو ڈیفنس آف انڈیا رولز کی دفعہ ۱۲۹ کے ماتحت گرفتار کر لے گی۔ گورنمنٹ کی پالیسی تو واضح ہی تھی مگر جماعت نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ گورنمنٹ کو گھر تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ چنانچہ اپیل دائر کی گئی اور ۲۹ جولائی ۱۹۴۲ء کو آصف علی بیرسٹر مرحوم مقدمہ کی پیردی کے لئے دہلی سے تشریف لائے۔ موصوف تحریک آزادی کے صیف اول کے رہنماؤں میں تو تھے ہی حضرت سے اخلاص اور ارادت بھی رکھتے تھے۔ مقدمہ کی پیشی ہوئی تو سلسل چار گھنٹے تک ایسی مدلل، مکمل اور قانونی بحث کی کہ حکومت کے سارے دعوؤں کے تار و پود ہوا میں بکھر گئے۔ مقدمہ کا ڈھنگ اور عدالت کا رنگ دیکھتے ہوئے عوام کو خیال ہوا کہ آج نہیں تو انگریزی پیشی پر تو ضرور ہی رہائی ہو جائے گی۔ بیج نے بھی فیصلے کے لئے ۱۳ اگست کی تاریخ دے دی۔ مگر اس تاریخ سے پہلے ہی کورٹ انڈیا والی مشہور تحریک شہسودت ہو گئی۔ یہ بڑی یادگار اور فیصلہ کن تحریک تھی۔ یہی وہ نعرہ تھا جس نے برطانیہ کے قدموں کو ہندوستان سے ہمیشہ کے لئے اکھاڑ دیا۔ ۱۹۴۲ء کو ہندوستان کا بچہ بچہ مادر وطن کے قدموں میں جان کا نذرانہ کرنے حاضر ہو گیا۔ ان یادگار لمحات کی ایک آنکھوں دیکھی بھلک ملاحظہ کیجئے،

۸ اگست ۱۹۴۲ء کو بمبئی میں امام الہند مولانا آزاد کی صدارت میں کانگریس

کا تاریخی اجلاس شروع ہوا اور مردانہ جرات و ہمت کے ساتھ کونٹ انڈیا کی تجویز بالاتفاق منظور کی گئی۔ گاندھی جی اور پنڈت نہرو کی تقریروں اور مولینا کے خطبے نے دلوں کو جوش و جذبے سے سمور کر دیا۔ برطانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور فوراً کانگریس کو غیر قانونی جماعت قرار دے دیا گیا۔ پنڈت جواہر لال کی تقریر اس قدر جوش و جذبات سے پڑھی کہ عوام کو اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ آدھی رات کے بعد کارروائی دوسری صبح کے لئے ملتوی ہو گئی۔ صبح سے پہلے ہی حکومت نے ٹیلیفون کے کنکشن کاٹ دئے اور کانگریس کے مولینا آزاد گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور درکنگ کمیٹی کے سارے ممبروں کو گرفتار کر لیا۔

عوام نے حکومت کے دفتروں، ڈاک خانوں، اسٹیشنوں، تھانوں اور تحصیلوں پر دھاوا بول دیا۔ کچھریاں لوٹ لیں، عدالتوں میں آگ لگادی، ریل کی پٹریاں اکھاڑ دیں، مال گاڑیاں روک لیں، پل توڑ ڈالے، لوگ کفن باندھ کر گھروں سے نکلتے تھے اور لاشیں واپس آتی تھیں۔ جلوس نکلتے تھے، نعرے بلند ہوتے تھے انقلاب زندہ باد، شہ زندہ باد۔ حکومت جلوس روکتی تھی اور رائفلیں آگ لگاتی تھیں۔ وطن کی دھرتی تازہ اور لال خون سے مالامال ہو رہی تھی۔ اب حضرت کی رہائی اور مقدمہ کی کارروائی کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ ملک کے سارے لیڈران کے ساتھ حضرت پرڈیفنس آف انڈیا ایکٹ جاری ہوا۔ ادھر جمیٹہ علماء اور کانگریس کے لیڈر قیدیوں کی نئی کھیپ مولنا حفظ الرحمن، حافظ محمد ابراہیم وغیرہ جیل میں پہنچ گئے۔ اور جنگل میں منگل ہو گیا۔ مگر حضرت کے مشاغل اور گوشہ نشینی جو ابتدائی زندگی سے جاری تھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ باہر کی دنیا میں تو کچھ علاقے اور ہجوم خلائق خارج بھی ہو جاتا ہوگا۔ یہاں تو فرصت ہی فرصت تھی۔

اس جیل میں ایک مخصوص احاطہ تھا جس میں چار کوٹھریاں تھیں۔ پہلے ان میں پھانسی کے مجرم رکھے جاتے تھے۔ پھانسی کا تو نام ہی ہولناک ہوتا ہے۔ اس احاطہ اور خصوصاً کوٹھریوں

میں بلا کی دشت برستی تھی۔ جیل میں مشہور تھا کہ یہاں بد روحوں کا ڈیرا ہے۔ وارڈن اور ملازمین بھی اس طعن کا رخ کرتے گھبراتے اور کراتے تھے۔ مگر یہی کمزوریاں حضرت کے لئے خوبیاں بن گئیں۔ رات دن بغیر کسی سرکاری مجبوری کے کوئی خلل انداز نہیں ہوتا تھا۔

تنہائی کے سب دن ہیں تنہائی کی سب راتیں

اب ہونے لگیں اُن سے خلوت میں ملاتیں

تین بجے رات کو تہجد و نوافل کے لئے اُٹھ بیٹھتے تھے۔ اول وقت میں فہرہ کی اذان

دی جاتی تھی اور حضرت کے معمول کے مطابق جب نوب اُجالا پھیل جاتا تھا تب جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ امامت حضرت ہی کراتے تھے اور طویل مفصل لمبی لمبی سورتیں قرات فرماتے تھے۔ نماز کے بعد اپنی کوٹھری میں ورزش کرتے تھے۔ ورزش کا اہتمام حضرت کو عمر بھر رہا۔ جہاں تک راقم الحروف کو یاد ہے ستر برس کی عمر تک ورزش جاری رہی۔ اس کے بعد سب حضرات مل کر ناشتہ کرتے تھے۔ اس دوران مختلف علمی، روحانی، سیاسی اور معاشرتی مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ چائے ناشتے سے فارغ ہو کر ۱۲ بجے تک قرآن پاک کی تلاوت، حفظ اور دور میں سنول رہتے تھے۔ کھانے کے بعد حسب عادت قیلولہ فرماتے تھے۔ ظہر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر و ترجمہ بیان فرماتے تھے۔ عصر کے بعد مغرب تک نوافل، ذکر اور عبادات و ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ مغرب بعد اوابین، نوافل میں ڈیڑھ پارہ پڑھتے تھے پھر ساتھی قیدیوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ عشا بعد اپنی کوٹھری میں چلے جاتے تھے۔ اس جیل کے معمولات کا ایک دُھندلا سا خاکہ حضرت نے خود بھی بیان فرمایا ہے:

• رات کو ہم ایک بارک میں بند کئے جاتے ہیں جس میں ہم اور تین خادم

کل گیارہ بارہ آدمی ہوتے ہیں۔ سوا دس بجے تراویح کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔

میں دو پارے سُناتا ہوں۔ اب دوسرا قرآن ہو رہا ہے۔ ساڑھے بارہ بجے فارغ

ہوتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ ڈیڑھ اور کبھی دو بجے اُٹھتے ہیں۔ نوافل میں قاری

عبداللہ صاحب مدرس مدرسہ شاہی مسجد و صدر کانگریس ضلع مراد آباد دو پارے

اور مولوی مہدی حسن صاحب دو پارے سُناتے ہیں۔ ان صاحبوں کا بھی

دوسرا قرآن پورا ہے۔ اگر کچھ وقت باقی رہتا ہے تو حسب گنجائش میں بھی ایک یا دو پارے سناتا ہوں۔ روز سحری کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر نماز صبح کے بعد اس بارگ سے نکل کر قیام گاہ کے حجرہوں میں آجاتے ہیں اور کھلے کمرہوں میں سو جاتے ہیں۔ دس گیارہ بجے تک سونے کے بعد کتابوں کا مطالعہ، ایسا می مذاکرہ تصنیف و تالیف، کھانے پکانے اور اشیائے خورد و نوش کی فراہمی کا مشغلہ رہتا ہے۔ نمازوں، تلاوت قرآن اور دوسرے اشغال بھی جاری ہیں۔ ۹ بجے شام کو بارگ مذکور میں چلے جاتے ہیں۔ یہی روزانہ کا معمول ہے۔

خوش قسمتی سے راقم الحروف کو اس جیل میں حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا حضرت نے فرمایا کہ میں یہاں بالکل آرام سے ہوں۔ دیکھو گھر کی راحت و آرام کے سامان ہمایا ہیں۔ یہ جیل کے افسران میرا ہر طرح خیال رکھتے ہیں، تم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اس نے قید و بند جیسی سختیوں میں بھی ہمیں آرام سے رکھا ہے۔ اسی قسم کا ایک خط حضرت نے اپنے ایک غلص خادم اسد اللہ خاں صاحب ساکن بگرام ضلع بلند شہر کو بھی تحریر فرمایا تھا:

ازراہ آباد جیل

محرم المقام زید محمدکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آپ نے جس ہمدردی اور جن جذبات کا مظاہرہ فرمایا ہے ان کے شکر سے میں قاصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں فائز المرام فرمائے اور اپنی خوشنودی سے نوازے۔ میں بحمد اللہ بخیر و عافیت سے ہوں اور بہت زیادہ مطمئن الخاطر ہوں اور انصاف خداوندی سے امیدوار ہوں کہ نتائج بہتر پیدا ہوں۔ ملاقات، اخبار اور ڈاک جب سے نئے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں بالکل بند ہے۔ تنہائی جس قدر بھی مل جائے مطمئن و خرم رہتا ہوں۔ اجتماع میں وہ بات کہاں؟

دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرمت کے رات دن
 بیٹھے رہیں تصور جسامت کئے ہوئے
 جو فراغت یہاں ہے باہر کب نصیب ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیاً
 کی توفیق عطا فرمائے اور راضی رہنا ہوا جس حالت میں رکھے اس پر شکر رہنا
 فریضہ عبودیت ہے۔ ہم کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے
 مستدعی ہوں کہ استقامت اور اسلان کرام قدس اللہ اسرارہم کے قدم بہ قدم چلنے
 کی دعا کرتے رہیں گے۔ آپ میری طنز سے کسی قسم کا فکرنہ کریں۔ آپ کا بار بار
 تکلیف کر کے آنا اور اپنے کاروبار میں حرج ڈالنا میری طبیعت پر بہت زیادہ بار
 ہوتا ہے۔ میں ایک گنہگار بندہ ہوں جو اپنے اسلان کے لئے ننگ و عسار ہے۔
 اس کے لئے اس قدر تکلیف اٹھانا بیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔

والسلام ننگ اسلان حسین احمد غفرلہ ۲۵ شہبان ۱۳۶۰ھ

خط کا مضمون کسی شرح و حاشیہ کا محتاج نہیں ہے مگر ایک بات کہے بغیر دل نہیں
 مانتا کہ اللہ جس حال میں رکھے اس پر شاکر رہنے کا جو مضمون لکھا ہے اس کو بیاسی برس
 کی عمر تک بڑے شوق اور چاڑھے حضرت نے بنا ہا ہے۔ اتنی لمبی عمر میں ایک مثال بھی
 ایسی نہیں مل سکتی کہ انتہائی شدید حالات میں بھی کسی لمحے طمانیت قلب میں ذرا بھی فرق
 آیا ہو۔ اور اسی طبیعت ثنائیہ کے طفیل جیل کی صوبتیں اور قید و بند کے شدید حضرت کے لئے
 راحت و اطمینان کا سبب بن گئے تھے اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو کیسی پسند ہے کہ جیل کے قیدی
 اور ملازمین تو تھے ہی افسران و ذمہ داران بھی قانونی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے خدمت
 گزاری کے لئے حاضر رہتے تھے۔ ادھر مراد آباد کے عوام و خواص ضروریات کی فراہمی اور خطوط
 کی ترسیل کا مکمل اہتمام رکھتے تھے اور اس طرح حضرت کی عمر بھر کی عادت، دسترخوان
 کی وسعت اور جہان داری بخوبی نبھ رہی تھی۔ خانقاہ بھی جاری تھی، درس گاہ بھی قائم تھی اور
 حلقہ ہائے ذکر و مشغل بھی قائم تھے۔ غالباً یہ بات حکومت برطانیہ کے لئے بھی تجسس اور شکر کا
 سبب بن گئی تھی کہ یہ کیسا قیدی ہے جس کے لئے جیل اور سپرنٹنڈنٹ جیل سے لے کر وارڈن

اور سپاہی تک سب موم ہیں۔ کورٹ انڈیا کی تحریک کے بعد سارے ہی لیڈران مرکزی جیلوں میں رکھے گئے تو حضرت کے لئے بھی الہ آباد جیل میں منتقلی کے احکام آ گئے۔ قیدی منتقل کئے جاتے ہیں تو ان کو یا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی مگر حضرت کو مکمل پروگرام کی اطلاع مل گئی اور آپ نے حسب معمول لکھنؤ میں اپنے خصوصی مرید و مترشد حکیم ڈاکٹر سید عبد اعلیٰ صاحب ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ کو اور الہ آباد میں مولینا ابوالحسن حیدری صاحب کو تار دے دئے تھے۔ لکھنؤ اسٹیشن پر ڈاکٹر صاحب اور بعض دوسرے متقدمین ملاقات کے لئے موجود تھے مگر الہ آباد میں مولینا حیدری کو تار ڈیلیور نہیں کیا گیا۔ اس سفر کی مختصر سی روداد حضرت نے خود تحریر فرمائی ہے :

”محرم المقام جناب مولوی ابوالحسن حیدری صاحب زید مجدم

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مزاج شریف۔ غالباً آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ۲۳ جنوری بروز شنبہ مجھ کو مراد آباد جیل سے ٹرانسفر کر کے نئی (الہ آباد) جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ میں ۲۴ جنوری بروز یکشنبہ ایک بجے دن کی گاڑی سے یہاں پہنچا۔ راتے میں لکھنؤ اسٹیشن پر میں نے ڈاکٹر عبد اعلیٰ صاحب کو رو پیہ دے کر کہا تھا کہ حیدری صاحب کو تار دے دیں کہ دو مجھ سے اسٹیشن پر ملیں۔ کیوں کہ آپ سے ملاقات بھی کرنی تھی اور بعض ضروری باتیں بھی کرنی تھیں۔ مگر الہ آباد کے چھوٹے اسٹیشن پر بھی آپ نظر نہ آئے اور نہ بڑے جنکشن پر نظر آئے۔ حالانکہ اسٹیشن پر تقریباً دو گھنٹہ ٹھہرنا ہوا۔ بہر حال یہ قسمت تھی کہ آپ سے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا اور پھر میں گھوٹے گاڑی میں بیٹھ کر ڈھائی بجے نئی جیل میں داخل ہو گیا۔

اس میں بعض متقدمین، شاگرد اور متبعین پہلے ہی سے موجود تھے جن میں مولینا شاہد فاتری صاحب، مولینا عبد الحمیٰ صاحب، مولانا عبد القیوم صاحب لکھنؤی، مولینا عبد الباری صاحب

گورکھ پوری، مولانا عبدالسیح صاحب سلطان پوری دہلی کے اساتذہ تامل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ بعض کانگریسی درکرس اور لیڈران پنڈت سیتارام شکل، گنیش شکر ودیا رتھی، لال بہادر شاستری (جو بعد میں وزیر اعظم ہوئے) وغیرہ بھی موجود تھے۔ ان سب حضرات کے لئے حضرت کی تشریف آوری سے ہر روز روز عید اور ہر شب شب برات ہو گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء کا اور لازم باورچی کا انتظام تو گورنمنٹ ہی کی طرف سے تھا۔ باہر سے حضرت کے دو جاں نثار مریدین حاجی شیخ دلی محمد صاحب جو پوری اور مولانا ابوالحسن حیدری صاحب رسد پہنچاتے رہتے تھے۔ اس طرح خانقاہ اور لنگر خانہ یہاں بھی پوری رونق اور شان کے ساتھ جاری رہا۔ اس بارے میں

رہنما جیل کے ایک ساتھی پنڈت سیتارام شکل کا بیان ہے:

”بھائی بھائی کہتے بہتوں کو سنا ہے، لیکن برابری کا برتاؤ کرتے صرف مولانا حسین احمد کو دیکھا۔ کھانا پکاتے وقت باورچی اور چڑی رہتا تھا اور آپ مالک رہتے تھے مگر کھانا کھاتے وقت باورچی اور مالک ایک ہو جاتے تھے۔ یہی نہیں صرف ایک پاؤ گوشت مولانا کو ملتا تھا۔ لیکن کھانے کے وقت جو بھی آجاتا تھا وہ شریک طعام کر لیا جاتا تھا۔ جیل کی میعاد نہیں تھی۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ جیل میں کب تک رہنا پڑے گا لیکن اگر کوئی معمولی سی کلاس کا قیدی کھانے کے وقت آگیا تو اپنا اور اس کا کھانا ملا کر اس کو اپنے ساتھ کھلاتے تھے۔ تندرستی کرنے لگی تو میں نے جیل کے ڈاکٹر سے کہا کہ مولانا اپنا کھانا تقسیم کر دیتے ہیں اس لئے تندرستی گرتی جا رہی ہے۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ میں کیا کروں؟ تاہم یہی ہے مولانا کو صرف پاؤ ہی بھر گوشت مل سکتا ہے۔ لیکن دوسرے دن اگر وزن کیا اور تندرستی گرتی دیکھ کر پاؤ بھر گوشت اور بڑھا دیا۔ اس کے مطابق مولانا کا کھانا اور کھانے والے دونوں اور بڑھ گئے۔“

سخی و اماؤں کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔

حضرت فطری اور مزاجی اعتبار سے اسی قسم سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ساری ہی عمر حضرت کا یہ یوتوردن علی انفسہم ولوکان بحکم خصاصہ والامزاج پوری طرح نباہا۔ مذکورہ خط میں یہ بیان ہے کہ اشیائے خورد و نوش میں اضافہ کی طرف حکومت کو توجہ حضرت نے خود نہیں پنڈت جی نے دلائی۔ اس واقعہ پر یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جیلوں کی ساری زندگی میں اپنی تکالیف کا کوئی شکوہ کسی رعایت کی درخواست یا کسی ضرورت کی طلب حکومت سے افسران سے یا کسی سے کبھی نہیں کی۔ یہ تفصیل بھی پنڈت جی موصوف نے لکھی ہے :

”چونکہ سیاسی قیدی بہت سے چھوٹ گئے تھے اور بہت تھوٹے رہ گئے تھے اس لئے سب کی رائے یہ ہوئی کہ ہم سب سرکل نمبر ایک میں چلے جائیں تو سیاسی قیدیوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور دن اچھی طرح کٹیں گے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مگر میں جیل والوں سے استدعا نہیں کروں گا“

جیل کی سنگی دیواریں اور آہنی خوفناک پھانک دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں اور شیردوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ کیسا ہی معزز اور خوددار انسان ہو جیل کے افسران کے سامنے کوئی نہ کوئی نرم بات اور عرضداشت زبان سے پھسل ہی جاتی ہے۔ ہندوستان کے شہور انقلابی شاعر علامہ الورصابری مرحوم بھی کوٹ انڈیا کی تحریک میں گرفتار تھے اور اپنے آہنی عزم و ارادہ کے باوجود جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو یہ قطعہ لکھ بھیجا تھا

پلاؤ کی ضرورت ہے نہ قلیا چاہتا ہوں میں

• چنے چاہے نہیں جاتے تو دیا چاہتا ہوں میں

اگر قانون دسترخوان دے سکتا نہیں مجھ کو

تو سوکھی روٹیاں رکھنے کو دیا چاہتا ہوں میں

مگر عام زندگی کی طرح جیل کے شدید سے شدید اوقات میں بھی حضرت کے پائے استقلال و عزم ثبات میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ ساتھیوں کا بیان ہے کہ چہرے کی دائمی بشاشت اور خندہ پیشانی میں سخت ذہنی اور جسمانی تکالیف کے وقت بھی فرق نہیں آتا تھا۔

سیاسی قیدیوں کو انتظار تھا کہ تحریک ختم ہی ہوگی اور اس کے ساتھ ہماری قید بھی ختم ہوگی۔ اخبارات سے معلوم ہوا کہ گاندھی جی نے تحریک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو لوگوں کے منہ ٹک گئے۔ اور دل بچھ گئے مگر حضرت نے اس خبر کا استقبال اپنی قدرتی اور دائمی مسکراہٹ ہی کے ساتھ کیا۔ یہ قصہ بھی ایک قیدی ساتھی کی زبانی سنئے :

۱۹۴۲ء کی بات ہے۔ نیشنل آباد جیل میں جب یہ خبر آئی کہ تحریک ختم ہو جانے کے باوجود ہاتھ گاندھی نے اپنے ۱۹ اگست والے ریزولوشن کو واپس نہیں لیا تو بڑے بڑے دلش بھگتوں کے چہرے اداس ہو گئے لیکن مولانا مدنی یہ خبر سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ گاندھی جی نے ٹھیک کیا۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کسی جیل میں میری قبر بن جائے گی۔

حضرت کے اپنے معمولات، ریاضتیں اور مجاہدات تو جاری رہے ہی جیل ہی سے مریدین، مسترشدین اور معتقدین کی اصلاح و تربیت بھی معمولات کے مطابق توجہ روحانی اور اہتمام کے ساتھ جاری تھی۔ طالبین کی عرضداشتوں اور حضرت کے فرمودات کی ارسال و ترسیل حضرت کے مرید و خلیفہ مولانا ابوالحسن حیدری کے ذریعے انجام پاتی تھی۔ مولانا موصوف فرماتے ہیں :

اسارت کا زمانہ میرے لئے موجب رحمت تھا۔ جیل میں رہ کر بھی حضرت اقدس باطنیان اپنے تومیلین کی اصلاح و تربیت فرماتے رہتے تھے۔ روزانہ میرا پاس مریدین اور تومیلین کے متعدد خطوط آتے تھے ان کو میں حضرت اقدس کی خدمت میں بھیج دیتا تھا اور حضرت کے جوابات متعلقہ پتوں پر روانہ کر دیتا تھا۔ بعض بعض خطوط بڑے لمبے ہوتے تھے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اتنے طویل خط لکھنے کے لئے حضرت کہاں سے وقت نکالتے تھے اور پھر ایک دو نہیں روزانہ حضرت کم از کم دس قلم خط لکھتے تھے جن میں تصوف و روحانیت کے روز و نکات ہوتے تھے۔

حضرت سید صاحب ہم زیر مطالعہ رکھیے۔ نیز امداد السلوک کا بھی مطالعہ فرمائیں۔

والسلام ننگ اسلام حسین احمد غفرلہ اور بیع الاول ۱۳۰۵ھ

خط کا مضمون کسی مزید شرح و وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ حضرت نے تعلیم تبلیغ اور تربیت کا فریضہ زندگی کے کسی لمحے اور مرحلے پر نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ ایک دوسرا خط بھی بہت اہم اور تاریخی حیثیت کا حامل ہے :

الآباد۔ نین جیل

محترم المقام زید مجدکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تبلیغی خدمات انجام دینے اور اس کے لئے مولا محمد ایسا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ہدایات حاصل کرنے کا مقصد نہایت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ اب اس عظیم اثنان خدمت کو بلکہ اپنی خانہ دانی روایات کو بغیر خوبی انجام دیں۔ مولانا عبدالیاس صاحب کو غلطہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض آپ ضرورت ہی سمجھیں تو اس عریضہ کو ان کی خدمت میں پیش کر دیں اور میرا سلام اور عریضہ استدائے دعوات صالحہ انجام دیں۔ جزب البخر کی زکوٰۃ کا ارادہ بھی مبارک ہے۔ آپ کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ صاحبزادے کی سلامتی کی خبر سے خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بلند اقبال طویل العمر مرضی السیدہ والسریہ کرے اور تمام آفات ارضی دساوی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین۔ اہلہ محترمہ کو پابند بنانا آپ کا اولین اور سب سے اہم فرض ہے جس تدبیر کے ساتھ پوری جدوجہد اس میں عرن کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مقاصد دارین میں کامیاب کرے اور اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

ننگ اسلام حسین احمد غفرلہ ، ۱۳۰۵ھ

اس گرفتاری اور قید میں وہ کراچی اور مالٹا والی بے فکری اور فراغت میسر نہیں تھی۔ اس وقت اہلہ اور ایک بچے کی ذمہ داری تھی۔ وہ بھی بھرے گھروں میں تھے۔ مگر اس بار

خانہ خانہ بڑا تھا۔ تین چار بچے اور اہلیہ تو اپنے ہی تھے اور دوسرے مرحوم بھتیجے مولانا وحید احمد کے پانچ بچوں اور بیوہ کی پوری ذمہ داری بھی حضرت ہی کے سر تھی۔ گرفتاری بھی معمولی اور محدود نہ تھی۔ ایک سزا پوری ہوتی تھی تو دوسری دفعہ لگ جاتی تھی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب رہائی ہوگی اور ہوگی بھی یا نہیں؟ مگر حضرت کو فطری طور پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا زندگی بھر کسی خطرے یا اندیشے سے آپ کی بیشیانی پر بل نہیں آیا۔ گرفتاری کے تھوڑے ہی دنوں بعد خاندان کے انتظامات متوکلانہ انداز میں مکمل کر دیے۔ اہلیہ صاحبہ اور چھوٹے بچوں کو ان کے میکے روانہ کر دیا۔ زیر تعلیم صاحبزادہ اور بھتیجے مرحوم کے لڑکوں کے قیام کا دیوبند میں اپنے خصوصی مخلص قاری اصغر علی صاحب کی نگرانی میں انتظام کر دیا۔ جیل سے تحریر فرمایا:

مستقلین سب ٹانڈہ میں ہیں۔ اور ان کا وہیں رہنا مناسب معلوم ہوتا

ہے۔ البتہ اسعد اور فرید انشا اللہ دس بارہ سواں تک دیوبند پہنچ جائیں گے
تا کہ تعلیمی مشاغل انجام دے سکیں!

اخراجات کے لئے قرض کے انتظامات کئے اور قاری صاحب موصوف کو ترتیب وار پروگرام لکھا کہ فلاں فلاں صاحبان سے قرض لے کر اخراجات پورے کئے جائیں۔ مگر مریدین و معتقدین کی تعداد اس وقت بھی لاکھوں سے متجاوز تھی۔ ان میں بہت سے حضرات نے ہدایا اور نذرانوں کا اہتمام کیا۔ مگر حضرت کا عمر بھر معمول یہ تھا کہ ہر کسے ناکس کے ہدایا قبول نہیں فرماتے تھے۔ اس بار بھی قاری صاحب موصوف ہدیہ گزار خدام کی فہرست بھیجتے تھے اور منظوری کے بعد ہی وہ قبول ہوتے تھے۔ بعض بڑی رقم کی واپسی ذاتی طور پر راقم الحروف کے علم میں ہے۔ خیر! یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اُس نے اپنی طرف سے سارے انتظامات ہتیا فرمادے۔ ورنہ حضرت نے قرض کا انتظام پورا کر لیا تھا اور ابتدائی دو چار مہینے قرض ہی پر گزارہ بھی ہوا تھا۔ حضرت کا بیان ملاحظہ کیجئے:

”پروردگار کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے خزانہ غیب سے بلا وہم و گمان

تمام مصارف کا انتظام کر دیا ہے۔ جو نظام میں نے قرض لینے کا بنایا تھا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور بغیر کسی استدعا کے تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں اور ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ العزیز والہم

ضرورتیں تو چھوٹی بڑی ہر قسم ہی کی ہوتی ہیں۔ انہی ایام اسیری میں سترہ اٹھارہ برس کے صاحبزادے مولانا اسعد صاحب کی شادی بخیر و خوبی انجام پائی۔ اخراجات کا سوال تو اپنی جگہ پر تھا مگر گھر والوں کو یہ کسی طرح منظور نہ تھا کہ حضرت جیل میں بند ہوں اور لڑکے کے سر پر سہرا بند ہے۔ مگر حضرت کا معمول اور مزاج یہ تھا اور اسی کی نصیحت و تبلیغ کرتے تھے کہ اگر کوئی خاص ہی مجبوری نہ پیش آجائے تو بچوں کی شادیاں بائخ ہوتے ہی کر دینی چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

"اولاد کی شادی بائخ ہوتے ہی کر دینا اشد ضروری ہے۔ جوٹے! جہیز"

دلیر وغیرہ کے چکر میں نوجوان اولاد کو شادی سے روکنا اللہ تعالیٰ کے مواخذہ اور

پکڑ کا باعث ہے۔"

اس نصیحت کی تائید میں دو حدیثیں نقل فرمائیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کا بہتر سے بہتر نام رکھیں اور اچھی تعلیم و تربیت کریں اور جب وہ بائخ ہو جائے تو فوراً شادی کر دیں۔ ورنہ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوگئی تو اس کا گناہ ماں باپ کے سر جائے گا۔ (مشکوٰۃ شریفہ) سنت اور احادیث نبویہ پر پابندی تو حضرت کی طبیعت ثانیہ تھی ہی، خاندانی روایت بھی یہی تھی کہ بائخ ہوتے ہی شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ اس لئے جیل ہی سے حضرت نے شادی پر اصرار شروع کر دیا:

"میں چاہتا ہوں کہ عزیزانم اسعد اور فرید کی شادیاں جلد ہو جائیں

تاریخ قادی (اصغر علی) صاحب مقرر فرمائیں گے اور نہایت سادگی سے اس کو

انجام دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر مجھ کو مجبوریاں نہ پیش آتیں تو اب تک کر چکا ہوتا۔^۱
گھروالوں نے بہت التجا کی کہ اللہ وہ دن لائے کہ اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے
لڑکے کو دو لہنا بنائیں اور خود ہی نکاح پڑھائیں تب ہی شادی ہونی چاہیے مگر اس پر
راضی نہ ہوئے اور اہلیہ محترمہ کو تحریر فرمایا:

تم کو میرے نہ ہونے کا صدمہ نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا
ہے وہی ہو کر رہتا ہے اور اسی میں خیر ہوتی ہے۔ بندہ کو آقا اور وہ بھی ایسے
رحیم و کریم آقا کا ہر حکم نہایت خوشی سے ماننا چاہیے۔ بالخصوص جب کہ ہائے ایسے
جیسے ہزاروں آدمی ایسی ہی بلاؤں میں مبتلا ہوں تم اطمینان اور سکون کے
ساتھ وہاں کے کاروبار انجام دو۔ امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری (اصغر علی رضا
کو شفا کے کامل جلد عطا فرمائے تو وہ فوراً دیوبند پہنچ جائیں گے اور ایسا نہ بھی ہوا
تو وہاں مولانا اعجاز علی صاحب، مولوی محمد عثمان علی صاحب، منشی سید محمد شفیع صاحب
کو تمام کام وہ سپرد کر آئے ہیں۔ یہ سب حضرات نہایت ہمدردی اور خیر خواہی
سے اور جدوجہد سے تمام کام انجام دیں گے۔^۲

ذکوئی خاص انتظام ہوا نہ خیر معمولی تیاری اور خریداری عمل میں آئی۔ اول تو حضرت
شادیوں، تقریبوں، عقیقوں اور رسم اللہ ہوں وغیرہ میں دھوم دھام اور نظا ہر داریوں
کے سخت خلاف تھے لیکن اگر کچھ ہوتا بھی تو جیل کی سلاخوں کے اندر سے کر بھی کیا سکتے تھے۔
اہلیہ محترمہ کو تحریر فرمایا:

"تم دریافت کرتی ہو کہ کن خاص عورتوں کو بلاؤں؟ تم کو خود اندازہ
ہے مجھ کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک ممکن ہو اختصار اور سادگی کے ساتھ
معاملہ کرو۔ راجپور لے جانے کے لئے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ سوائے بوڑوں اور
سہاگ پوڑے اور زیوروں کے اور کیا چیزیں جاتی ہیں؟ مجھ کو کچھ نہیں معلوم

دہی دریافت کر لینا۔ مگر رسمی چیزیں کچھ نہ ہونی چاہئیں بلکہ
اس طرح دو چار جڑوں اور دو ایک زیوروں کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ اور یہی شادی کی کل تیاری
تھی۔ کپڑوں کی کل کائنات بھی ملاحظہ فرمایا جائے:

”نارس سے خط آیا تھا۔ وہاں سے ۲۳ جولائی کو کپڑے روانہ ہو گئے!

ان تھانوں میں سے آدھا آدھا ان دو جڑوں کے لئے لے لو جو کہ اسد کی بیوی

کے لئے بڑا لگی اور آدھا آدھا فریدہ کی بیوی کے لئے رکھ لو۔ اس کی شادی بھی

انشاء اللہ عید کے بعد ہو جائے گی۔“

اس طرح مدرسہ دیوبند کے علماء و فضلا اور طلباء پر مشتمل پندرہ بیس آدمیوں کی یہ بارات
دیوبند کے قریب راجپور کے لئے روانہ ہوئی۔ یہاں کے ایک بزرگ حاجی علی احمد صاحب مرحوم
دمنفور مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ مولانا سید احمد صاحب کے وصال کے بعد ان کی بیوہ نے انہی حاجی
احمد علی صاحب سے عقد تانی کر لیا تھا۔ وہ کچھ عرصے کے لئے اپنے وطن آئے تو مولانا سید احمد
صاحب کی صاحبزادی مرحومہ بھی ماں کے ساتھ آئیں۔ انہی صاحبزادی کے ساتھ مہرناطلی
پر حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح بڑھایا اور دوسرے دن دیوبند آکر
ایک مختصر سا ولیمہ کر دیا۔

اس شادی کے علاوہ ایک کثیر المصارت کام اس جیل کے زمانے میں یہ بھی انجام پایا
کہ مولانا وحید احمد صاحب کے ایک بچے سید احمد سلمہ کے پیر پیدائشی طور پر ٹیڑھے تھے۔ اس
کی پیدائش کے بعد ہی سے حضرت کو اس کے علاج کا فکر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر انصاری مرحوم کے
بھتیجے اور اپنے ایک مخلص ڈاکٹر شوکت اللہ انصاری سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دو چار
برس کی عمر ہو جائے تو ان پیروں کا آپریشن ہو سکتا ہے۔ اتفاق سے یہ وقت اُس وقت آیا
جب حضرت خود جیل میں تھے مگر وہیں سے بغیر ایک دن ضائع کئے ہوئے اپنے مخلصین اور
خدام کو ہدایات بھیجیں اور سارے انتظامات کے ساتھ بچے کو بمبئی بھیج کر آپریشن مکمل اور

کامیاب کرایا۔

نظر بندی کی مدت طویل ہوتی گئی اور رہائی کے آثار نظر نہ آئے تو کچھ مخلصین نے قانونی چارہ جوئی کی کہ یہ نظر بندی خلاف قانون ہے۔ درخواست حاجی شیخ ولی محمد صاحب جو پوری مرحوم کے نام سے داخل کی گئی اور صوبائی مسلم لیگ کے لیڈر اور قابل و فاضل وکیل ظہیر الحسن صاحب لاری نے اس کی پیروی کی۔ ان کا اور دوسرے قابل و کلار کا خیال تھا کہ اس قانونی اعتراض کے نتیجے میں حضرت کی رہائی پچانوے فی صد یقینی ہے۔ مگر اس پنج کے بیچ جسٹس اقبال احمد اور مسٹر اسپ دونوں کمزور اور حکومت کے اشاروں اور ارادوں کے تابع تھے اور حکومت کسی حالت میں حضرت کو رہا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حضرت نے اس مقدمہ کے بارے میں تحریر فرمایا:

”مقدمہ کے بارے میں لاری صاحب کا بیان اخبار مدینہ میں آچکا ہے۔ مخالفت (حکومت) کی طرف سے اولاً مسٹر محمود سابق سب انسپکٹر پولیس کو بھیجا گیا۔ اور ان کا حلف نامہ داخل کیا گیا۔ اس کے بعد ہوم سکرٹری گورنمنٹ کا حلف نامہ داخل کیا گیا۔ بحث میں مسٹر محمود کے بیان کو کٹھم کر دیا گیا اور چیف جسٹس نے ہوم سکرٹری کے بیان پر فیصلہ دے دیا۔ ہر ایک کی نقل کا ترجمہ ارسال ہے۔ اس سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ لاری صاحب نے نہایت عمدہ بحث کی اور قانونی حیثیت سے سکرٹری کے حلف نامہ کو غیر قانونی ثابت کر دیا۔ کاش وہ کلکتہ یا لاہور کے قاضی القضاة یا فیڈرل کورٹ کے سامنے اپنی اباحت کو پیش کرتے تو ضرور کامیاب ہو جاتے۔“

حلف ناموں اور فیصلے کا تذکرہ آہی گیا ہے تو ان پر ایک نظر بھی ڈال لیجئے :

”حلف نامہ مسٹر محمود سابق انسپکٹر پولیس اسٹیشن دیوبند

(۱) میں اس وقت رٹ کی پولیس اسٹیشن کا انسپکٹر اچارج ہوں جو واقعات اس حلف

نامہ میں درج ہیں ان سے پوری طرح واقف ہوں۔

(۲) یہ کہ مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں اور ان میں سے ایک ہیں جو تحریک ریشمی رد مال کے بانی مبنی تھے۔

(۳) یہ کہ مولانا حسین احمد مدنی سازش مذکور کے سلسلے میں عرب بھیج دئے گئے تھے اور وہاں سے لوٹے ہوئے گرفتار کئے گئے اور مالٹا میں نظر بند کئے گئے تھے۔

(۴) یہ کہ بعد میں مولانا حسین احمد مدنی ۱۹۲۱ء میں ہندوستان واپس آئے اور تحریک خلافت کے چلانے میں خاص حصہ لیا۔ اور وہ ایک امیدوار تھے مہمدہ امیر الہند کے، تاکہ اس کے ذریعے جہاد کا فتویٰ دے سکیں اور ۱۹۲۰ء میں خلافت کمیٹی کی مجلس منتظر میں بھی منتخب ہوئے تھے۔

(۵) یہ کہ وہ علی برادران کے ساتھ مقدمہ کراچی میں بھی سزا یاب ہوئے تھے۔

(۶) یہ کہ مولانا مدنی نے ۲۴، ۲۵ کو سہارن پور میں ایک آگ لگانے والی تقریر کی تھی اور خاص تعلق تھا جیتہ علماء ہند سے۔ اس کے ذریعے تبلیغ کرتے تھے۔ دلائی مال کے بائیکاٹ کی جس میں انگریزی مال بھی شامل ہے اور کھڈر کے کپڑے کی اشاعت کرتے تھے۔

(۷) یہ کہ مولانا مدنی نے مراد آباد میں ۱۹۲۶ء میں صوبہ جیتہ علماء کی صدارت کی اور صوبہ خلافت کمیٹی کے صدر بھی منتخب ہوئے۔

(۸) یہ کہ مولانا مدنی نے ۱۹۲۶ء میں نوجوان بھارت سمبھا سہارن پور کے جلسے میں شرکت کی اور گورنمنٹ کے خلاف بہت سخت تقریر کی۔

(۹) یہ کہ مولانا مدنی نے ۱۹۲۵ء میں مجلس احرار کے لئے چندہ کیا اور جیتہ علماء ہند کے ڈکٹیٹر مقرر ہوئے جو اس وقت دہلی میں غیر قانونی جماعت تھی اور ان کے اوپر ایک نوٹس اس امر کی تعمیل کی گئی کہ وہ دہلی میں داخل نہ ہوں۔ لیکن انھوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور جیل بھیجے گئے اور بعد میں اگست ۱۹۳۵ء میں رہا ہوئے۔

(۱۰) یہ کہ مولانا مدنی نے ۱۹۳۶ء تا ۱۹۳۷ء میں عام انتخابات کے کانگریس امیدوار

کو کامیاب بنانے کی پوری اور انتہائی کوشش کی۔

(۱۱) یہ کہ مولانا مدنی نے ۱۹۳۵ء اور ۱۹۳۶ء میں ولایتی مال کے بائیکاٹ کی کوشش کی اور حوام سے اپیل کی کہ وہ آنے والی لڑائی میں اور بادشاہ کے جشن تاج پوشی میں شریک نہ ہوں۔

(۱۲) یہ کہ ۱۹۳۷ء اور ۱۹۳۸ء میں مولانا مدنی کا داخلہ دہلی بذریعہ تحریری حکم چھ ماہ کے لئے روک دیا گیا۔

(۱۳) یہ کہ مولانا مدنی نے ۱۹۳۵ء و ۱۹۳۶ء میں ہری پورہ کانگریس کے اجلاس میں شرکت کی اور آل صوبہ کانگریس کمیٹی کے نائب صدر تھے۔

(۱۴) یہ کہ مولانا مدنی نے آزاد مسلم کانفرنس ۱۹۳۷ء جو پنور کی صدارت کی اور اس میں انگریزوں کے خلاف بہت زبردست تقریر کی۔

(۱۵) یہ کہ مولانا مدنی نے اگرچہ گاندھی جی کے خاص حکم کے ماتحت ۱۹۳۷ء اور ۱۹۳۸ء میں انفرادی سٹیہ گرہ میں حصہ نہیں لیا لیکن اس سال کانگریس مجلس منتظمہ کے ایک ممبر تھے۔

(۱۶) اپریل ۱۹۴۲ء میں دو تقریریں بکھر ایوں اور سہارن پور میں بہت سخت کیں۔ اور بکھر ایوں کی تقریر کے سلسلے میں ۲۴ جون ۱۹۴۲ء کو گرفتار ہوئے اور مقدمہ چلایا گیا اور دفعہ ۷۶ قانون ہند کے ماتحت چھ ماہ کی سزا ہوئی۔

(۱۷) مولانا مدنی کا نام سنٹرل گورنمنٹ کی فہرست الف بر اور صوبائی گورنمنٹ کی فہرست الف پر درج ہے جو کہ کسی وقت تیار کی گئی تھی۔ اگست ۱۹۴۲ء کی عام گرفتاری سے قبل اس فہرست میں انھیں لوگوں کا نام تھا جو خاص طور پر خطرناک سمجھے گئے تھے اور بعد میں پوری تحقیقات کے بعد دفعہ ۲۶ کے ماتحت گرفتاری کا حکم جاری کیا گیا۔

حلف نامہ ہوم سکرٹری

میں ڈی ایس۔ بیرن سکرٹری صوبہ یو پی ہوم ڈیپارٹمنٹ باحلف بیان

کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں۔

(۱) یہ کہ میں سگریٹری صوبہ متحدہ گورنمنٹ کے ہوم ڈیپارٹمنٹ میں ہوں اور حکم روزہ ۱۵ اگست ۱۹۴۲ء سے ۶۷۵۳ سی این میں نے جاری کیا ہے۔

(۲) یہ کہ اس حکم کے جاری ہونے سے قبل مولانا حسین احمد مدنی کا معاملہ اور معاطوں کے ساتھ گورنر کے سامنے رکھا گیا تھا اور ان کی نظر بندی کا مذکورہ بالا حکم ہنری ایکسیلنسی کے حکم کے مطابق ان کے معاطے پر غور کر کے جاری کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لکھنؤ کے سامنے اس بیان طغنی کی تصدیق ۱۸ اکتوبر ۱۹۴۳ء کو ہوئی ہے۔

فیصلہ

ہائی کورٹ الہ آباد محکمہ فوجداری نگرانی الہ آباد ۱۶ نومبر ۱۹۴۳ء
 اجلاس سراقبال احمد چیت جسٹس اور آزیبل آلپ صاحب مقدمہ ۸۵، ۱۹۴۳ء
 بادشاہ سلامت! بذریعہ پریزنٹمنٹ جیل نمینی
 بنام مولانا حسین احمد مدنی کی طرف سے شیخ ولی محمد

حکم

یہ درخواست ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۱۹۱ء کے مطابق دی گئی ہے۔ اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی جو کہ نمینی جیل میں نظر بند ہیں رہا کئے جائیں۔ مولانا مدنی کو ۲۵ جولائی ۱۹۴۲ء کو قید کی سزا ہوئی تھی اور اپیل کے فیصلے کے مطابق جنوری ۱۹۴۳ء میں ان کی سزا پوری ہو جاتی۔ اسی درمیان میں ان پر دفعہ ۱۹۱ء ڈیفنس آف انڈیا رولز کے مطابق یہ حکم جاری کیا گیا کہ یہ نظر بند کئے جائیں۔ یہ حکم ۱۵ اگست ۱۹۴۲ء کو جاری ہوا۔ جنوری ۱۹۴۳ء سے مولانا اس حکم کے مطابق نظر بند ہیں۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ حکم طریقے سے جاری نہیں ہوا ہے اور اس حکم کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے۔ جہاں تک طریقے کا سوال ہے ہماری سمجھ میں اعتراض یہ ہے کہ حکم صوبہ متحدہ کی گورنمنٹ کی جاری کیا گیا ہے جب کہ وہ گورنر کی طرف سے ہونا

چاہیے تھا۔ ہماری سمجھ میں یہ اعتراض کوئی مضبوط نہیں ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب کہ گورنر گورنمنٹ آف انڈیا کی دفعہ ۹۳ کے مطابق گورنمنٹ کے پورے اختیارات خود کام میں لا رہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مولینا مدنی کی نظر بندی کے مسئلے پر خود گورنر نے خود نہیں کیا۔ سرکار کے ہوم سیکریٹری نے ایک حلفی بیان داخل کیا ہے کہ مولینا مدنی کی نظر بندی کا حکم خود گورنر کی ہدایت سے جاری کیا گیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ گورنر کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اور انھوں نے اس پر غور کر کے حکم جاری کیا ہے۔ اس بیان حلفی کے رہتے ہوئے ہمارے لئے یہ کہنا ناممکن ہے کہ گورنر نے حکم جاری نہیں کیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ مولینا کی نظر بندی کا حکم گورنر نے جاری کیا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن بیان حلفی میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنر کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا اور ان ہی نے حکم جاری کیا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ گورنر ہی نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ ہمارے خیال میں اس درخواست میں کوئی زور نہیں ہے اور ہم اس کو خارج کرتے ہیں۔

درخواست دہندہ کے وکیل نے فیڈرل کورٹ میں اپیل کرنے کی اجازت

طلب کی ہے لیکن چونکہ اس میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی تشریح کا معاملہ نہیں

ہے اس لئے ہم ایسی اجازت دینے سے انکار کرتے ہیں۔

الراہد جیل کے حالات میں ایک اہم واقعہ حضرت کے ساتھ جیل کے کسی افسر کی درست رازی

اور گستاخی کا بھی ہے۔ یہ قصہ کئی حضرات نے بیان کیا ہے مگر ان حکایتوں میں جذبات اصدات

اور اضطراب بھی شامل ہے۔ اس لیے صحیح اور واقعی کہانی حضرت ہی کی زبان سے معلوم ہو سکتی

ہے :

”جب سے میں یہاں (نیمین جیل) آیا ہوں اس واقعے کے پیش آنے تک

میں کسی افسر اعلیٰ سے یا اس کے نائب سے ملا ہوں نہ وہ مجھ سے ملے ہیں۔ انھوں نے

مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ میں نے دور سے دیکھا تھا مگر صورت شناس نہ تھا۔ کما
 جیل بالخصوص وہ شخص جو کہ سابقہ جیلوں میں پھوٹے عہدوں سے بڑھا ہوا نیشنل زبانہ
 جہنم نہایت سخت اور بدخو، بد زبان، تند خو ہوتے ہیں، بالخصوص اینگلو انڈین۔
 میں عصر کے بعد اور اردو وظائف میں عموماً مشغول رہتا ہوں اور کرے ہی کے اندر
 رہتا ہوں، مغرب کی نماز کے وقت نکلتا ہوں اور کرے کے باہر ہی کبل وغیرہ کچھا کر
 ہم چند مسلمان بارک کے اندر ہی پنج وقتہ نماز باجماعت پڑھا کرتے ہیں بعض مسلمان
 دوسری بارکوں سے آجاتے ہیں اور جو کہ اسی بارک میں رہتے ہیں جس میں میں
 ہوں یعنی نمبر ۱ میں وہ عشاء اور فجر میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ مغرب کے فرض
 ادا کرنے کے بعد نوافل میں ڈیڑھ دو پارہ پڑھا کرتا ہوں۔ اس کے بعد بارک کے
 مسلمان ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور پھر عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنے
 اپنے کمروں میں ہو جاتے ہیں۔ بارکوں کے دروازے گرمیوں میں آٹھ بجے کے
 بعد بند ہو کر تھے۔ جاڑوں میں ساڑھے سات بجے سے بند ہونے لگتے تھے۔
 شمار اور گنتی ہر بارک کے آدمیوں کی بارک ہی میں ہوا کرتی ہے۔ پولیٹیکل قیدی
 اپنی اپنی جگہوں پر گئے جاتے ہیں۔ میں نماز میں مشغول ہوتا تھا گنتے والے کرے
 میں ہوتے ہوئے گن جاتے تھے۔ اور اب بھی وہی حال ہے۔

افسر اعلیٰ نے اہل سرکل ۵ کے جیل سے کہا کہ تم اپنے سرکل کی بارکوں
 کو سات بجے بند کرو۔ اس نے بعض ذمہ دار افسانوں سے کہا کہ افسر کا حکم سنا بیچے
 بند کرنے کا ہے۔ سرکل ۵ والے جن میں دوسرے پولیٹیکل قیدی ہیں ساڑھے سات
 بجے بند ہو جاتے ہیں تم بھی اُس وقت بند ہو جایا کرو۔ اس نے جواب دیا کہ تم نے
 بعض مطالبات سپرٹنڈنٹ کو بھیجے ہیں ان کا جواب اب تک نہیں آیا جب تک
 وہ پورے نہ ہو جائیں ہم اس مطالبے کو پورا نہیں کریں گے۔ مگر اس کی مجھ کو اور
 میرے رفقا کو کوئی خبر نہ تھی۔ مجھ کو اور میرے رفقا کو اس بند ہونے پر نہ کوئی
 اعتراض تھا اور نہ ان کے متعلق کوئی سوال پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ مغرب سے پہلے وہ

سب بارک میں آجاتے تھے اور صبح تک وہاں رہتے تھے اور بالخصوص میں تو عصر سے تعزیراً بند ہی رہتا ہوں بلکہ دوسرے اوقات میں بھی کمرے سے باہر بلا ضرورت نہیں نکلتا۔

اسرائیلی کو یہ جواب اس کا ناگوار گزار اور اپنی طاقت کے مظاہرے کے لئے اپنی فورس لے کر ساڑھے چھ بجے جب کہ عین مغرب کا وقت تھا بلا خبر اور بلا نوٹس سرکل ۷ میں داخل ہوا اور سب سے پہلے ہماری بارک میں داخل ہوا کیونکہ ۷ اسی کا ہے۔ اس نے بارک میں جو لوگ موجود تھے حکم دیا کہ بارک سے باہر آؤ اور دھکے دے کر لوگوں کو باہر نکلوایا۔

میرا کمرہ بارک کے مشرقی کنارے پر ہے۔ وہ پہلے مغربی کنارے پر گیا اور جو لوگ اس طرف کمروں میں یا باہر کمروں سے تھے دھکے دے کر باہر نکالا پھر مشرقی کنارے پر آیا۔ ہمارے رفیق مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے، کبیل اور چادر بچھا رہے تھے۔ آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ ان سے جب کہا گیا کہ باہر نکل جاؤ تو انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں جس میں صحن پانچ چھ منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد نکل جائیں گے۔ چھوٹا افسر جو کہ یورپین تھا اس کو سن کر ساکت ہو گیا۔ اتنے میں اسرائیلی (سپرٹنڈنٹ) اینگلو انڈین پہنچا اور اس نے مولینا عبد الباری صاحب گورکھ پوری کی بیٹائیں میں اوپر سے ہاتھ ڈال کر کہینچا اور زور سے کہا نکل جاؤ۔ دوسروں نے پھر ان کو دھکا دیا۔ اسی طرح مولینا عبد الباقی صاحب سلطان پوری کو دھکا دیا گیا اور مولوی ماجد صاحب بستوی کو مارنے کے لئے بھی ہاتھ اٹھایا گیا۔ یہ سب کچھ بعد دیگرے باہر نکل گئے ہیں کمرے میں وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ مجھ کو ان معاملات کی کوئی خبر نہ تھی۔ شور و شغب سن کر میں کھڑا ہوا تو دیکھتا ہوں کہ کمرے کے دروازے پر سپرٹنڈنٹ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ وارڈر اور نمبردار وغیرہ ہیں۔ انہوں نے کہا نکل جاؤ۔ میں نے کہا اچھا تو ابہن لوں۔ میں اس وقت چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے تھا جو کہ سردیوں

میں پہنکا رہا ہوں، میں کھڑاؤں لینے کے لئے بڑھتا چاہتا تھا کہ مجھ کو دھکا دیا گیا۔ میں اس دروازے کی طرف جو کہ بارک سے نکلنے کا ہے، چلا ہی تھا کہ دوسرا دھکا دیا گیا۔ اس کی وجہ سے عمار سر پر سے گرنے لگا میں اس کو سنبھالنا چاہتا تھا کہ تیسرا دھکا دیا گیا میں اس کو سنبھال نہ سکا وہ گر گیا۔ پھر میں ٹوپی سنبھالنے لگا تو چوتھا زور سے دھکا دیا گیا۔ یہ اس قدر زور سے دھکا دیا گیا تھا کہ ٹوپی بھی گر پڑی اور میں سنبھل نہ جاتا تو زمین پر گر پڑتا۔ بہر حال میں نیگے سر اور نیگے پاؤں وہی موزے پہنے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے دو منٹ بعد سپرنٹنڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سب باہر آ گئے۔ مجھ سے سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ آپ نے تو کمرے کو ہٹول بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بارک میں چلے جاؤ ہم لوگ پھر ایک ایک کر کے داخل ہو گئے اور گھنٹے کے بعد بارک بند ہو گئی۔

صبح کو ہم چار آدمیوں نے عرضی لکھی کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا گیا ہے، ہمیں ہمارے مشیر قانونی لاری صاحب سے ملایا جائے تاکہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکیں۔ ۲ بجے ضلع بہرائچ کے سیاسی قیدی سردار جوگندر سنگھ آئے۔ وہ اس واقعہ پر بہت برہم تھے۔ انھوں نے کہا کہ سپرنٹنڈنٹ جیل وسط جبل کی چوکی تین موہانی میں آیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کل کے واقعہ کا مجھے بہت افسوس ہے، میں مولانا مدنی کو پہچانتا نہیں تھا ان کو بلا دوں ان سے معافی مانگوں گا۔ میں نے ان کو بہت لعنت ملامت کی ہے۔ میسنری رائے ہے کہ تو میرے ساتھ چل کر اُسے معافی دے دے۔ میں نے کہا یہ پوری جماعت کا مسئلہ ہے اس لئے آپ سب سے پوچھئے۔ انھوں نے ہر بارک سے چیدہ چیدہ لوگ بلائے اور سب سے مشورہ کیا۔ سب نے رائے دی کہ جب وہ معافی مانگ رہا ہے تو معافی دے دینی چاہیئے۔ میں نے کہا کہ اچھا آپ جاکر اس سے کہہ دیجئے کہ حسین احمد نے معاف کر دیا۔ مگر چیف وارڈن نے کہا کہ وہیں چل کر معافی دینی چاہیئے۔ میں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے اور میں معافی

چاہتا ہوں پھر میں چلا آیا!

یکم نومبر ۱۹۲۲ء کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت نے کسی کو اس کی اطلاع نہیں دی مگر رفتہ رفتہ پورے ملک میں خبر پھیل گئی اور غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حضرت نے تو معافی دے دی تھی مگر عوام اور معتقدین کے رنج و غم میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا اور نتیجے میں جگہ جگہ احتجاجی جلسے ہو رہے تھے۔ اخبارات میں آرٹیکل لکھے گئے اور ریزولیشن پاس کئے گئے۔ ۲۶ نومبر ۱۹۲۲ء کو تمام ہندوستان میں احتجاجی اجتماعات کئے گئے۔ ۲۷ نومبر کو اخبارات میں یورپی کے گورنر کا کیونک شائع ہوا کہ سپرنٹنڈنٹ متعلقہ نے معافی مانگ لی اور اب حضرت انسران جیل سے مطمئن ہیں۔ اس پر بھی عوام کا مطالبہ جاری رہا کہ سپرنٹنڈنٹ کو قرار واقعی سزا دی جائے مگر آخر میں حضرت کا پیغام پہنچا کہ ہم نے معاف کر دیا ہے اس لئے اب کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔

جیل کے باہر بھی حضرت کے خلاف ایک کارروائی ہو رہی تھی۔ ایک عرصے سے حضرت کو مدرسہ دیوبند سے الگ کرنے بلکہ نکالنے کی سازشیں جاری تھیں۔ ان میں حکومت تو پیش پیش تھی ہی بعض علماء، فضاہ اور ذمے داران مدرسہ بھی اس رجحان سے متاثر تھے۔ حکومت کے حاشیہ برداران، وظیفہ خواران اور فرزندان و دلہندان ان کی پشت پناہی کرتے تھے۔ حضرت کی موجودگی میں عظمت و عزیمت، مقبولیت و محبوبیت اور جرأت و شہامت کے آگے کوئی دار اور کوئی چال کامیاب نہ ہوتی تھی۔ مگر گرفتاری کے بعد حکومت کی پالیسی دیکھ کر ان کو یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ جیل سے چھوٹے چھوٹے کچھ نہیں تو چار چھ برس تو گزر ہی جائیں گے۔ چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بھر پور حملے کا پروگرام بنا یا گیا تھا۔ حضرت عام زندگی میں ہمیشہ ہر قسم کی ریشہ دوانیوں سے الگ تھلگ رہنے کے عادی تھے۔ اور اب تو دست بستہ پاہ زنجیر جیل کی سلاخوں میں بند تھے۔ کسی قسم کی مقادمت یا دفاع کا بھی اندیشہ نہیں تھا۔ مخالف جماعت سرکاری حلقوں، بڑی شخصیتوں اور معروف علماء کرام پر مشتمل تھی مگر اللہ

کے بھید اللہ ہی جانتا ہے۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں، پلان تیار ہو گیا اور کہیں کہیں منہ میٹھا کر کے کرانے کے انتظامات بھی ہو گئے تو عین وقت پر معلوم نہیں کیا پہنچ پڑا کہ حضرت پر تو کوئی حرف نہ آیا اٹلے انھی سارے حضرات کو در سے سے الگ کر دیا گیا۔ اس واقعہ کی تفصیلات ہم علوہ باب میں جیتہ علماء اسلام کے عنوان میں پیش کریں گے۔

قصہ مختصر کہ ۱۹۴۳ء ختم ہوتے ہوتے ادھر تو کوٹ انڈیا کی تحریک کمزور پڑنے لگی اور ادھر جنگ کی صورت حالات کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی پالیسی بھی بدلنے لگی۔ اب کانگریس اور سیاسی قیدی آہستہ آہستہ چھوڑے جانے لگے۔ اور کانگریس درکنگ کیٹی کی رہائی کی خبریں بھی سنی جانے لگیں۔ ایک دن ۲۶ اگست ۱۹۴۴ء کو اچانک حضرت کو اطلاع دی گئی کہ آپ کو رہا کر دیا گیا اور اب جلد از جلد جیل سے باہر چلے جائیں۔ رہائی کے دن کا واقعہ حضرت ہی سے سنئے :

۱۰ رمضان المبارک بروز شنبہ تقریباً ۳ بجے دن کو حکم پہنچا کہ تجھ کو بلا شرط رہا کیا اور ابھی روانگی ہے۔ چنانچہ منتشر ایشیا کو جلد از جلد اٹھایا گیا اور تمام کارروائیاں انجام دے کر تقریباً ۶ بجے شام کو نینبی جیل سے باہر آنا ہوا۔ یہ جگہ شہر آباد سے تقریباً ۶ میل دور ہے۔ سواری کا انتظام کرنا پڑا جس کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی۔ بعد از منرب تقریباً آدھ گھنٹہ گزر جانے پر روانگی ہوئی۔ مولانا خادم حسین (ابوالحسن حیدری) موجود نہ تھے۔ ان کے صاحبزادے سانگ لے کر پہنچے اور تقریباً ساڑھے نو یا دس بجے ہم ان کے مستقر پر پہنچ گئے۔ اسی وقت شب میں تار سے متعدد مقامات پر اطلاع دی۔ چنانچہ دہلی میں ناظم اعلیٰ صاحب اور حاجی صاحب کو اطلاع دے دی۔ مولانا (ابوالحسن حیدری) کے انتظار میں اور بعض احباب سے ملاقات وغیرہ کی غرض سے اتوار کو ٹھہرنا پڑا۔ آج بروز دوشنبہ ۷ بجے کی گاڑی سے روانہ ہو کر جو پور اتر دن گائیکوں کے شیخ صاحب جو پوری بہت بیمار ہیں۔ وہاں چند گھنٹے ٹھہر کر دہرہ دون اکپریس سے ٹانڈہ جاؤں گا۔ پھر وہاں سے دو ایک دن بعد لکھنؤ مراد آباد ہوتا ہوا تقریباً ۱۴، ۱۵ رمضان المبارک

کو یا اس سے پہلے دیوبند پہنچوں گا۔^{۱۰}

اس بار حضرت کُل دو سال دو ماہ اور دو دن جیل میں رہے اور رہائی کے دس دن بعد مختلف جگہوں پر ہوتے ہوئے ۱۴ رمضان شریف کو دیوبند تشریف فرما ہوئے۔ یہاں عیدیم المثال استقبال جلوس اور تہنیتی جلسہ ہوا۔ اس کے بعد دو دن دیوبند میں قیام کر کے حسب معمول سلہٹ کے لئے روانہ ہو گئے۔

سلہٹ کی روانگی

۱۹۲۴ء ۱۹۲۴ء

مزاجاً اور طبیعتاً حضرت رحمۃ اللہ بہت وضعدار اور تعلقات نواز تھے۔ جن لوگوں سے اور جن مقامات سے جتنا بھی تعلق ہو جاتا تھا اگر شریعت سنت اور تقویٰ کے پہلو سے کوئی قباحت مانع نہ آجاتی تھی تو اس تعلق کو ہر قیمت پر نبھاتے تھے۔ اس موضوع پر مضمون بہت طویل ہے مگر اس کا حضرت کے اخلاق، عادات اور سیرت کے باب میں مذکور ہونا مناسب ہے۔ یہاں ہمیں صرف سلہٹ میں حضرت کے قیام اور ہر سال وہاں کے سفر کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ کون سی ایسی خصوصیت اور تعلق تھا جس کی بنا پر اتنے اہتمام اور پابندی سے وہاں جاتے تھے اور ایک ماہ مسلسل وہاں قیام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ دو ڈھائی سال بعد جیل سے چھوٹے تو رمضان کے دس ہی بارہ دن رہ گئے تھے مگر وہ بھی سلہٹ ہی میں گزارے۔ یہ قصہ ۱۹۲۴ء سے شروع ہوتا ہے۔ جب حضرت نے دارالحدیث سلہٹ میں تدریس حدیث کی مسند کو رونق بخشی تھی۔ وہاں کے عوام و خواص نے حضرت سے اس قدر عقیدت، ارادت اور محبت کا برتاؤ کیا اور دینی اعتبار سے اتنا فیض حاصل کیا کہ جب تک وہاں ہے لوگ ہزاروں کی تعداد میں پروانہ دار فدا ہوتے رہے اور حلقہٴ ارادت میں شامل ہوتے رہے۔ مگر اچانک جب دیوبند کے حالات نے مجبور کیا اور حضرت نے سلہٹ سے واپسی کا ارادہ کیا تو نہ صرف ضلع سلہٹ کے بلکہ پورے صوبہ آسام کے لوگوں نے روکنے پر بہت زیادہ اصرار کیا اور عرض کیا کہ دیوبند کی مصالحہ اپنی جگہ ہیں لیکن آپ جہاں رہیں گے وہیں دیوبند اور مرکزیت پیدا ہو جائے گی۔ اس پورے علاقے میں آپ کے قیام کی وجہ سے ایک مرکزی شان پیدا ہو گئی ہے اور فیضان جاری ہو گیا ہے۔ آپ کے چلنے جانے سے یہ سوتا خشک ہو جائے گا۔ بہت انہدام تفہیم کے بعد وہاں کے حضرات اس شرط پر راضی ہوئے کہ جیسے جی حضرت ہر سال رمضان شریف سلہٹ میں گزاریں گے جو آسام کا مرکزی شہر ہے حضرت نے وعدہ کر لیا اور اس وعدے کو

آخر تک نباہا۔ ۱۹۶۶ء میں مسلم لیگی حضرات کے ہاتھوں جب جان خطرے میں پڑ گئی اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہوا۔ دیوبند کے تعلیمی سال کے اختتام پر ماہ شعبان کے آخر میں حضرت سلہٹ کے لئے روانہ ہوا کرتے تھے۔ اُدھر بخاری شریف کے ختم کا اہتمام ہوتا تھا، اُدھر سفر کی تیاری جاری رہتی تھی۔ یہ ختم بھی بڑے انتظام اور شان سے ہوتا تھا۔ سارے سال تو درس میں احادیث پر علمی، روایتی اور درایتی تقریریں ہوتی تھیں۔ اُدھی کتاب یعنی بخاری شریف کے پندرہ پارے ہوتے ہوئے تفصیلی مباحث ختم ہو جاتے تھے اور ساتھ ہی تعلیمی سال بھی انتہا کے قریب ہو جاتا تھا۔ مشکل سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ باقی رہ جاتا تھا جس میں اگلے پندرہ پاروں کی صرف قرآنہ باقی رہ جاتی تھی۔ ان کو ختم کرنے کے لئے حضرت دن اور رات کے سولہ اور اٹھارہ گھنٹوں تک دارالحدیث میں گزارتے تھے۔ آخر آخر میں تو یہ ہو جاتا تھا کہ فجر کے فوراً بعد ۹ بجے تک پھر دس بجے کے بعد ۱۲ بجے تک پھر ظہر سے لے کر عصر تک، مغرب سے عشاء تک اور عشاء سے ۱۲ بجے رات تک قرآنہ حدیث ہوتی تھی۔ حدیث کے ڈھائی تین سو طالب علم ہوتے تھے اور وہ سارے ہندوستان اور بعض دوسرے ملکوں سے بھی صرف حضرت سے اجازت حدیث کے حصول کے لئے آتے تھے۔ یوں تو شروع ہی سے ختم بخاری کے موقع پر بہت سے مقامی حضرات آخری سبق میں حاضر ہو جاتے تھے مگر آخری دس سالوں میں تو یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ دور دراز سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دعا میں شرکت اور ختم بخاری شریف کی برکت سے فیضیاب ہونے کے لئے حاضر ہوتے تھے۔ یہ سب حضرت ہی کے مہمان ہونے تھے اور کئی کئی دیکھیں کھانوں کی دن بھر چڑھتی اور اترتی رہتی تھیں۔ اُدھر تو دولت خانے پر اندر باہر ہجوم اتنا کہ کہیں بیٹھنے کی جگہ مشکل، اُدھر بہت سے مہمانان کرام حضرت سے خصوصی توجہ اور گفتگو کے بھی طالب ہوتے تھے دوسری طرف اسباق کی مسلسل رفت ارتیسرے سفر کی تیاریوں کی مشغولیت اور سب پر مستزاد یہ کہ مہمان لہم بہ لہم سیلاب کی طرح بڑھے آتے تھے۔ دارالحدیث کا پورا حال پانچ چھ سو افراد سے بھر جاتا تو برآمدے میں اتنے ہی افراد کے لئے انتظام ہوتا وہ بھی بھر جاتا تو رہاریوں میں اور پھر بیڑھیوں پر اور آخر میں نوبت نیچے کے میدانوں تک پہنچ جاتی تھی۔ اور خدا خدا کر کے آخری سبق شروع ہوتا۔ اب

حضرت خود قرأت فرماتے۔ جیسے جیسے کتاب اعتقاد کے قریب ہوتی طالبین حدیث کے قلوب سوز و گداز سے سمور ہوتے جاتے۔ آج طالب علمی کا رازانہ، اساتذہ کرام کی صحبتیں، حضرت شیخ کی خدمت میں جو بیس گھنٹے کی حاضری کی نعمتیں اور دارالعلوم دیوبند کی سدا بہار امتیازی زندگی ہمیشہ کے لئے ختم ہوتی ہے۔ نہ جانے یہ دو تیس پھر کبھی نصیب ہوں یا نہیں اور خدا ہی جانے کہ ہم سے خدمت حدیث شریف اور تدریس دین کا فریضہ کما حقہ ادا ہو سکے یا نہ ہو۔ شروع میں صرف آنسو جاری ہوتے پھر سسکیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں شروع ہوتیں اور جب حضرت سوز و گداز سے بھر پور آوازیں آخری حدیث شریف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلماتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان ختم کرتے تھے تو ہمانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آوازیں پھوٹ پڑتی تھیں۔ اس کے فوراً بعد حضرت ایک مختصر سی تقریر میں طلبائے کرام کو حدیث شریف کی روایت کی اجازت دیتے تھے کہ جیسے میرے اساتذہ اور شیوخ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب حجتہ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نے مجھے روایت حدیث کی اجازت دی تھی اسی ضابطے کے مطابق میں آج آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے اور ابتدائی دو چار سبیلے، الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ اللہم اللہ الذی هدانا لهذا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ جہراً ادا کرتے تھے اس کے بعد کم و بیش بیس منٹ آدھ گھنٹے تک ہر ادا دعا کرتے تھے جس میں سارے ہزار ڈیڑھ ہزار حاضرین شریک ہوتے تھے اور اجول پر ایسا تاثر اور مقبولیت طازی ہوتی تھی کہ ہر ہر فرد بے اختیار ہوجاتا تھا اور ایک گھنٹے تک آہ و بکا کی آوازیں بلند ہوتی رہتی تھیں۔ دعا کے بعد حضرت اُن سیکڑوں بوتلوں، شیشیوں اور ظروف پر دم کرتے تھے جن میں متعین و مریدین اور طلباء و علماء پانی بھر کر لاتے تھے کہ ایسی مقبولیت اور نزول رحمت کے موقع پر پھونک ڈلو الیں ختم بخاری شریف عموماً رات کو ایک دو بجے ہوتا تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد حضرت سلطنت کے لئے مع جمیع اہل خانہ، قاری اصغر علی صاحب اور مولانا محمد جلیل صاحب رحمہم اللہ کے بذریعہ کار اور لاری روانہ ہوجاتے تھے۔ سہارن پور اسٹیشن پر جہاں سے حضرت کو ٹرین پکڑنی ہوتی تھی۔ سیکڑوں مشائقان زیارت کے لئے حاضر ہوتے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر ایک یا دو دن کے لئے حسب گنجائش وطن

مالوت مانڈہ ضلع فیض آباد میں قیام فرما کر وہاں سے سیدھے کلکتہ پہنچے تھے جہاں ایک یا دو دن حسب ضرورت دکنجائش قیام فرماتے تھے، کلکتہ سے سلہٹ کے لئے روانہ ہوتے تھے۔ وہاں کے لوگ بڑی بے چینی اور شوق سے تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے اور آمد پر پچاسوں حضرات سلہٹ سے بہت پہلے ایک جنکشن اسٹیشن 'کلاوڑہ' پر پیشوائی کے لئے حاضر رہتے تھے۔ سلہٹ ریلوے اسٹیشن پر ہزاروں کا مجمع استقبال کے لئے موجود رہتا تھا۔ وہاں حضرت اپنے ایک مخلص داروغہ عبدالستار صاحب مرحوم کے مکان پر قیام فرماتے تھے۔ عموماً رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو یا ایک آدھ روز پہلے پہنچتے تھے۔ اور پہنچے ہی بلا ادنی تاخیر کے اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتے تھے۔ قیام گاہ سے تقریباً دو فرلانگ کے فاصلے پر ایک مسجد جو نئی سڑک کی مسجد کہلاتی تھی اس میں نمازیں اور تراویح اور اعتکاف ادا کرتے تھے۔ عصر سے پہلے اس مسجد میں تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ عصر بعد ایک گوشے میں مولانا محمد طویل صاحب اور تباری اصغر علی صاحب کو قرآن پاک سناتے تھے۔ اس میں بہت سے حضرات شریک رہتے تھے۔ افطار سے دو چار منٹ پہلے یہ دور ختم ہوتا تھا اور وہیں افطار کا دسترخوان لگ جاتا تھا۔ افطار ہمیشہ نہایت مختصر، ایک دو تائیس کسی پھل اناس، پیسیتے یا آم کی۔ ایک دو گھونٹ کسی لیموں، تخم بانگیا یا بادام کے شربت کے اور ایک ہی دو لقمے کسی کھانے حلوہ، پنڈنگ، پھنچے یا پھلکیوں کے تناول فرماتے تھے۔ ناز خود ہی پڑھاتے تھے اور مغرب بعد فوراً دعوت میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ دعوتیں مہینوں پہلے سے طے شدہ اور مرتب ہوتی تھیں اور ان میں سارے ہمراہی، اہل خانہ، میزبان اور بہت سے خدام مدعو ہوتے تھے جن کی تعداد سیکڑوں تک پہنچ جاتی تھی۔ یوں تو جو صاحبان بھی حضرت کو مدعو کرتے تھے دیدہ و دل فرس راہ کر دیتے تھے مگر جو شوق، اہتمام، اقسام و انواع کی نعمتیں سلہٹ کی ان دعوتوں میں دیکھیں شاہی دسترخوانوں پر بھی دعوتیں کھائیں مگر وہ بات پھر نظر نہ آئی۔ کھانے کے باب میں حضرت کی ایک عادت اور طبیعت نمانہ تھی جو پلیٹ یا ڈش سامنے ہوتی تھی صرف اسی میں سے کھاتے تھے۔ درد کی ڈشوں میں چاہے کچھ ہو ہاتھ بڑھا کر نہیں لیتے تھے، دوسرے یہ کہ نہ کبھی کسی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کی زیادہ تعریف کرتے تھے نہ کسی کمزوری کا اظہار کرتے تھے حتیٰ کہ کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ

فلاں چیز میں نمک نہیں ہے یا اتنا زیادہ ہے کہ لقمہ آٹا نا شکل ہے۔ بس خاموشی سے کھا لیتے تھے۔ مگر قاری اصغر علی صاحب اور مولانا جلیل صاحب کھانا لگنے تک اور کھانے کے دوران میں بھی کچھ شگفتہ باتیں اور کچھ پُر لطف حکایتیں بیان کرتے تھے جن میں حضرت بھی بشارت کے ساتھ حصہ لیتے تھے اور اسی ضمن میں قاری صاحب اور مولانا صاحب بعض کھاؤں کی قدر افزائی اور تاریخ بھی بیان فرماتے تھے۔ چوبیس گھنٹوں میں صرف یہی وقت ایسا ہوتا تھا جس میں عبادت سے ہٹ کر کچھ آپس داری اور پاسداری کی باتیں بھی ہو جاتی تھیں۔ کھانے سے فراغت کے بعد نماز و تراویح ہوتی تھی جس میں حضرت ڈیڑھ پارہ سناتے تھے۔ تراویح کے بعد حضرت مختصر سی تقریر فرماتے تھے اور پھر قیام گماہ پر استراحت فرماتے تھے۔ ۲ بجے تہجد کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے جس میں مولانا جلیل صاحب ایک پارہ پڑھتے تھے۔ سحری کے بعد نماز فجر اور اس کے بعد دس یا گیارہ بجے تک آرام فرماتے تھے۔ پھر ظہر اور اس کے بعد عصر تک نمازیں، تلاوت کلام پاک اور وظائف جاری رہتے تھے۔ بیس تاریخ سے اسی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اور حضرت کے ساتھ سیکڑوں معتقدین و مریدین اعتکاف میں شریک ہوتے تھے۔ مسجد کے وسیع اجاطے میں ایک طرف ہوٹل کھل جاتا تھا اور پوری مسجد بھر جاتی تھی۔ اب مغرب بعد افطار کر کے طالبین حق کو داخل سلسلہ فرماتے تھے جن کی تعداد سیکڑوں اور آخر میں ہزاروں تک پہنچ جاتی تھی۔ وصال سے کچھ پہلے جب تقسیم ہند کی وجہ سے سلہٹ کے قریب ہندوستانی علاقے میں رمضان گزارنے لگے تھے تو مرید ہونے والوں کی تعداد روزانہ پانچ پانچ اور چھ چھ ہزار ہونے لگی تھی اور داخل سلسلہ کرنے کے لئے لاوڈ اسپیکر کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس باب میں بہت سے اضافے ہوئے ہوں گے مگر یہاں صرف وہ حالات بیان ہوئے ہیں جو راقم الحروف نے خود مشاہدہ و مطالعہ کیے تھے۔

جنگ کا اختتام۔ آزادی کے آثار

یوں تو ۱۹۵۷ء کے بعد سے ہر سال ہر مہینہ اور ہر دن جنگ آزادی کے واقعات، حادثات اور یادگاروں سے معمور ہے مگر ۱۹۴۷ء کی تحریک کے بعد جس کو ہندوستان سے نکل جاؤ، کی تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ملک کا بچہ بچہ جان پھیلیوں پر رکھ کر آگ اور خون کے میدان میں کود پڑا تھا۔ اُدھر جنگ کا پانسہ پلٹ گیا تھا۔ برما اور سنگاپور کے جاپانی جنگی محاذ پر ہندوستانی فوجوں کے ایک بڑے حصے نے برطانیہ سے بغاوت کر کے آزاد ہند فوج بنالی تھی جس کے کمانڈر انچیف بھاشا چندر بوس مقرر کئے گئے تھے۔ اس کے جرنیلوں میں جنرل شاہنواز، کیپٹن ڈھلن اور سہگل وغیرہ کے نام ہندوستان کی گلی گلی میں گونج رہے تھے۔ جاپان اس آزاد ہند فوج کی تائید و نصرت کر رہا تھا۔ بھاشا چند بوس رنگون میں بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے مزار پر حاضر ہوئے۔ پھولوں کی چادر چڑھا کر نذر گزارنی حلف و فدا داری لیا اور قسم کھا کر عہد کیا کہ ہندوستان کو آزاد کراؤں گا یا جان دے دوں گا۔ اس کا ردوائی کار برطانیہ پر تو بہت بڑا اثر پڑا مگر ہندوستانی عوام کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اسی درمیان ۱۹۴۷ء کو اتوادی یعنی برطانیہ وغیرہ کی فوجوں نے نارمنڈی کے مقام پر جرمین فوجوں پر بڑا فیصلہ کن حملہ کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اس جنگ کی سب سے بھرپور لڑائی تھی۔ اس میں جرمینی کو زبردست شکست ہوئی اور اس کی پانچ لاکھ فوج تباہ و برباد ہو گئی اور اس کے بعد ہی سے جرمینی کا زور دن بدن گھٹتا ہی چلا گیا۔ برطانیہ کے وزیر عظم و نیشن چرچل نے جنگ کے شروع ہی میں اپنی سیاسی چالوں، فوجی تبدیلیوں اور جنگی داؤ پیچ کے بھروسے پر دو انگلیوں سے انگریزی کا حرف وی بنا کر دنیا کو دکھلایا تھا کہ دیکھی ہماری ہی ہوگی۔ جنگ کی صورت حال ایسی تھی کہ برطانیہ کی فتح کی یہ علامت دنیا کو مذاق معلوم ہوئی تھی مگر آخر کار ۲۷ اپریل ۱۹۴۵ء کو ٹلی کامرواہن اور ہٹلر کا ساتھی سولینس گرتار ہو گیا۔ اس کے ساتھ

ہی اتحادی فوجیں برلن کے دروازوں پر پہنچ گئیں۔ اب ہٹلر کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اس نے برلن کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے ایک تہ خانے میں اپنے تین چار اعلیٰ کمانڈروں کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ مجھے گولی مارو اور میری لاش کو ہٹلر کے چہرے کے آگ لگا دو اور پھر تم سب بھی خودکشی کر لو۔ ہٹلر کا آخری حکم گونجا۔ ایک 'درا تین' فار اور گولیوں کی بارود نے اس کے جسم کو پھینسی کر ڈالا۔ اس کے بعد، رنسی کو جس رنسی نے ہتھیار ڈال دئے۔ اور اس طرح چرچل کی فتح کی علامت کامیاب ہو کر رہی۔ لیکن اس فتح کے ساتھ ہی برطانیہ کی عظمت اور اقبال کا آفتاب بھی ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ انگریز قوم نے چرچل کو بیک بینی دود گوش وزارتِ عظمیٰ کے منصب سے بحال پھینکا۔ یہ فتح کوئی کارنامہ نہ تھی۔ اور نہ یہ حکمت عملی کوئی کامیابی تھی۔ برطانیہ کھنڈر بن چکا تھا۔ دنیا کے چار کروڑ انسان اس جنگ نے نکل لئے تھے اور پانچ کروڑ عمر بھر کے لئے لو لے لنگڑے ہو گئے تھے۔ اور برطانوی سامراج ہمیشہ کے لئے راہی ملکِ عدم ہو چکا تھا۔ بہر حال نام ہی کی ہی عمر اس محاذ پر اتحادیوں کو فتح ہو ہی گئی تھی۔ لیکن ابھی ایک بڑی تلوار سر پر لٹک رہی تھی۔ جاپان کا زور ابھی نہیں گھٹا تھا۔ یہ فوجیں گوشت پوست کی نہیں لوہے پتھر کی بنی ہوئی تھیں۔ پیچھے ہٹنے، بھاگنے اور پسپا ہونے کے الفاظ ان کی لغت میں موجود ہی نہیں تھے۔ یا اپنے کمانڈر کے حکم کی تعمیل کرتے تھے یا موت کے گھاٹ اتر جاتے تھے۔ جو مرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ بے پناہ ہو جاتا ہے۔ ان کی بے جگری، بہادری اور خون خواری کے سیکڑوں قصے اُس زمانے میں زبان زد خاص و عام تھے۔ اتحادیوں کا ایک فولادی جہاز جاپان پر حملے کے لئے روانہ ہوا۔ جاپانی ہوائی جہازوں نے اسے بچ سمندر میں آلیا۔ سیکڑوں نشانے باندھے، بیوں گولے مارے مگر موٹی فولادی چادر سے بنے ہوئے اس جہاز پر خراش تک نہ آئی اور وہ لمحہ بہ لمحہ جاپان کی طرف بڑھتا ہی رہا۔ جاپانی کمانڈروں نے سر جوڑ کر مشورہ کیا اور اعلان کیا کہ دشمن کی اس کارروائی کی کاٹ کے لئے دو انسانی جانوں کی ضرورت ہے۔ دو نو عمر ذوقیسن

جاپانی دوشیزاؤں نے اپنی جانیں پیش کیں اور ایک ہوائی جہاز کے ذریعے اُس جنگی بحری جہاز کی طرف روانہ ہوئیں اور اس کے اوپر پہنچ کر اپنے نازک جسموں سے بم باندھ کر دونوں لڑکیاں جہاز کی دونوں چیمنیوں میں کود گئیں۔ انجن کے قلب میں پہنچ کر وہ دونوں بم پھٹے اور جہاز کے پر نچے اڑ گئے۔ اگر کچھ دن جاپانیوں کا یہی رنگ باقی رہ جاتا تو اتحادی جیتی ہوئی بازی ہار چلے تھے۔ مگر اچانک امریکوں نے اپنا آخری قیامت خیز ہلاکت اور درندگی و بربریت کا شاہکار ہتھیار استعمال کیا اور ۱۶ اگست ۱۹۴۵ء کو جاپان کی ایک ہنستی کھیلتی آبادی اور زندگی سے بھرپور شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا اور دوسرے دن ایک دوسرے شہر ناگاساکی کو بھی اسی بم کا نشانہ بنایا۔ یہ بم اتنے ہلاکت خیز، زہریلے اور خوفناک تھے کہ بیسوں میل کی دوری پر پھیلے ہوئے یہ دونوں شہر چشم زدن میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اور اب جاپان نے بھی ہتھیار ڈال دئے۔ بہر حال جرمن اور جاپان تو ہار ہی گئے مگر برطانیہ بھی اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل نہ رہا اور اس کا گزارہ مشکل ہو گیا۔ امریکہ اور بعض دوسرے یورپین ممالک اس پر بہت پہلے سے زور دے رہے تھے کہ ہندوستان کو آزاد کر دو۔ ادھر ہندوستان میں اس کے خلاف کھلی بغاوت پھوٹ پڑی تھی۔ ۱۴ اپریل ۱۹۴۷ء کو دھولپہ کے چند نوجوانوں نے حکومت کی ایک کار روک لی، ڈرائیور اور پولیس کے محافظ سپاہی کو گولی مار دی اور پانچ لاکھ روپے چھین لئے۔ حکومت نے مجرمین کو پکڑنے کی لاکھ کوششیں کیں۔ آس پاس کی آبادیوں اور دیہاتوں کے لوگوں کو پکڑ کر ہر طرح کی سختیاں کیں اور مارنے والوں کا پتہ نشان معلوم کرنا چاہا مگر عوام نے کوئی ہلکا سا اشارہ بھی نہ دیا۔ اسی تاریخ کو بمبئی میں جنگی ضروریات سے بھرے ہوئے ایک جہاز میں آگ لگ گئی، کروڑوں روپے کا سامان چشم زدن میں جل کر راکھ ہو گیا۔ حکومت نے سرچک لیا مگر آتشزدگی کے اسباب کا ابتدائی اندازہ بھی نہ لگ سکا۔ آخر آخر میں تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ پولیس اور فوج کے سپاہیوں نے انگریز کمانڈرس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور علی الاعلان ملکی دومی معاملہ میں لپسی لینے لگی۔ ان حالات اور ایسے ماحول میں جیتے علماء ہند کا چودھواں سالانہ اجلاس جو پور میں

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اپنے وقت اور ہندوستان کے سیاسی ماحول کے اعتبار سے یہ اجلاس نہایت فیصلہ کن، اہم اور تاریخی اجلاس تھا۔ اس میں جیتے ملتا ہند کے ارکان کے علاوہ ہندوستان بھر کے حریت پسند اور نیشنلسٹ لیڈران شریک ہوئے تھے اور بعض نے بڑی سرکھ آرا تقریریں بھی کی تھیں۔ اس میں حضرت نے اڑتالیس صفحے کا بڑا مبسوط اور پُر مغز خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اپنے مشکلات، سیاسی معلومات اور فیصلہ کن بیانات کے پیش نظر یہ خطبہ ایک تاریخی دستاویز ہے اور اس اہمیت کا مستحق ہے کہ شروع سے آخر تک نقل کیا جائے مگر وقت اور گنجائش کی قلت ایک بار پھر مانع بیکارش ہے تاہم بعض جدیدہ جدیدہ اقتباسات سے اصل موضوع کا کچھ تو اندازہ ہو ہی جائیگا۔ ہندوستان کی اقتصادی اور سیاسی بحالی کا تذکرہ کرتے ہوئے اور زبردستی جنگ عظیم میں اسے داخل کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا:

”ایسے ناواقفان، نیم مژدہ اور جاں بلب ملک کو ان سخت دل اور بے رحم آقاؤں نے ۱۹۳۹ء کی جنگ عمومی میں بغیر اس کی رضامندی کے دھکیل دیا تھا۔ اس نے شور مچایا کہ مجھ کو کسی لڑائی اور صلح سے کیا غرض ہے۔ میں نہ جرمن کا دوست یا دشمن ہوں نہ امریکہ کا، میں خود غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ مجھ کو صرف آزادی کی ضرورت ہے۔ مگر اس کی ایک نہ سنی گئی اور جنگ کی مخالفت کرنے والوں پر عرصہ حیات جنگ کر دیا گیا۔ مقدمے چلائے گئے، جرانے لگے، اوجھلے میں ٹھونس دیا گیا۔ ڈیفنس آف انڈیا ایسٹ پاس کیا گیا اور لاکھوں بے قصوروں کو اس کا نشانہ بنایا گیا۔ آرمی بل پاس کیا گیا جس کی رو سے فوج کی بھرتی سے روکنا جرم قرار پایا۔ ڈاک تار پر سنسز بٹھا دیا گیا۔ پریس کی آزادی ختم کر دی گئی۔ ملوں اور کارخانوں پر قبضہ کر کے ان کی پیداوار صرف جنگی ضروریات کے لئے مخصوص کر دی گئیں۔ ملک کی زرعی پیداوار پر قبضہ کر کے عوام کو ان سے محروم کر دیا گیا۔ ریلوں اور اجنوں پر کنٹرول کر کے انہیں فوجی نقل و حرکت کے لئے مخصوص کر دیا گیا۔“

یہ چند سطریں صرف نمونے کے طور پر نقل کی گئی ہیں حضرت نے آٹھ صفحات میں اعداد و

شہار کے ساتھ ضروریات زندگی کی فہرست اور وہ مقدار میں پیش کی ہیں جو ہندوستان سے جنگی ضروریات کے لئے بجز واکراہ وصول کر کے جنگی رسد کے لئے روانہ کی جاتی رہی تھیں یہ ساری تفصیل تاریخی اعتبار سے بڑی قیمتی مستندات ہیں۔ اسی ذیل میں حضرت نے قحط بنگال کی دلخراش تصویر کھینچی اور بتلایا کہ مختلف شاہدین نے قحط میں مرنے والوں کی الگ الگ تعداد بتلائی ہے۔ وزیر ہند اٹھارہ لاکھ تہتر ہزار سات سو اچاس موتیں بتلاتے ہیں لیکن ڈاکٹر جی سی رائے صدر میڈیکل ریلیف کا اندازہ تیس لاکھ موتوں کا ہے۔ کئی اخباروں نے فتنے لاکھ افراد کی موت بیان کی ہے۔ یہ ساری تباہی حکومت برطانیہ کی سنگ دلی اور ظلم کا نتیجہ تھی۔

برطانیہ کی ان پالیسیوں کا بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ :

”آزادی کی جدوجہد ہر ہندوستانی کے لئے انتہائی ضروری ہے اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی عقلاً، شرعاً اور انسانیتاً فرض ہے۔ غلامی کی حالت میں انسان کا مذہب محفوظ رہتا ہے نہ زندگی، نہ امن باقی رہتا ہے نہ رزقاہیت و خوشی ہی رہتی ہے“

علماء اور جمیۃ علماء کی خدمات کے تذکرے میں بیان کیا کہ جمیۃ علماء کی خدمات کا میدان مسلمانوں کے مذہبی امور کی تنظیم و تبلیغ ہے ساتھ ہی ہم کانگریس کے ساتھ جدوجہد آزادی میں بھی برابر کے شریک ہیں مگر نہ اس کے تابع ہیں نہ اس میں ضم ہیں۔ ۱۹۳۱ء میں کانگریس سول نافرمانی کر رہی تھی۔ جمیۃ بھی اپنے علمدہ پردگرام کے مطابق اس میدان میں صفا آراء تھی۔ پنڈت موتی لال نہرو نے سول نافرمانی کی تحریک میں مالی امداد دینی چاہی تو جمیۃ علماء نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنے فریضے کی ادائیگی کے لئے مسلمانوں ہی کی امداد سے کام چلائیں گے۔ اسی کے ساتھ خطبے میں کانگریس کی مختصر تاریخ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے یہ بتلایا ہے کہ آزادی کے لئے سینہ سپر اس جماعت کی ترکیب اور تاریخ میں کسی طرح مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے نہیں تھے۔ چنانچہ ملک کی آزادی اور ترقی آپس کے اتحاد

و اتفاق اسی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ہندو تنگ دل یا سلم دشمن ہیں تو حسن اخلاق، مروت، احسن معاملہ اور اخوت کے ذریعے ہم انہیں غلص دوست بنا سکتے ہیں اگرچہ ہندو اور مسلمانوں کے مذہب الگ الگ ہیں مگر بہار اور اس کا ہر ہر قدم پر اشتراک قائم و دائم ہے، ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے مل کر رہے ہیں۔ یہ صحن برطانوی رجعت پسندانہ پالیسی تھی جس نے ہمارے درمیان منافرت پیدا کر دی ہے اور اسی پالیسی کے ماتحت سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکا دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی الگ حکومت قائم کی جائے گی، وہ پاکستان ہوگا اور اس میں خلفائے راشدین کے طرز کی حکومت قائم کی جائے گی۔ تعجب ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی صورت سیرت غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں اور جن کو مذہب اسلام اور شعائر اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے طرز کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ خواب تو بہت شیریں ہے، کاش ایسا ہی ہو۔ اگر ذمہ داران لیگ اس کا اطمینان دلا دیں تو ہم اراکین جمیہ سب سے پہلے لبیک کہنے کو تیار ہیں، انوس بے کہ محض اشارات پر اکتفا کرنا پڑ رہا ہے۔ بغیر پورا خطبہ سامنے آئے یہ انداز کرنا مشکل ہے کہ اس زمانے کے دیسے ماحول اور حالات میں علی الاعلان اسٹیج پر کھڑے ہو کر آزادی اور جہاد کا نعرو بلند کرنا معمولی دل و جگر کا کام نہیں تھا۔ جب کبھی جنگ آزادی کی حکایتیں اور داستانیں سامنے آئیں گی تو ۱۸۵۷ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک کے عرصے میں بے شمار مجاہدین علماء کی فہرت میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا نام تا بناک سنہری حرفوں میں نمایاں ہوگا۔ صرف نوے برس کے عرصے میں جس قوم اور حکومت نے چالبازیوں، ریشہ دوانیوں، مظالم اور سازشوں کے ذریعے اپنے آہنی پنجے ہندوستان کی رگ رگ میں پیوست کر لئے تھے، اب اس کی جڑیں ہل گئی تھیں۔ خود اپنے ملک میں برطانیہ کو دن کی روشنی میں اندھیرے نظر آ رہے تھے۔ دنیا کی دوسری برطانوی مقبوضات میں اس کی طاقت ختم ہو رہی تھی۔ ہندوستان میں عوام ہی نے نہیں بلکہ فوج نے، پولیس نے، سرکاری افسروں اور ملازموں نے بغاوت کے جھنڈے اٹھائے تھے جس سلطنت پر چومیس گھنٹے مسلسل سورج طلوع رہتا تھا اب وہ ہمیشہ کے لئے غروب ہو رہا تھا۔ بیسوں برس سے یا اور زیادہ عرصے سے ہم سنتے تھے کہ حضرت فجر کی

نماز میں بڑی دل سوزی، درد مندی اور بھرائی ہوئی آواز میں یہ دُعا مانگا کرتے تھے۔ اللھم
 اھدنا فیمن ھدیت و عافنا فیمن عافیت و تولنا فیمن تولیت و باہک لنا فیما اعطیت وقتنا
 مشرقاً قضیت الخ صبح کا چھپٹنا، دھندلکے کا سناٹا، نماز باجماعت کی صفیں اور اس میں
 حضرت کی تاثیر اور التجا میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر کلیجے دہل جاتے تھے اور یقین ہو جاتا تھا کہ
 رحم لانے کے لئے اس آہ کو بادل ہٹ کر ضرور ہی راہ دیتے ہوں گے اور یہ دعا صرف برعرش
 الہی تک پہنچتی ہوگی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے برطانیہ کی تدمر دیا رہی گئی اور اس کی اینٹ سے
 اینٹ بچ گئی۔ ایسی افراتفری پھیل کر برطانیہ نے جنگ کے فاتح چرچل ہی کو نہیں اس کی
 پوری کنزرویٹو پارٹی کو حکومت سے نکال باہر کیا۔ اب برطانیہ جان بچا کر ہندوستان سے بھاگنا
 چاہتا تھا۔ خطرہ تھا کہ عزت و آبرو لے کر اگر فوراً نکل نہ گئے تو شاید کوئی انگریز زندہ سلامت
 واپس نہ جانے پائے۔ چنانچہ نئی لیبر پارٹی کی حکومت نے ہندوستانی لیڈروں اور بالخصوص
 کانگریس اور مسلم لیگ کے ذمے داروں کی ایک میٹنگ بلانی جس میں والسٹرائے لارڈ دیول
 نے کھلے دل اور شاید اخلاص کے ساتھ کہا کہ برطانوی حکومت ہندوستان کو آزاد کرنے کا
 فیصلہ کر چکی ہے مگر جب تک جنگ کے اٹھے ہوئے مسائل بحال طور پر حل نہیں ہو جاتے اس وقت
 تک ہمارے لئے یہ بات آسان نہیں ہے کہ ہم پورے ضوابط و قواعد کے ساتھ حکومت آپکے
 حوالے کر دیں۔ اس لئے میں یہ پیش کش کرتا ہوں کہ والسٹرائے کونسل کے سارے ممبران
 ہندوستانی عوام کے نمائندوں پر مشتمل ہوں اور پورے اختیارات کے ساتھ نظام حکومت
 چلائیں۔ پھر جیسے ہی جنگ کے مسائل حل ہو جائیں اور برطانیہ کا بوجھ اس طرف سے ہلکا ہو۔
 ہندوستان کی حکومت باضابطہ طور پر ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے۔ مسلم لیگ
 اور خصوصاً مٹر محمد علی جناح نے اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور پیش بینی کی بدولت شروع ہی میں بلکہ
 میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ برطانیہ ہندوستان کو آزاد کر دینے کے
 لئے تیار ہے۔ چنانچہ میٹنگ کے شروع ہی میں مسلم لیگ نے اختلاف و اعتراض کا ماحول پیدا
 کر دیا۔ کانگریس نے والسٹرائے کی تجاویز کو منظور کیا اور مسلم لیگ نے یہ شرط لگائی کہ کانگریس
 اپنے ممبروں میں کسی مسلمان کو منتخب نہ کرے۔ کانگریس ایک قومی جماعت تھی، ہندوستان کی

ساری ہی قومیں اس میں شریک تھیں یہی اس کی طاقت اور امتیاز تھا۔ چنانچہ حکومت کے لئے اس کے منتخب کردہ ممبروں میں تین مسلم، عیسائی اور پارسی اور صرف دو ہندو تھے۔ یہ حکایت مولانا آزاد سے سینے :

”کانگریس نے اپنے ممبروں کی جو فہرست دائرہ کے کو پیش کی وہ اس بات کا بین ثبوت تھی کہ کانگریس صحیح معنوں میں ایک قومی جماعت تھی۔ ہندو جو ملک کی سب سے بڑی اکثریت تھی۔ وہ چاہتے تو کانگریس کے اس انتخاب پر اعتراض کر سکتے تھے مگر ان کی اس خوبی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ کانگریس کے پانچ ممبران، تین ممبران مسلمان، پارسی اور عیسائی تھے۔ ہندو مہا سبھانے کانگریس کے اس فیصلے سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہا مگر ملک کے عوام کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھنے کو مسلم لیگ بھی ہندو مہا سبھا کی صف میں کھڑی تھی اور مسلمان ممبر کی شمولیت سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں تھی۔“

آج دس برس کے بعد بھی مجھے حیرت ہے کہ مسلم لیگ کی اس پالیسی کا یہی مطلب تھا؛ کانگریس اور مسلم لیگ کے پانچ ناموں کے علاوہ لارڈ دیول نے بھی حکومت برطانیہ کی طرف سے چار ممبر نامزد کئے تھے۔ ان میں ایک سکھ تھا دو ڈیول کارٹ تھے اور چوتھے پنجاب کے چیف منسٹر خضر حیات خاں تھے۔ جناب صاحب کو اس پر شدید اعتراض ہوا کہ حکومت میں دو ایسے بھی مسلمان ممبر ہوں جن میں ان کی مرضی اور انتخاب کا دخل نہ ہو۔ خضر حیات خاں اس مسئلے میں میرے پاس آئے میں نے انھیں یقین دلایا کہ کانگریس کو آپ کے نام پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے اس معاملے میں لارڈ دیول سے بھی بات کر لی۔ اگر جناب صاحب کی مخالفت اور اعتراض کی وجہ سے یہ کانفرنس فیل نہ ہو جاتی تو نتیجہ یہ ہوتا کہ دائرہ کے چودہ ممبروں کی کونسل میں مسلمانوں کی تعداد سات ہوتی۔ درآن حالانکہ مسلمان ملک کی آبادی کا صرف پچیس فی صدی حصہ ہیں۔ اس واقعہ سے جہاں کانگریس کی فراخ دلی کا

اندازہ ہوتا ہے وہیں مسلم لیگ کی بیوقوفی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ مسلم لیگ کو مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے تھا مگر ہوا یہ کہ اس کی مخالفت کی وجہ سے مسلمان متحدہ ہندوستان کی حکومت میں ایک طاقت درحیثیت حاصل کرنے سے محروم ہو گیا اور یہ کانفرنس صرف مسلم لیگ کی انتہا پسندانہ پالیسی کی وجہ سے فیل ہو گئی۔

حکومت برطانیہ اگر آزادی کے مسئلے میں سنجیدہ ہوتی تو مسلم لیگ کی شرط کی معقولیت اور عدم معقولیت پر غور کر کے کوئی فیصلہ کرتی۔ مگر مسلم لیگ کی شرط سامنے آتے ہی اُس نے کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر مولینا آزاد نے پریس کانفرنس میں حکومت برطانیہ کو بھی مسئلہ آزادی کو نظر انداز کرنے کا ذمے دار ٹھہرایا۔ آپ فرماتے ہیں:

”اس صورت حال سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کانفرنس کی ناکامی کی ذمے داری مسلم لیگ پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ لیگ کے انکار کے باوجود اُس رائے کی ذمے داری تھی کہ وہ فیصلہ کریں کہ آگے بڑھا جائے یا نہیں؟ مگر اُس رائے نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے قدم آگے نہ بڑھائیں، چنانچہ اس سلسلے میں غمچے پھر کہنا پڑتا ہے کہ برطانوی حکومت کو اس فرقہ وارانہ صورت حال کی ذمے داری سے بری الذمہ نہیں کہا جاسکتا۔“

”اس کانفرنس میں کانگریس نے جو موقف اختیار کیا اس کو میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں، ہم نے سٹر جناح کے مطالبات مان لینے کی امکانی کوشش کی لیکن ہم ان کا یہ دعویٰ ماننے کے لئے بالکل تیار نہیں ہیں کہ مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں بھی مسلم لیگ کی وزارت نہیں بنی ہے۔ صوبہ سرحد میں کانگریس کی وزارت ہے۔ بنگال میں گورنر رول ہے۔ پنجاب میں یونیٹ پارٹی کی حکومت ہے۔ سندھ

میں سر فلام حسین کی وزارت کا نگرانیس کے ہمارے پر قائم ہے۔ یہی حال آسام کا ہے۔ ان حالات میں مسلم لیگ کی واحد نمائندگی کا دعویٰ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا بڑا حصہ مسلم لیگ سے الگ ہے۔

مختصر یہ کہ حکومت برطانیہ کو آخری تدبیر و سیاست کا موقع مل گیا اور اس نے ۱۹۴۷ء میں جنرل الکشن کا اعلان کر دیا۔ اس الکشن میں واحد نمائندگی ثابت کرنے اور تقسیم نیرپاکستان کے حصول کے لئے مسلم لیگ کو ایڑھی سے چوٹی تک کا زور لگا دینا پڑا اور اس کے ساتھ ہر طرح کے سیاسی داؤ پیچ کھیلنے پڑے۔ ان میں سے مشہور نمونہ از خردارے ہم اگلے ابواب میں پیش کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی مسلم لیگ کی کامیابی کی پوزیشن بھی دے رہے ہیں۔

مسلم لیگی جمیعتہ علماء

ابھی دس برس پہلے ۱۹۳۶ء میں مسلم لیگ نے الکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے جمیعتہ علماء ہند کی تائید و تصدیق کی درخواست کی تھی اور اس کے لئے مسٹر محمد علی جناح نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت سے ہر قسم کے عہد و پیمانہ کئے تھے۔ اب پھر وہی مرحلہ درپیش تھا۔ اس مرتبہ بازی بالکل آخری اور فیصلہ کن تھی۔ مگر جمیعتہ علماء ہند اب کسی دام میں آنے کے لئے تیار نہ تھی۔ مسلم لیگ کی رجعت پسند پالیسی بھی اظہر من الشمس ہو چکی تھی۔ ایسے نازک مرحلے پر مسٹر جناح اور ان کے ساتھیوں نے بڑا کامیاب سیاسی کھیل کھیلا اور ایک مسلم لیگی جمیعتہ علماء بنا کر کھڑی کر دی۔ عام مسلمان ان حقائق سے بالکل ناواقف تھے۔ وہ علماء دین کے مقابلے میں مسٹر جناح پر دھری خلیق الزماں اور راجہ صاحب محمود آباد وغیرہ کے ساتھ آنے پر کسی طرح تیار نہ تھے، اس لئے مسلم لیگ کے لئے یہ ضروری تھا کہ جس طرح بھی ہو کچھ علماء کو اپنے راستے پر لگایا جائے۔ چنانچہ ایک کامیاب اسکیم کے ذریعے یہ کام انجام دیا گیا۔ مسلم لیگ کی پالیسی چلانے والوں میں مولینا ظفر احمد انصاری نے اس مرحلے کا بیان اس طرح کیا ہے:

"لیگ کے مقابلے میں زیادہ موثر مخالفت کانگریس کے زیر اثر علماء کے ایک گروہ کی طرف سے ہو رہی تھی اور کانگریس کی اس مخالفت کا توڑ اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ خود علماء ہی تھے اس لئے جو لوگ لیگ سے وابستہ تھے ان کی قدر تائیہ خواہش تھی کہ علماء زیادہ سے زیادہ لیگ میں شامل ہوں اور جمیعتہ علماء ہند کے پروپیگنڈے کا کافی دشمنی جواب دیں۔ چونکہ عوام کا ایک بڑا طبقہ علماء کے زیر اثر تھا اور ان کی بات کو بڑا وزن دیتا تھا اس لئے یہ ضرورت بہت بڑھ گئی کہ کانگریسی علماء کے طلسم کو توڑا جائے اور ان کے زہر کا تریاق ہیا کیا جائے یہ

یہ بالکل علمدہ بحث ہے کہ شیخ الاسلام مولینا حسین احمد مدنی، مولینا ابوالکلام آزاد

مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ صاحب، امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مجاہد ملت مولانا حفیظ الرحمن صاحب، سبحان الہند مولانا احمد سعید صاحب رحمہم اللہ وغیرہ مدد با علمائے دین و مقتدا این شرع متین جنہوں نے قرآن و سنت کی خدمت میں اپنی زندگیوں کا ایک ایک لمحہ قربان کر دیا تھا اور اصلاح امت کے لئے اپنی ہڈیاں تک بگھلا دی تھیں۔ یہ کانگریسی علماء تھے یا صحیح معنوں میں علمائے حق تھے اور اس جماعت کی فراست و عقل اور لائحہ عمل زہر تھا یا تریاق تھا۔ یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ اس کا فیصلہ وقت خود کر رہا ہے یا آئندہ کرے گا۔ ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس موقع پر اگر مسلم لیگ کو اپنی اسکیم کے لئے کچھ علمائے کرام نہ مل جاتے تو الگوشن میں کامیابی بہت مشکل تھی۔ سوہ اتفاق سے اس کو جماعت علماء ہی سے بعض حضرات مل گئے جو مختلف اسباب کی بنیاد پر حضرت سے اختلاف رکھتے تھے۔ اس فرصت کو ان لوگوں نے قیمت سمجھا اور مسلم لیگ کے ساتھ ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور مریدین پر مشتمل تھی۔ ہندوستان کی ملکی سیاست میں مولانا تھانوی کا موقف آزادی پسند جماعتوں اور افراد سے مختلف تھا، تحریک خلافت جس نے وقتی طور پر ہی ہر ہی تمام ہندوستانیوں کو متحد کر دیا تھا۔ مولانا کے نزدیک نہ صرف فتنہ و فساد بلکہ شرعی طور پر حرام تھی۔ جمعیۃ علماء ہند سے بھی مولانا کا یہی اختلاف تھا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر مولانا موصوف اور حضرت مفتی کفایت اللہ صدر جمعیۃ علماء رحمہما اللہ کے کچھ تاریخی سوال و جواب بھی قارئین کی نظر میں رہیں :

س : جمعیۃ علماء کے نزدیک مذہبی حیثیت سے کانگریس میں مسلمانوں کی شرکت کیوں ضروری ہے؟ اور کانگریس سے علیحدگی میں کیا ضرر ہے؟

ج : نہ صرف جمعیۃ علماء ہند بلکہ ہندوستان کی تمام معتدبہ جماعتوں کا نصب العین یہ ہے کہ انگریزی حکومت سے ہندوستان کو آزاد اور خود مختار بنایا جائے۔ اور اس کے لئے

یہ مسئلہ بھی متفق علیہ ہے کہ جب تک ہندوستان کی تمام قومیں متحد ہو کر انگریزی حکومت سے آزادی کا مطالبہ نہ کریں گی، بظاہر اسباب کا نیابی حاصل نہ ہوگی۔ اس لئے آزادی کی خاطر جیتے علماء کا انگریس کی شرکت کو ضروری سمجھتی ہے۔ اور چونکہ انگریزی حکومت سے مسلمانوں کی مرکزیت اور اسلامی حکومت کو ضرر پہنچ رہا ہے اور پہنچنے کا اندیشہ ہے اس لئے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ انگریزی اقتدار کو جہاں تک ہو سکے کمزور کرنے کی سعی کریں۔

س : کانگریس میں مسلمانوں کا داخلہ جس صورت سے انفرادی اور غیر منظم اور غیر مشروط طریقے پر اس وقت ہو رہا ہے اور مسلم نشستوں کے لئے کانگریس براہ راست امیدوار کھڑے کرتی ہے اس سے اسلام اور مسلمانوں کو خطرہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟

ج : کانگریس ایک مشترک جماعت ہے، مسلمان اپنے مذہب پر پختہ رہتے ہوئے بھی کانگریس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسلام سے بے تعلق غیر کانگریسی مسلمانوں میں جو مغربی تسلیم اور یورپین تہذیب کے دلدادہ ہے بہت زیادہ ہیں۔ کانگریسی مسلمان اسلام سے اس تذبذب تعلق نہیں ہیں جس قدر یورپین کے دلدادہ غیر کانگریسی مسلمان ہیں۔

س : مسلم لیگ سے جیتے علماء کو کیوں اختلاف ہے جب کہ وہ مسلمانوں کو منظم کر رہی ہے اور اس کا مقصد بھی آزادی کا مل کی تحصیل ہے۔ جیسا کہ اس سال گھنٹوں میں اس نے اعلان کیا ہے۔

ج : اس لئے کہ مسلم لیگ کی اکثریت انگریزی حکومت کو خدا کی رحمت کا سایہ سمجھتی ہے۔ اور انگریزوں کے دامن میں پناہ لینا چاہتی ہے اور انگریزی شہنشاہیت کی حمایت کرتی ہے اور انگریزی اقتدار کی بنیاد مضبوط کرتی ہے اور سرمایہ داروں کی نہ صرف حامی ہے بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کو مستحکم رکھنا چاہتی ہے۔ قوم کے لئے کوئی ٹھوس کام نہیں کرتی بلکہ مسلم لیگ کی رکنیت اور عہدہ داری کو حصول مناصب جلیلہ کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ آزادی کا مل کا اعلان تو کر دیا اور یہ بھی اقرار ہے کہ تنہا مسلمان آزادی کا مل حاصل نہیں کر سکتے

اس کے باوجود آزادی کامل حاصل کرنے کے طریقے، ہندو مسلم اتحاد کو اختیار نہیں کرتی۔ ایسی صورت میں ہم اس زبانی اعلان کو محض ابط فریبی نہ سمجھیں تو کیا سمجھیں؟

س: اگر مسلم لیگ میں کچھ مفاسد اور منکرات شرعیہ موجود ہیں تو کیا یہ صورت ممکن نہیں ہے کہ جمعیتہ علماء اس میں شریک ہو کر اسے مفاسد و منکرات سے پاک کر دے۔

ج: مسلم لیگ میں شریک ہو کر اسے منکرات سے خالی کر دینا تجربے سے ناممکن ثابت ہوا ہے۔

س: کیا مسلم لیگ اور جمعیتہ علماء کے تصادم سے تشقت اور افتراق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جمعیتہ علماء نے اس کے انسداد کی کیا صورت اختیار کی ہے؟

ج: ضرور ہوتا ہے مگر اس کی ذمہ داری صرف لیگ پر ہے۔ وہ مسلمان عوام کو علماء کے دین کے خلاف بھڑکاتی ہے اور آپس میں لڑاتی ہے۔ آپ مسلم لیگ کے قائد اعظم کی ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی حال میں انھوں نے مسلم لیگیوں کو جمعیتہ علماء کے جلسے میں شرکت سے منع کرنے کے لئے اخباروں میں اعلان شائع کیا۔

س: کانگریس کے ساتھ مل کر جو آزادی حاصل ہوگی اس کا انجام حکومت مشترکہ ہے جس میں عنصر کفر غالب ہوگا اور عنصر اسلام مغلوب ہوگا۔ ایسی حکومت یقیناً اسلامی نہ ہوگی تو اس کے لئے جدوجہد کرنا مسلمانوں کے ذمے کس دلیل سے واجب ہے۔ کانگریس کے اقتدار سے اس وقت ہندوؤں کے حوصلے جس قدر بڑھنے لگے ہیں اور مسلمانوں پر بازاروں میں 'دیہاتوں میں اور سرکاری محکموں میں جو مظالم برپا کرنے لگے ہیں جمعیتہ علماء نے اس کے انسداد کی کیا تدبیر سوچی ہے اور اس کے لئے کوئی قدم اٹھایا یا نہیں؟

ج: لیکن کیا مسلم لیگ خالص اسلامی حکومت قائم کرنے کی سعی کر رہی ہے؟ وہ بھی تو اسی مشترکہ حکومت کے اصول کو گورنمنٹ آف انڈیا ایجنٹ گول میز کانفرنس میں تسلیم کر چکی ہے۔ اگر ہندو انگریز کو نکالنا نہیں چاہتے تو پھر جمعیتہ علماء ان کے ساتھ اشتراکِ عمل نہیں کرے گی۔ یہ اشتراک صرف آزادی کے لئے ہے۔

س: کانگریس وزارتوں نے زمینداروں کی آراضی کو کاشت کاروں کی مملوک بنا دینے کی تجویز سوچی ہے جو یقیناً ظلم ہے۔ جو لوگ کانگریس میں شریک ہیں اس ظلم میں شریک ہیں

کیا جمیعتہ علماء نے اس سے بچنے کی کوئی تدبیر کی؟

ج : جمیعتہ علماء ہر خلاف شرع قانون کے خلاف انتہائی جدوجہد کر رہی ہے اور کرجسکی ہے اور کرے گی۔ ابھی حال میں اس کی کارروائی دیکھئے کہ اس نے کانگریسی حکومت سے کس قدر اجتناب کیا ہے۔ مدح صحابہ کے قیضے میں جمیعتہ کا طرز عمل آپ کے سامنے ہے۔ مگر مسلم لیگ کی تائید و حمایت سے جو خلاف شرع قوانین روزانہ اسمبلی میں پاس ہوتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیئے، توجیح طور پر فرق واضح ہو سکے گا۔

س : کانگریس میں بندے ماترم کا گیت مضامین شریک پر مشتمل ہے اور قومی جھنڈے کی سلامی ہے۔ کیا ان افعال میں شرکت گناہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو جمیعتہ نے اس کے خلاف کیا احتجاج کیا؟

ج : کانگریس نے بندے ماترم گیت کے قابل اعتراض بند اس میں سے الگ کر دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جھنڈے کی سلامی مسلم لیگ بھی کرتی ہے اور اسلامی حکومتوں میں بھی ہوتی ہے۔ وہ ایک فوجی عمل ہے۔ اس میں اصلاح ہو سکتی ہے مگر وہ مشرکانه عمل نہیں ہے۔

س : صدر کانگریس اشتراکیت کے حامی اور مذہب و خدا کے دشمن ہیں اور ان کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ جمیعتہ علماء نے ان کے خلاف احتجاج کیا یا نہیں؟ اور مسلمانوں کو ان کی تعظیم سے روکایا نہیں؟

ج : صدر کانگریس کی شخصی رائے بے کانگریس کو الزام دینا مقبول بات نہیں ہے۔

س : کانگریس کے ساتھ مل کر جو آزادی حاصل ہوگی اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس میں مسلمانوں کے مذہبی و سیاسی حقوق کی پوری حفاظت ہوگی۔ جب کہ کانگریس اور اس کے ارکان مذہب اور حقوق کا نام لینا جرم اور فرقہ پرستی قرار دیتے ہیں۔ نیز جمیعتہ علماء نے کانگریس کے ساتھ تعاون کر کے مذہب اور سیاست کے تحفظ میں اس وقت تک کون سا کام کیا ہے؟

ج : مسلمان اپنے مذہبی اور سیاسی حقوق کی حفاظت اپنی قوت اور قربانی سے کر سکتے ہیں نہ کہ کانگریس اور انگریزوں کے وعدوں سے۔

س : جمعیت علماء نے اچھوت اقوام میں تسلیخ اسلام کے لئے کوئی عملی قدم اٹھایا یا نہیں؟
ج : یہ سوال اس جماعت سے اور اس کے علماء سے کیا جانا چاہیے جو تو نے فی صدی مسلمانوں کی ناسیئتگی کی دعویٰ دیا ہے۔

مولانا تھانوی کے حلقہ میں خود دیوبند اور مدرسہ دارالعلوم کے مدرسین و منتظین کی ایک جماعت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مخالفت اور مخالفت کے جذبات رکھتی تھی اور نتیجے کے طور پر ہر اس خیال اور فکر کی مخالفت تھی جس کا انتساب حضرت کی طرف ہو۔ اسی بنا پر یہ جمعیت علماء کی بھی سخت مخالفت تھی۔ حضرت شیخ الہند کے اہم اور خاص شاگرد نیر مسیح مسلم شریف کی شرح الملہم کے مصنف حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قمر عالم بے مثل خطیب اور مقرر تھے۔ انھوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن پر نہایت فاضلانہ حواشی بھی تحریر فرمائے تھے جو موصون کی بالغ نظری اور بحر علمی کے شاہد ہیں ایک طویل عرصے تک وہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم رہے اور جمعیت علماء ہند کے عائدین میں شریک رہے لیکن انھیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بعض وجوہ کی بنا پر وہ قربت نہ تھی جیسی ایک ہی مسلک کے دو بزرگوں میں ہونی چاہیے۔ دیوبند جیسے مرکزی ادارے کے صدر مہتمم ہونے کی وجہ سے مولانا موصون کو مدرسہ میں سبب باختیار اور ملک میں سبب زیادہ محبوب ہونا چاہیے تھا مگر آپ نہایت نازک مزاج بہت کم آئینہ اور خلوت نشین تھے قدرتی طور پر ہمارے حضرت مدرسہ میں اور ملک میں غیر معمولی مقبولیت اور محبوبیت کے مالک تھے حضرت کے انداز رکھ رکھاؤ اور لباس و پوشاک میں نہ کوئی مشینت تھی نہ عالمانہ اور فاضلانہ تکلف و تصنع تھا۔ نہ گفتگو اور مخاطب میں کوئی مولیانہ اور مولانانہ رعب و داب تھا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی شان و وقار اور دلآویزی عطا ہوئی تھی کہ ان کے سامنے بڑی سے بڑی شخصیت مانند پڑ جاتی تھی۔ یہ درویشانہ شان اور فقیرانہ آن بان مدرسہ دارالعلوم

لے خالقہ اندازہ تھا۔ بھولوں کے سوالات اور منفی کفایت اللہ کے جوابات، عصر جدید، مدینہ، بخنور، مار فروری ۱۹۴۶ء
ماخوذ از مکتوبات، ج ۴، ص ۱۴۹، مولانا عثمانی حضرت (تھانوی) کے خلیفہ خاص تھے۔ بحوالہ حکیم الامت از مولانا
عبدالمجاہد دیوبادی، ص ۲۳۱

کے معاملات میں بہت سے لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی تھی۔ تیسرے مدرسے کے اختیارات کے بارے میں مولینا محمد طیب صاحب مہتمم مدرسہ کی ذات مولانا شبیر احمد صاحب کے اقتدار کے راستے میں ہمیشہ سد راہ رہی۔ دیوبند کے مقتدر لوگوں میں مولینا محمد طاہر صاحب مرحوم کا اسم گرامی محتاج تعارف نہیں۔ آپ مولینا محمد قاسم صاحب کے پوتے مولینا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم کے چھوٹے بھائی تھے۔ بظاہر تو موصوف مدرسہ میں ناظم کتب خانہ کے عہدے پر مامور تھے مگر حقیقت معاملات مدرسہ کے ہر پہلو پر اثر انداز تھے۔ موصوف کو حضرت سے کوئی خاص اختلاف تو نہیں تھا مگر ایک ذاتی مسئلہ میں ان کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے شکوہ تھا۔ جب مسلم لیگ کا زور ہوا تو وہ کھل کر حضرت کے مخالف ہو گئے۔

مولوی مفتی محمد شفیع صاحب مدرسہ کے مفتی تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ قدرتی طور پر موصوف حضرت کی سیاسی جدوجہد کو پسند نہیں کرتے تھے اور مسلم لیگ کے موید و مددگار تھے۔ آپ نے ایک مفصل فتویٰ کانگریس میں شرکت کی حرمت اور مسلم لیگ کی تائید و نصرت میں لکھا اور اس کو اپنے تجارتی کتب خانہ دارالاشاعت دیوبند سے شائع کیا۔ اس کا نام ”دقیۃ المسلمین عن دلایۃ المشرکین“ رکھا۔ اس کے آخر میں خلاصہ کے طور پر آپ نے پاکستان کی شرعی حیثیت واضح کی اور فتویٰ دیا کہ مسلم لیگ میں شرکت لازمی اور کانگریس میں شرکت حرام ہے۔ اس فتویٰ کی تصدیق و تائید مفتی جمیل احمد تھانوی دارالافتاء خانقاہ اشرفیہ تھانہ بھون اور محمد شبیر علی ناظم خانقاہ نے اس عبارت کے ساتھ کی ”یہ مضمون بالکل صحیح ہے گویا حضرت اقدس حکیم الامت مجدد الملتہ امام تھانوی کے ارشادات کی شرح و توضیح ہے اسی وجہ سے اس کو تھانہ بھون کا فتویٰ بھی کہا گیا۔“

یہ بڑا طویل تقصیر ہے کہ مفتی صاحب موصوف نے کیسی شدت سے نظرِ پاکستان کی حمایت اور تحریک آزادی کی مخالفت کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بصیرت کی بنا پر اپنی رائے اور تائید کا اعلان کیا ہو گا مگر دینی و مذہبی فرضیت اور وجوب مفتی صاحب ہی نے

مقرر کیا۔ ان تین حضرات کے علاوہ مدرسہ دیوبند میں چھوٹے بڑے ملازمین و مدرسین اور ان کے ساتھ مجلس شوریٰ کے بعض خان بہادر و نالان جنگ وغیرہ بھی شامل تھے۔ خود مدرسہ کے مہتمم مولانا محمد طیب صاحبؒ بھی حضرت تھانوی علیہ الرحمۃ کے ممتاز خلفاء میں تھے اور اپنے طبعی رجحان کے اعتبار سے اسی جماعت کے ہمنوا اور نظریہ پاکستان کے موید تھے مگر مدرسہ کی سب سے بڑی ذمہ دار شخصیت ہونے کی وجہ سے موصوف مدرسہ کی مصلحت اور مفاد کا خیال مقدم رکھتے تھے اور علی الاطلاق کسی جماعت سے منسلک نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ایک وجہ آپ کے غیر جانب دار ہونے کی یہ بھی تھی مدرسہ کے اہتمام کے بارے میں صدر مہتمم اور مہتمم کے درمیان ایک مسلسل اور خاموش عدم تعاون اور اختلاف رہا کرتا تھا اور آپ کے لئے مکمل طور پر صد مہتمم کی جماعت میں شرکت شکل تھی۔ مختصر یہ کہ خود دیوبند میں ایسے لوگ تھے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سرگرم رہتے تھے۔ ملک اور بیرون ملک میں حضرت کی مقبولیت اور مدرسہ دیوبند میں حضرت کی ناگزیر ضرورت کی وجہ سے ان کا بس تو چل نہیں سکتا تھا مگر یہ کبھی اپنے اس مقصد سے غافل نہیں ہوتے تھے کہ کس طرح مدرسہ سے حضرت کو الگ کر دیا جائے۔ انہی احوال اور باجول میں قدرت کی طرف سے ایک ایسا موقع میسر آگیا کہ ان کے مقاصد کے لئے راستہ صاف ہو گیا اور یہ حضرت کی سالانہ گزشتاری کا موقع تھا۔ اب ان کو اطمینان ہو گیا کہ جیل کی چار دیواری میں مجبوس و مجبور حضرت رحمۃ اللہ کی علیحدگی میں اب کون سی دقت اور رکاوٹ پیش آسکتی ہے۔ چنانچہ کافی غور و فکر کے بعد یہ اسکیم بنائی گئی کہ سب سے پہلے ان طلباء کو مدرسہ سے الگ کیا جائے جن کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ یہ راستوں میں رکاوٹ بن سکیں گے۔ اس کے بعد حضرت کے متقدّمین اور سربراہان اور اساتذہ اور ملازمین کو نکالا جائے اور سب سے آخر میں حضرت کی علیحدگی عمل میں آئے۔ اس پروگرام کے مطابق چاروں طرف سے پیش بندیاں کرنے کے بعد اس جرم میں کہ طلباء نے حضرت رحمۃ اللہ کی گرفتاری پر مضطرب ہو کر حکومت برطانیہ کے خلاف جلسے اور جلوس منعقد کئے، منتخب اور موثر طلباء کی ایک بڑی تعداد کو مدرسہ سے نکال دیا گیا۔ حضرت اپنے مزاج اور دینی مقاصد کے پیش نظر طلباء دین کے ساتھ نہایت شفقت، رعایت اور درگزر کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تعلیم و تعلم اسلامی شعائر اور شرعی کوتاہیوں میں تو کبھی کبھی کسی قدر تنبیہ و نہایت کر دیتے تھے مگر

بالب علم کو دینی تربیت اور تعلیم سے محروم کر دینا کسی طرح گوارا نہیں کرتے تھے۔ جیل میں یہ اطلاع ملی تو مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم کو تحریر فرمایا:

”اس مرتبہ جب یہ معلوم ہوا کہ آپ دونوں حضرات نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تقریباً اسی طلبہ مدرسہ سے بالکل خارج کر دئے جائیں تو مجھ کو سخت صدمہ ہوا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جس قدر بھی ممکن ہو لوگوں کو مسلمان اور صحیح العقیدہ مسلمان بنانا فرض ہے اور حسب فرمان نبوی علیہ السلام فاستوصو بجمہ خیراً ممکن سے ممکن درجہ تک طلبہ کو راہ راست پر لائیں تاکہ یہ نوجوان پڑھ لکھ اپنی حالت بھی درست کریں اور مسلمانوں کی حالت بھی درست کریں اور اسلام کے سچے مبلغ بنیں۔ اخراج کرنا اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر دینا ہے اور ہمارے یہاں کی انتہائی سزا ہے جس سے بہت سے خطرات ہیں“

اس کے علاوہ براہ راست مجلس شورائی کے بعض ممبران کو بھی اس قسم کے خطوط تحریر کرائے جن میں ان کے ساتھ رعایت و شفقت کا برتاؤ کرنے پر زور دیا:

”یو فیصلہ جناب نے ابتدائی شبان میں امتحان بند کر کے، مطبخ یک تلم موقوف کر کے چالیس طلبہ کو بحال دینے اور اکثر کو سند فضیلت سے بالکل محروم کر دینے کا کیا ہے وہ نہایت تعجب نغز ہے۔ اگر یہ معاملہ انتقاماً تھا جیسا کہ ظاہر یہی ہے تو معاملہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ تمام ہندوستان کی یونیورسٹیوں اور کالجوں اور اسکولوں اور مدرسوں میں باوجود انتہائی شور و شوش اور سخت سے سخت تشددات کے نہ ان کے کارکنوں نے ایسی کارروائی کی اور نہ گورنمنٹ نے اتنی مداخلت کی جتنی آپ نے کی ہے۔ حالانکہ دارالعلوم آزاد تھا اور گورنمنٹ کا دست نگر نہ تھا اور نہ ہے پھر اس قدر ڈوبت اور اظہار وفاداری کے کیا معنی ہیں جو حدود عقل سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ طلباء نے جلسے جلوس بے شک کئے۔ ادارہ اہتمام نے روکا تو نہیں رکے۔ اس سے زیادہ ان کا کیا جرم تھا۔ کیا اسی کی وجہ سے یہ دور دور سے آئے ہوئے طلبائے

علم دینی تمسلیم سے ہمیشہ کے لئے محروم کئے جا رہے ہیں۔ پھر جب کہ ملک کی فضا اس قدر مسموم ہو رہی ہے کہ ملک کے دو نوجوان طلبہ جن کی ساری امیدیں گورنمنٹ کی غلامی سے بندھی ہوئی ہیں، وہ ملک کے لیڈران کی گرفتاری پر اپنے آپ سے باہر ہو گئے۔ (حالانکہ ان لیڈران کا ان سے کوئی خاص تعلق نہ تھا اور تھا تو بہت دور کا تھا پھر بھی) انہوں نے سردھڑکی بازی لگادی اور تقریباً ایک ہزار یا اس سے زیادہ طلباء پروانہ دار جاں بحق ہو گئے اور کئی ہزار زخمی ہوئے تو اگر گورنمنٹ کے اس شرمناک رویہ پر جو اس نے استبداد کے طریقے پر دارالعلوم کے طلباء کے ایک نالائق خادم پر جاری کئے۔ وہ کچھ مظاہرہ کر بیٹھے تو وہ اس قدر موجب غیظ و غضب و انتقام کیوں قرار دئے گئے؟

طلبائے کرام کے بعد نمبر مدرسین اور ملازمین کا تھا۔ اس کے لئے ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ خبریں گرم ہوئیں کہ فلاں فلاں حضرات کے نام نوٹس جاری کئے جا رہے ہیں مگر عین وقت پر جیل سے حضرت کے خطوط موصول ہوئے جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ مدرسہ کی بقا اور اس کی ترقی کی کوششیں کی جائیں۔ اگر طلباء اور مدرسین کو بحال دیا گیا تو اس سے ایک مرکزی ادارہ کو نقصان پہنچے گا۔ اس سلسلے کا ایک خط قابل ملاحظہ ہے:

”جن پانچ اشخاص، منشی سید محمد شفیع صاحب، مولوی عبد الوحید صاحب،

مولوی شوہد گل صاحب، مولوی سلطان الحق صاحب، مولوی محمد عثمان صاحب کی برطانیہ کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا حالانکہ یہ پہلی قسط تھی۔ شہرہ تو یہ ہے کہ ۲۶ آدمیوں کو برطنت کرنا چاہیے تھا اور ڈابھیل کے مدرسین بلائے گئے تھے اور دوسرے ملازمین کو بھی روکا گیا تھا۔ مجلس شوریٰ کے بعد تمہارا یہاں تقرر کیا جائے گا۔ واللہ اعلم، ان سب کی مولانا طیب صاحب سے صفائی کرا دیجئے۔ انہوں نے صدر صاحب (مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی) سے طلبہ کے اخراج کے وقت فرمایا تھا کہ جو لوگ اصل اصول

فساد ہیں ان کو نکالیے۔ صدر صاحب نے فرمایا کہ ان کی رپورٹ اور سلیس پیش کرد میں ابھی نکالوں گا۔ بہر حال ان لوگوں کی صفائی مولانا طیب صاحب سے کر دیجئے، یہ مدرسین و ملازمین (حکومت برطانیہ کے خلاف) فقط جذبات ہی تو رکھتے ہیں۔ اہل حل و عقد کی تشدد آمیز کارروائیوں سے ڈر کر علانیہ تو تحریکات میں حصہ نہیں لیتے تاہم ان کو اصل اصول فساد کہتے ہیں۔ اہل اصول فساد تو حسین احمد ہے جو تحریکات میں علانیہ حصہ لیتا ہے۔ اس کو نکالنا چاہیے!

مختصر یہ کہ وقت سے پہلے ہی روک تھام کی گئی اس لئے مدرسین کا اخراج رک گیا۔ مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علیحدگی کے سارے انتظامات کر لئے گئے و مجلس شوریٰ کی میٹنگ میں یہ مسئلہ پیش کیا جانا تھا۔ اس کیلئے زمین ہموار کر لی گئی تھی اور یقین ہو گیا تھا کہ اس اجلاس میں حضرت کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ متعین اور غلصین کے لئے یہ بڑا سخت وقت تھا۔ اس کے ہی حضرات کو یقین تھا کہ اب دیوبند سے نکلنا طے ہے۔ اس موقع پر حضرت رحمۃ اللہ نے حضرت شیخ الہند کے نواسہ مولانا محمد عثمان کے نام ایک خط تحریر فرمایا:

”ہم کو دارالعلوم سے نکالا جائے ہم خوش ہیں۔ رکھا جائے ہم خوش ہیں۔ رزق کا فیصل دارالعلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ عزیزم! ان احوال کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ واقعات اور حقیقت کو تاریخ وار قلب بند رکھو۔ اور صبر جمیل اختیار کرو۔ زبان بند رکھو اور آنکھوں سے دیکھو مگر کچھ نہ بولو، دیکھو قدرت کیا کرتی ہے۔ وہ بے نیاز اور بے پردا بھی ہے اور سب سے زیادہ رحمت و درحمت والا بھی ہے۔ اس کا ظاہری ہاتھ بھی ہے اور خفیہ ہاتھ بھی، کچھ نکرمت کر دے کسی کو مت سناؤ واللہ معکے۔ ایسا کنفتم۔ اگر واقعات اور انوفات ستایا کریں تو حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی یاد کرو اور اگر اس پر بھی قلبی سکون نہ حاصل ہو تو مزار پر جا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر ایک دو پارے پڑھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کو بخش دیا کرو۔ یہی

بات مولانا عمر بلبل صاحب اور مولانا اعجاز علی صاحب سے بھی کہہ دو۔ اگر مولانا مانع گل صاحب آجائیں تو ان سے بھی یہی کہہ دو۔ یہی میری استدعا مولانا سلطان الحق صاحب اور منشی شفیع صاحب سے بھی ہے۔

اس موقع پر مدرسہ کے وہ ذمہ داران اور مدرسین جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھے انھیں یقین ہو گیا کہ اب دارالعلوم سے ہماری خدمات منقطع ہو رہی ہیں۔ حضرت نے بھی اپنے معتمد خصوصی قاری اصغر علی صاحب مرحوم لکھا کہ میری غلطی کا حکم آجانے کے بعد مدرسہ کا مکان خالی کر دیا جائے۔ سامان ٹانڈہ پہنچا دیا جائے۔ زیر تعلیم بچوں کو مدرسہ قاسمیہ شاہی مسجد مراد آباد میں داخل کر دیا جائے۔ جیسے جیسے مجلس شوریٰ کے اجلاس کی تاریخیں قریب آتی گئیں ان تھانوی اور مسلم لیگی حضرات کی سرگرمیوں اور حوصلوں میں تیزی آتی گئی۔ اور اسی نسبت سے حضرت کے خدام کے استقلال، استغنیٰ اور صبر و شکر کے جذبات میں اضافہ ہوتا رہا۔ حضرت ان حضرات کو اعتماد علی النفس اور توکل علی اللہ کی تاکید لکھتے ہیں:

”جو کچھ احوال ان مبارک مہینوں میں وہاں پیش آ رہے ہیں ان کے متعلق اطلاعات ملیں۔ آپ حضرات اپنے فرائض پر مستل رہیں۔ انواہوں سے متاثر نہ ہوں۔ بڑوں کا ادب و احترام بجالائیں۔ تقاریر کی نیز جگیاں اگر خلاص طبع ظاہر ہوں تو صبر و شکر کریں، رازق صرف اللہ ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے سامان پیدا کر دے گا۔ دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تر است۔ اخلاص اور اللہیت کو ہر موقع پر ملحوظ رکھیے اور جہاں تک ممکن ہو علوم دینیہ اور دارالعلوم کی خدمت میں بہتری کی کوشش کیجئے، مظلوم ہونا ظالم ہونے سے بہتر ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا انتظام کیا ہے کہ مولانا حسین احمد اپنی قید کی مدت پوری کر کے بھی آزاد نہ ہوں گے تو آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند کے ساتھ ایسا

ہی ہوا تھا۔ میں تو اپنی کانکارہ و نالائق غلام ہوں۔ اگر ایسے معاملات رونما ہوئے ہیں تو شکر کی بات ہے اور کیا تعجب ہے کہ کہیں وہی انقلاب نہ پیش آجائے جو حضرت رحمۃ اللہ (شیخ الہند مولینا محمود حسن) کی مخالفت اور ایذا رسانی کرنے والوں پر آیا تھا! لہ

مکتوب کی آخری دو سطریں غور کے قابل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رو حدیثیں من عادائی و لباً فقد آذنتہ بالحرب اور اتقوا فاسۃ المؤمن فانہ ینظر بنوم اللہ حضرت پر زندگی بھر صادق رہیں۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ دیکھنے اور سننے والے حیران و مبہوت رہ گئے۔ اجلاس شروع ہونے تک ماحول میں گرمی، اضطراب اور بے چینی نظر آتی رہی۔ مگر مجلس شوروی ختم ہوئی اور اس کے فیصلے اور قراردادیں سامنے آئیں تو حیرت و استعجاب کی انتہا نہ رہی۔ صدارت اہتمام کا عہدہ بالکل ختم کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی صدر ہتہم بھی برخاست کر دیے گئے تھے۔ مولینا شبیر احمد صاحب الگ ہوئے تو ان کی پارٹی کے بھی چھوٹے بڑے حضرات کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ عزت و آبرو کے ساتھ خود استعفیٰ دے دیں۔ اس طرح ایک مولینا محمد طیب صاحب ہتہم مدرسہ کو چھوڑ کر پوری تھانوی اور مسلم لیگی جماعت بیک قلم مدرسہ سے الگ ہو گئی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس اچانک اور بالکل ہی غیر متوقع فیصلے کے اسباب کیا تھے مگر اس وقت جو قیاسات اور اندازے سامنے آئے وہ یہ تھے کہ ہتہم اور صدر ہتہم کے درمیان عرصہ دراز سے جو سرد جنگ جاری رہتی تھی۔ اس میں حضرت دونوں حضرات کے درمیان مصالحت و موانست کی کوشش میں مصروف رہتے تھے حضرت کی گرفتاری کے بعد درمیانی رابطے کی کوئی شکل باقی نہ رہی اور ریشہ دو اینیاں تیز تر ہو گئیں۔ مجلس شوروی کے اجلاس میں بھی ایک باوقار ذات ایسی موجود رہتی تھی کہ کسی کو حدود و قیود سے تجاوز کا موقع نہ ملتا تھا۔ اس بار اجلاس سے پہلے سرگرمیاں اور کارروائیاں بڑھیں تو مولینا شبیر احمد صاحب اس اطمینان میں رہے کہ تیاریاں حضرت

مدنی کی مخالفت میں ہو رہی ہیں۔ مگر نتیجہ سانسے آیا تو پتہ چلا کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ کبھی شاید کبھی
 می زندہ۔ حضرت نے اس واقعہ کا تذکرہ مختصر طور پر فرمایا ہے :

”سب کو معلوم ہے کہ آثار عثمانی دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم تھے۔ جناب
 مولانا محمد طاہر صاحب کی ساہا سال کی آرزو کے مطابق دفتر اہتمام مہتمم کی تحریک
 پر مولانا عہدہ صدارت سے الگ کئے گئے۔ مجلس شوریٰ میں مہدہ صدارت کی تخفیف کی
 تحریک اور تائید جن بزرگوں نے کی ان میں سے ایک آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے رکن
 تھے۔ دوسرے دیوبند مسلم لیگ کے صدر تھے مگر اخباروں میں نام مولانا مدنی اور گائیکر
 کا بدنام کیا گیا۔“

یہ حقیقت ذہن میں رہے کہ اس واقعہ کے وقت حضرت جیل میں مجبوس تھے اور اس
 کے علاوہ آپ کا کوئی دخل اس انقلاب میں نہیں تھا۔ مگر قدیم مخالفت اور معاشرت کو اب کھل
 کر سامنے آنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ دارالعلوم کا میدان تو ہاتھ سے نکل ہی چکا تھا۔ اب
 تلاش عداوت و معاندت کی تسکین کے لئے کسی نئے عنوان اور رزمگاہ کی تھی۔ اتفاق سے
 یہی وہ زمانہ تھا کہ جب مسلم لیگ کو اپنی الگ نشانی تدا بیر کے لئے چند علمائے کرام کی تلاش تھی۔
 چنانچہ مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی، مولانا ظفر احمد صاحب انصاری وغیرہ نے باہر سے اور
 مولانا محمد طاہر صاحب وغیرہ نے دیوبند سے اس قسم کی اسکیمیں بنانی شروع کیں کہ ایسے کچھ
 علماء کو جمع کیا جائے جن سے مقصد پورا ہو۔ رفتہ رفتہ یہ اطلاعات شائع ہونے لگیں کہ حضرت
 مولانا شبیر احمد صاحب جیتہ علماء ہند کی مخالفت کے لئے تیار کئے جا رہے ہیں۔ اس
 درمیان میں حضرت رحمۃ اللہ رہا ہو کر تشریف لاپکے تھے۔ آپ کا دل صاف تھا اور مدرسہ کی
 کارروائی میں آپ کا کوئی حصہ بھی نہ تھا۔ جیتہ سے اختلاف کی خبریں سن کر حضرت مولانا
 حفظ الرحمن صاحب اور مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب رحمہما اللہ نے علامہ عثمانی سے ملاقات
 مفاہمت کا پروگرام بنایا۔ حسن اتفاق سے اس ملاقات میں حضرت مفتی کفایت اللہ

صاحب اور مولینا احمد سعید صاحب اور مولینا عبدالمنان صاحب ہزاروی بھی بغرض ملاقات و عیادت شریک ہو گئے۔ یہ ملاقات اور گفتگو بالکل نجی اور غلصانہ ماحول میں ہوئی اور مجلس میں مذکورہ بالا حضرات کے علاوہ کوئی دوسرا شخص موجود بھی نہ تھا۔ حضرت مولینا عثمانی نے فرمایا کہ میں نے ابھی تک (کسی نئی جماعت) کی صدارت کے قبول اور عدم قبول کی نسبت کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔

”اس میں شک نہیں کہ اس گفتگو میں مختلف امور کا تذکرہ آیا۔ مگر نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں جن میں نہ کوئی مناظرانہ طرز تھا نہ اثر ڈالنے اور بانے کا کوئی پہلو تھا نہ کسی ادب و احترام میں کوئی کوتاہی تھی۔ تمام طریقہ احباب کی دوستانہ اور خصوصی گفتگو کا تھا۔ اور ہر امر میں پرائیویٹ اجازت کی شان تھی اور یہی وجہ ہوئی کہ اس تمام گفتگو یا اس کے کسی حصے کو جمیۃ کے کسی رکن نے نہ کسی اخبار، رسالہ یا اشتہار میں شائع کیا نہ دوسرے احباب سے تذکرہ کیا۔“

جمیۃ علماء ہند کے حضرات نے مولینا شبیر احمد صاحب عثمانی سے صفائی اور مفاہمت کے اقدامات کئے تو مسلم لیگ نے فوراً ایک نئی مسلم لیگ جمیۃ علماء اسلام کی بناؤ ڈالی اور مختلف قسم کے وعدے و وعید اور عہد و پیمان کر کے مولینا شبیر احمد صاحب کو اس کا صدر بنالیا۔ حضرت مولینا عثمانی فطری طور پر نازک طبع، کمزور مزاج اور گوشہ نشین شخص تھے۔ پہلے پہلے تو جمیۃ علماء اسلام کے دو ایک جلسوں میں شریک ہوئے اس کے بعد دوسرے حضرات علماء ان کے بیانات اور خطبات صدارت لے کر جانے لگے ان کے بھتیجے مولینا مفتی عتیق الرحمن صاحب کی ایک گفتگو ملاحظہ فرمائیے:

”مولینا عتیق الرحمن نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے مولینا عثمانی سے فرمایا کہ آپ تو گوشہ نشین تھے، کسی تحریک میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آج آپ تحریر شائع کرتے ہیں۔ شہروں میں تقریریں کرنے جاتے ہیں۔ مولینا عثمانی

نے فرمایا کہ میں پاکستان کو مسلمانوں کے لئے مفید سمجھتا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ان ایام میں بہت سے ضروری اور مفید مسائل مسلمانوں کے تعلق پیش آتے رہے مگر شدید سے شدید ضرورت میں بھی آپ زادیہ سے باہر نہیں نکلے آج کون سی ضرورت ایسی پیش آگئی جو کہ آپ کو دربر لے پھرتی ہے۔ ابھی قریبی زانہ میں مجھ کو آپ سے گفتگو کرنے کی نوبت آئی تھی اور پاکستان کا مسئلہ بھی سامنے آیا تھا تو آپ نے مولانا آزاد سبحانی پر عدم اعتقاد کا اظہار فرمایا تھا اور ذکر کیا تھا کہ جو تحریر آپ ہے اسی گئی تھی آپ اس کے دینے پر رضامند نہیں ہوئے تھے مولانا عثمانی نے اس پر سکوت فرمایا تھا۔ اس سکوت کی وجہ بہت منقول تھی۔ آج سے پہلے حضرت علامہ پاکستان کے نہیں بلکہ جمیۃ علماء کے فارمولے ۴۵ مسلمان ۴۵ ہندو اور ۱۰ دوسری قوموں پر مشتمل پارلیمنٹ کو ہندوستان کے مسئلے کا سب سے بہتر اور آخری حل یقین کرتے تھے۔ اخبار مدینہ کا ایک بیان ہے:

"حضرت عثمانی صاحب کو حیرت غالباً اس وجہ سے ہوئی ہوگی کہ خود موصوف نے جب کہ بیعتہ کے فارمولے پر اطلاع پائی تھی تو اس کی تعریف میں نہایت زور دار کلمات تحریر فرماتے ہوئے لکھا تھا کہ "مسلمانوں کے اطمینان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی عمدہ چیز نہیں ہے"۔ یہ تحریر جمیۃ کے ریکارڈ میں آج بھی موجود ہے۔ غالباً جب علامہ صاحب اپنی غلط بیانی پر مفتی صاحب کو سنا کہ وصامت دیکھتے ہیں تو دل ہی دل میں شرمناک حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ خوشی معنی دار دکھ درگفتن نمی آید اور خیال کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب سمجھ گئے ہیں کہ حضرت عثمانی کا جمیۃ علماء اسلام اور لیگ کی حمایت میں قدم اٹھانا حق پرستی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس پر ردّ و ننگاری میں کوئی دوسرا ہی ہاتھ کام کر رہا ہے"۔

مذکورہ بالا اقتباس میں حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے سکوت اور

خاموشی کا تذکرہ آیا ہے۔ بہتر ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کی زبانی اس سکوت کی تفصیل بھی دیکھ لیں :

”مفتی (کفایت اللہ) نے اس گفتگو میں قطعاً حصہ نہیں لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گفتگو کا رخ ذاتی شکایات اور دوسرے معاملات سے متعلق غم و غصہ پر مبنی ہے اور محنت میں جگہ جگہ وہی جذبہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے اور تحقیق حق کو غلط طریقے سے الجھایا جا رہا ہے تو یقیناً ان صورتوں میں جو کہ مکالمہ میں مذکور ہیں مفتی صاحب کو بولنا نہیں چاہیے تھا۔“

اس ذاتی رجحان اور بنیاد کا خود حضرت علامہ نے بھی اپنی گفتگو میں اقرار کیا اور فرمایا کہ ”گفتگو کرنے والی جماعت نے عرصے سے مجھے نظر انداز کر رکھا ہے۔ پس اگر میں نے کوئی دوسری راہ اختیار کر لی ہے تو آپ کیوں مجھے اپنا سمجھ کر تبادلہ خیالات کرنے آئے ہیں، میں تو آپ کے لئے اچھوت ہو چکا تھا“۔ خوب دھیان رہے کہ مقصد اس تفصیل کا صرف یہ ہے کہ ان حضرات کے پیش نظر اصولی اور با مقصد اختلافات کم اور ذاتی گروہ بندی کے جذبات زیادہ موزن تھے۔ دوسری طرف مسلم لیگ اور اس کے ذمے داروں کے سامنے تو صرف لکھنؤی داؤ پیچ ہی تھے ورنہ ان کے حلقے میں ان مولویوں اور مولاناؤں کی ایسی اہمیت کہاں تھی۔ جن صاحب نے ان مقاصد میں کامیاب ہونے کے بعد اپنے ایک نخلص کو تحریر فرمایا: ”ہم بڑی حد تک اپنی قوم کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور رجعت پسند عناصر سے پاک کر چکے ہیں۔ ہم نے کسی حد تک اس خاص طبقے کے اثر کو زائل کر دیا ہے جو مولوی مولانا کہلاتے ہیں“۔

حضرت علامہ نے جیتے علماء اسلام کے جلسے میں جو دیوبند میں ڈاک خانے کے سامنے میدان میں منعقد ہوا خطبہ صدارت ارشاد فرمایا۔ راقم الحروف حسب عادت پہلے والے ذوق و شوق سے حضرت کی تقریر سننے کے لئے حاضر ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ کی یا مسلم لیگی جیتے علماء کی طرفداری کے لئے تاریخی، تہذیبی اور دینی کچھ بھی دلائل حضرت کے سامنے نہیں تھے۔ بعض

خاص خاص جملے تو آج تک کانوں میں گونج رہے ہیں فرمایا کہ "ہندوؤں کے ساتھ ہمارا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارا کھانا الگ ان کا کھانا الگ، ہمارا لوٹنا الگ ان کا لوٹنا الگ، ان کے سر پر چوٹی ہے ہمارا سر صاف ہے۔ وہ دھوٹی پہنتے ہیں ہم پاجامہ پہنتے ہیں۔ میں عصہ دراز سے درراہے پر کھڑا تھا۔ مسٹر جناح نے مجھے راستے پر لگادیا۔ میں اندھیرے میں تھا۔ مسٹر جناح نے مجھے روشنی دکھلا دی۔"

یہ تمام واقعات حضرت کے ساتھ ان حضرات کا منازرہ روئے گرفتاری کے زمانے میں حضرت کے نکالنے کی سازشیں اور سرگرمیاں، مسلم لیگ کی اعانت و نصرت میں توڑے اور بیانات کی تیاریاں اور پھر جمعیتہ علماء اسلام کی جولانیاں سب راقم الحروف کی نظروں کے سامنے گزری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اور معافی مانگتے ان واقعات کو اس لئے ذکر کیا کہ جمعیتہ علماء اسلام کے بزرگوں کا برصغیر کے مسلمانوں کی قسمت بنانے یا بگاڑنے میں سب سے بڑا حصہ

مسلم لیگی دشنام طرازیوں اور دست درازیاں

مختلف الگسٹی سیاستوں اور تدبیروں میں ایک پالیسی یہ بھی تھی کہ نیشنلسٹ مسلمانوں کے خلاف بہت محکمہ پروپیگنڈہ کیا گیا اور اس میں گفتنی کے ساتھ سیکڑوں ہزاروں ناگفتنیوں بھی کہی گئیں۔ ویسے تو کبھی نیشنلسٹ لیڈروں اور علماء کے خلاف دشنام طرازیوں اور الزام تراشیاں کی گئیں مگر اس تنظیم کے صدر اور مسلمان قوم میں سب سے زیادہ محترم، مقتدر اور مقبول ہونے کے سبب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کو خصوصی نشانہ بنایا گیا۔ جلسوں، اجتماعات، تقریبات، اخبارات، اشتہارات وغیرہ وغیرہ کے ذریعے کوئی دشنام اور اتہام ایسا نہ تھا جو حضرت پر آرمایا نہ گیا ہو۔ ہندوؤں کا زر خرید غلام، ضمیر فروش، مسلم دشمن، منافق، غدار، کافر، کانگریس کا ایجنٹ وغیرہ وغیرہ سیکڑوں گالیاں روزانہ برسعام اور اخبارات میں شائع ہوتی تھیں۔ عوام تو عام طور پر زیادہ غور و فکر کے عادی نہیں ہوتے مگر مسلم لیگی لیڈران بھی ان سے بچنے نہیں تھے۔

”۱۶ مارچ ۱۹۴۵ء کو مسٹر جناح نے کوئٹہ کی ایک تقریر میں نیشنلسٹ مسلمانوں کو کانگریس کا زر خریدیہ برادر کہتے ہوئے کہیں ”تراذ قومی دیا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہیں...“

”مسٹر جناح نے بی بی سی کے نمائندے کے سامنے مولانا آزاد اور مولینا منی کو انگریزی کی سب سے بڑی گالی دی اور کہا کہ ہر قوم میں گورننگ ہو کرتے ہیں اور یہ کہا کہ آپ کے لاؤڈ ہاؤس کہاں ہیں؟“

”آئی آئی چندر پور نے ۱۹۴۶ء کو بمبئی میں کہا کہ قوم پرورد جماعتیں کانگریس کے اشاروں پر ناپتنے والی طوائفیں ہیں“

لیڈروں اور ذمہ داروں کی ایسی کھلی ہوئی گالیوں سے عوام اور نوجوان مسلم لیگیوں کو اس راستے پر گرین سگنل ملتے رہتے تھے اور وہ اپنی چہرہ دہشتوں اور سب و شتم میں حدوں

سے آگے گزر جاتے تھے۔

۲۷ اپریل ۱۹۴۷ء کو کینٹ مشن سے گفتگو کے بعد مولانا آزاد شملہ سے کلکتہ کے لئے جس ٹرین سے روانہ ہوئے مسلم لیگ کے کچھ لیڈران بھی اسی ٹرین سے ہم سفر ہو گئے۔ ان لیگی لیڈروں نے روانگی سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو فون کر دیا کہ مولانا اسی ٹرین سے ہم سفر ہیں جس سے شرارت پسند طلباء کا ایک انبوہ کثیر قبل از وقت علی گڑھ اسٹیشن پر آدھکا۔ ان تشریف زادوں نے اپنی تہذیب کا پوری طرح سنگنا چ نایح کر مظاہرہ کیا۔ جب گاڑی چلنے لگتی تو زنجیر کھینچ دی جاتی۔ اس طرح متواتر ایک گھنٹے تک گاڑی لیٹ کرتے رہے۔ فحش گالیوں کے ساتھ انتہائیہ کی کہ پتلون کی بٹنیں کھول اپنی شرافت کا اظہار انتہائی دیدہ دلیری اور بے حیائی کے ساتھ کرتے رہے۔ ڈبے میں بیٹھے ہوئے مسلم لیگی لیڈر یہ تمام ناشائستہ حرکتیں دیکھتے اور خوش ہوتے رہے۔

اور یہ مسلم لیگی لیڈر جو طلبائے عزیز کی ان کارروائیوں پر اظہار پسندیدگی اور شاباشی دے رہے تھے یہ کینٹ مشن کے ملاقات کے بعد واپس آ رہے تھے۔ شاید ناظرین کو معلوم نہ ہو کہ اس موقع پر مسلم لیگ کی درگنگ کمیٹی کے سبھی ممبران شملہ میں تشریف فرما تھے۔ دوسرے دن مسلم لیگ کے آرگن ڈان نے بھی اس واقعہ پر بہادر طلباء کی ہمت افزائی کی۔ اس نے اپنے مقالہ انتہائیہ میں لکھا: 'جہاں تک اس سلوک کا تعلق ہے جو لیگی لیڈروں کی جانب سے مولینا کے ساتھ ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ گدڑتہ کے مقابلے میں تو ان لوگوں کے حصے میں اینٹ پتھر ہی آئیں گے جو شوبوائے کا کام کرتے ہیں۔'

کئی مقامات پر حضرت بردست درازی کی گئی اور چونکہ حضرت کی جانب سے کوئی پجاء نہیں کیا گیا اور نہ خلام کو حضرت نے دفاع کی اجازت دی اس لئے کئی موقعوں پر صدائے اور تکلیفیں پہنچیں۔ ان سارے واقعات کا احاطہ اس موقع پر مشکل بھی ہے اور غیر ضروری بھی۔ تاہم دو تین واقعات بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیں:

محمد طیب صاحب کا مکتوب بنام محمد میاں عقی عزا ✓
مولانا المحترم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ

حضرت اقدس بعد مغرب سید پور کے لئے روانہ ہوئے وہاں مسلم لیگیوں کے ایک جم غفیر نے حضرت اور ان کے رفقاء کو گھیر لیا اور رات روک دیا۔ بمشکل تمام پلیٹ فارم سے باہر نکلے۔ لیگی بوائے کسی صورت سے حضرت کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے۔ سیاہ جھنڈیاں لئے ہوئے مردہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ اکثر غنڈے شراب کے نشے میں مست تھے۔ ایک لیگی نے حضرت مدنی مدظلہ العالی کے سر سے ٹوپی اتار لی۔ لیگیوں نے (حضرت کے) رزقائے سفر کو پوری سرگرمی سے گھونٹوں اور مکوں سے زد و کوب کیا۔ گاڑی بان کو زخمی کر دیا۔ پولیس کو خبر دی گئی لیکن وہ منزل مقصود یعنی اس گاؤں تک پہنچانے کی ذمہ داری نہیں لے سکی۔ اس لئے آگے بڑھنا لیگیوں نے ناممکن کر دیا۔ شب بھر اسٹیشن ہی واپس ہو کر قیام فرمایا۔ صبح کو واپس کھٹیار تشریف لائے۔ یہاں کا واقعہ اپنی نوعیت میں سب سے شرمناک اور انوسناک ہے۔ لیگیوں نے جن میں شہر کے غنڈوں کے علاوہ اسکول کے طلبہ زیادہ تھے۔ ایک گھڑے میں کچھ گھولا اور ایک ہار بوسیدہ جوتوں کا اور ایک شہد کا چھتہ نالی کی غلاظت میں ڈبو کر لائے۔ سیاہ جھنڈیاں دکھا کر مردہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ حضرت بھاگلپور جانے والی گاڑی میں سکنڈ کلاس کے ڈبے میں تشریف فرما تھے۔ ڈبے کے پاس آکر نہایت فحش اور گندی گالیاں اور نعرے لگا لگا کر شور مچا رہے تھے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد چھ سطروں میں ان گندہ اور فحش الفاظ کو نقل کر کے تحریر کیا گیا ہے کہ نقل کفر کفر نباشد۔ مگر ہمارے خیال میں نقل کفر کفر نہیں ہے تو خلافت تہذیب و ممانت ضرور ہے علاوہ ازیں یہ بھی نہیں ہے کہ جو کفر نہ ہو اس پر لایا جاوے عمل ہو لہذا ہم ان کو قلم انداز کرتے ہیں۔ نقل کفر کے بعد طیب صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھے اور رزقائے کو جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔

محمد طیب موزع ۹/۱۵/۶۷

اس بیان کے بعد ٹرین چھوٹ جانے اور شہر میں نقص امن کی وجہ سے حضرت کے پولیس کی حفاظت میں رات بھر پولیس اسٹیشن میں رہنے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

اس کے بعد ایک واقعہ مولانا کفیل احمد صاحب اساتذہ کرام مدرسہ عالیہ کلکتہ کی

زبانی سنئے :

”حضرت مولانا ریاض الدین صاحب سید پورن جو کہ حضرت شیخ مدظلہ کے میزبان اور سید پور لانے کے باعث تھے وہ کلکتہ تشریف لائے ہوئے ہیں، موصوف نے راقم الحدیث کو نماز جمعہ سے قبل نمازیان مسجد کو ٹولہ کی موجودگی میں اپنی درد بھری داستان سنائی کہ حضرت مدنی اپنے خادم احسان الحق صاحب مرحوم کی تعزیت میں تعصبہ سونا تشریف لائے ہوئے تھے اور میری درخواست پر شام کا کھانا تناول فرمانے کے لئے سید پور اسٹیشن پر اترے تھے۔ افسوس کہ مدوح کو میرے غریب خانے تک پہنچنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ دفعتاً تقریباً سات سو لوگوں کا انہرہ لگی نعرے لگاتا ہوا آدھکا اور حضرت کو عریاں دشنام دہی شروع کر دی۔ ہاتھوں میں لائٹیاں، ڈنڈے اور چھریاں تھیں۔ بدتمیزی سے نام لے کر قتل کر دو، مار ڈالو، بکڑے بکڑے کر ڈالو۔ یہ غدار ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ جو کچھ میں آ رہا تھا بجا اس کر رہے تھے۔ ہم بنا براستقبال صرف دس بندرہ آدمی تھے اور اس میں برابر زیادتی ہو رہی تھی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تین ہزار غنڈے سید پور درکشاپ اور مضامات سے جمع ہو گئے، اور پھر حسین احمد بن حسین کے سامنے کر بلا کا منظر آگیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ مردھارا شروع کر دی اور ہم چند لوگ جو شیخ مدظلہ کو حلقہ میں لئے ہوئے تھے کچھ مضروب اور کچھ مجروح ہو رہے تھے اور خدا جانے ہمارے اندر فرشتے آگئے تھے یا کیا بات تھی کہ بے انتہا قوت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تھی اور ہم بنیان مروض ہو گئے تھے۔ اسی اتنا میں ایک فرعون بے سامان نے اپنی فرعونیت کا شدید ترین مظاہرہ کیا۔ حضرت شیخ کو زمین پر پچھاڑنے کی کوشش کی۔ بیدردی سے گریبان کپڑا اور سخت مدانت کے باوجود کلاہ مارا کہ آہ آہی اور بیہودہ کلمات بکتے ہوئے پاؤں کے نیچے روڑھی اور پھر اس کو جلا دیا۔“

ان تفصیلات کے بعد مولانا محمد میاں نے یہ واقعات لکھے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت کے ساتھ دست درازی کی اور ان کو زد و کوب کرنا چاہا قدرت نے ان کو زیادہ مہلت نہیں دی اور دو چار دس کے اندر ہی اندر ان کے ساتھ جل کر اور ڈوب کر مرنے کے حادثات پیش آئے یہ معاملات اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کے ہیں ان پر ہم کیا حکم لگا سکتے ہیں۔ ہمارے موضوع کا تعلق تو صرف ان واقعات سے ہے اور ساتھ ہی ہمیں اس کا مکمل یقین ہے کہ حضرت نے ان کے حق میں بدخواہی ہرگز نہیں کی ہوگی۔ یہ واقعات جنگال اور جنگالی مسلمانوں یا دوسرے لفظوں میں مستقبل میں ہونے والے مشرقی پاکستان کے تھے۔ لگے ہاتھوں ایک دو واقعات نمونے کے طور پر پنجاب اور ہونے والے مغربی پاکستان کے بھی ملاحظہ فرمائیں :

”تقسیم سے چند ماہ پیشتر اکتوبر ۱۹۴۷ء میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب دینی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے پنجاب تشریف لائے۔ مختلف شہروں میں رونق افروز ہوئے۔ مقصد سفر پورا کرنے کے بعد لاہور سے میل پر سوار ہوئے اسی گاڑی سے مشہور مسلم لیگی لیڈر راجہ غضنفر علی خاں کے سفر کا پروگرام تھا۔ اتفاقاً اس کا سفر ملتوی ہو گیا لیکن پروگرام کے مطابق ہر اسٹیشن پر مسلم لیگی کارکن استقبال کے لئے موجود تھے۔ جب گاڑی امرتسر ریوے اسٹیشن پر پہنچی تو مسلم لیگی کارکن راجہ غضنفر علی خاں کو تلاش کرنے لگے۔ ریوے گاڑی نے کارکنوں کو بتایا کہ راجہ صاحب کا پروگرام ملتوی ہو گیا ہے۔ وہ اس گاڑی میں سفر نہیں کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اس نے شرارتاً بتلایا کہ اس گاڑی کے فلاں ڈبے میں مولانا حسین احمد مدنی سفر کر رہے ہیں۔ اس پر وہ تمام مسلم لیگی کارکن اس ڈبے کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اور حضرت کے خلاف نعرے بازی اور ہڑبازی شروع کر دی۔ اور حضرت پر ٹاٹر وغیرہ پھینکنے لگے۔ اتفاقاً امرتسر کا ایک نوجوان عبدالرشید اپنا مال بک کر لانے کی غرض سے اسٹیشن پر آیا ہوا تھا۔ اس نے ایک ڈبے کے پاس جوم دیکھ کر معلوم کیا کہ ایک بزرگ کے ساتھ لوگ نہایت بدتمیزی کر رہے ہیں۔ وہ حضرت مدنی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ عبدالرشید نہایت صحت مند نوجوان تھا۔ اس نے جان پر

کھیل کر حضرت مدنی کی حفاظت کا فرض انجام دیا۔ مجمع ڈبے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ عبدالرشید ڈبے کے پائمان پر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مسلم لیگی مجمع اس پر ڈٹ پڑا اور اس کو بے دریغ زد و کوب کیا حتیٰ کہ اس کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ لیکن اس مرد مجاہد نے حضرت مدنی کی طرف ہجوم کو بڑھنے نہیں دیا۔ حتیٰ کہ گاڑی چل پڑی اور وہ پیٹ فارم پار کرنے کے بعد گاڑی سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ جب گاڑی جان دھریلو سے اسٹیشن پر پہنچی تو یہاں کے مسلم لیگی کارکن بھی راجہ غضنفر علی خاں کے استقبال کے لئے پیٹ فارم پر موجود تھے۔ گاڑی رُکے ہی گاڑی نے انھیں راجہ صاحب کے پردگام کی اور حضرت مدنی کی موجودگی کی خبر دی جس پر وہ مجمع حضرت کے ڈبے میں پہنچا اور وہی طوفان بدتمیزی شروع کر دیا۔ اس مجمع کے ساتھ تین نوجوان شمس الحق عت شمسی، فضل محمد اور فتح محمد تھے۔ یہ دو ذول جان دھر کے محلہ پرانی پکھری اور شمس الحق محلہ عالی کارہنے والا تھا۔ انھوں نے حضرت اقدس کی توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ گالیاں دیں، گندی چیزیں پھینکیں۔ حضرت کا مجسمہ چھینا، ٹوپی اتار پھینکی، ریش مبارک توچی اور شستی نے دست درازی بھی کی۔ حضرت مدنی صبر جمیل کی صورت مجسم بنے بیٹھے رہے۔ مگر حضرت کے ساتھ جو خادم تھے وہ صورت حال کو برداشت نہیں کر سکے اور مزاحمت کا ارادہ کیا تو حضرت نے انھیں منع کر دیا کہ تم خاموش رہو۔ اگر برداشت نہیں کر سکتے تو دوسرے ڈبے میں چلے جاؤ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اتنے میں گاڑی چل دی۔

یہ دو چار نمونے مشے نمونہ از خردارے ہیں۔ ورنہ خطوط، اخبارات، تفسیروں، تحریروں، اشتہاروں اور پوسٹروں کے ذریعے گالیوں، تہمتوں اور طعنوں کی جو بوچھاڑ روز روز نئے نئے عنوانوں کے ساتھ بر سائی جاتی تھی وہ سب سپرد قلم کی جائے تو پوری

کتاب بن جائے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو علمائے وقت اِصلحائے اُمت اور نائبین رسول کے ساتھ پیش آئے اور مردِ آیام کے باوجود تاریخ نے انہیں یاد رکھا۔ صدہا واقعات عام نیشنلسٹ مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے ہوئے ایسے بھی ہیں جن میں ان مجاہدین نے پاکستان اور مسلم لیگ کی مخالفت کرنے والوں کے گھر آجاڑ دئے۔ حقہ پانی بند کر دیا۔ رشتے ٹوٹ گئے اور طلاقیں ہو گئیں اور کہیں کہیں جان سے مار ڈالنے کے واقعات بھی پیش آئے مگر وہ جو کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ سب الکنشنی تدبیریں اور انتخابی داؤ پچ تھے جو اسلام کے نام پر کھیلے گئے۔

ایکشن میں مسلم لیگ کی کامیابی، کیسبٹیشن پلان

۱۹۴۵ء - ۱۹۴۶ء

اسلامی حکومت کا اعلان، مسلم لیگ میں مسلم کا عنوان، پاکستان کا نام، شرعی اور فقہی فتاویٰ، قرآن و حدیث کے احکامات اور ان سب پر مستزاد علمائے کرام و مفتیان عظام حکیم الامت، شیخ الاسلام، مفسر قرآن وغیرہ وغیرہ القاب و آداب کی طرف سے ایسیلیں، ان تمام حوالے نے مسلمانوں کے دل و دماغ اور فکر و نظر پر اتنی کثرت اور ایسی شدت کے ساتھ ہجوم کیا کہ وہ ان خوش آئند نعروں میں محصور و مسحور ہو کر رہ گئے۔ سیاسی اور مذہبی طور پر نتیجہ کچھ بھی ہوا ہو مگر اسلامی جذبات کے پیش نظر کون ایسا مسلمان ہو گا جو اسلامی شریعت، مسلم حکومت اور قرآن و سنت جیسے عنوانات سنتا اور مخالفت کرتا۔ نیشنلسٹ مسلمانوں اور جمعیۃ علماء نے اپنی والی پوری ہی کوشش کر ڈالی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جہاں تک پہنچ سکے پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ کارکن اور رضا کار گاؤں گاؤں اور شہر شہر پہنچے اور مسلمانوں کو بتلایا کہ یہ سب اقتدار کی جنگ ہے۔ سیاسی کاریگری اور اسلام و شریعت کے پرے میں سامراجی بازی گرمی ہے۔ مگر مسلمان پاکستان کے خلاف کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوئے اور ایکشن میں مسلم لیگ کی فتح ہو کر ہی رہی۔ مگر یہ فتح بھی ایک تاریخی نیرنگی شمار ہونے کے قابل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے،

”بنگال میں مسلم لیگ کو بھاری اکثریت حاصل ہوئی اور اس کی وزارت قائم ہوئی۔ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور وہاں کانگریسی حکومت قائم ہوئی۔ پنجاب میں مسلم لیگ کو ایسی اکثریت نہیں حاصل ہوئی کہ وزارت بنا سکے۔ چنانچہ حکومت یونیسٹ پارٹی کے ہاتھ میں رہی۔ سندھ میں بھی مسلم لیگ کو اکثریت نہیں حاصل ہوئی اور اس کی گورنمنٹ نہیں بن سکی۔ یہ حال ان صوبوں کا تھا جہاں مسلم اکثریت تھی اور جن کا پاکستان بنا تھا۔ اصل کامیابی لیگ کو

ان صوبوں یوپی، بہار وغیرہ میں حاصل ہوئی جو مسلم اقلیت کے صوبے تھے لیکن وزارت تو کانگریس ہی کو بنانی تھی۔ مولینا آزاد نے کوشش کی کہ حکومت میں مسلم لیگ کو بھی شریک کر لیا جائے مختلف صوبوں کے مسلم لیگی ممبران اس کے لئے تیار بھی تھے مگر مشر جناح نے اس پیش کش کو رد کر دیا۔ اس وقت اگر لیگ مفاہمت کے لئے تیار ہو جاتی تو افہام و تفہیم کے راستے کھل سکتے تھے۔

چودھری خلیق الزماں نے اس سلسلہ پر لکھا ہے :

"ان وجوہات کی بنا پر راجہ صاحب سلیم پور کی صدارت میں یہ طے ہوا کہ مسلم لیگ اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہ کرے۔ ایک نقطہ نظر سے یہ اچھا ہی ہوا کہ رفیع احمد قدوانی کانگریس کی منسٹری میں آگئے۔ ورنہ شاید مسلم لیگ اور کانگریس میں صلح ہو جاتی جو بالآخر مسلم مفاد کے لئے زہر ثبات ہوتی۔ مسلم اور کانگریس میں مصالحت کی گفتگو کا نتیجہ اگر مسلم لیگ کی منسٹری میں ختم ہوتا تو اس صلح کے بعد پاکستان کے لئے دروازہ مسدود ہو جاتا۔"

یہ نکتہ خاص طور پر دماغ میں رہے کہ مسلم لیگ مصالحت و مفاہمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ مشر جناح صاحب بڑی توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس بات کی نگرانی کر رہے تھے کہ کسی صوبے میں کوئی مسلم لیگی ممبر کانگریس سے بات نہ کرنے پائے۔ مولینا آزاد کا بیان سینے :

"میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں وزارتیں بناتے ہوئے مسلم لیگ کے بارے میں فرخ حوٹگی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ جہاں بھی مسلم لیگی ممبران اسمبلی میں کامیاب ہوئے تھے وہاں میں نے ان کو وزارت میں شرکت کی دعوت دی۔ یہ ان صوبوں میں کیا جہاں مکمل طور پر کامیاب تھی اور ان میں بھی جہاں کانگریس کی غالب اکثریت تھی۔ بہت سے صوبوں میں خاص طور پر بہار، آسام اور پنجاب میں مسلم لیگی ممبران اس کے لئے برضا و رغبت تیار تھے، مگر مشر جناح نے ان کو کانگریس کے ساتھ تعاون کرنے سے روک دیا۔"

بہر حال صوبائی حکومتوں کی تشکیل کے بعد برطانوی حکومت نے ہندوستان مسئلے کے حل بلکہ آزادی کو بروئے کار لانے کے لئے ہاؤس آف لارڈس کا ایک وفد ہندوستان بھیجا۔ یہ وفد جو مختلف سیاسی پارٹیوں کو کسی ایک لائحہ عمل پر متفق کرنے کا فرض انجام دے۔ چنانچہ لارڈ پیتھک لارنس سکریٹری آف اسٹیٹس فار انڈیا، سر اسٹیفورڈ کرسپس پریزیڈنٹ بورڈ آف ٹریڈ اور مسٹر اے۔ وی الگزینڈر ڈی فرسٹ لارڈ آف ایڈمیرالٹی۔ ان تین افراد پر مشتمل یہ مشن ۱۹۴۶ء کے مارچ میں ہندوستان پہنچا اور لارڈ ویول ڈالسراے ہندوستان کے ساتھ مل کر ہندوستان کے لیڈروں سے شملہ میں مصروف گفتگو ہوا۔ بحث میں سب سے اہم موضوع فرقہ وارانہ مسئلہ تھا جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ مسلم لیگ اور اس کے لیڈر اپنے تجزیوں اور مشاہدوں کی بنا پر اور اُس سے زیادہ اپنی جماعتی پالیسی کی بنا پر یہ سمجھتے تھے کہ آزادی کا اعلان ہوتے ہی اور آزادی کے بعد ہندو فرقہ پرست مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے۔ کانگریس اس بات پر تیار تھی کہ جیسے بھی ہو آزادی کا اعلان ہو جائے۔ چنانچہ کافی بحث و تمحیص اور مہینہ ڈیڑھ مہینہ تک غور و خوض کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد نے آزاد ہندوستان کا ایک ایسا نقشہ پیش کیا جس میں مسلمانوں کے حقوق کا حل پیش کیا گیا تھا۔ اس اسکیم میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ہر صوبہ اپنے نظام حکومت میں تین حکموں کے علاوہ پوری طرح آزاد رہے گا۔ صرف تین وزارتیں دفاع، مواصلات اور امور خارجہ مرکز کے ماتحت ہوں گے۔ ان کے علاوہ کچھ اور محکمے بھی ایسے تھے جن کو صوبے اپنی صوابدید کے مطابق مرکز کے حوالے کر سکتے تھے۔ مولانا کی تجویز پر کانگریس ورکنگ کمیٹی نے غور و خوض کے بعد یہ رائے دی کہ یہ اقلیتوں کے اطمینان اور ان کی حفاظت کے لئے بہترین تجویز ہے اور کانگریس اسے منظور کرتی ہے۔ اس مرحلے کے بعد یہ تجویز کینٹ مشن کے سامنے پیش کی گئی اور اُس نے بھی اسے منظور کیا اور ساتھ ہی اظہارِ پسندیدگی کیا۔ مگر مسلم لیگ نے تقسیم اور پاکستان کے علاوہ کسی حل کو منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ مولانا آزاد نے بحیثیت صدر کانگریس وفد سے کہا کہ مسلم لیگ کے علاوہ دوسری مسلم جماعتوں کے نظریات پر بھی کینٹ مشن کو غور کرنا چاہیے۔ اس پر ڈوگرام کے ماتحت مشن نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں نیشنلسٹ مسلمانوں کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ حضرت نے مشن کے سامنے اپنا یعنی نیشنلسٹ مسلمانوں کا یا حقیقہ علماء کا فارمولا پیش کیا۔

بہتر ہے کہ یہ تاریخی فارمولا کسی قدر تفصیل کے ساتھ پیش نظر رہے۔

- (۱) ہندوستان کا دستور حکومت وفاقى اصول پر مرتب کیا جائے۔
 (۲) تمام صوبے یا وفاقى وحدتیں مکمل طور پر آزاد ہوں اور غیر مصرعہ اختیارات انہی کو حاصل ہوں۔

(۳) وفاقى مرکز کو صرف وہی اختیارات حاصل ہوں جو تمام صوبے متفقہ طور پر مرکز کے حوالے کریں۔

(۴) وفاقى وحدتوں کے لئے حق خود ارادیت تسلیم کیا جائے۔

(۵) وفاق کی تشکیل ایسے اصولوں پر کی جائے جس میں مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی اور تہذیبی حقوق کا تحفظ اس طرح کیا جائے جو مسلمانوں کے لئے قابل اطمینان ہو۔ جمیعتہ علماء کی رائے میں یہ اطمینان ذیل کے اصولوں سے کسی اصول پر وفاقى حکومت کی تشکیل سے حاصل ہو سکتا ہے۔

(۱) مرکزی ایوان میں نمایندگی کا تناسب یہ ہو:

دیگر اقلیتیں	مسلمان	ہندو
۱۰	۴۵	۴۵

جمیعتہ علماء نے اس دفعہ کی روح کو بطور اصول پیش نظر رکھا ہے۔

(ب) اگر کسی بل یا تجویز کو مسلم ارکان مرکزی کی ۲/۳ اکثریت اپنے مذہبی، سیاسی، تہذیبی اور ثقافتی آزادی کے خلاف قرار دے تو قانوناً وہ بل ایوان میں زیر بحث نہ آسکے۔

(ج) ایسا سپریم کورٹ قائم کیا جائے جو مرکز اور صوبوں کے تنازعات، صوبوں کے باہمی نزاعات اور ملک کی قوموں کے اختلافات کا آخری فیصلہ کر سکے اور جس میں مسلم غیر مسلم ججوں کی تعداد مساوی ہو۔ سپریم کورٹ کے ججوں کے تقرر کا اختیار مسلم اور غیر مسلم صوبوں کی ایک ایسی کمیٹی کو دیا جائے جس میں مسلم اور غیر مسلم ارکان کی تعداد مساوی ہو۔

(۵) یا اس کے علاوہ کوئی اور اصول جو مسلم اور غیر مسلم جماعتوں کے اتفاق سے طے کیا جائے،

مشن کے ارکان نے اس فارمولے کو تفصیل اور دلچسپی کے ساتھ منا۔ ساتھ ہی ساتھ وضاحت اور تشریح کے لئے سوالات اور گفتگو بھی کی۔ مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیت علماء نے اس ملاقات کے بارے میں لکھا ہے :

۶۳ اپریل ۱۹۴۶ء کو ۴ بجے شام سے سوپانچ بجے تک وزارتی مشن کے ارکان سے ملاقات ہوئی۔ مشن نے جمعیت کے فارمولے سے خاص دلچسپی لی جتنی کو مقررہ وقت آدھے گھنٹے کے بجائے سوا گھنٹے تک گفتگو جاری رہی۔ مشن کے ارکان فارمولے کے مضمرات اور اس کے مختلف پہلوؤں کے متعلق سوالات کرتے رہے اور ان کے جوابات پر مسرت و اطمینان کا اظہار کرتے رہے۔ اس فارمولے کے ساتھ وزارتی مشن کی دلچسپی کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ تقریباً ایک ماہ بعد یعنی ۱۶ اگست کو مشن نے خود جو فارمولا پیش کیا، کہا جاتا ہے کہ وہ بنسبہ جمعیت علماء ہند کا فارمولا تھا۔

پاکستان کا مطالبہ مشن کے ارکان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان ایک کمزور ریاست ثابت ہوگی جو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو سکے گی۔ مولانا آزاد کا بیان ہے :

”مسلم لیگ کے لیڈر ملک کی تقسیم اور مسلم اکثریت کے صوبوں پر مشتمل علیحدہ ریاست کے بارے میں مبہم اور غیر واضح طور پر بات کرتے تھے کیونکہ مشن اس مطالبے کو منظور کرنے پر تیار نہ تھا۔“

”اس نے صفائی کے ساتھ غیر مبہم الفاظ میں اعلان کر دیا تھا کہ وہ ملک کی تقسیم اور ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی تائید نہیں کر سکتا۔ لارڈ چٹھاک لارنس

اور سر اسٹیٹنورڈ کرسپ نے بار بار کہا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کیسے قائم

اور ثابت قدم رہ سکتا ہے۔

بہتر یہ ہے کہ اس موقع کی تفصیل مولینا آزاد کے بجائے جناب ابوالحسن اصفہانی سے سنی جائے۔ موصوف جناب جناح کے بڑے مستعد، مخلص پیروکار اور سیاسی شاگرد تھے۔ جناح صاحب ان کو بیٹا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، وہ بیان کرتے ہیں :

”برطانوی لیبر کینیٹن کے تینوں ارکان سے ہماری گفتگو بہت دلچسپ رہی۔

سر اسٹیٹنورڈ کرسپ برابر ایک متحد ہندوستان جس میں مسلمانوں کے لئے مناسب تحفظات ہوں کے نظریے کی تائید کرتے رہے۔ وہ بہت قابل اور قابل طریقے سے یہ استدلال کرتے رہے کہ اگر ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان بنا دیا گیا تو نئی ریاست پاکستان زندہ رہنے کے قابل نہ ہوگی اور اپنی پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے بعد مصائب میں گرفتار ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ انھوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وقت ہے کہ مسلم لیگ کے لیڈر موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس مقصد کے لئے کینیٹنشن کی تائید و حمایت سے کام لیں اور دیگر ہندو لیڈروں کے ساتھ معاملے کر لیں۔ انھوں نے کہا کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا اور ہندوستان کو تقسیم کر دیا گیا اور پھر پاکستان کے زندہ رہنے کی صلاحیت غیر یقینی ثابت ہوئی تو ہندوستان پاکستان کو اپنی شرائط ہی پر واپس لینے کو تیار ہوگا اور اس طرح ملک میں مسلمانوں کی حالت بہت افسوسناک ہو جائے گی۔“

”مشرعے۔ وی اکنڈر بہت کم بولے اور وہ بھی محض دفاع کے نقطہ نظر

سے۔ انھوں نے ہمیں بتایا کہ برطانیہ کے ماہرین دفاع کی متفقہ رائے یہ ہے کہ تقسیم ہند سے ہندوستان کے دونوں ملکوں بالخصوص پاکستان کے لئے دفاع کا ایک سنگین مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ انھوں نے اس پر زور دیا کہ پاکستان کے دفاع کا مسئلہ ایک

نیز صی کھیر ہوگا اور اس میں بکثرت ایسی دشواریاں پیش آئیں گی جن پر تباہی ہونا ممکن نہ ہوگا۔ اور مشرقی پاکستان کا کسی جارحیت کے خلاف دفاع تو تقریباً ایک ناممکن بات ہوگی۔ اسٹینفورڈ کرسپ یا پٹھاک لارنس نے، ٹیٹھی صبح یاد نہیں کہ کس نے، ایک مزید پہل یہ دی تھی کہ آپ کو ایک ایسی ریاست کی ضروریات پوری کرنے کے لئے جو ترقی کی خواہاں ہے ایک اقتصادی کمزوری درنہ میں ملے گی اور قدرتی ذرائع میں بھی آپ ہندوان سے بہت پیچھے ہوں گے۔

مسلم لیگ اور بالخصوص مسٹر جناح پر کوئی دلیل اور کوئی منطق کارگر نہیں ہوئی اور وہ پاکستان سے کم کسی پیش کش پر رضامند نہیں ہوئے۔ اس کا نفرنس کے موقع پر جہاں انھوں نے مخالف موافق بھی افراد اور جماعتوں سے گفتگو کی وہیں مولینا ابوالکلام آزاد کے ساتھ آخری بغض و عناد کا ایک بار پھر مظاہرہ کیا اور مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک بار موصوف نے مولانا کو شوبوائے کہہ کر کسی قسم کی گفتگو کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نفرت و عداوت کے ان جذبات کا اثر سیاسی گفتگو اور مفاہمت پر بھی پڑ رہا تھا۔ کینیٹ مشن کے ارکان حیران تھے کہ لیگ ہندوؤں کے خلاف بولے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی جب کہ کانگریس کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا۔ لارڈ ویول نے ان مجالس کے بارے میں کہا:

جناح ایک گھنے ٹھک ہندو مسلم اختلافات اور ہندوستان کی تاریخ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور سوالات کے جوابات دئے۔ جب ان سے پاکستان کے حدود اربعہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ مسلم لیگ کے دو سر ذمے داران اپنے ان لیڈر سے کچھ بہتری ثابت ہوئے۔ ۸ اپریل کو مسٹر حسین شہید سہروردی آئے۔ ویول کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ہمیشہ ایک ناقابل، خود رائے اور غیر متدل خیالات کا حامل سمجھا ہے۔ وہ

باتیں بہت کرتے ہیں اور انہوں نے مشن پر اپنا خراب امپریشن چھوڑا۔ مسلم لیگ لیڈروں نے بڑی لمبی تقریریں کیں اور بڑے بڑے الفاظ استعمال کئے مگر ساری گفتگوؤں کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ ہندوؤں سے نفرت تھی۔ مسلم اقلیت کے صوبوں سے چار دوسرے ممبران، بمبئی سے آئی، آئی چندریگر، پوپی سے خلیق انزا، سہا پی سے سید عبدالرؤف شاہ اور مدراس سے محمد اسماعیل آئے۔ مگر یہ لوگ بالکل ہی غیر موثر ثابت ہوئے۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ پاکستان بن جانے سے مسلم اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کی حفاظت ہوگی۔ چندریگر اور خلیق انزا نے اس بارے میں خاص طور پر بڑی بڑی باتیں کیں مگر ہندوؤں سے نفرت اور عداوت والی بے بنیاد بات کے علاوہ کوئی معقول دلیل نہیں دے سکے۔ صرف چند رسمی اصطلاحات بیلنس آف پاور، پریسٹیج اور نفسیاتی اثر وغیرہ الفاظ کا استعمال کرتے رہے۔

مشن کے ارکان ہندوستانی لیڈران اور کانگریس مسلم لیگ کے ممبران دو ڈھائی ماہ تک رات دن ان بحثوں اور میٹنگوں میں لگے رہے۔ والسٹرائے ہندوستان لارڈ ویول کے لئے اتنی طویل مدت تک مسلسل دارالسلطنت دہلی سے غائب رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ دہلی میں موسم اس قدر شدید تھا کہ آگ برس رہی تھی۔ مجبوراً یہ پورا قافلہ دہلی آیا تو پتھک لارنس ایک دن گرمی کی شدت کی وجہ سے بیہوش ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ والسٹرائے کے محل میں تو کسی قدر ایرکنڈیشننگ کا انتظام تھا مگر مشن کی رہائش گاہ پر گرمی سے بچاؤ کے لئے ایسے انتظامات نہیں تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کانفرنسوں اور میٹنگوں سے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ مجبور ہو کر مشن نے ہندوستان کے کانٹریٹیوٹیشن کے لئے خود اپنی تجاویز پیش کیں۔ ان تجاویز کے بارے میں مولانا آزاد انڈیا ونس فریڈیم میں فرماتے ہیں: "چونکہ کیمینٹ مشن پلان اپنے مفہوم کے اعتبار سے تین گروپوں کے اضافے کے ساتھ

میرے پیش کردہ پلان اور تجاویز کے موافق تھا اس لئے ہم نے سوچا کہ ہمیں کانگریس کی یہ پلان منظور کر لینا چاہیے۔

یکینٹ مشن پلان میں تین محکمے، دفاع، مواصلات اور وزارت خارجہ مرکزی حکومت کے ماتحت رکھے گئے اور باقی محکمے صوبوں کی ماتحتی یا ان کی صوابدید کے ماتحت رکھے گئے۔ اس کے علاوہ تمام صوبے تین گروپوں میں بانٹ دئے گئے۔

گروپ ۱	ہندو اکثریت کے صوبے
۲	پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان
۳	بنگال اور آسام

پیرگران نمبر ۱۰ (۵۱) کے مطابق صوبوں کی گروہ بندی میں آزادی ہونی چاہیے۔ ان کی اپنی عاملہ اور قانون ساز مجلسیں ہوں گی اور ہر صوبہ ان صوبائی محکموں کا انتخاب کرے گا جنہیں وہ مشترک رکھنا چاہتا ہے۔

پیرگران نمبر ۱۹ (د) کی رو سے یہ سیشن ان صوبوں کے لئے جو ہر سیکشن میں شامل ہونگے آئین بنانے کا کام شروع کریں گے اور یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ آیا ان صوبوں کے لئے کوئی مشترکہ آئین بنانا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر بنایا جائے تو گروپ کن صوبائی محکموں سے سرور کار رکھیں گے؟ صوبوں کے گروپوں سے نکل جانے کا اختیار ذیلی مشن (۸) کی شرائط کی رو سے دیا گیا تھا جو حسب ذیل تھیں۔ جوں ہی نئے آئینی احکامات پر عمل ہونا شروع ہوگا کسی صوبے کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی اس گروپ سے نکل آئے جس میں اسے رکھا گیا ہے۔

کانگریس نے مشن کا یہ پلان آسانی سے منظور کر لیا۔ مگر مسلم لیگ نے اس کے بارے میں اور خاص کر اس کی تشریح و توضیح کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ اس کے سامنے بڑی مشکل یہ بھی تھی کہ اس نے مسلمانوں اور بالخصوص اپنی پارٹی کے طرفدار عوام کو پاکستان کے نام پر ایسے جوش و خروش میں مبتلا کر دیا تھا کہ کسی بھی دوسری متبادل تجویز سامنے لانے یا

منظور کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلم عوام پارٹی سے یا کم از کم قیادت سے تو ضرور رہی رد گردانی کر لیں گے مگر کینٹ مشن کے پلان میں ہر قوم، صوبے، اقلیت اور اکثریت کے مفادات کا ایسا تحفظ پیش کیا گیا تھا کہ اُسے رد کر دینا بھی آسان نہ تھا۔ اس لئے مسلم لیگ کے سامنے بڑا ڈیڑھا سوال آپڑا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ آن پڑی تھی کہ سرکار برطانیہ جس نے ساری ہی عمر مسلم لیگ کو سہارا دیا تھا اور انڈین نیشنل کانگریس سے مقابلہ و مخالفت کرائی رہی تھی اب بیچ دھارے میں پہنچ کر ساتھ چھوڑ رہی تھی اور پاکستان کی طرف سے رنج پھیر کر اپنے پلان پر زور دے رہی تھی۔ مسلم لیگ نے سرکار برطانیہ سے مقابلے کا اُن کانٹے پوریشنل کام بھی نہیں کیا تھا۔ چنانچہ اُس نے پلان پر بہت غور و خوض کیا اور ہر پہلو سے دامن بچانے کی کوشش کی مگر آخر میں پلان کی منظوری پر دستخط کر ہی دئے۔ یہ واقعہ بھی مسٹر جناح کے سیاسی شاگرد ابوالحسن اصفہانی صاحب سے سینے:

”مجھے اس وقت کی وہ کشیدہ فضا یاد ہے کہ جب کینٹ مشن کے دفتر سے قائد اعظم کے سکرٹری کو ایک سر، مہر لفاظی دیا گیا۔ اس میں جو تجب ویز ملفون تھیں انھیں قائد اعظم نے ایک دفعہ پڑھا اور پھر دوسری دفعہ ان پر سرسری نظر ڈالی اور بعد ازاں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ ارکان مجلس نے نطق کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھا اور پھر اس مضمون پر مباحثہ شروع ہوا۔ اتفاق رائے اس پر تھا کہ مشن نے ہمیں ایک بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ہمیں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو ہم مشن کی پیش کش کو جس کے بارے میں ہم کو بتایا گیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، منظور کر لیں یا ان کی تجاویز کو کیسے رد کر دیں اور اس طرح مشن کی ناکامی کے جو نتائج پیدا ہوں ان کی ذمے داری اپنے سر لے لیں۔ ہم برابر بحث کرتے رہے۔ رد کرنے کی موافق اور مخالف باتوں پر غور کیا گیا اور دوبارہ غور کیا گیا چونکہ کسی ترمیم کی اجازت نہ تھی۔ لہذا ہمارے موقف کی حمایت میں کچھ بھی نہ کہا جاسکتا تھا۔ مجلس عاملہ کے آخری اجلاس کے اختتام سے ذرا پہلے یہ فیصلہ کیا

گیا کہ ان تجاویز کو منظور کر لیا جائے۔ اگرچہ اس سے ہمارے مطالبات اور خواہشات زیادہ حد تک پوری نہ ہوتی تھیں لیکن آخری فیصلہ صدر پرچہ ٹرڈیا^۱ مسلم لیگ کی جانب سے پلان کی منظوری معمولی بات نہیں تھی بلکہ ہندوستان کے سارے ہی مسائل کا حل تھی۔ پینانچر کانفرنس کے جتنے ارکان تھے سب ہی نے اس پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ مولانا آزاد نے اس موقع کے بارے میں لکھا کہ :

”مسلم لیگ کی کونسل تین دن تک اس پلان پر بحث کرتی رہی۔ آخری دن سٹر جناح اس نتیجے پر پہنچے کہ اقلیت کے مسئلے کے حل کے لئے اس سے بہتر کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ کونسل سے کہا کہ اقلیتوں کے لئے بہتر سے بہتر جو رعایتیں حاصل کی جاسکتی ہیں وہ اس پلان میں موجود ہیں اس لئے میرا مشورہ ہے کہ کونسل متفقہ طور پر اسے منظور کرے۔“

اس فیصلے پر پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ملک کی جدوجہد آزادی کی سوساں تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ برطانیہ اور ہندوستان کے عوام نے متفقہ طور پر آزادی کی قرارداد پر دستخط کئے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فرقہ وارانہ کشیدگی، نفرت اور عداوت ہمیشہ کے لئے دفن کی جا رہی تھی۔ دو سو سال کے طویل اور جانکاح عرصے کے بعد ملک ایک بار پھر زندگی اور آزادی کی سانس لینے کے لئے بیدار ہو رہا تھا۔ مگر عین وقت پر جبکہ بام تک پہنچنے میں دو چار ہی ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، اچانک کند ٹوٹ گئی۔ یہ ساری خوشیاں اطمینان اور امیدیں نقش بر آب ثابت ہوئیں۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد پورے ملک کو آگ، خون اور زخم و کراہ کے سمندر میں ڈوبنا تھا اور اسی کے لئے یہ ساری تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ یہ وقتی اتفاقات اور منظوری درحقیقت ایک سراب ثابت ہوئی اور مسلم لیگ نے کینڈٹ مشن پلان کو منظوری کے بعد نامنظور کر دیا۔ اس کی تفصیل اور اسباب ہم آئندہ ابواب میں پیش کر رہے ہیں۔

ڈارکٹ ایجنٹ

۱۹۲۶-۲۷ء

کانگریس نے کینٹ مشن پلان اس کے تمام حدود و قیود اور شرائط کے ساتھ منظور کیا تھا اور اسی بنیاد پر مسلم لیگ نے بھی اُسے منظور کیا تھا۔ مگر چند ہی دنوں کے بعد کانگریس کی طرف سے ایسا بیان شائع ہوا جس نے مسلم لیگ کی پالیسی میں تبدیلی کر دی۔ کانگریس نے جب مشن کی تجاویز منظور کی تھیں اس وقت اس کے صدر مولینا ابوالکلام آزاد تھے۔ اور اس کے فوراً بعد انھوں نے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ پنڈت جواہر لال نہرو صدر مقرر ہوئے۔ پریس والوں نے ان سے پوچھا کہ کیا کانگریس پلان کے شرائط اور وضاحتوں کی پوری طرح پابندی کرے گی؟ پنڈت جی نے جواب دیا کہ اگرچہ کانگریس نے مشن کی تجاویز منظور کر لی ہیں مگر ان پر عمل درآمد میں کانگریس آزاد ہوگی۔ قدرتی طور پر مسلم لیگ کو بھی اپنی آزادی برقرار رکھنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ یہ قصہ مولینا آزاد کی زبانی سنئے:

”اگر جولائی کو جواہر لال نے پریس کانفرنس میں ایک بیان دیا، عام حالات میں یہ بیان سرسری طور پر نظروں سے گزر جاتا اور کوئی اس پر دھیان بھی نہ دیتا۔ مگر اس وقت کے نفرت اور شکوک و شبہات والے ماحول میں اس کے بڑے خراب اثرات مرتب ہوئے۔ بعض نمایندوں نے پنڈت جواہر لال سے پوچھا کہ کیا کانگریس نے اس پلان کو اور انڈیم گورنمنٹ میں شرکت کو بھنہ منظور کر لیا ہے۔ جواہر لال نے جواب دیا کہ کانگریس دستور ساز اسمبلی میں مکمل آزاد رہ کر شریک ہوگی، اس پر کوئی پابندی نہ ہوگی اور جیسے حالات ہوں گے انہی کے مطابق آزادی کے ساتھ عمل کرے گی۔ اس پر پریس کے نمایندوں نے پوچھا کہ کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ کینٹ مشن پلان میں تبدیلی کی جاسکتی ہے؟ جواہر لال نے پوری ذمہ داری کے ساتھ جواب دیا کہ کانگریس نے دستور ساز اسمبلی میں صرف شرکت منظور کی ہے اور وہ ضروری سمجھتی ہے کہ کینٹ مشن

میں کسی ترمیم و تبدیلی کے لئے آزاد رہے۔ میں اس حقیقت کے اظہار کے بغیر نہیں رو سکتا کہ جواہر لال کا یہ بیان بالکل غلط تھا۔ یہ کہنا صحیح نہیں تھا کہ کانگریس اپنی مرضی سے پلان میں ترمیم کے لئے آزاد تھی۔ درحقیقت ہم نے اس بنا پر اتفاق رائے کیا تھا کہ مرکزی حکومت یٹڈرل ہوگی۔ اس میں تین ٹکے سنٹرل گورنمنٹ کے اختیار میں ہوں گے باقی ٹکے صوبائی حکومتوں کے تحت ہوں گے۔ اس کے علاوہ تین گروپ اسے، اہل اور سہی ہوں گے جن میں متعلقہ صوبوں کو شامل رہنا پڑے گا اس میں کسی پارٹی یا کانگریس کو بغیر دوسری پارٹیوں کی مرضی کے کسی ترمیم کی اجازت نہ ہوگی۔

پنڈت جی کے اس بیان سے صورت حال یکسر بدل گئی، مسٹر جناح نے فوراً اعلان کیا کہ صدر کانگریس کے اس بیان کے بعد مسلم لیگ کو بھی اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنا پڑے گا۔ اس نے کیبنٹ مشن پلان کو اس یقین کے بعد منظور کیا تھا کہ ہندوستان کا دستور اسی پلان کے مطابق بنایا جائے گا۔ مگر صدر کانگریس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ دستور ساز اسمبلی میں اپنی اکثریت کے بل بوتے پر کانگریس جب چاہے اس فارمولے میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اقلیتیں پورے طور پر اکثریت کے رحم و کرم پر رہ جائیں گی۔ جناح صاحب نے مطالبہ کیا کہ اس بیان کی رد سے کانگریس اپنے فیصلے اور پلان کی منظوری سے پھر گئی ہے مگر مسلم لیگ ابھی تک اپنے فیصلے پر قائم ہے، اس لئے وائسرائے کا فرض ہے کہ اپنے پلان کے مطابق مسلم لیگ کو کیبنٹ بنانے اور حکومت کی تشکیل کی دعوت دے۔ قانونی طور پر مسلم لیگ کا یہ مطالبہ کتنا بھی صحیح تھا مگر وائسرائے نے بغیر کانگریس کی شرکت کے گورنمنٹ نہیں بنا سکتا تھا۔ چنانچہ ۲۷ جولائی کو مسلم لیگ کو نسل نے کیبنٹ مشن کے پلان کو نامنظور کر دیا اور مطالبہ پاکستان کو دہراتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مسلم لیگ کے لئے اب یہی ایک راستہ باقی ہے۔

کانگریس کہتی تھی کہ ہر صوبے کو اپنے گروپ تبدیل کر دینے کا ہر وقت حق ہے مگر مسلم لیگ کا کہنا یہ تھا کہ دستور بن جانے اور صوبوں کے اپنے اپنے گروپوں میں مستقل ہو جانے کے بعد ہی

صوبے اس معاملے پر غور کر سکتے ہیں۔ مولینا آزاد کا بیان ملاحظہ ہو:

”کینٹ مشن نے کہا کہ اس مسئلہ میں مسلم لیگ کی تشریح و تفسیر صحیح ہے
مسٹر جناح کی دلیل تھی۔ مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات اور طاقت کی تقسیم
اور اس گروپ بندی کی بنیاد ہی پر انھوں نے مسلم لیگ کو پلان کی منظوری پر آمادہ کیا
تھا مگر آسام کے کانگریسی اس کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم شروعات ہی سے
گروپوں سے الگ ہو سکتے ہیں۔ آخر کار گاندھی جی نے ان کی پوری طرح تائید کر دی۔
مگر ایمان داری کے ساتھ مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس بارے میں مسٹر جناح
کی رائے اور دلیل وزن دار تھی۔“

آسام کے کانگریسی لیڈروں کو یہ اعتراض تھا کہ بنگال میں تو مسلم اکثریت ہے ہی اگر
آسام کو بھی بنگال کے ساتھ گروپ سی میں رکھ دیا گیا تو اس پورے گروپ میں مسلم اکثریت ہو جائے
گی۔ گاندھی جی نے پہلے پلان کو منظور کر لیا تھا اور اس کی تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے مگر آسام
کے کانگریسیوں نے یہ نکتہ بیان کیا تو وہ بھی آسام والوں کے ساتھ ہو گئے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں:

”کانگریسی اور مسلم لیگ دونوں نے بنیادی طور پر کینٹ پلان منظور کیا
تھا جس کے معنی یہ تھے کہ دونوں دستور ساز اسمبلی میں شرکت پر متفق تھے جہاں تک
کانگریسی کا تعلق تھا وہ اب بھی مشن کے پلان کی تائید میں تھی۔ مگر آسام کے چند
لیڈروں نے گروپ سی کی تشکیل کے بارے میں اعتراض کیا کہ اگر آسام و بنگال
دونوں کو ملا دیا گیا تو پورا علاقہ مسلمانوں کی ماتحتی میں آجائے گا۔ یہ اعتراض کینٹ
مشن کے اعلان کے فوراً بعد اٹھایا گیا تھا۔ گاندھی نے بنیادی طور پر پلان کو منظور
کر لیا تھا اور کہا تھا کہ اس تجویز میں ایسے عناصر موجود ہیں کہ اس کمزور ملک کو بغیر
کسی کمزوری اور نقصان کے متحد کر دیں گے۔ چار دن تک پلان پر غور و خوض کرنے
کے بعد گاندھی جی نے اپنے اخبار ہیرنجن میں لکھا کہ مجھے یقین ہے کہ برٹش گورنمنٹ

موجودہ حالات میں اس سے بہتر تجویز نہیں پیش کر سکتی تھی۔ مگر آگے چل کر گاندھی جی نے اپنا نظریہ بدل دیا اور آسام کے چین فٹنگ گروپ کو اتھ بار دہلی کے ساتھ جوگے۔ جواہر لال نے اس بارے میں مجھ سے (مولانا آزاد سے) اتفاق کیا کہ آسام کے کانگریسیوں کا یہ خوف نا انصافی پر مبنی ہے۔ انہوں نے آسام کے لیڈروں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی مگر اب جبکہ گاندھی جی بھی ان کے ساتھ جوگے تھے۔ انہوں نے کسی کی ذمہ داری نہ لی۔

اب کانگریس کی پالیسی میں اچانک تبدیلی اور پنڈت جی کے بیان کے بعد مسلم لیگ نے بھی پلان کو نامنظور کر دیا تو صورت حال کانگریس کے لئے پریشان کن ہو گئی۔ اب ہندو ملک کی تقسیم کا سارا الزام مسلم لیگ اور مسٹر جناح کے سر تھا۔ اب ساری ذمے داری کانگریس کے سر آ رہی تھی۔ وہ نہ تو صدر کانگریس کے بیان کی مخالفت کر سکتی تھی اور نہ اسکیم کی ناکامی کا الزام اپنے سر لینا چاہتی تھی۔ بہت غور اور بحث و مباحثے کے بعد کانگریس درکنگ کمیٹی نے یہ ریزولیشن پاس کیا کہ :

”ہمیں بہت افسوس ہے کہ مسلم لیگ نے دستور ساز اسمبلی میں شرکت کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ ایسے وقت میں جب ملک آزاد ہونے جا رہا ہے۔ ہندوستان کے عوام اور لیڈروں میں اتحاد و تعاون کی بڑی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اقتصادی اور سیاسی مسائل کا بہتر سے بہتر حل نکل سکے۔ کانگریس کمیٹی عموماً کرتی ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے نکلتے ہوئے نظر اور مقاصد میں فرق ہے۔ مگر پھر بھی یہ کمیٹی ان سب پارٹیوں سے اشتراک عمل کی اپیل کرتی ہے جو ملک کی آزادی اور ترقی و بہبود کی خواہاں ہیں۔ مسلم لیگ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اپنے ۱۶ مئی کے بیان میں کانگریس نے کینٹ مشن پلان کو مشروط طور پر منظور کیا ہے۔ کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ اگرچہ اس نے بیان کی ساری تجاویز کو منظور نہیں کیا ہے مگر اسکیم کو مکمل طور پر

منظور کیا ہے۔ کمیٹی سمجھتی ہے کہ اصولوں کی آزادی بنیادی چیز ہے اور ہر صورت اس فیصلے میں آزاد ہے کہ وہ کسی گروپ میں شامل ہو یا نہ ہو۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی امید کرتی ہے کہ ملک کی اور اپنی فلاح و بہبودی کے لئے مسلم لیگ اس پلان میں ضرور شریک ہوگی۔

دائیں نے بھی کوشش کی کہ مسلم لیگ کینٹ پلان میں شریک ہو مگر ساتھ ہی وہ مسلم لیگ کے دلائل کو صحیح سمجھتے رہے جس نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ ابھی تو حکومت ہندوستان کے ہاتھوں میں نہیں آئی ہے۔ ابھی سے یہ حال ہے تو آئندہ اقلیت کا کیا حال ہوگا۔ مسٹر جناح کے انکار کا ایک پہلو اور بھی قابل غور ہے۔ ابوالحسن اصفہانی نے اپنی کتاب میں اس انکار کا پس منظر لکھا ہے کہ مشن کا پلان منظور کر لینے کے بعد جناح صاحب بے حد مطمئن اور خوش نظر آئے۔ مرزا صاحب نے پوچھا کہ آج آپ بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں تو جناح صاحب نے جواب دیا کہ دو ڈھائی مہینے تک سخت و مباحثہ کے بعد میں بالکل ٹھک گیا تھا۔ نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ اب اس پلان کو منظور کر کے جھگڑے سے نجات مل گئی ہے اور ذمے داری کا بوجھ دماغ سے اتر گیا تو میں بڑی راحت محسوس کر رہا ہوں۔ مگر جناح صاحب کا یہ اطمینان اور بشارت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اصفہانی صاحب لکھتے ہیں :

"اب جبکہ پانسہ پھینکا جا چکا ہے اور فیصلہ کر چکنے کے بعد اسے پتھک لارنس کو بھیج دیا گیا ہے تو میں فکر سے ایسی آزادی محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ طالب علم کو پرچہ امتحان کرنے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔" لیکن ابھی دن ختم نہیں ہوا تھا کہ انھیں پھر نکلنا لاقی ہو گیا۔ انھیں اس کا یقین تھا کہ منظور کر لینے کا عمل ٹھیک تھا لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی تھا کہ اس کے بدل یعنی رد کر دینے کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوا تھا کہ شاید دوبارہ غور کرنے کے بعد وہ تجویز کو منظور کر دیتے۔ لیکن اب وقت نہ رہا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کی اطلاع بھی جا چکی تھی۔

اب جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ اس کی امید کریں کہ کانگریس کی مجلس عاملہ یا
توجیز کو رد کر دے گی یا ایسی ترمیمات کا مطالبہ کرے گی اور اسے ایسے سنی پہناتے
گی کہ جس سے ان کی منظوری کی کوئی اہمیت نہ رہے گی۔

اسی درمیان میں تاریخ کارخ موڑ دینے والا ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ جناح صاحب
کے ڈاکٹر نے انہیں بتلایا کہ وہ بڑے خطرناک مرض میں مبتلا ہیں اور زیادہ سے زیادہ ایک سال اور
زندہ رہ سکتے ہیں:

”مئی ۱۹۴۶ء کو جناح صاحب شملہ میں تھے ان پر برائے نکاح کا زبردست

حملہ ہوا۔ ان کی بہن انہیں لے کر بمبئی روانہ ہو گئیں۔ راستے میں ان کی حالت اتنی
بگڑی کہ ناطقہ نے ڈاکٹر پیٹیل (جے۔ ایل۔ پیٹیل) کو اور جناب کو ٹرین سے اہر
ہی ڈاکٹر پیٹیل ٹرین میں آگے اور جناح کو ٹرین سے اتار کر ایک اسپتال میں
داخل کر دیا۔ اسی درمیان میں ڈاکٹر پیٹیل نے جناح کے پھیپھڑوں کا ایکس رے
لیا اور اپنے دوست اور مریض کو بتلایا کہ وہ کس مہلک بیماری میں گرفتار ہیں۔
اگر انھوں نے تناؤ سے بچنے کی کوشش نہ کی، آرام کا پورا خیال نہ رکھا اور شراب
اور سگریٹ کو نہیں چھوڑا تو شاید ایک دو سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں۔ جناح کو
بخوبی معلوم تھا کہ اگر ان کی بیماری کی جہز ہندوؤں کو معلوم ہو گئی تو ان کا سیاسی حجاز
بدل جائے گا۔ وہ جناح کی موت کا انتظار کر لیں گے۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے نرم
دل لیڈروں کو اس طرح متاثر کر لیں گے کہ پاکستان کا خواب ہمیشہ کے لیے مٹ
جائے گا۔ ماؤنٹ بیٹن نے جناح سے کہا تھا بڑی تیز رفتاری سے کام کرنے کی
ضرورت ہے۔ دراصل جتنی تیزی سے موت جناح کی طرٹ بڑھ رہی تھی اس سے
زیادہ تیزی سے جناح اپنے خواب کی طرٹ بھاگ رہے تھے یا بھاگنا چاہتے تھے۔

اب جناح صاحب کے پاس کام زیادہ اور وقت کم تھا۔ مشن پلان منظور کر لینے سے

بعض حلقوں میں یہ شبہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ وہ پاکستان کی جگہ متحدہ ہندوستان کی کسی تجویز کو بھی مان سکتے ہیں اس لئے مزید تاخیر میں یہ خیال بھی تھا کہ کہیں ساکھ نہ بگڑ جائے۔ ان حالات میں موصوف نے فوری اقدام کا فیصلہ کیا۔ اس اقدام کا ایک پہلو تو کانسیٹیوشنل طریقوں پر جدوجہد تھی۔ دوسرا قدم ان کانسیٹیوشنل ایکشن تھا۔ قانونی اور دستوری مذاہیر کا تذکرہ ہم اگلے صفحات میں کریں گے۔ سردست غیر دستوری سرگرمی کا حال پیش کرتے ہیں جس کے بڑے دور رس اثرات برصغیر کی قسمت پر مرتب ہوئے ہیں۔

مسلم لیگ نے اپنے یوم تائیس سے لے کر ۱۹۴۶ء تک سیاسی میدان میں بڑی بڑی جدوجہد اور سرگرمیاں دکھلائی تھیں مگر وہ ساری کی ساری جلسوں، جلوسوں، تحریروں، تقریروں، تجویزوں، نعروں، ایڈریسوں، ہاروں، گجروں، کرسیوں، ممبریوں، وزارتوں اور خطابوں سے آگے نہیں بڑھی تھیں۔ مسٹر جناح نہایت ضابطے قاعدے کے قانونی انسان تھے اور کسی ان کانسیٹیوشنل اقدام کے لئے کبھی تیار نہیں ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دقت کے اٹھوں مجبور ہو کر مسلم لیگ اور جناح صاحب عملی میدان میں اور وہ بھی غیر دستوری شکل میں قدم رکھ رہے تھے۔ اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ مسلم لیگ نے اپنی جماعت کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ۶ اگست ۱۹۴۶ء کو ڈاکٹرکٹ ایکشن کریں۔ اس ایکشن کا کوئی واضح پروگرام تو اُس نے نہیں بتایا مگر تقریروں، دعوؤں اور لککاردوں سے مسلم لیگی عوام پر وگرام کا اشارہ پاگئے۔ مثال کے طور پر چند اعلانات ملاحظہ ہوں :

”ہم ہلاکو اور چنگیز خاں کے خون کی باب کی پھر سے تقلید کریں گے۔ ہم بہترین

حالات کی امید کرتے ہیں مگر بدترین حالات کے لئے تیار ہیں۔ ہمیں پاکستان بنانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی“ (مسٹر جناح بحوالہ ڈان، ۸ اپریل ۱۹۴۶ء)

”ڈاکٹرکٹ ایکشن کا فیصلہ ہماری تاریخ اور ہماری پالیسی میں ایک انقلابی

قدم ہے اور پاکستان کو جنگ کے لئے تیار رہنا ہے۔“ (ڈان، ۱۵ اگست ۱۹۴۶ء)

”مکلفہ مسلم لیگ نے پوسٹر چپاں کرائے۔ آل انڈیا یوم نیفر پاکستان۔ دس کربڑ

مسلمانوں کی لام بندی مسلم لیگ کا انقلابی اقدام۔ نیفر جہاد پر لبیک کہو۔ ملت اسلامیہ

کی لام بندی کا اعلان کر دیا اور اپنے دور جدید کا فاتحانہ آغاز کر دیا۔ مسلمانوں کی شان سے اٹھو اور دنیا کو انقلاب سے حیران کر دو۔ — (بوالہ ملے، حق، مولانا آزاد ڈائری، ص ۲۸۵)

ڈائریکٹ ایجنسی کے ذریعے پاکستان حاصل کریں گے؟ (ڈان، یکم اگست ۱۹۴۷ء)

مسلمانوں کو ایک زبردست جنگ کرنی ہے۔ (۲۸ اگست ۱۹۴۷ء)

پاکستان نہ ماننے والے کے لئے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بنگالی

سب کچھ گزرنے کے لئے تیار ہیں۔ (حسین شہید سہروردی وزیر اعلیٰ بنگال)

اس ڈائریکٹ ایجنسی کے لئے مسلم لیگ کے سامنے پورے ہندوستان میں صرف بنگال ہی کا میدان ہوا تھا جہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے علی الاعلان کہہ بھی دیا تھا کہ مسلم لیگی صاحبان جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بنگال کی حکومت نے ڈائریکٹ ایجنسی کے دن ۱۶ اگست کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ جو برک کی کانگریس پارٹی نے لیگی حکومت سے درخواست کی کہ تعطیل منسوخ کر دی جائے ورنہ فساد اور بلوے کا اندیشہ ہے۔ مگر حکومت نے کوئی توجہ نہ کی اور اس طرح عوام کو اس چھٹی کے پردے میں وحشت، درندگی اور بربریت کے لئے کھلی تھپی مل گئی۔ اس دن کلکتہ میں بلوؤں اور خاک و خون کا طوفان بھٹ پڑا۔ پہلے ہی دن سیکڑوں انسان ذبح کر دیے گئے۔ ہزاروں زخمی ہوئے اور کروڑوں کی جاںمداں، مکانات اور املاک تباہ و برباد کی گئیں۔ اس چھٹی کی وجہ سے اچانک حملہ ہوا اور ہندوؤں کی اتنی لاشیں بچھ گئیں کہ اٹھائے نہیں اٹھتی تھیں! مسلمانوں کے غول کے غول ہندوؤں پر حملے کر رہے تھے۔ معصوم اور بے گناہ انسان بڑی بے رحمی اور بربریت کے ساتھ ذبح کئے جا رہے تھے۔ ان میں بوڑھے، کمزور اور بے سہارا مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں۔ انسانوں کی عزتیں، ماؤں اور بہنوں کی عصمتیں اور ملک کی آبرو پیردن تلے روندی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ ہندوؤں کے

مسلمان علاقوں پر رگدھوں کی طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ خاک و خون کی ندیاں بہ رہی تھیں، انسان انسان کا خون پی رہا تھا۔ جے بجرنگ بلی کی، ہر ہر مہادیو، جے کالی مانی کی۔ یہ نعرے لگائے جا رہے تھے۔ حکومت اور اس کے ذمے دار تماشہ دیکھ رہے تھے کیونکہ یہی تو ڈاکٹر کٹ ایکشن تھا جس کے لئے مہینوں سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مرتے ہوئے، زخم کھاتے ہوئے اور دم توڑتے ہوئے آدمی پولیس کی دُہائی دیتے تھے اور پولیس سنی اُن سنی کر رہی تھی۔ اس کو حکومت کا حکم تھا کہ صرف دیکھتے رہو۔ فساد کو دبانے کی کوشش نہ کرو۔ مولینا آزاد نے حکومت کی پالیسی کا ذکر کیا ہے:

”مجھے ایرپورٹ جانا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں ڈم ڈم ایرپورٹ پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ کافی مقدار میں پولیس اور فوج ٹرکوں میں لادی ہوئی کھڑی ہے۔ جب میں نے اُن سے پوچھا کہ آپ لوگ امن و امان قائم کرنے کے لئے کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو یہی حکم ہے کہ تیار کھڑے رہو اور کوئی عملی اقدام نہ کرو!“

اس پالیسی کے نتیجے میں پورے شہر کلکتہ بلکہ پورے بنگال میں ایک ہفتے تک بلوائیوں، فسادوں اور غنڈوں کا راج رہا اور انہوں نے جس طرح جاہل ظلم و بربریت کا ناچ ناچا۔ ان حالات پر ایک رپورٹ سنئے:

”مسلمان مسلم لیگ کی لکھارٹوں کو باہر نکلے تھے مسلم لیگ نے ۶ اگست ۱۹۴۶ء کو ڈاکٹر کٹ ایکشن کا دن مقرر کیا تھا تاکہ انگریزوں اور کانگریس پارٹی کے سامنے یہ ثابت کیا جاسکے کہ مسلمان پاکستان لے کر رہیں گے اور ضروری ہو تو اس کے لئے کسی ڈاکٹر کٹ ایکشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مسلمانوں کی ٹولیوں نے جہاں بھی پایا ہندوؤں کو مار ڈالا اور لاشیں شہر کے کھلے نالوں میں پھینک دیں۔ پولیس کے بھی ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ جلد ہی شہر کے درجنوں مقامات پر دُھویں کے ستون

آسمان کی طرت سر اٹھانے لگے۔ ہندوؤں کی بستیاں خاک ہو رہی تھیں، بازاروں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ہندو کیوں دیکھے رہتے، ان کی ٹولیوں نے بھی اپنی جھوٹ پڑی سے نکلنا اور موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ کلکتہ نے اپنی تاریخ میں اتنے بُرے چومیس گھسنے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ انسان انسانیت کو بھول کر خونخوار جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا تھا۔ آنگلی نڈی کتنی لاشوں کو بہا کر سمندر کے اندر لے گئی؟ اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ شہر کی سڑکیں اور گلیاں بھی ڈراؤنی اور بھیسا تک لاشوں سے اُٹی پڑی تھیں۔ جو لوگ کمزور اور مجبور تھے ہر جگہ انہی پر زیادہ ظلم ڈھایا گیا۔ جب قتل عام ہوا تو شہر پر گدھوں نے قبضہ کر لیا: "شہر میں بیس ہزار لوگ قتل ہوئے تھے" ۱۶ اگست سے، ۱۷ اگست تک بلوہ روکنے کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور ہزاروں انسان قتل کر دیئے گئے۔ ہزاروں مکان لوٹے اور جلائے گئے۔ چار دن تک خون ریزی، قتل اور زیادتیاں ہوتی رہیں۔ چھ سات ہزار آدمیوں کا خون ہوا۔ تین دن تک سڑکوں پر لاشیں پڑی رہیں۔ تین ہزار سے زیادہ لاشیں جا بجا سے ہٹائی گئیں۔ بہت سی لاشیں زمیں دوزخوں میں ڈال دی گئیں جن کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔

یہ خونریزی اور تباہی بہت جلد کلکتہ سے نواکھالی منتقل ہو گئی جہاں ہندو آبادی صرف بیس فیصدی تھی۔ شاید نغیر جہاد پاکستان کے لیے نواکھالی کا میدان کلکتہ سے زیادہ ہوا تھا۔

"بابو راجندر پرشاد اپنی تصنیف میں کہتے ہیں، نواکھالی اور تری پورہ کے ضلعوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ہندوؤں پر حملہ کر دیا گیا۔ بہت سے ہندو مارے گئے اور ہندو آبادی کے گاؤں کے گاؤں جلا دیئے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بنا لیے گئے۔ بیشتر عورتوں کے ساتھ جبراً شادی کر لی گئی۔ بہت سی بھگا کر

کہیں سے کہیں کر دی گئیں۔ ان واقعات کا حاصل یہ نکلا کہ ہندوؤں میں جسزبہ
انتقام سرایت کر گیا۔ ادھر مسلم لیگ کے لیڈر اور اخبارات روزانہ زہر اگلتے رہتے
تھے اور ہندوؤں کو جنگ کے لیے لاکارتے تھے۔

کلکتہ اور نو اکھالی کی لاقانونیت اور بربریت کا رد عمل فوراً ہی بہار میں شروع ہوا۔
یہاں مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو فرقہ پرستی اور تعصب کو سنہرا موتخ ہاتھ لگا تھا۔ ان کے
سے مسلمان آبادیوں پر بڑی پلاننگ اور تنظیم کے ساتھ ہونے لگے۔ انتظام یہ ہوتا تھا کہ
دور دراز علاقوں سے اجنبی فسادی جتھے بلائے جاتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ حملے کے دوران ظالموں
کے دل میں جان پہچان اور صدیوں کے رہن سہن کی دہر سے مروت اور نرمی آجائے۔ کلکتہ
میں مسلم لیگ کی حکومت تھی تو بہار میں کانگریس کی بادشاہت تھی۔ وہاں مسلم حکومت نے
بلوہ فساد کرایا تو یہاں کانگریس حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔ بہادر اور ملک کے سپوت
حملوں کے لیے گاؤں بھی وہ منتخب کرتے تھے جہاں مسلم آبادی پانچ سات یا دس فی صدی
ہوتی تھی۔ دس دس پندرہ پندرہ ہزار ظالموں کے منظم مسلح اور صف بند جتھے جیکارے لگاتے،
سنگھ بجاتے اور بھجن گاتے ہوئے بسیتوں اور گاؤں پر ٹوٹ پڑتے تھے اور نہتے بے قصور اور
کمزور مسلمانوں کو چٹن چٹن کر بچھریوں، بھالوں اور چھروں سے ذبح کرتے تھے۔ بہت سے جیالے
متوالے اور نشہ مستی میں غرق بہادر عورتوں اور بچوں کو گھروں میں بند کر کے آگ لگا دیتے
تھے اور پھر تڑپنے سسکنے اور زندہ جل کر مرنے کا تماشہ دیکھتے تھے۔ درجنوں عبادت گاہیں شہید
کر ڈالی گئیں۔ سیکڑوں عورتوں اور کوناریوں نے کونوں میں کود کر اپنی عزت و آبرو بچائی۔ لاتعداد
معصوم اور ننھے بچوں کو درختوں، کھبوں اور دیواروں پر کیلوں میں گار کر اور لٹکا کر تڑپا تڑپا کر
مارا گیا۔ ان مظالم کی داستانیں تاریخ کے سینوں میں یقیناً محفوظ رہیں گی اور کبھی نہ کبھی وہ وقت
ضرور آئے گا کہ خاک و خون میں آلودہ یہ کہانیاں اپنی اصلی اور بھیا تک صورتوں میں نمودار ہوں
گی مگر سردست ان کی تفصیل و تحقیق ہمارے لئے آسان نہیں ہے۔ تاہم دو چار مناظر تو دیکھتے ہی چلیں:
"گانڈھی جی بہار تشریف لائے۔ یہاں پر انھوں نے جو کچھ دیکھا اس نے

ہندو جاتی کی امن پسندی، صلح جوی اور غیر تشدد پسندی کے متعلق ان کے بہت سے مفروضات کی کاپی لٹ دی۔ یہاں پر دسیح و عریض ملاوتوں میں سلسلوں کا نام و نشان بھی بٹ گیا تھا۔ گھر لٹ چکے تھے، مسجدیں ویران پڑی تھیں، کنوئیں مسلمان عورتوں کی لاشوں سے اٹاٹا بھرے پڑے تھے، کئی جگہ نئے نئے بچوں کے ڈھانچے اب تک موجود تھے جنہیں لوہے کے کیل گاڈز درختوں اور دیواروں کے ساتھ ڈال دیا گیا تھا۔ یہ روح فرسا نظارے دیکھ کر گاندھی جی کو غالباً زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ہندو قوم اتنی نرم دل، امن پسند اور غیر متشدد نہیں ہے جتنا وہ سمجھتے اور پرچار کرتے رہے ہیں۔ گاندھی جی کے ساتھی سکریٹری اور سوانح نگار پیارے لال نے اپنی کتاب ”مہاتما گاندھی دی فرسٹ نیر میں نئے واضح طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بہار کی خون ریزی دیکھ کر گاندھی جی کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا اور متحدہ ہندوستان کے متعلق ان کا دیرینہ خواب ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔“

ہندوستان کے مشہور شاعر کلیم عاجز انہی بستیوں میں سے ایک تیلہاڑہ کے باشندے تھے جس کے ایک ایک باشندے کو چن چن کر مارا گیا ہے۔ ان کا بھی پورا خاندان ماں، بھائی، بہنیں اور سب لوگ بستی والوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ انھوں نے اپنی کتاب میں ان مظالم اور مزاح کی تفصیل بڑے دردناک اور دلدور انداز میں لکھی ہے۔ ان کا غم اور ان کے زخم ہمارے قلم و بیان کی حدود میں کہاں سما سکتے ہیں، پھر بھی ایک مثال پیش خدمت ہے:

”وہاں (تیلہاڑہ میں) دو روز تک ہجوم نے بستی کو گھیر رکھا تھا۔ یکنگر سر اٹے تھانہ قریب تھا۔ پولیس وہاں موجود تھی، کیا وجہ تھی؟ ممکن ہے ملٹری نے حکم نہ مانا ہو۔ تیلہاڑہ تک ملٹری نہیں جاسکی۔ چند گھنٹے بھی پہلے چلی جاتی تو بستی بچ جاتی۔ میں وہ پہلا شخص ہوں جو ملٹری لے کر وہاں پہنچا۔ مسجد کے

پاس بہت سی لاشیں پڑی تھیں۔ بات ختم ہو گئی تھی۔ کام ختم ہو چکا تھا۔ کچھ زخمی بھاگے آ رہے تھے۔ ایک مکان کی دیوار پر ایک شخص کھڑا ہوا کسی کو بھالے سے مار رہا تھا۔ میں نے اپنے ریوالور سے پہلی فائرنگ کی، وہ گرا۔ بستی کے اندر طہری نے دھاوا کیا۔ مکانات جل رہے تھے۔ لاشیں ادھر ادھر پڑی تھیں۔

ہمارے چل کر یہی آگ یوپی پہنچی۔ گنگا کے کنارے مشہور تیرہ استھان گڈھ مکتیشہر میں ہر سال بڑا میلہ لگتا ہے۔ لاکھوں یاتری اشنان کرنے، پاپ دھونے اور پوتر ہونے کے لئے حاضری دیتے ہیں۔ گڈھ مکتیشہر میں خاصی آبادی مسلمانوں کی بھی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں دوکانیں رکھنے، خانے لگانے اور روتی دینے کے لئے ہمیشہ سے میلے شریک ہوتے ہیں۔ یہاں حملے اور قتل و غارت کی منظم تیاری کی گئی تھی۔ قبصہ کے لوگ تو حملے اور گھر جانتے پہچانتے تھے مگر باہر کے یاتریوں کی نشاندہی کے لئے مسلمان عموماً مکانوں اور دوکانوں پر مخصوص قسم کی علامتیں لگا دی گئیں۔ میلے والوں کے پہلے ہی ریلے میں مسلمانوں پر حملہ ہوا اور ایک ہی دودن کے اندر قبصے کے سارے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ زندہ جلانے، کنوؤں میں ڈھیلنے، عصمت دری کرنے اور دودھ پیتے بچوں کو ہوا میں اچھال کر بھئی بھالوں میں پرو لینے کے نئے نئے طریقے آزمائے گئے۔ قبصے کے ایک مشہور کانگریسی بابونور الدین شہید کے خاندان کے ایک ایک فرد کو پڑی بے رحمی سے ذبح کیا گیا تھا۔ فساد کی اطلاع ملی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ دوسرے ہی دن بنفس نفیس وہاں پہنچے۔ راقم السطور بھی حضرت کے ہمراہ تھا وہاں پہنچ کر کھلبے ہوئے مکانوں، جل ہوئی لاشوں اور ماحول سے برسی ہوئی عبرتوں اور حسرتوں کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر بھی اتنا تو ہوا کہ شہدائکی لاشوں اور پڑیوں کی راکھ کے ڈھیر پر ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ چند آنسوؤں کا نذرانہ چڑھانے کا موقع مل گیا۔ اس فساد سے دودن پہلے، ۲۷ نومبر ۱۹۴۶ء کو کانگریس کے سالانہ اجلاس میرٹھ میں دلہہ بھائی پٹیل نے بنگال کے فساد کی خبریں سن کر کہا تھا کہ تلوار کا جواب تلوار سے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دو غنڈوں اور فساد یوں سے مقابلہ کرو اور لڑائی کے لئے تیار رہو۔ اس کے بعد ہی گڈھ مکتیشہر سے یہ آگ بھڑکی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یوپی کا کتنا بڑا علاقہ اس کی لپیٹ میں آجاتا مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر پہنچ جانے سے اس کے شعلوں پر پانی پڑ گیا اور جیسے جیسے لے کلٹر کا بیان ما توداز ڈاکٹر حکیم "پہاں خوشبو ہی خوشبو تھی" ص ۲۶، ۲۷ اثر بنیحی انصاری، مولینا آزاد ڈائری، ص ۲۹۹

اخبارات میں ان کے جانے اور تاثرات کی خبریں عام ہوتی گئیں یہ آگ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ ان تمام قتل گاہوں کلکتہ، نواکھالی، بہار، یوپی وغیرہ میں کمزوں میں ڈوب کر جان دینے والوں گھس اور سوراخوں میں پھینکے جانے والوں اور یاؤں اور تالابوں میں ڈبوئے جانے والوں اور زوزہ جلا جانے والوں کا حساب و کتاب اور اعداد و شمار تو تاریخ کبھی نہیں بتلا سکے گی مگر جولاہیں مسکوں، چوراہوں، گندڑ گاہوں اور میدانوں میں پڑی ہوئی ملی ہیں صرف انہی کا حساب پچاسوں ہزار تک پہنچتا ہے۔ ملک کی تاریخ میں ہندوستانیوں کے درمیان یہ پہلا مکمل، منظم اور ایسا تباہ کن فساد تھا اس پر ایک رپورٹ ملاحظہ ہو:

”ہندوستان کے شہروں میں ہندو مسلم فساد کوئی نئی یا عجیب چیز نہ تھی۔ لیکن جس پیمانے پر ڈائریکٹ ایکشن کے موقع پر کلکتہ میں کشت و خون کا بازار گرم ہوا اس نے سب کو درطہحیرت میں ڈال دیا۔ یہ دونوں فرقوں یا گروہوں کی لڑائی نہ تھی بلکہ دراصل یہ دونوں کی جنگ تھی۔ برصغیر میں پہلی مرتبہ دو قومی نظریہ بساط سیاست سے نکل کر میدان کارزار میں آتا تھا اور کلکتہ کے اس قتل عام نے مستقبل کے نقتے پر بڑے گہرے اور دور رس اثرات مرتب کئے۔“

مستقبل کے نقتے پر گہرے اور دور رس اثرات کی طرف اشارہ بڑے پتے کی بات ہے۔ دراصل اس قتل عام کے بعد ہی کانگریسی حلقوں کے دماغ میں پہلی بار یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ہندو مسلم اتحاد کے پیچھے بھاگنا بیکار ہے۔ بہتر ہے کہ مسلم لیگ کو پاکستان دے کر جھگڑا ختم کر دیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان پانچ سات سال سے زیادہ نہیں چل پائے گا۔ جناح صاحب کی طرح دلہہ بھائی پٹیل کو بھی جلدی تھی۔ ان پر دو بار دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تیسرا اور آخری دورہ پڑنے سے پہلے وہ کچھ دیکھ لیں۔“

انٹرم گورنمنٹ

۱۲ اگست ۱۹۴۶ء کو وائسرائے نے پنڈت جواہر لال نہرو کو انٹرم گورنمنٹ بنانے کی دعوت دی تاکہ مشن پلان کو بروئے کار لانے کے لئے دستور سازی کا کام مکمل ہو جائے اور اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کی جگہ مستقل حکومت قائم ہو جائے۔ اگرچہ یہ تفصیل ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق نہیں رکھتی مگر اصل تصویر کا پس منظر واضح کرنے کے لئے اس کا مختصر سا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو بھی اس عبوری حکومت میں شرکت کی دعوت دی مگر لیگ نے شرکت سے انکار کر دیا۔ کانگریس اور وائسرائے نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ مسلم لیگ شرکت پر آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ بڑی ہنگ و دو اور بحث و تھیس کے بعد وہ راضی ہو گئی۔ اب مسلم لیگ کے سامنے اپنے ان ممبران کے انتخاب کا سوال سامنے آیا جن کو وزارت میں شامل ہونا تھا۔ پارٹی میں پوزیشن اور ذاتی صلاحیت و قابلیت کی بنا پر لیگ کے حلقوں میں اور باہر بھی یہ عام خیال بلکہ یقین تھا کہ چودھری خلیق الزماں، خواجہ ناظم الدین اور نواب اسماعیل کو ضرور منتخب کیا جائے گا۔ مگر جناب صاحب کو مسلم لیگ کونسل نے پورا اختیار دے دیا کہ جس کو چاہیں نامزد کریں اور انہوں نے مسٹر آئی آئی چندریگر، عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی ایسے اشخاص کو چنا جو غیر معروف لوگ تھے۔ اب کانگریس کے سامنے لیگ کے ممبران میں وزارتیں تقسیم کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ لیگ کا مطالبہ تھا کہ اسے وزارت داخلہ ضرور دی جائے۔ مگر دلچسپ بھائی پٹیل بھی اسی وزارت کے طلب گار تھے۔ گورنمنٹ اور کانگریس کے بعض حلقوں نے کوشش کی کہ پٹیل صاحب لیگ کے حق میں اس وزارت سے دستبردار ہو جائیں مگر موصوف نے صاف کہہ دیا کہ وزارت میں رہوں گا تو ہوم منسٹری لوں گا ورنہ ممبری سے نام کٹا لوں گا۔ پٹیل کانگریس میں بڑی طاقت رکھتے تھے اس لئے کہ وہ گاندھی جی کو بہت عزیز تھے۔ گاندھی جی نے انہیں سردار کا خطاب دیا تھا۔

اس لئے ان کے روٹھ جانے سے بڑی الجھنوں کا خطرہ تھا۔ اس لئے کانگریس نے بہت غور و خوض کے بعد یہ طے کیا کہ لیگ کو ایک اہم وزارت فنانس دے دی جائے۔ مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ رفیع احمد قدوائی نے یہ تجویز پیش کی اور ان کا خیال تھا کہ یا تو لیگ یہ حکمہ قبول کرنے سے انکار کر دے گی یا اس میں نیل ہو جائے گی۔ دونوں حالتوں میں فتح کانگریس ہی کی ہوگی۔ دلچسپ بھائی بیٹیل یہ تجویز سن کر اچھل پڑے کہ مسلم لیگ فنانس کو نبھانے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ لازمی طور پر وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دے گی۔ دائرے نے جب مسٹر جناح کو بتایا کہ نوابزادہ لیاقت علی خاں کو فنانس کی وزارت سونپی جا رہی ہے تو انھیں بھی شبہ ہوا کہ خاں صاحب پشتینی نواب ہیں، حساب کتاب کا کام یہ کر بھی پائیں گے یا نہیں؟ مگر چودھری محمد علی نے جو حکومت برطانیہ کے فنانس سیکریٹری تھے۔ جناح صاحب کو یقین دلایا کہ یہ وزارت مسلم لیگ کے لئے نعمت غیر مترقبہ اور اس کی فتح کانگریس خیمہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں اور یہ پیش کش فوراً قبول کر لیں۔ چنانچہ لیگ نے وزارتوں اور لیاقت علی خاں صاحب نے فنانس کا قلم دان سنبھالا۔ کانگریس اور بیٹیل صاحب اس انتظار میں رہے کہ کب اور کس دن اس وزارت کی الجھنوں میں نیل ہو کر مسلم لیگ استغنیٰ دیتی ہے مگر نتیجہ برعکس نظر آیا۔ بجائے نیل ہونے کے لیاقت علی خاں نے فنانس پر ایسا کنٹرول کیا کہ ساری ہی وزارتیں اس ایک منسٹری کے رحم و کرم پر منحصر ہو کر رہ گئیں۔ کہنے کو تو بیٹیل صاحب وزیر داخلہ تھے مگر فنانس کی منظوری کے بغیر ایک چراسی بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ کہاں تو ان کی یہ شان تھی کہ بمبئی میں جی ایم ناریمان جیسے مخلص، قدیم کانگریسی اور مانے ہوئے مینسٹرسٹ کو صرف اس لئے گرا دیا تاکہ اپنے لڑکے کے ایک دوست سی۔ اے جی بھابھیا کو اس کی ناقابلیت کے باوجود وزیر بنوادیں اور کہاں اب مرکزی وزیر داخلہ ہونے کے باوجود ایک معمولی ملازم رکھنے کے لئے بھی انھیں سوچنا پڑتا تھا۔ بحیثیت وزیر داخلہ وہ غزل و نصب کے متعلق جتنے بھی احکامات صادر کرتے تھے وہ یا تو رد کر دئے جاتے تھے یا ان میں ترمیم کر دی جاتی

تھی۔ سیاسی لوگوں میں اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ٹیل صاحب کا جب کسی سے اختلاف ہوتا تھا تو گاندھی جی ان کی حمایت میں سینہ سپر ہو جاتے تھے مگر یہاں گاندھی جی کی بھی کچھ نہیں چل رہی تھی۔ اس طرح دونوں پارٹیوں میں شدید مقابلہ و مباحثہ ہوتا رہتا تھا۔ ہوتے ہوتے بجٹ کا موقع پیش آیا۔ لیاقت علی خاں نے جو بجٹ پیش کیا وہ اپنے عنوان کے اعتبار سے کانگریس کے اصولوں اور کانگریسی لیڈروں کے بیانات اور اعلانات کے مطابق تھا۔ شروع میں کانگریسی ممبروں نے اس کی تائید ہی کی۔ مگر جب خاں صاحب نے تفصیلات پیش کیں تو کانگریسیوں کو بہت غصہ اور ناراضگی ہوئی۔ مگر مشکل یہ تھی کہ وہ کھل کر مخالفت بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بجٹ ان کے پروگرام سوشلسٹک پٹرین آف سوسائٹی کے بالکل مطابق تھا۔ لیکن اندر ہی اندر عملی طور پر اس کی زور براہ راست سرمایہ داروں، مل مالکوں اور کروڑپتی، ارب پتی پونجی پیوں پر پڑ رہی تھی جن کی اکثریت ہندو تھی۔ اس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ ایک کیشن مقرر کیا جائے گا جو ان لوگوں کی تحقیقات و تفصیلات مرتب کرے گا جو ٹیکس نہیں دیتے تھے۔ اور نئے نئے ٹیکس بھی لگائے گئے تھے جو سرمایہ داروں کو مفلس کر کے اقتصادیات اور صنعت کاری پر اثر انداز ہوتے تھے۔ کانگریس میں کچھ لوگ سرمایہ دارانہ ذہنیت سے ہمدردی رکھتے تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ اندازہ کر رہے تھے کہ یہ بجٹ ملک کی اقتصادیات کے بجائے صرف سیاسی مقاصد کی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ دلچہ بھائی ٹیل اور راج گوپال اچاریہ اس کے خاص طور پر مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ملک کی فلاح و بہبود کے لئے نہیں بلکہ صنعت کاروں اور تاجروں کو دہشت زدہ کرنے کے لئے بنایا گیا ہے۔ راجہ جی نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ بجٹ فرقہ وارانہ ذہن سے بنایا گیا ہے۔ اس ماحول اور ذہنیت نے برطانوی گورنمنٹ، کانگریس اور وائسرائے وغیرہ سب کو متحدہ ہندوستان کی آزادی سے بالکل مایوس کر دیا۔ مسٹر جناح کو اپنی محدود زندگی کے پیش نظر اور دلچہ بھائی ٹیل کو دل کے دوروں کی وجہ سے تو جلدی تھی ہی، برطانیہ بھی ممکنہ عجلت سے ہندوستان سے دامن چھڑانا چاہتا تھا۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ ہندوستان کے سیاسی، اقتصادی اور انتظامی حالات اس قدر بھیانک اور خطرناک ہو گئے تھے کہ جیسے جیسے تاخیر ہو رہی تھی۔ برطانیہ کا قرضہ، خرچہ اور

نقصان بڑھتا ہی جا رہا تھا اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ لیبر گورنمنٹ کو خطرہ تھا کہ کسی دن بھی چرچل اور ان کی کنسرڈیو پارٹی کا داؤ چل گیا تو ہندوستان کا پھندا پھر گلے میں پڑا رہ جائے گا۔ چنانچہ مسٹر ایٹلی نے وائسرائے پر زور دیا کہ جس حالت میں بھی ہو جلد از جلد ایک تاریخ متقرر کر کے ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر دو۔ وائسرائے کہتے تھے کہ فیروانہ دامن اور مختلف ہندوستانی فرقوں میں اتحاد و اتفاق کے آزادی کا اعلان بہت خطرناک ہوگا۔ ہندوستان میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور لوگ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے۔ ایسی حالت میں آزادی ایک بین الاقوامی بددیانتی اور بے انصافی ہوگی جس کے لئے تاریخ برطانیہ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ لیبر گورنمنٹ نے دیول کی بات نہیں مانی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ظلم و بربریت کے اس محض نامہ پر اپنے ہاتھ سے دستخط کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اس لئے وائسرائے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔

آخر شب دید کے قابل تھی بسبل کی تڑپ

۱۹۴۷ء

”ملک منظم کی حکومت کا خاص مقصد یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو برطانوی کامن ویلتھ میں رہتے ہوئے برطانوی ہندوستان اور ریاستوں کی ایک متحدہ حکومت بنائی جائے۔ کسی بھی پارٹی کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ آپ کا پلان منظور ہی کر لے۔ مسائل کو گفتگو اور مفاہمت کے ذریعے حل کیا جائے۔ ہندوستانی فوج کو متحد رکھ کر ملک کے دفاع کو آل انڈیا بنیادوں پر منظم کیا جائے۔ جہاں تک ممکن ہو ملک کو متحد رکھا جائے لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو تباہ شدہ کنڈرات میں سے جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو بچانے کی کوشش کی جائے۔ مختصر یہ کہ جس طرح بھی ممکن ہو برطانیہ کو ہندوستان سے الگ کیا جائے“

حکومت برطانیہ کی یہ ہدایات اور احکامات لے کر لارڈ ڈاؤنٹ بیٹن نے وائسرائے ہندوستان کی حیثیت سے ۲۲ مارچ ۱۹۴۷ء کو ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ گذشتہ سو سال کے اندر کتنے ہی وائسرائے ہندوستان میں آئے مگر ان سب کا مقصد ہندوستان کی رگوں سے خون پھوڑنا اور برطانیہ کے آہنی پنجے اور گرفت مضبوط کرنا ہوتا تھا۔ یہ پہلا وائسرائے تھا جو لٹے پٹے، زخم خوردہ اور خون آلودہ ہندوستان سے جان چھڑانے آیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں لیبر پارٹی کی طرف سے خیر سگالی کا جذبہ بھی شامل تھا۔ ہو سکتا ہے۔ ہی جذبہ ہو۔ مولینا آزاد بھی اپنی کتاب انڈیا ونس فریڈم میں اس رائے کی تائید کرتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی کچھ حقائق بھی ان کے قلم سے ابل پڑتے ہیں۔ اب جب برطانیہ ہندوستان سے جا ہی رہا تھا تو اس کی آخری کوشش یہ تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو برطانیہ کے زیادہ سے زیادہ مفادات اور اثرات ہندوستان میں قائم اور دائم رکھے جائیں اور ملک کی تقسیم اور پاکستان کا قیام اس کا بہترین

زریعہ تھا۔ پاکستان سیاسی، اقتصادی اور دفاعی حیثیت سے کمزور ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سامراجی طاقتوں کے سہارے کا محتاج رہے گا اور اس طرح ان طاقتوں کو ایشیا میں دخل اندازی اور منفعت اندوزی کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ اؤنٹ بیٹین نے دیول اور کینٹ مشن پلان کو نظر انداز کر کے اس پالیسی کو سامنے رکھا۔ حکایت مولینا آزاد کی زبانی :

”لیبر پارٹی نے کیسے کینٹ مشن پلان کی جگہ تقسیم کا پلان رکھ دیا؟ اس مسئلے پر غور کر کے میں اس تکلیف دہ نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لیبر گورنمنٹ نے ہندوستان کے بجائے برطانیہ کے مفاد کو پیش نظر رکھا۔ لیبر پارٹی نے ہمیشہ کانگریس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھا تھا اور اس کے لیڈروں نے بارہا صحت الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ مسلم لیگ ایک رجحان پسند جماعت ہے۔ لیکن تقسیم کے مطالبے کے سامنے لیبر پارٹی کا جھک جانا میری رائے میں مسلم لیگ کی طرفنداری کے بجائے برطانیہ کے مفاد کے تحفظ کی غرض سے تھا۔ اگر ہندوستان کینٹ مشن پلان کے مطابق آزاد اور متحد رہتا تو برطانیہ کے لئے ہندوستان کے اقتصادی اور صنعتی میدان میں اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے مواقع بہت کم ہو جاتے لیکن مسلم لیگ کے ماتحت جو حکومت ہوگی وہ برطانیہ کو مستقل اور مسلسل مواقع فراہم کرتی رہے گی۔“

اس باب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ محفوظ رہے

گی جو انھوں نے اس سے پہلے ہی بہت مدلل طریقے سے ظاہر فرمائی تھی :

”ہندوستان کی تقسیم صرف برطانوی مفاد کی خاطر کی گئی ہے۔ کیوں کہ ہندو برطانوی مصنوعات اور اس کی تجارت کا مقابلہ کر رہا تھا اور اس اسکیم کو حسب استطاعت زیادہ موثر بنانا چاہتا تھا۔“ ۱۹۳۱ء میں مسلم نمائندوں کے لندن جانے سے پہلے یا بعد میں کوئی خفیہ پکیٹ ہوا ہے یا ہونا قرار پایا ہے جس میں مسلم نمائندوں کی طرف سے اطمینان حاصل کر لیا گیا ہے کہ وہ مسلم ہندوستان (پاکستان) میں برطانوی مصنوعات اور تجارت کو برسرِ کار رکھیں گے اور اپنی ساحلی بندرگاہوں

کراچی اور کلکتہ کو برطانیہ کی تجارت گاہ بنا دیں گے۔^۱
 ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان پہنچ کر اپنی مہم کا آغاز کیا تو ملک کے ہر طبقے اور گروہ سے
 ملاقات کا پروگرام بنایا مگر بہت جلد انھیں اندازہ ہو گیا کہ اتنے بڑے ملک میں گنتی کے دوچار
 ہی افراد ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں چالیس کروڑ افراد کی باگ ڈور ہے اور انہی کو قابو میں کر کے
 سارا مسئلہ حل کیا جاسکتا ہے۔

”انھوں نے ہندوستان کے سارے اسی طبقوں کے نمائندوں سے
 ملاقات کا پروگرام بنایا جن میں عیسائی، پارسی، ہندو، مسلمان، تاجر، دانشور اور
 سیاسی لیڈر بھی لوگ شامل تھے مگر انھوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ اصل طاقت
 کن لوگوں کے ہاتھوں میں اور کن عناصر پر انھیں اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ انھوں
 نے فیصلہ کیا کہ ہندوؤں میں گاندھی، جواہر لال اور کانگریس کے باس پیل کو
 پکڑنا چاہیے اور مسلمانوں میں صرت جناح فیصلہ کن شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔
 یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ تھوڑی بہت توجہ جناح کے دست راست لیاقت علی خاں
 کی طرف بھی مبذول رکھی جائے۔“^۲

مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق دائرے نے اپنے طرز عمل اور طریقہ فکر سے یہ
 اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے مسئلے کا انحصار جناح صاحب اور مسلم لیگ ہی پر ہے۔ گذشتہ
 بیس برس سے جناح صاحب اسی پوزیشن کے لئے تگ و دو کر رہے تھے۔ اب دائرے یا
 دوسرے لفظوں میں حکومت برطانیہ کے رجحان کا اندازہ کر لینے کے بعد جناح صاحب کے
 اختیار و اقتدار کی وسعتیں آخری حدوں تک پہنچ گئیں اور شاید اسی سرشاری میں انھوں نے
 دائرے کے ساتھ ملاقاتوں، مشوروں اور گفتگوؤں میں کسی قدر بے نیازی اور شاندار
 برتاؤ کیا۔ دائرے آخر دائرے تھا یہ رویہ اسے گراں گزر اور اس کے نتیجے میں پاکستان

۱۔ اُس وقت تک مسلم لیگ کلکتہ کو پاکستان میں شامل قرار دیتی تھی۔ ۲۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کیا ہے؟

کے فریم کو کسی قدر کمزوریوں کا شکار ہونا پڑا۔ اس رویہ کی تفصیل ملاحظہ ہو:

”اؤنٹ بین نے مسٹر جناح کو ڈزیر پر مدعو کیا۔ مگر اس ملاقات سے دائرے کو خوشی نہیں ہوئی۔ انھوں نے متحدہ ہندوستان کے بارے میں طویل گفتگو کی اور دلائل دئے مگر جناح صاحب نے نہ صرف یہ کہ بات کا کوئی جواب دیا بلکہ ان کے انداز سے یہ ظاہر ہوا کہ زدہ کچھ سن رہے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں۔ اس طرز عمل سے اؤنٹ بین کے اس یقین کو ٹھنسی پہنچی کہ ہر شخص متعینیت پسند ہی ہوتا ہے۔ انھوں نے اس ملاقات سے پہلے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسا شخص جس میں احساس ذمہ داری کا ایسا فقدان ہو کیسے اتنی بڑی حیثیت حاصل کر سکتا ہے؟“

تاریخ کے صفحات اس تلخ حقیقت کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اؤنٹ بین بالکل آخری لمحات میں تقسیم کے وقت، لین دین کے وقت، بانٹنے اور الگ ہونے کے وقت مسلم لیگ کی بہ نسبت کانگریس سے زیادہ قریب اور زیر اثر ہو گئے تھے۔ اس کے بہت سے اسباب رہے ہوں گے مگر یہ واقعہ بھی قابل غور ہے کہ جناح صاحب جس طرز خطاب اور برتاؤ کا معاملہ گاندھی جی، مولینا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے ساتھ کرتے تھے وہی انھوں نے دائرے کے ساتھ بھی کیا مگر اتفاق سے اچکے بار پانس اٹھا پڑ گیا۔

”جناح صاحب نے دائرے کے ساتھ فراخ دلی کا ثبوت نہیں دیا اور اس کی نیت پر شبہ کیا۔ انھوں نے دائرے کو ایک تجزیہ بھیجی۔ اس میں جس طرح ان کو مخاطب کیا گیا تھا لارڈ اسے کہتے ہیں کہ ایسا خطا میں اپنے بادشاہ سے بھی نہیں قبول کر سکتا تھا۔ اور میں خود کسی تلخی کو بھی اس طرح نہیں مخاطب کر سکتا تھا۔ چنانچہ اؤنٹ بین مسلم لیگ کی بہ نسبت کانگریس سے زیادہ قریب ہو گئے۔“

مسلم لیگ سے گفتگو میں تو فقط رسمی کارروائی تھی۔ اصل مسئلہ کانگریس کو تقسیم پر

راضی کرنے کا تھا۔ کانگریس اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر متحدہ قومیت اور متحدہ ہندوستان کی علمبردار رہی تھی۔ ماؤنٹ جانتے تھے کہ کانگریس کو تقسیم کے پلان پر آمادہ کرنا کافی مشکل ہوگا۔ مگر اس مرتبہ انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ کانگریسی اس ذہن سے سوچنے لگے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے یہ مہم دلہ بھائی پٹیل سے شروع کی۔ ان کے بارے میں وائسرائے کا خیال تھا کہ یہی کانگریس کے باس ہیں۔ اگر انہوں نے تقسیم منظور کر لیا تو پوری جماعت قابو میں آجائے گی۔ وائسرائے کا مطالبہ یہ تھا۔ "پٹیل کانگریس پارٹی کے باس ہیں جو بہت سخت بے لحاظ اور طاقت کے ساتھی ہیں۔" وائسرائے نے ایک واقعہ بیان کیا کہ

"پٹیل نے ایک سیموڈیٹم جاری کیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے اس کے لہجے پر اعتراض کیا۔ اس پر پٹیل کو سخت غصہ آیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے بھی اسی لہجے میں ان سے کہا کہ یا تو تم گورنمنٹ سے ٹکدورز میں استعفیٰ دیتا ہوں۔"

پٹیل جانتے تھے کہ وائسرائے کے استعفیٰ کے جو کچھ بھی نتائج ہوں مگر کم از کم ان کو تو وزارت داخلہ سے ہاتھ دھونا ہی پڑے گا۔ چنانچہ جیسے ہی پٹیل نے محسوس کیا کہ وائسرائے سنجیدہ ہیں وہ فوراً جھک گئے۔

گذشتہ اوراق میں گزر چکا ہے کہ کچھ اپنے مزاج اور کچھ دوسرے عوامل مثلاً انٹیریم گورنمنٹ وغیرہ کے تجربات نے دلہ بھائی پٹیل کو ملک کی تقسیم پر مطمئن کر دیا تھا اور وہ مسلم لیگ اور مسلم لیگ سے چھٹکارا پانے کے لئے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ مولینا آزاد نے لکھا ہے کہ

"اس کشمکش کے نتیجے میں انٹیریم گورنمنٹ کی مرکزی حکومت بیکار ہو کر رہ گئی تھی اس لئے کہ کونسل کے ممبر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے۔ فنانس کی انجام دہی مسلم لیگ تھی اور اسی کے ہاتھ میں حکومت کی چابی تھی۔ صورت حال صر صر پٹیل کی وجہ سے پیش آئی تھی۔ جنہوں نے وزارت داخلہ کے لالچ میں فنانس کا ٹکڑا مسلم لیگ

”ماؤنٹ بیٹن نے مسلہ کو ایک نئی شکل دے دی اور کانگریس و مسلم لیگ کو اس امر پر آمادہ کیا کہ پاکستان کا قیام ناگزیر ہے۔ انھوں نے پاکستان کے حق میں دلائل دیتے ہوئے گورنمنٹ کے کانگریسی ممبران کے دماغوں میں یہ بیج بونا شروع کیا۔“

”جیسے ہی ماؤنٹ بیٹن نے یہ تجویز پیش کی انھوں نے دیکھا کہ سردار پٹیل اس کے لئے پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ سردار پٹیل ماؤنٹ بیٹن کے آنے سے بھی پہلے پچاس فیصدی کی حد تک تقسیم کے لئے تیار تھے۔“

”یہ حقیقت تاریخی طور پر ریکارڈ کئے جانے کی مستحق ہے کہ ہندوستان میں پہلا آدمی جو ماؤنٹ بیٹن کے پلان، تقسیم ہند پر متفق ہوا وہ سردار پٹیل ہے۔“

پٹیل کی طرف سے مطمئن ہو کر ماؤنٹ بیٹن جو اہر لال کی طرف متوجہ ہوئے۔ مگر وہ اپنے ذہن، مزاج اور سیاسی پس منظر میں کسی طرح بھی ملک کا ٹوارہ منظور کرنے کے لئے تیار نہ تھے مگر ماؤنٹ بیٹن ہار ماننے والے آدمی نہ تھے۔ وہ منظم اور مرتب طریقے سے اپنی کوششوں میں لگے رہے۔ سب سے پہلے انھوں نے کرشنا مینن کو استعمال کیا۔ مینن صاحب بیسوں برس سے نہرو کے قریبی مقدمات میں شمار ہوتے تھے اور آدمی کوششے میں اتارنے کا فن جانتے تھے۔ ان کی سیاسی بازی گری، اقتدار پسندی اور اعتماد کی نااہلیت کے قصے مولینا آزاد، فلپ زیگلر اور تھائی کی کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ماؤنٹ بیٹن کی یوسی نے بھی جو اہر لال کو آمادہ کرنے میں بڑا کام کیا۔ موصوفہ قابل، ذہین، موثر اور تیز طرار تو تھیں ہی ساتھ ہی ساتھ حسین اور جاذب نظر بھی تھیں۔ جو اہر لال کے ساتھ ان کے تعلقات کی تفصیلات بڑی دلچسپ اور طویل ہیں۔ جو صاحبان یہ رنگین داستان پڑھنا ہی چاہیں وہ پنڈت جی کے پرائیویٹ سکریٹری ایم۔ ا۔۔۔ متھانی، لیری کولنس، فلپ زیگلر وغیرہ کی کتابیں، نہرو کے وقت کی یادداشتیں، آدھی رات کی آزادی اور ماؤنٹ بیٹن کی آفیشیل سوانح عمری وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہمیں یا ہمارے موضوع کو

تو اس داستان سے صرف اتنا تعلق ہے کہ جواہر لال پر ان مختلف خارجی عوامل کا ایسا باد ڈلویا گیا کہ آخر کار انہوں نے بھی تقسیم کو منظور ہی کر لیا۔ اس بارے میں مولینا آزاد کی رائے ایک تاریخی شہادت ہے۔

”سردار پٹیل کی طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد ماؤنٹ بیٹن جواہر لال کی طرف متوجہ ہوئے۔ شروع میں جواہر لال نے بٹوارے کی شدید مخالفت کی لیکن ماؤنٹ بیٹن اپنی کوشش میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ جواہر لال آہستہ آہستہ ہوار ہوتے گئے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آمد کے ایک ہی مہینے کے اندر جواہر لال جو تقسیم کے سخت مخالف تھے اب اگر اس کے مؤید نہیں ہوئے تھے تو رضامند تو ہو ہی گئے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جواہر لال ماؤنٹ بیٹن سے کس طرح متاثر ہو گئے۔ وہ امرولی آدمی ہیں مگر ساتھ ہی جذباتی بھی ہیں اور آسانی سے لوگوں کے کہے میں آجاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن ان کے اندر اس تبدیلی کی بڑی حد تک ذمہ دار ہیں۔ وہ صرف یہ کہ انتہائی ذہین تھیں بلکہ بے حد دلکش اور دوست نواز بھی تھیں۔“

ان دونوں صاحبان پٹیل اور پنڈت نہرو کی منظوری کے بعد کانگریس ورکنگ کے بٹوارے کی منظوری لینا کوئی اہم مسئلہ نہیں رہ گیا تھا۔ تاہم گاندھی جی کے سامنے یہ تجویز پیش کرنی اور ان کی منظوری کا مسئلہ ضرور باقی تھا۔ ابھی تک کسی نہ کسی درجہ میں یہ خوش نہیں باقی تھی کہ وہ تقسیم کو منظور نہ کریں گے اس لئے کہ وہ بار بار یہ دازنگ دے چکے تھے کہ پاکستان میری لاش پر سے گزر کر ہی بن سکے گا۔ انہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کی سالمیت کے لئے اگر ہندوستان کی حکومت سلم لیگ کو دینی پڑے تو مجھے اور کانگریس کو اس میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔

”ماؤنٹ بیٹن نے دیکھا کہ گاندھی جی متحدہ ہندوستان کی حمایت میں ثابت قدم

ہیں اور تقسیم ملک کے ہر اقدام کی سختی کے ساتھ مخالفت کریں گے۔ انھوں نے
(گانڈھی جی نے) پہلی اپریل کو یہ پلان پیش کیا کہ جناح کو عبوری طور پر مرکزی حکومت
کی تشکیل کی دعوت دی جائے۔ اگر اس طرح ملک کی سالمیت برقرار رکھے تو
کانگریس کو مسلم لیگی حکومت منظور کر لینے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔

گانڈھی جی کی اس مضبوط اور غلصانہ پالیسی کے بعد فطری طور پر یہ یقین پختہ ہو گیا تھا کہ
پٹیل اور نہرو کے ہموار ہوجانے کے بعد بھی کانگریس ملک کا بٹوارہ منظور نہ کرے گی اور گانڈھی
جی اس راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر آخر میں یہ یقین بھی بہت کمزور اور محض
خوش فہمی پر مبنی نکلا۔ پٹیل سے اس مسئلہ پر پہلی ہی بار گفتگو کے بعد گانڈھی جی نے صاف کہہ دیا کہ
اب تقسیم کے علاوہ مسئلہ کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہندوستانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا، اہم اور
خون آشام فیصلہ بھی مولینا آزاد کی زبانی بہتر ہے :

”ہم منتظر تھے کہ گانڈھی جی ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کے لئے دہلی آئیں گے
چنانچہ ۳۱ مارچ کو وہ پہنچ گئے۔ فوراً ہی میں ان سے ملنے گیا۔ انھوں نے پہلی بات جو مجھ
سے کی وہ یہ تھی کہ اب تقسیم ایک خطرہ بن چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دلچھ بھائی
پٹیل اور یہاں تک کہ جواہر لال نے بھی ہتھیار ڈال دئے ہیں۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں
گے یا آپ بھی بدل گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ یوں تو میں ہمیشہ سے تقسیم کا مخالفت
رہا ہوں مگر جتنی شدت سے آج اس کے خلاف ہوں اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں
رہا۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ جواہر لال اور پٹیل نے بھی ہار مان لی ہے اور بقول
آپ کے ہتھیار ڈال دئے ہیں۔ اب میری ساری امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں اگر
آپ تقسیم کی مخالفت میں ثابت قدم رہے تو اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا ہے
لیکن اگر آپ بھی اس پر رضامند ہو گئے تو ہندوستان تباہ ہو جائے گا۔ گانڈھی جی
نے کہا کہ میری رضامندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کانگریس تقسیم کو منظور

کرنا چاہتی ہے تو یہ میری لاش پر سے گزر کر ہی ممکن ہو سکے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں اُس وقت تک کسی حالت میں تقسیم کو منظور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد گاڈھی جی نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے تین ملاقاتیں کیں۔ پھر سردار پٹیل نے تنہائی میں دو گھنٹے تک گاڈھی جی سے بات کی۔ یہ تو نہیں معلوم ہو سکا کہ اس رازداری میں کیا باتیں ہوئیں مگر اس کے بعد جب میں گاڈھی جی سے ملا تو یہ دیکھ کر مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچا کہ گاڈھی جی بھی بدل گئے تھے۔ اگرچہ ابھی تک علی الاعلان تقسیم کی تائید نہیں کر رہے تھے مگر اب پہلے بیسی شدت کے ساتھ اس کی مخالفت میں بھی نہیں بول رہے تھے جس چیز سے مجھے اس سے بھی زیادہ صدمہ اور حیرت ہوئی وہ یہ تھی کہ اب پاکستان اور ہندوستان کے حق میں وہی دلائل دے رہے تھے جو اس سے پہلے پٹیل نے دئے تھے۔ میں نے دو گھنٹے تک ان کے سامنے دلیلیں دیں مگر انھیں قائل نہ کر سکا۔ آخر میں ناامید ہو کر میں نے کہا کہ جب آپ نے بھی یہ نظریہ تسلیم کر لیا تو اب ہندوستان کو تباہی سے نہیں بچایا جاسکتا۔ انھوں نے اس کا تو کوئی جواب نہ دیا مگر یہ کہا کہ میں نے تو پہلے ہی یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہم مسٹر جناح کو گورنمنٹ بنانے اور اس کے وزیرانہ کے انتخاب کی دعوت دیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ میں نے یہ تجویز ماؤنٹ بیٹن کے سامنے بھی رکھی تھی۔ وہ اس نظریے سے بہت متاثر بھی ہوئے تھے۔ میں یہ واقعات جانتا تھا چنانچہ دوسرے دن جب میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملا تو انھوں نے کہا کہ اگر کانگریس گاڈھی جی کی اس تجویز کو مان لے تو اب بھی تقسیم سے بچایا جاسکتا ہے اس لئے کہ کانگریس کی طرف سے یہ پیش کش مسلم لیگ اور جناح کو مطمئن کر دے گی۔ مگر بدقسمتی سے جواہر لال اور سردار پٹیل نے تجویز کی سختی سے مخالفت کی اور گاڈھی جی پر زور دیا کہ وہ اس تجویز کو واپس لے لیں۔ گاڈھی جی نے کہا کہ درحقیقت تقسیم اب ناگزیر ہو گئی ہے۔ اب تو سوال اس بات کا ہے کہ تقسیم کی شکل کیا ہو۔ چنانچہ اب گاڈھی جی کے حلقوں میں دن رات تقسیم کی شکل اور

اس کے طریق کار پر بات چیت ہونے لگی۔

اس کے فوراً بعد آل انڈیا کانگریس نے بھی تقسیم کی تجویز پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور اب ہندوستان کو کاٹنے ملک کو بانٹنے اور ہندو مسلمانوں کو الگ الگ کرنے کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ شروع ہو گئیں۔ مسلم لیگ اور اس کے لیڈران کرام خاص طور پر مسٹر محمد علی جناح خوش، مطہن اور کارمان تھے کہ ان کا پاکستان دلی اور سہارن پور سے لے کر پشاور اور کراچی تک ادھر آسنسول، برودان اور کلکتہ سے لے کر چانگام تک کے طویل و عریض ملک پر مشتمل ہوگا۔ ان کی خوشی اور فحتمندی بے جا بھی نہیں تھی۔ اس طرف کلکتہ، آسنسول، ہاؤڈہ وغیرہ کا صنعتی علاقہ، اس کی اربوں کھربوں روپے کی مالیت کی جاری و ساری ٹیکسٹائل، کاٹن، جوٹ، اسٹیل، پیمپر، بر، لیدر وغیرہ وغیرہ کی سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں چھوٹی بڑی فیکٹریاں، دنیا کے تجارتی علاقوں سے رابطہ رکھنے والی اربوں کھربوں کا مال برآمد کرنے والی کلکتہ کی بین الاقوامی بندرگاہ، بنگال کا زرین ملک اور دوسری طرف سونا اگلنے والی پنجاب کی سرسبز زمین، لدھیانہ، امرتسر، کشمیر، شملہ وغیرہ وغیرہ کے لامعدود خزانے جس ملک کے قبضے میں آرہے تھے اس کے قبضے میں آدھانہ ہی ایک تہائی ہندوستان اور ملک کے متعدد قیمتی ترین علاقوں میں سے دوچار تو ضرور ہی آرہے تھے مگر قسمت کی خوبی دیکھے کہ میں اس وقت جب فاصلہ صرف دو ہی چار ہاتھ کا باقی رہ گیا تو کند بالکل بیچ سے ٹوٹ گئی۔ اور کانگریس اور لارڈ داؤنٹ بیٹن نے مسٹر جناح کے سامنے یہ سوال پیش کر دیا کہ جن بنیادوں پر آپ ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک انہی اصولوں اور بنیادوں پر پنجاب اور بنگال بھی تقسیم ہونا چاہیے۔ کوئی غیر سیاسی سیدھا اور سادہ انسان ہوتا تو صاف صاف کہتا کہ آپ لوگ آپ اچھا بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بنگال کا قلب، اس کی رگوں میں رداں دواں زندگی اور گوشت پوست تو آپ لئے لے رہے ہیں اور اس کا انجر پنجر آئے دن کے طوفانوں، سیلابوں اور سانگھونوں کی زد پر رکھے ہوئے دلہلی اور تہر آب علاقے ہیں دے رہے ہیں۔ پنجاب کا زرین ترین حصہ، صنعتی علاقہ اور بہترین سرزمین آپ اپنی طرف لگا ہے

ہیں اور ریگستانی، خشک، بنجر علاقہ ہمارے حصے میں ڈال رہے ہیں۔ کشمیر اپنے نشانے پر رکھ رہے ہیں اور سرحد جہاں کے پچاس فی صدی عوام بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارے دردمند کے لئے چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جس پاکستان کو ہم نے لولائنگ ڈالا اور کٹ پھٹا کہہ کر رد کر دیا تھا وہی آپ پھر ہمارے سر ڈال رہے ہیں۔ مگر لیڈروں کا نکتہ نظر بڑی سیاسی اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ جناح صاحب اتنی جلدی اور شوق میں تھے کہ بلا کسی رودنی کے یہی پاکستان منظور کر لیا۔ ماؤنٹ بیٹن تو کہتے ہیں کہ کانگریس والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اگر پورا پنجاب اور بنگال بھی پاکستان سے علیحدہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا تو جناح صاحب اتنی جلدی اور جوش میں تھے کہ وہ بھی منظور کر لیتے۔ ایک بیان ملاحظہ کیجئے:

”ار اپریل کو جناح صاحب سے ملاقات کے دوران والسٹون نے ایک مختلف طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے تقسیم کے بارے میں جناح کی مقبولیت کو تسلیم کیا مگر ساتھ ہی یہ کہا کہ یہی اصول پنجاب اور بنگال جیسے دو عظیم صوبوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں جہاں ہندو مسلمانوں کی تعداد کم و بیش برابر ہے۔ اگر انڈیا تقسیم ہوتا ہے تو ان دونوں صوبوں کو تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ سن کر جناح بہت گھبرائے انہوں نے جواب دیا کہ پنجاب اور بنگال اپنی وحدت کی وجہ سے بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ ان کی تقسیم سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کمزور ہو جائے گا بلکہ ان دونوں صوبوں کی پرسکون زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ ماؤنٹ بیٹن نے جناح صاحب کی دلیل انہی پر چسپاں کر دی اور کہا کہ آپ نے کتنی سچی بات کہی ہے۔ جناح سمجھ گئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کی دلیل کی بنا پر ہندوستان کو بھی تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ ماؤنٹ بیٹن نے اندازہ لگایا کہ اگر جناح صاحب کو یقین ہو گیا کہ پورا پنجاب اور پورا بنگال ملنا مشکل ہے تو وہ ان دونوں صوبوں کی تقسیم پر رضامند ہو جائیں گے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لئے وہ پورا پنجاب و بنگال دونوں صوبے قربان کرنے کے لئے تیار تھے۔“

ماؤنٹ بیٹن نے اس کمزوری کا اندازہ کر لینے کے بعد ہی پنجاب و بنگال کی تقسیم کا سوال اٹھایا تھا ورنہ وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ بہترین پنجاب اور قہمی ترین بنگال الگ کر لینے کے بعد کون پاکستان قبول کر سکتا ہے۔ انہی پیش بینیوں کی بنیاد پر انہوں نے کانگریس سے منع کیا تھا کہ ابھی اس موقع پر بنگال و پنجاب کی تقسیم کا سوال نہ کریں، میں خود ہی مناسب موقع پر یہ مسئلہ اٹھاؤں گا۔

یہ ایک طویل کہانی ہے کہ مسلم لیگ اور مسلمان اپنے لیڈر کی تمام تر سیاسی بصیرتوں کے بعد بھی کس طرح قدم قدم پر سیاسی کامیابیاں حاصل کرتے گئے۔ کیسے پاکستان حاصل کیا اور پھر کس دل سے بنگال و پنجاب کی تقسیم پر تیار ہوئے اور آخر میں کس سادگی سے ریڈ کلف کی حد بندی کو آنکھ بند کر کے گلے لگانا پڑا۔ یہ تفصیل جاننے کے لئے قارئین کو مفصل تاریخوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

مختصر یہ ہے کہ ملک کی تقسیم کے ساتھ پنجاب و بنگال کی تقسیم کا بھی فیصلہ ہو گیا اور سب سے آخر میں یہ مطالبہ سامنے آیا کہ صوبہ سرحد میں جہاں کانگریس کی اکثریت اور حکومت تھی اور ضلع سلہٹ میں جس میں مسلم اکثریت تھی استصواب رائے عامہ کرایا جائے کہ یہ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں یا ہندوستان سے۔ جناح صاحب اس استصواب پر بھی رضامند ہو گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر صوبہ سرحد اور سلہٹ کا طویل اور تفصیلی دورہ کیا اور وہاں کے عوام کو مسئلہ کی اہمیت اور نتائج کی سنگینی سے وضاحت کے ساتھ مطلع کیا۔ صوبہ سرحد میں کانگریس کی مقبولیت اور اس کے ساتھ ہی آزادی کے جذبات کی جڑیں پہلے ہی سے کافی مضبوط تھیں۔ حضرت کی تقریروں اور بیانات نے وہاں کے عوام کے خیالات اور سیاسی رجحانات اور بھی پختہ کر دیے۔ مگر ساتھ مسلم لیگ کے پردیگنڈے اور منظم تدابیر کا بھی کافی اثر ہوا۔ اس کے جلسوں اور مجمعوں میں جہاں کانگریس کی دوسری برائیاں بیان کی جاتی تھیں وہیں قرآن پاک کے جملے اور پھٹے ہوئے اوراق بھی دکھائے جاتے تھے جو گلگتہ میں جلائے گئے

تھے عوام کو ان کی مذہبی کتاب کی یہ حالت خصوصاً مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایسی اہانت دکھائی جائے تو ان پر ایسی جذباتی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ ان کے لئے اصل حقیقت ہم پہنچنا اور کس نے جلائے؛ کیوں جلائے؛ اس قسم کے سوالات خارج از بحث ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ صوبہ سرحد کے کانگریسی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب وہاں عوام اور خواص میں بہت نامقبول تھے۔ مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ کانگریس سے بھی نالاں تھے۔ چنانچہ استصواب کا نتیجہ نکلا کہ پاکستان کو ۱۹۵۱ء کی ۵۰ ویں دہائی کے معلوم نہیں عرصہ عام میں اسے جیت کہتے ہیں یا ہار سمجھتے ہیں مگر قانونی فیصلہ تو یہی ہوا کہ انہی چند پوائنٹس کی وجہ سے صوبہ سرحد پاکستان میں چلا گیا اور آخر کار ۱۹۴۷ء کو تقسیم ہندوستان کا باضابطہ اعلان ہو گیا۔ سلہٹ میں عوام نے حضرت کی بات نہیں سنی اور بھاری اکثریت سے پاکستان کی طرف جانے کا فیصلہ کیا مگر آخر کار پچیس برس کے بعد ان کو اپنا فیصلہ بدلنا ہی پڑا۔

ان تمام حالات اور واقعات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستان صرف مسلم لیگ اور مسٹر محمد علی جناح ہی نے نہیں بنوایا تھا بلکہ اس میں کانگریس کے بعض صاحب اثر حضرات بھی برابر کے شریک تھے۔ دلچسپ بھائی پٹیل اور ان کے بعض ساتھی بھی اسی درجہ میں دو قومی نظریے کے حامی تھے۔ ”مجھے حیرت اور صدمہ ہوا جب پٹیل نے میری بات کے جواب میں کہا کہ چاہے ہم مائیں یا نہ مائیں مگر یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں دو قومیں ہیں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس حقیقت کا اعتراف کر لیا جائے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دلچسپ بھائی پٹیل ہندوستان کی تقسیم کے مؤسس تھے ہندوستان کے بٹوارے، پاکستان کے مطالبے اور دو قومی نظریے کے بارے میں مسٹر محمد علی جناح بھی اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے تھے۔ تاریخ کی عجیب ستم ظریفی ہے کہ ملک کے بٹوارے کا الزام ان کے سر رکھا جاتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے پاکستان قبول کیا وہ سردار پٹیل تھے یہ

اڈنٹ بیٹن نے تقسیم کی تجویز ملک کے سارے لیڈروں کے سامنے رکھی اور کہا کہ کل تک آپ لوگ اپنا فیصلہ مجھے بھجوا دیں۔ دوسرے دن

”کانگریس نے اپنا فیصلہ بھجوا دیا کہ اسے ملک کے بٹوارے کی تجویز منظور ہے۔ سکھوں کی منظوری بھی وائسرائے کو حاصل ہو چکی تھی۔ معاملہ اگر انکا تو کہاں؟ محمد علی جناح بر۔ (وہ خاموش تھے) معلوم ہوتا تھا کہ جناح کا بھی آج مون برت ہے۔ برسہا برس سے جناح نے جو خواب دیکھے تھے ان کے پورے ہونے میں اب صرف اتنی دیر تھی کہ وہ زبان سے ”ہاں“ کہہ دیں۔ لیکن نہ جانے وہ کون سی پُر اسرار وجہ تھی جس کی بنا پر وہ تقسیم کی اس تجویز پر ہاں نہیں کہہ پائے تھے ان کی ساری عمر نہیں کہتے گزری تھی۔ اور ”نہیں“ ان کے دماغ میں اس حد تک بیٹھ چکی تھی کہ اب جب سب کچھ ان کے حق میں تھا تو جناح کے ہونٹوں سے ہاں نہیں نکل رہی تھی۔ ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ جب تک تقسیم کے اس سودے پر مسلم لیگ کونسل میں غور نہیں ہوتا میں اکیلا اس کو منظور نہیں کر سکتا اور کونسل کے اراکین کو دہلی بلانے کے لئے کم از کم ایک ہفتے کا وقت چاہیے، اس وقت تک جناح صاحب کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات ہوئے تھے ان میں وائسرائے کو ہمیشہ یابوسی ہوئی تھی۔ اب ان کے صبر کا پیمانہ بریز ہو چکا تھا جناح پاکستان جو چاہتے تھے وہ ان کو دیا جا رہا تھا۔ کانگریس نے اسے مان لیا تھا۔ سکھوں نے اسے حلق سے نیچے اتار لیا تھا۔ عین وقت پر جناح کی طرف سے اڑنگا ڈالنے کا کیا مطلب تھا؟“

مولینا آزاد نے لکھا ہے کہ مسٹر جناح صاحب پاکستان اور تقسیم ملک کا مطالبہ مسلمانوں کے حقوق کے لئے سودے بازی کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ یہ حقیقت ذہن نشین کر لینے اور تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ کر دینے کی مستحق ہے کہ تقسیم ملک اور ہندو مسلم دو قومی نظریے

کا بے غرض مخلصانہ اور مردانہ وار مقابلہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں صحن جمعیتہ علماء ہند نے کیا۔ ادھر کانگریس مسلم لیگ اور برطانیہ گورنمنٹ کے درمیان بٹوارے کی کھڑکی کھلی رہی تھی اور تقسیم کے اعلان کی تیاریاں جو رہی تھیں، ادھر ارمی ۱۹۴۷ء کو اپنے اجلاس منعقدہ لکنؤ میں جمعیتہ علماء تقسیم اور دو قومی نظریے سے بیزاری اور اس کے خطرناک نتائج کا پوری وضاحت کے ساتھ اعلان کر رہی تھی۔ خوب یاد کر لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی "اتقوا راسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ" صحن امت ہی کے لئے نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کے لئے قیامت تک مشعل ہدایت ہے۔

انسانی درندے، خون کے دریا لاشوں کے انبار

آزادی کا فیصلہ ہو گیا۔ زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ ہندوستان کے لئے یہ خوشی کا موقع تھا مگر اس خوشی میں زہر گھلا ہوا تھا۔ ہندوستان کا دل رد رہا تھا۔ ملک کٹ رہا تھا۔ صدیوں کا ساتھ چھوٹ رہا تھا۔ ساتھ مرنے جینے، ہنسنے رونے والے ہندو، مسلمان، برہمن، عیسائی اور ہندوستانی آج بٹ رہے تھے۔ گانڈھی جی نے کہا:

”کل سے ہم انگریزوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن آج آدھی رات کو ہندوستان کے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ کل کا دن خوشی کا ہوگا مگر اتنے ہی دکھ کا بھی ہوگا۔ یہ آزادی ہم کو ایک بڑی ذمے داری سونپ رہی ہے۔ ہمیں بصیرت اور اخوت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر اس کی حفاظت نکلےتے میں ہوگئی (جہاں گانڈھی جی اس وقت مقیم تھے) تو مجھے سارے ملک میں انسانیت جاگ اٹھے گی۔ آزادی جس طرح آئی ہے اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ اس لئے آزادی کے دن میں برت رکھوں گا، جرمہ کاتوں کا ملک کی بھلائی کے لئے دعا کروں گا۔ آپ لوگ اس میں میرا ساتھ دیں، برت رکھیں اور دعا کریں۔“

اس آزادی کے ساتھ ملک کی آدھی آبادی خوف، دہشت، بھوک اور موت کے اندھیروں میں دفن ہوگئی۔ مادر وطن کی چھاتی پر آرے چلنے لگے۔ دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ سامان اور انسان بٹنے لگے، تقسیم کی دیوار کھینچنے لگی۔ دلہہ بھائی بیٹیل کو یہ خوش فہمی تھی کہ ”پاکستان زیادہ دیر نہیں چل سکے گا اور بہت جلد ہندوستان میں مل جائے گا اور اس نئی ریاست سے مسلم لیگ کو تلخ سبق ملے گا۔“

دنیا میں بڑی بڑی تقسیمیں ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے ملکوں کی اجرتیں ہوئی ہیں۔ بستیوں، علاقوں اور آبادیوں کے بٹوارے بھی ہوئے ہیں مگر اتنی بڑی ہجرت ایسی دل سوز تبادلاً آبادی اور ایسا انسانیت کش بٹوارہ شاید اس سے پہلے کبھی نہ پیش آیا ہو۔ گذشتہ پانچ سو سالوں کے دوران ہندوستان میں کتنی بلندیاں، کیسی ترقیاں اور بھرپور آبادیاں معرض وجود میں آئی تھیں۔ ان سب کو ایک ایک کر کے تقسیم کرنا تھا۔ بینک، ان میں جمع شدہ رقمات، ڈاک کا حساب کتاب، منی آرڈرس، بیسے، ٹکٹ، لفافے، کارڈ، حکومتوں کے ریکارڈس اور دستاویزات، دنیا کی تیسری بڑی ریلیں اور ان کے انتظامات، درائیں، ہسپتال، یونیورسٹیاں، ملازمین، طالب علم، اساتذہ، مریض، ڈاکٹرس، غرض بے شمار لاتعداد اور چھوٹی بڑی لاکھوں چیزیں تھیں جنہیں چیر بھاڑ کر اور کاٹ بھاٹ کر بانٹنا تھا۔ قانونی اعتبار سے تو یہ سب تقسیم ہی کے تحت آئے گا مگر جب کبھی ان کی حکایتیں لکھی جائیں گی تو ہر لفظ سے بربادیوں اور تباہیوں کی داستانیں بنیں گی۔ تقسیم کا کام ریڈ کلف کی مدد سے لائن کے اعلان سے مکمل ہوا۔ اس کے فوراً بعد وہ آگ جس کا آغاز کلکتہ، نواکھالی، بہار اور گڈھ مکتیشر سے ہوا تھا اس کے شعلے بھڑک کر آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ ہندوؤں اور سکھوں کو پاکستان کہلائے جانے والے علاقوں سے نکالنے، لوٹنے، مارنے اور برباد کرنے اور انسانیت کو ذبح کرنے کا آغاز اللہ اکبر! پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد کے نعروں سے ہوا۔ ہندوستانی علاقوں میں بجرنگ بلی کی جے، ہر ہر مہادیو، بھارت ماتا کی جے کی آوازوں کے ساتھ مسلمان بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مصوموں کو ذبح کرنے، زندہ جلائے اور کھل ڈالنے کا کام شروع ہوا۔ دنیا میں ایسے مجرمین اور جرائم کی روک تھام، پولیس اور فوج ہی کیا کرتی ہے۔ مگر قوم کے ان لیڈروں نے فوج اور پولیس کو بھی ہندو فوج اور مسلم فوج بنا دیا تھا۔ چنانچہ امن کے یہ محافظ ظلم و بربریت کے علمبردار بن گئے تھے۔

”مجھے یقین ہے کہ اگر فوج تقسیم نہ ہوتی تو آزادی کے فوراً بعد خون کی ندیاں بھی ہیں وہ نہ بہتیں مگر مجھے نہایت افسوس ہے کہ میرے ساتھیوں نے میرا ساتھ نہ دیا اور فوج کو متحد رکھنے کی سخت مخالفت کی۔ اس بات کا مجھے اور بھی افسوس ہوا کہ

ڈاکٹر اجندر پرشاد جو بڑے امن پسند اور نرم دل انسان ہیں انہوں نے بھی فوج کے اتحاد کی مخالفت کی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مجھ سے نہایت انوس کے ساتھ کہا کہ ہندوستانی فوج مسلمانوں کے قتل میں شریک ہونا چاہتی تھی مگر انگریز افسران نے بڑی مشکل سے اسے روکا۔

انسان کی حیوانیت اور دل کی قسادت کے جیسے مناظر اس موقع پر نظر آئے۔ تاریخ انسانی نے شاید ہی کبھی دیکھے ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ملے جنہیں یہ حادثات دیکھ کر ہنڈوں سے مسلمانوں سے سکھوں سے اور انسان سے نفرت ہو گئی۔

”سکھوں کی ڈوبیاں چاروں طرف گھوم رہی تھیں جو مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑتی تھیں جیسے لاشوں پر گدھ۔ مسلمانوں کے محلے اور گاؤں تباہ ہو رہے تھے۔ یہ سکھ اپنے پیچھے ایک خاص نشانی چھوڑ جاتے تھے جب وہ کسی مسلمان مرد کو قتل کرتے تھے تو اس کا عضو تناسل کاٹ کر اس کے منہ میں بھر دیتے تھے۔ ایک شام لاہور کے کافی ہاؤس کے سامنے مسلمان غنڈے جمع تھے، اچانک سامنے سے ایک سائیکل سوار گزرا اس نے ان کی طرف پیتل کا ایک برتن پھینکا۔ ایسے برتن عموماً دودھ لے جانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جس طرف وہ برتن لٹکتا تھا لوگ کود کر پناہ کے لئے ادھر ادھر دیکھ جاتے تھے۔ سب کو یہی اندیشہ تھا کہ اس میں بارود ہے اور زبردست دھماکا ہوگا جب ایسا نہ ہوا تو ایک آدمی نے اسے کھول کر دیکھا۔ اسے دیکھنا بھی کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ اتر سر کے سکھوں نے لاہور کے مسلمانوں کو تحفہ بھیجا تھا اس برتن میں مسلمانوں کے غنڈے کئے ہوئے سیکڑوں اعضائے تناسل بھرے ہوئے تھے۔ ادھر لاہور میں قتل، آتش زنی، عصمت دری اور لوٹ مار کے واقعات اس قدر بہیمانہ انداز میں ہو رہے تھے کہ اچانک ایک انگریز افسر نے

لکھا کہ معلوم ہوا ہے کہ سارا شہر خود کشی پر آمادہ ہے۔ پنجاب کی طرح لاہور کی پولیس میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ ہندوؤں کی حفاظت سے انھیں زیادہ دہشت نہیں تھی۔ اتر سر کی حالت لاہور سے زیادہ خراب تھی۔ بازاروں اور گلیوں میں لوگ برسرِ عام قتل ہو رہے تھے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پرستم ڈھانے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ کسی مسلمان کو دیکھتے ہی وہ بچھنے سے آتے اور اچانک اس کے منہ پر تیزاب ڈال دیتے۔

امتِ سر، لدھیانہ، جالندھر، انبالہ، غرض پورے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہندو اور سکھ مسلمان بستیوں اور گاؤں میں کھڑی ہوئی، فصلوں، گھروں اور بستیوں کو تیل چھڑک کر آگ لگا دیتے تھے پھر تلواریں، برچھیاں اور خنجر لے کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جلتے ہوئے گھروں سے کھلیاؤں اور بستیوں سے جو لوگ آگ سے بھاگ کر نکلتے تھے اگر بچے ہوتے تو انھیں نیزوں پر پھیند لیتے تھے۔ بوڑھے ہوتے تو تلواروں سے ذبح کرتے اور جوانوں کو خنجروں سے قتل کرتے تھے۔ حکومت نے سکھوں کو کرپان، تلوار اور خنجر رکھنے کی قانونی آسانی دے رکھی تھی۔ عورتوں کو ننگا کر کے پرٹیکراتے تھے اور پھر برسرِ راہ زنا کرتے تھے۔ کوئی عورت یا لڑکی پسند آجاتی تو اسے گھر میں ڈال لیتے تھے۔ اگر اس سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں۔ بالکل یہی ظلم اور یہی ہتھیار سرحد کے اس پار پاکستانی لوگ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ۱۵ اگست کی دوپہر کو لاہور سے آنے والی نمبر ۵ ڈاؤن اکسپریس امتِ سر پہنچی۔ ساری کھڑکیاں کھلی تھیں مگر اندر ایک آدمی بھی نہ تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے ڈبے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس ٹرین میں مسافروں کے بجائے ان کی لاشیں تھیں۔ لاشوں کے درمیان کچھ خاک و خون میں لٹھرے ہوئے زخمی بھی تھے مگر ایسے زخمی جو ہلکے ہلکے کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ایک عورت اپنے شوہر اور بچوں کی لاشوں کے درمیان گم سم بیٹھی تھی۔ ایک بوڑھا اپنے بیٹوں، بہوؤں، لڑکی، داماد اور بیوی

کے سر اپنی گود میں لے بیٹھا تھا۔ ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹا ہوا تھا۔ ٹرین کے پھیلے حصے پر بڑے بڑے سفید حرفوں میں لکھا تھا "یہ ٹرین ہم نہرو اور پٹیل کے نام آزادی کی سوغات کے طور پر بھیج رہے ہیں" مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کے قافلے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ جن کھیتوں میں 'گاؤں میں اور گھروں میں یہ صدیوں سے رہتے آئے تھے جہاں ان کی بادشاہت تھی، جہاں ان کی عزت و آبرو اور زندگی پٹی بڑھی تھی وہ گھر اور گاؤں انھیں چھوڑنا پڑ رہا تھا، 'ماخن سے گوشت جدا ہو رہا تھا۔ ابھی کل تک ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہوتا تھا چند میل کا سفر ہوتا تھا تو دنیا بھر کا سامان، راحت و آرام کا انتظام ساتھ ہوتا تھا۔ گاڑیاں اور سواریاں ہمرکاب ہوتی تھیں۔ آج ایک نامعلوم منزل کی طرف ہمیشہ کے لئے روانہ ہو رہے تھے سواریاں اور گاڑیاں تو کجا مٹھی بھر دانے اور ایک گھونٹ پانی بھی ساتھ نہ تھا۔ بیس ہزار بیماریوں، کمزوروں، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر مشتمل انسانوں کا پیدل قافلہ جیونٹیوں کی طرح ریگ رہا تھا۔ اس قسم کے بنانے کتنے قافلے پورے مشرقی پنجاب میں اپنی جان بچانے کے لئے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے پیروں میں زخم ہو گئے تھے جسم خشک ہو گئے تھے اور جان لبوں پر آگئی تھی۔ کتنے بیمار راہ میں گر گئے۔ کتنے کمزور اور ضعیف بیماریوں کی نذر ہو گئے۔ کتنی حاملہ عورتوں کے وضع حمل ہوئے۔ دوا علاج پر ہیز، غذا تو خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ ان جاں بلب مظلوموں کو ایک دو منٹ ٹھہر کر دم لینے کی بھی فرصت نہیں نصیب تھی۔ جو بے حال ہو کر بیٹھ گیا۔ بے دم ہو کر گر گیا اور خستہ و شکستہ ہو کر رہ گیا اس کو ماں باپ شوہر بھائی بہن اور قافلے والے اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ ہر فرلانگ دو فرلانگ، میل دو میل اور منزل دو منزل پر بجز رنگ، بلی کی جے اور واگورڈ کی فتح کے نعرے بلند ہوتے اور انسان نا درندے جنوں کو قتل کر سکتے، زخمی کر سکتے، آبروریزی کر سکتے تھے کرتے اور باقی ماندہ زخمی قافلہ پھر گھسٹنے لگتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو تمام عمر ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے اور آخر میں صدر جمہوریہ بنے تھے اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ موصوف دئی سے کشمیر جا رہے تھے۔ گاڑی لڑھیانہ پہنچی تو ڈبے میں کچھ سلع اشخاص گھس آئے۔ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر اکھڑی اکھڑی باتیں

کرنے لگے۔ اس کے آگے کی کہانی خود ڈاکٹر صاحب ہی کی زبانی سنئے:

”ایک اسٹیشن پر پاس کے ایک ڈبے سے ایک مسلمان واقف میرے پاس آئے۔ وہ جالندھر جا رہے تھے۔ بندہ خدا اس قدر پے ہوئے تھا کہ باتوں سے دشت ہو رہی تھی۔ معرود میرے پاس آئیٹھے۔ جب مسلم ہوا کہ کشمیر جا رہا ہوں تو بولے کہ جالندھر سے آگے کیسے جاؤ گے، جالندھر میں اتر لینا۔ ایک ہندو مسافر نے کہا کہ اگر آپ کشمیر جانا چاہتے ہیں تو لدھیانہ میں گاڑی بدل لیں۔ چنانچہ میں لدھیانہ میں اتر گیا۔ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں جا کر پوچھا تو اس نے بڑی بے پڑائی سے کہا کہ فیروز پور کی طرف سے کشمیر جانے والی گاڑی آج سے بند ہے۔ جالندھر چلے جاؤ وہاں تمہارا انتظام ہو جائے گا۔ میں مایوس ہو کر اسی ٹرین سے جالندھر پہنچا۔ دیکھا تو پیٹ فارم بالکل خالی نظر آیا اور اس پر فوج کے سپاہی نظر آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے کچھ فاصلے پر پانچ سات آدمی جمع ہو گئے۔ کچھ پہلوان نما بڑی بڑی موٹھیں، پنجابی وضع کی لنگیاں باندھے اور ننگے سر۔ چند منٹ انھوں نے آپس میں مشورہ کیا پھر میری طرف بڑھے کہ چلے ہم سامان لے چلیں۔ میرے منہ کرنے پر ان کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا سامان اٹھاؤ اس پر میرے مسلمان رفیق نے جن پر ابھی نشہ کسی درجے میں باقی تھا سردار کو ایک چائنا رسید کیا اس نے چاقو نکال لیا اور دو آدمیوں نے اپنی بندوتیں ان کے سینے پر تان دیں سردار نے مجھ سے کہا جتنا روپیہ ہے دے دو، میں نے کہا روپیہ تو کس میں ہے اس نے کہا کہ کس تو ہم پہلے ہی بھیج چکے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں اور قدم آہستہ آہستہ نقل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک ہندو صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس قطار سے گھسیٹتے ہوئے چلا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں باہر تو قیامت برپا ہے۔ آپ ادھر آئیے۔ مجھے لے کر اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں آئے، وہ سبھی تھا ان ہندو دوست نے اس سے بتایا کہ یہ مسلمان آدمی ہیں مگر اس بندہ خدا نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کندن لال کپور نے مجھے

آفس کی کرسی پر بٹھا دیا اور خود باہر چلے گئے۔ ان کے نکلتے ہی دوسرے ملنگ دو دھاری تلوار لئے ہوئے آفس کے دروازے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ اور مجھے اشارہ کرتے رہے کہ باہر آ جاؤ۔ مگر میں بیٹھا رہا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ پورے صاحب کسی سکھ فوجی افسر سے گھبرا گھبرا کر باتیں کر رہے ہیں پھر یہ دونوں دفتر میں آئے۔ افسر نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ آئیے۔ میں یہ سمجھ کر اب یہ اس کام کو باضابطہ طور پر انجام دینے کے لئے آئے ہیں۔ مگر افسر کے دوچار الفاظ سن کر اطمینان ہوا کہ یہ میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہمیں جیب میں بٹھا کر چلے، باہر سیکرڈن مسلح آدمی جمع تھے۔ ٹرکوں پر لکڑیاں ساتھ تھیں تاکہ زیادہ گندگی نہ پھیلے، ہاتھ کے ہاتھ جلاتے جائیں۔ جگہ جگہ انگاروں کے ڈھیر تھے۔ ایک مجمع ہزاری طرف بڑھا۔ ہمارے مہربان سکھ فوجی افسر کیپٹن گردھیان نے اپنی اسٹن گن سنبھال لی اور مجمع سے کہا خیردار! اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ وہ لوگ رُک گئے، مگر ان کے سردار نے گفتگو جاری رکھی اور کہا آپ انہیں لینے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا میں لینے نہیں آیا۔ میں ایک دوسرے کام سے آیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ کون ہیں تو میں نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ اس نے کہا انہیں ہمارے حوالے کیجئے۔ کیپٹن نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم سکھ ہو کر ایک سکھ سے کہتے ہو کہ ان شریف آدمیوں کو دھکا دے دو۔ یہ گفتگو کرتے کرتے وہ ہمیں مشر بیدی بسٹن بج جاندرہ کے گھر لائے۔ بیدی صاحب مجھے جانتے تھے۔ ایک دفعہ جامو بھی آئے تھے اور تفصیل سے سب کام دیکھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہیں ٹھہریے۔ گردھیان سکھ نے کہا بیدی صاحب دوستی تو ٹھیک ہے مگر کیا آپ کے پاس حفاظت کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس فوج کا ایک دستہ ہے۔ بیدی صاحب کی چھت سے عجیب بونناک مناظر دیکھے، ہر طرف جلتے ہوئے مکان، جلتی ہوئی کوٹھیاں۔ وہ دل میں شرمندہ تھے مگر ساتھ ہی مجبور بھی تھے۔ پاس کی کوٹھی میں ایک ڈپٹی

سپرٹنڈنٹ پولیس تھا، پرسوں ہی لاہور سے آیا تھا اس کا بھائی وہاں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا تھا اور یہاں باطل اور زائد منگنا پہنچا تھا۔ دوسرے ہی دن اس نے پارچ لیا اور اب ان جلتے ہوئے مکانوں اور کوٹھڑوں کو ایسے دیکھتا تھا جیسے کوئی پھل پھراں اور آتش بازیوں چھوٹے دیکھتا ہے۔ بیدی نے میری واپسی کا انتظام کر دیا۔ ہماری ٹرین ان لوگوں سے بھری ہوئی تھی جو لاہور اور مغربی پاکستان سے لٹنے اور کٹنے سے کسی طرح بچ کر نکل بھاگے تھے، ان کی باتیں سن کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ کسی کا لڑکا مارا گیا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن کو اغوا کر لیا گیا، کسی کی بیوی کو بھگالے گئے، کسی کی بہو بیٹی غائب کر دی۔ میں سنتا تھا اور حیرت کرتا تھا کہ یہ لوگ مجھے کیسے چھوڑ دے رہے ہیں۔ دوران گفتگو ان لوگوں سے معلوم ہوا کہ لاہور میں پروفیسر بیچ نارائن کو قتل کر دیا گیا۔ یہ معاشیات کے مشہور پروفیسر تھے اور پاکستان کے حامی تھے۔ خدا

خدا کر کے میں اور ملازم خیریت سے دہلی پہنچے۔

حکومت نے اس علاقے میں بقائے امن کے لئے پولیس اور فوج بھی بھیجی تھی مگر وہ ہندو تھی، وہ منگلوں، زنجیوں اور معصوموں کی مدد کے لئے نہیں بلکہ قاتلوں، ظالموں اور درندوں کا ساتھ دینے کے لئے آئی تھی۔ مشرقی پنجاب میں مسلمان قتل کئے جا رہے تھے، مغربی پنجاب میں میں ہندو مارے جا رہے تھے۔ لاہور کی نالیوں میں انسانی خون بہ رہا تھا۔ لائل پور کی نہر کا پانی ہندوؤں اور سکھوں کے خون سے لال ہو رہا تھا۔

لاہور کے پاگل خانے کے ہندو سکھ مریضوں نے اپنے ڈاکٹروں سے گڑگڑا کر التجا کی کہ ہمیں ہندوستان بھجوا دیا جائے ورنہ مسلمان ہمیں قتل کر دیں گے۔ ڈاکٹروں نے کہا کیسی دیوانے بن کی باتیں کرتے ہو۔ کیا کوئی پاگلوں کو بھی قتل کر سکتا ہے؟ لیکن ڈاکٹروں کا خیال غلط نکلا۔ مسلمان بہادروں نے پاگل مریضوں کو بھی ذبح کر ڈالا۔

سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں پریم سنگھ نامی ایک ساہوکار کے گھر کو مسلمانوں نے گھیر لیا۔ پریم سنگھ بندوق لے کر ہتھ پر چڑھ گیا اور فائر کرنے لگا مگر اس کی بیوی اور لڑکیوں کو یقین تھا کہ یہ بندوق اور گولیاں چارمنٹ سے زیادہ نہیں چل سکتیں۔ اپنی عزت بچانے کے لئے چھ لڑکیوں اور ان کی ماں نے اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگالی۔ دونوں طرف ایسے بے شمار واقعات پیش آئے کہ لڑکیوں اور عورتوں نے آگ میں جل کر، پھانسی لگا کر، کنوڑیوں میں کود کر اور مختلف طریقوں سے خودکشی کر کے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی۔ چودہ سالہ نوزاد محمد یعقوب امرت سر کے قریب ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ جب سکھوں نے گاؤں پر حملہ کیا تو وہ کسی طرح بچ نکلا۔ بعد میں اس نے بتلایا کہ سکھوں نے عورتوں کی چھاتیاں کاٹ ڈالیں، ڈری ہوئی عورتیں بھیڑ بھریوں کی طرح پکڑی گئیں۔ عصمت درمی اور آبروریزی سے بچانے کے لئے گاؤں والوں نے اپنی بہو بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ ہندو سکھوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ٹانگیں جیر کر پھینک دیا۔ لاشوں کو کتوں اور حیل کوؤں کے لئے دان کر دیا۔ محمد یعقوب کے گاؤں کی ہزاروں کی آبادی میں صرف پچاس نفر زندہ بچے۔ سکھوں نے اس غارت گری، عصمت درمی اور ظلم میں سب سے زیادہ حصہ لیا۔ پنجاب کی سی آئی ڈی پولیس کے سربراہ مسٹر سیوج نے اطلاع دی کہ سکھوں کی ایک انتہا پسند جماعت اور ہندوستان کے سب سے بڑے مسلم دشمن گروپ آرائس ایس نے مل کر ایک خطرناک سازش کا منصوبہ بنایا ہے۔ سکھ جو زیادہ منظم، تربیت یافتہ ہیں اور ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت رکھتے ہیں اور آرائس ایس جو مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں دونوں مل کر دئی سے پاکستان کی طرف ہاجرین کو لے جانے والی ریل گاڑیوں کو تباہ کریں گے۔ ماسٹر تارا سنگھ نے سکھوں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا اور اس میں اعلان کیا کہ سکھ آرائس ایس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو خون سے نہلا دیں اور ہندوستان سے ان کا نام و نشان مٹادیں۔ گیارہ اور بارہ اگست کی رات کو پاکستان جانے والی پہلی خصوصی ٹرین جو افسران، ملازمان، ریکارڈس اور دستاویزات لے کر پاکستان سکرٹریٹ کا افتتاح کرنے جا رہی تھی گڈریا ریلوے اسٹیشن پر سانسفروں کے محفل طور پر تباہ کر دی گئی اور ماسٹر تارا سنگھ کے پردگرم کا پہلا راؤنڈ کامیابی کے ساتھ پورا ہوا۔ امرت سر میں برہمنہ عورتوں کے جلوس نکالے گئے، پنجاب کی سکھ ریاست بٹیلہ

نے مسلم آبادی کو برباد کرنے میں اپنی ریاستی طاقت اور ہتھیار کا آزادانہ استعمال کیا۔ یوں تو پورا مشرقی پنجاب اور اس کے باشندے ظلم و بربریت میں ایک دوسرے سے آگے تھے مگر سکھوں اور ریاست پٹیالہ کی زندگی اور خون آشامی کا بیان زبان و قلم کی رسائی سے باہر ہے۔ ایک گواہی ذہن نشین کرتے چلے :

ہاں کنگ اچیف آف دی آرمی اٹان آف انڈیا کو یقین تھا کہ اگر اس ظلم و بربریت پر قابو پانا ہے تو سکھوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی ضروری ہے۔ انہیں اس بات پر خاص طور پر غصہ آیا کہ گورنمنٹ نے سکھوں کے اوپر سے تلوار اور کرپان لے کر چلنے کی پابندی کو ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے ثابت ہوتا ہے کہ سکھوں کے خلاف جس قدر سخت اقدام کرنا ضروری ہے گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی ہے، ماؤنٹ بیٹن کو یقین تھا کہ سکھوں نے اس قتل عام اور ظلم و بربریت کو پھیلانے میں سب سے بڑا پارٹ ادا کیا ہے۔

بکسول کے سینٹی ٹوریم میں ہندو ڈاکٹروں نے مسلمان مریضوں کو اچانک سینٹی ٹوریم سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ان میں ایسے مریض بھی تھے جن کا صرن ایک ہی پیچھے کام کر رہا تھا اور ایسے بھی تھے جن کا تازہ تازہ آپریشن ہوا تھا۔ لیکن ان کو سینٹی ٹوریم چھوڑ کر پیدل پاکستان کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ پاکستان کے بابا لال آشرم میں بچپیں سادھو رہتے تھے ان کی زندگی پر اتھنا، لوگ اور مراتب میں گزرتی تھی، زعفرانی کپڑے پہن کر اپنے مقدس سفید گھوڑوں کو آگے آگے کر کے ستر پڑھتے ہوئے وہ ہندوستان کو روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مسلمانوں نے اس بے ضرر آشرم کو آگ لگا دی۔

مسلمان ناپتے اور کودتے ہوئے اچھنڈے لہراتے ہوئے بڑھ بڑھ کر نعرے لگاتے تھے۔ ابھی لاہور اور مغربی پنجاب سے اُجڑے ہوئے شہر نارتھی دئی نہیں پہنچے تھے۔ قدم قدم پر نعرے بلند

ہور ہے تھے، ہنس کے لیا ہے پاکستان لڑکے لیں گے ہندوستان، پنجاب کے شہزاد تھی اور دلی کے مہاجرین اپنے تئے وطن ہندوستان یا پاکستان کی طرف اور اصل میں موت کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں بے گھر بے در لوگ اسٹیشنوں پر گاڑیوں کے انتظار میں نکھیوں کی طرح بھنبھنار ہے تھے۔ گاڑی کے رکنے سے پہلے ہی یہ بد قسمت اس پر ٹوٹ پڑتے تھے جس طرح گڑکی ڈلی بھنبھناتی ہوئی نکھیوں میں دب جاتی ہے اسی طرح ٹرین آدمیوں کے ہجوم میں چھپ جاتی تھی اور اس میں روئی کے گھٹوں کی طرح انسان اور نیچے بیک ہو جاتے تھے پھر دروازوں سے لٹکنے، چھتوں پر سوار ہونے اور ڈبوں کے درمیان بپردوں پر چپکنے کی باری آتی تھی۔ راستے میں حملہ آور جتھے ان کے انتظار میں رہتے تھے۔ گاڑیوں کو روکنے کے بہت طریقے تھے لائن پر پتھر کی چٹان، درختوں کے تنے اور اینٹوں کے انبار بہت آسان اور کامیاب رکاوٹیں تھیں مگر ان سے بھی اچھا طریقہ یہ تھا کہ مسلمان ٹرین کو ہندو ڈرائیور اور ہندو گاڑیوں کو مسلمان ڈرائیور مناسب موقع پر روک دیتے تھے، ورنہ ٹرین میں چپے ہوئے سکھ اور آرائیں ایس زنجیر کھینچ لیتے تھے اور پھر حملہ آور درندوں، وحشی کتوں اور بھوکے بھڑیلوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے۔ کسی طرف سے ست سری آکال کی آواز آتی، کہیں اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا اور کبھی بجزنگ بلی کی جے گونجتی۔ درندے سمجھتے تھے کہ ہم ہندو ہیں، سکھ ہیں اور مسلمان ہیں۔

انسان سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں نادان سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں

لاحول ولا قوۃ الا باللہ شیطان سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں

شملہ سے ایک ٹرین دلی کے لئے روانہ ہوئی۔ اس میں ڈائریکٹر کے ہاؤس کے ہندو ملازم بھی سفر کر رہے تھے۔ ٹرین میں سفر کرنے والے ڈائریکٹر کے مسلمان ملازمین پر سکھوں کا حملہ ہوا۔ ہندو ملازمین نے سکھوں کا ساتھ دے کر اپنے ان ساتھیوں کو ذبح کر ڈالا جن کے ساتھ وہ برسہا برس سے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتے تھے۔ ان مظالم اور درندگیوں پر دونوں طرف کے لیڈروں کے بھی کلیجے کانپ اٹھے مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جو مطمئن اور

پُر سکون تھا۔ یہ دلچہ بھائی پٹیل تھے۔ یہ واقعات سن کر انہوں نے کہا 'اے یہ تو ہونا ہی تھا۔' ایک سڑک پر رو آدمی اپنی راہ چلے جا رہے تھے۔ اچانک گلی میں سے چھ ہندو نکل کر جاپاے مسلمان! مسلمان! پکڑو! مارو! وہ ہندو سترہ اٹھارہ برس کے چھو کرے تھے۔ انہوں نے ان راہ گیروں کو دبوچ لیا اور انہیں ننگا کر کے دیکھا تو واقعی ان کے مسلمان تھے۔ لڑکوں نے ان کو باندھ کر ندی میں ڈھکیلا اور مسلمانوں کو مار کر قتل کر ڈالا۔ ندی کا پانی تھوڑی دیر کے لئے کچھ لال ہو گیا۔ ہندو لڑکوں نے فتح کا نعرہ لگایا۔ ندی کنارے کچھ دھرماتا بڑے اطمینان سے پوجا پاٹ میں مصروف رہے اور کچھ عورتیں پوری لطف اندوزی کے ساتھ اشان کرتی رہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ دھرماتاؤں اور عورتوں نے لڑکوں کے نعروں کے جواب میں کالی مائی کی بے نہیں پجاری۔ لاہور شہر جس میں کچھ ہی دن پہلے چھ لاکھ ہندو سکھ رہتے تھے اب وہاں صرف ایک ہزار ہندو باقی تھے اور وہ بھی وہ لوگ جو اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لئے پاکستانی حکومت کی ذمہ داری میں تھے۔ یہی حال پاکستان کے دوسرے علاقوں کا بھی تھا۔ پھر بھی مار پیٹ کر پورے پاکستان میں دس بیس ہزار ہندو تو رہے ہی گئے تھے مگر ہندوستانی پنجاب میں لاہور سے لے کر انبالہ تک اور پانی پت کرناں گورڈ گاؤں تک ایک مسلمان بھی نہیں بچا تھا! یا تو چن چن کر قتل کر دئے گئے تھے یا پاکستان ڈھکیلا کر دئے گئے تھے۔ اس کے آگے سہارن پور اور دلی کی باری تھی۔ مگر یہاں سکھوں کی آبادی نہیں تھی اور ہندوؤں کا ایک طبقہ انسانیت نواز اور صلح پسند تھا اس کے علاوہ یہاں کے مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے اور اپنی سرزمین کو اپنے خون سے لالہ زار بنا دیں گے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے معتقدین و متبعین اور ان کی جماعت جمعیتہ علماء ہند نے جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر خون کے دریا کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور فسادیلوں کے سامنے دیوار بن کر ڈٹ گئے۔ اگر قربانی اور سرفروشی کا یہ حوصلہ بیدار نہ ہو جاتا تو دلی، سہارن پور، مظفر نگر، مراد آباد، علی گڑھ، بلند شہر اور میرٹھ تک مسلمانوں کے کھل صفایا ہونے میں کسر نہیں رہ گئی تھی۔ یہ قصہ اور تاریخی کردار ہم اس کے بعد

پیش کریں گے۔ سردست دلی کے حالات اور تفصیل پر ایک نظر ڈال لینی مناسب ہے۔ بہوؤں بیٹیوں کے اغوار اور عصمت دری کی داستانیں اتنی کثیر التوقع اور دلخراش ہیں کہ معمولی دل و جگر کے انسان انھیں سن بھی نہیں سکتے۔ جالندھر کے کسی گاؤں میں مسلمانوں کو قتل کرنے کے لئے جمع کیا گیا تو ان میں سے سولہ سترہ سال کی ایک بچی زینب ادھیڑ عمر کے ایک سیدھے سادے سکھ کے پیروں سے لپٹ گئی کہ مجھے بچالو۔ بوٹا سنگھ نے قاتلوں، ظالموں کو پندرہ سو روپیے دے کر اُسے خرید لیا۔ زینب کو ہندو سکھوں نے بہت مارا بیٹھا تھا اس کی عزت لوٹی تھی اور آہرد ریزی کی تھی۔ اس سے تیس برس بڑے بوٹا سنگھ نے اُسے ایسا ٹوٹ کر چاہا اور پیار دیا کہ اس بوڑھے سکھ کے آگے وہ دین دنیا کو بھول گئی۔ وہ اس سے رخصت کرنا تھا بلکہ جنت کی حور کی طرح مقدس جانتا تھا۔ ان کے دو بچیاں پیدا ہوئیں اور ان کی محبت روز بروز بڑھتی ہی جاتی تھی۔ ادھر دو دنوں حکومتوں نے معاہدہ کیا کہ دونوں طرف سے اغوا شدہ لڑکیوں اور عورتوں کو واپس کیا جائے، بوٹا سنگھ کے بھائی برادروں کو یہ پریشانی ہوئی کہ زینب کی وجہ سے اس کی جائداد سے محرومی ہو رہی تھی۔ انھوں نے حکومت کو زینب کی موجودگی کی اطلاع کر دی۔ سپاہی پیادے اُسے پکڑنے آئے تو بوٹا سنگھ کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ رو یا بیٹھا، افسردہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور پیر پکڑے۔ زینب نے بھی بوٹا سنگھ کو چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا۔ مگر افسران مجبور تھے معاہدہ میں یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ لڑکی انکار بھی کرے تب بھی اسے زبردستی واپس کیا جائے۔ مجبوراً زینب رو کر، ہٹکان ہو کر اور پھپھاریں کھا کر بوٹا سنگھ سے جدا ہوئی اور چلتے چلتے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ بوٹا سنگھ نے پاکستان کا دیزا مانگا جو نامنظور ہو گیا۔ اس پر اُس نے جامع مسجد دہلی میں جا کر قبول اسلام کیا اور جمیل احمد ہو گیا۔ اب پھر اس نے پاکستان ہجرت کرنے کی اجازت مانگی مگر وہ بھی نامنظور ہو گئی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو گیا۔ اس کی چھوٹی دودھ پیتی بچی تو ماں کے ساتھ تھی مگر بڑی بچی اس کے ساتھ ہی گئی۔ وہاں پہنچ کر بہنوں حیران و پریشان بے دانہ پانی مارے مارے پھرنے کے بعد زینب کے گاؤں کا پتہ چلا۔ مگر وہ عم نصیب جب کوچر محبوب میں پہنچا تو پتہ چلا کہ زینب کی شادی ہو چکی ہے۔ گاؤں والوں نے اسے بہت مارا بیٹھا اور غیر قانونی داخلے کے الزام میں پولیس کے حوالے

کر دیا۔ جیل احمد نے گرا گرا کر عدالت سے درخواست کی کہ وہ مسلمان ہے اور زینب اُس کی جائز قانونی بیوی ہے اگر وہ اُسے نہ ملی تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک دفعہ اُسے زینب سے ملا دیا جائے، اگر وہ اس کے ساتھ رہنے پر راضی نہ ہوئی تو عدالت کو اختیار ہے۔ عدالت نے زینب کو حاضر کیا۔ وہ ڈری آہی خوفزدہ ہرنی کی طرح چاروں طرف اپنے شکاریوں کو دیکھ رہی تھی۔ عدالت نے کڑک دار اور رعب دار آوازیں اُس سے پوچھا کہ کیا وہ جیل احمد کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ زینب نے انکار کر دیا۔ جیل نے کلیجہ تھام کر کہا آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ بچی کو اپنے ساتھ رکھو۔ مگر زینب کے دوسرے شوہر اور رشتہ داروں نے بچی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن جیل احمد بچی کو سینے سے لٹائے ہوئے سانے سے آتی ہوئی ٹرین کے آگے کود گیا۔ بچی چیخ کر بھاگی اور بچ گئی، جیل احمد کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کبھی گیا، اس کے سامان سے وصیت نامہ نکلا کہ اُسے زینب کے گاؤں میں دفن کیا جائے مگر جنازہ دہاں پہنچا تو گاؤں والوں نے دفن کی اجازت نہ دی۔ آخر جنازہ واپس لایا گیا اور لاہور میں دفنایا گیا۔

کتنی ہی بد نصیب ظلمتوں کے لئے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں
 کئی ماہ بعد عورتوں نے اس واقعہ پر زینب کے تاثرات معلوم کئے تو اُس نے کہا کہ
 بوٹا سنگھ کے یہاں میں مجبور تھی اور چھوٹے سے راج کی رانی بن کر رہتی تھی۔ یہاں ایک معمولی
 بیوی اور گھر کی خادمہ ہوں۔ حکایت بہت طویل، مفصل اور عبرتناک ہے، اس پر ناول لکھے جاسکتے
 ہیں۔ یہاں اتنی ہی گنجائش تھی کہ صرف پلاٹ پیش کر دیا جائے۔ اسی قسم کا۔ اتوار ایک اعلیٰ خاندان
 کی صاحبزادی مسودہ بیگم کا پیش آیا تھا جن کا مقدمہ سہارن پور میں بہت مشہور ہوا تھا، ان کو
 بھی ایک سکھ نے اغوا کر لیا تھا اور ان کے بچے بھی ہو گئے تھے۔ مقدمہ میں فیصلہ اس بات پر
 ٹھہرا کہ اگر مسودہ بیگم انکار کر دیں کہ یہ بچے ان کے نہیں ہیں تو عدالت ان کو سکھ کے ساتھ رہنے
 پر مجبور نہیں کر سکتی۔ لوگوں کو اور ان کے سکھ دعوے دار کو یقین تھا کہ سال بھر سے اپنے بچے
 کے ٹکڑوں کے دیدار کو ترستی ہوئی ماں جب بچوں کو دیکھے گی تو بیتاب ہو کر کلیجے سے لگائے گی

اور دو چار بے اختیار حرکتیں اور تاثرات ایسے ضرور صادر ہو جائیں گے جو توفانی ثبوت بن سکیں مگر تاریخ پر جب نچے عدالت میں آئے تو مسودہ نے ان کی طرف ایک نگاہ غلط انداز بھی نہ ڈالی اور عدالت کے سوال پر یہ کہا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں۔ عورت کے بچے تو وہ ہوتے ہیں جو اس کی رضامندی سے پیدا ہوں۔ اس طرح وہ سمجھ سے توجیح ہی گئیں مگر تھوٹے ہی دنوں کے بعد زندگی کی قید سے بھی چھوٹ گئیں۔ رحمہم اللہ رحمتہ واسعہ۔

ایک لڑائی سیاسی سطح پر لیڈروں کے درمیان بھی جاری تھی۔ پاکستان کو دفاتر سکرٹریٹ اور اس کے لوازمات بالکل شروع سے تیار کرنے تھے۔ ملک کے خزانے کا جو پیسہ تقسیم ہوا اس میں ہندوستان نے پاکستان کے حصے کا بچپن کروڑ روپیہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کو ایک ایک پیسے کی پریشانی تھی۔ حکومت پاکستان نے ہندوستان سے سامان لانے کے لئے بی۔ او۔ اے۔ سی کا ایک ہوائی جہاز کرائے پر لیا اور کرایہ ادا کرنے کے لئے جو چیک کاٹا وہ بینک نے واپس کر دیا اس لئے کہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں تھا۔ اس بے سروسامانی میں حکومت ہندوستان نے اس کا حصہ اور وہ بھی بچپن کروڑ روپیہ روک لیا تو پاکستان کو شدید مشکلات پیش آئیں۔ یہی رکاوٹیں دوسری ضروریات، آرجات اور مشینوں کی تقسیم میں بھی پیش آرہی تھیں، "گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس چھ پریس تھے، جب تقسیم کا وقت آیا تو سردار پٹیل نے صفائی سے انکار کر دیا کہ ان میں سے ایک بھی کراچی نہیں جائے گا۔" اکاؤنٹ بینک نے مسئلہ کی نزاکت دیکھتے ہوئے بہت سمجھایا مگر پٹیل نے ضد کر لی، "تقسیم کے معاہدے کے مطابق پاکستان کو ایک لاکھ ستر ہزار ٹن فوجی اسباب اور ساڑھو سا مان لانا چاہیے تھا مگر صرف چھ ہزار ٹن ملا۔ اسلحہ جات سے لدی ہوئی تین سو ٹرینیں پاکستان پہنچی چاہیے تھیں مگر صرف تین ٹرینیں پہنچیں۔" پاکستان کے افسران نے جب ان ٹرینوں کو کھولا تو ان کے اندر سے پانچ ہزار جوڑے جوتے، نرسوں کی پوشاکیں اور پانچ ہزار ایسی رائفلیں نکلیں جن کی مرمت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ گلڑی کے بہت سے بچس تھے جن میں اینٹیں اور جراثیم مارنے والی دوائیں بھری ہوئی تھیں۔"

ہندوستان میں اپنے متبعین کو آخری پیغام دے گئے کہ وہ ہندوستان کے ونا دار رہیں۔ اب ان تمام لوگوں کو جو سات سال سے پاکستان کے لئے جوش و خروش سے لبریز تھے اندازہ ہوا کہ وہ بیخ دھاکے میں پھنسے رہ گئے ہیں۔

”حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگی مسلمانوں کو بیوقوف بنایا گیا تھا کہ جب پاکستان بن جائے گا تو مسلمان چاہے اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں ہر حالت میں پاکستانی بنارہوں گے اور ان کو اپنا مستقبل تئیں کرنے کا پورا اختیار ہوگا اب جبکہ اکثریت کے صوبے انڈیا سے الگ ہو گئے، پنجاب اور بنگال بھی تقسیم ہو گئے اور جناح صاحب انہیں چھوڑ کر چلے گئے تب انہیں اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا کہ انہیں پاکستان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا بلکہ ان کا سب کچھ برباد ہو گیا اور مزید یہ کہ انہوں نے اپنی غیر متول حرکتوں سے ہندوؤں میں نفرت اور عداوت کی آگ بھڑکادی۔“

تاریخ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرے گی کہ اس نازک ترین وقت میں حضرت کی قیادت میں جمیعتہ علماء ہند نے قیام امن کے لئے ہندوستانی مسلمانوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت میں اور ملک کا وقار بلند کر دینے میں سر دھڑکی بازی لگادی۔ مردانہ وار پکٹے اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود گئے اور موت کی آنکھوں سے آنکھیں لائیں۔ گاندھی جی کو حقائق سے آگاہ کیا، ان کو پل پل کی خبریں اور آریس ایس کی سازشوں سے آگاہ کیا۔ گاندھی جی نے مسلمانوں کی حفاظت کے لئے مرن برت رکھا، جس کے نتیجے میں ایک بار پھر پورے ملک میں امن، صلح اور بھائی چارگی کی فضا پیدا ہو گئی اور آریس ایس اور فرقہ پرست افراد کے دل میں گاندھی جی کے خلاف نفرت و عداوت کی آگ بھڑک اٹھی جسے انہوں نے گاندھی جی کے خون سے بجھایا۔ یہ کہانی اگلے باب میں۔

دلی میں آگ

جو اٹھا تھا شعلہ شور و شر اُسے اپنے خون سے بچھا دیا

آگ جولاہور اور امرت سر سے چلی تھی وہ جالندھر لدھیانہ اور راستے کے سارے علاقوں کو خاک اور راکھ کرتی ہوئی دلی پہنچ رہی تھی۔ ابھی تک وہاں امن تھا۔ خبریں اور افواہیں تو ہر پہل پہنچ رہی تھیں مگر شعلے ابھی نہیں بھڑکے تھے۔ بہر حال وقت کے تیور تو بدل ہی چکے تھے، جیسے جیسے مغربی پنجاب سے شرارتھی دلی پہنچ رہے تھے ویسے ہی ویسے ماحول تیزی سے زہر آلود ہو رہا تھا۔ آنے والوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کو لوٹ کر، اُجاڑ کر اور برباد کر کے بے گھر کر دیا، ان کی لاکھ کی حیثیت خاک ہو گئی۔ اب ان کو سر بھینانے کو چھت اور پیٹ بھرنے کو روٹی نصیب نہ تھی اور یہی مسلمان یہاں ہندوستان میں آرام کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں اطمینان و آسودگی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ جذبہ انتقام سے پاگل ہو گئے۔ مسلمانوں پر درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے، بد قسمتی سے مسلمانوں کو بچانے والا کوئی نہ تھا اور قاتلوں کو ہوا دینے والے بھرے پڑے تھے۔ اکالی دل، جن سنگھ اور آریس ایس والوں کو سُنہا موقع ملا تھا۔ پولیس اور حکومت طرفدار تھی: کنٹ پولیس، سبزی منڈی، لودھی کالونی اور پہاڑ گنج وغیرہ علاقوں میں ان لوگوں نے قتل، لوٹ، غارتگری اور آتش زنی کا کام نہایت منظم طریقے سے شروع کیا۔ اگر ان لوگوں سے کوئی کسر باقی رہ جاتی تھی تو پولیس اور فوج کے لوگ اس کو بہتر طریقے سے پوری کر دیتے تھے۔ پرانی دلی میں سکھوں کے جتھے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے۔ چھپے ہوئے اور گھروں میں گھسے ہوئے خوفزدہ مسلمان بچنے کی امید میں نعرہ کا جواب دیتے تھے۔ سکھ اور جن سنگھی آواز کی سمت سے ان کو ڈھونڈ نکالتے تھے اور پھر زندہ درگور کر دیتے تھے۔ عورتوں کو نکال کر لے جاتے اور زندہ جلا دیتے تھے۔ عام اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی ہندو سکھ کسی مسلمان کو پناہ دے گا تو اس کو بھی یہی سزائیں دی جائیں گی۔ اس راجدھانی میں لاقانونیت کی حکومت تھی۔ مسلم لیگیوں کو چاروں طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔

ابھی کل تک وہ نعرہ لگا رہے تھے "ہنس کے لیا ہے پاکستان، لڑکے لیں گے ہندوستان"۔ مگر چند ہی لمحوں کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو روشنی کی ایک کرن بھی ان کے سامنے نہ تھی۔ ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ جس کے لئے انہوں نے اپنے ہموطنوں، پڑوسیوں اور صدیوں کے دکھ درد کے ساتھیوں سے منہ موڑا تھا اور دشمنی مول لے لی تھی وہ پاکستان اور وہ قائد اعظم ان کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں گے اور یہ پیغام دے جائیں گے کہ میں تو جا رہا ہوں تم لوگ ہندوستان کے دنا دار رہنا۔ اگر انھیں اتنی بربادیوں کے بعد بھی دنا دار ہی رہنا تھا تو پہلے ہی عزت و آبرو کے ساتھ دنا دار رہتے تو ان کا کچھ بھی تو نہ جاتا۔

"تقسیم کے بعد سب سے نازک پوزیشن مسلم لیگ کے ان لیڈروں کی ہوئی جو ہندوستان میں رہ گئے تھے۔ جناح پاکستان روانہ ہو گئے تھے اور مسلم لیگیوں اور ان کے لیڈروں کے لئے یہ پیغام چھوڑ گئے تھے کہ اب ہندوستان تقسیم ہو چکا ہے وہ لوگ ہندوستان کے دنا دار شہری بن کر رہیں۔ وہ بڑی نازک اور ناامیدی کی حالت میں تھے ان کی حالت تباہِ رحم تھی۔ ان میں سے بہت سے ۳۱ اگست کے بعد میرے پاس آئے اور کہا کہ جناح نے ہمیں دھوکا دیا اور بیچ دھارے میں لاکر چھوڑ دیا۔ ان کی باتوں سے میں سمجھا کہ ان لوگوں نے اپنے ذہن میں پاکستان کا ایسا نقشہ بنا رکھا تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ تو ظاہر تھا کہ اگر مسلم اکثریت کے صوبے الگ ہو جائیں گے تو لازمی طور پر مسلم اقلیت کے صوبے ہندوستان میں نہیں گئے مگر ان مسلم لیگیوں کو اس طرح بے وقوف بنایا گیا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد مسلمان چاہے جہاں رہیں گے انھیں الگ قوم سمجھ لیا جائے گا اور ان کو مکمل آزادی ہوگی کہ جیسے چاہیں اپنا استقبال بنائیں۔"

گاندھی جی دلی کی خبریں سن کر بے چین ہو گئے اور کلکتہ سے دلی کے لئے روانہ ہو گئے۔ مگر دلی ایشین پر اترنا ناممکن نہیں تو اتنا مشکل ضرور ہو گیا تھا کہ جو مسافر بھی وہاں پہنچا تھا اسے

موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہزاروں سکھ اور ہندو کرپائیں، تواریں اور ہتھیار سجائے ہوئے گھوم رہے تھے۔ کسی پر مسلمان ہونے کا شبہ بھی ہو جاتا تو چشم زدن میں اُسے خاک و خون میں نہلا دیا جاتا تھا۔ گاندھی جی کو ایک منزل پہلے شاہدرہ ریلوے اسٹیشن پر اتارا گیا، پھر بھی انھیں صورتِ حال کا اندازہ ہو کر ہی رہا۔ میلوں کی مسافت میں راستے کے دونوں طرف مسلمانوں کی لاشیں، اعضاء اور حلی ہونے پڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ اعلیٰ خاندانوں کے لوگ بڑی حیثیتوں کے رئیس اور صاحبِ حیثیت افراد بدن پر چھیڑے لگائے پناہ کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ گاندھی جی سے کئی جگہ فریادیوں نے دُہائی دی۔ حکومت تو کانگریس ہی کی تھی مگر کانگریس کی پوری طاقت دلہ بھائی پٹیل، پرشوتم داس ٹنڈن اور اس قسم کے افراد کے ہاتھوں میں تھی۔ "کانگریس میں ایک جماعت ایسے افراد کی بھی تھی جو اپنے کو ظاہر تو نیشنلسٹ ہی کرتے تھے مگر حقیقت میں پکے فرقہ پرست تھے۔ وہ لوگ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ کانگریس چاہے جو کہے مگر ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں!"

گاندھی جی نے کانگریس کے لیڈروں کو بلایا اور دلہ بھائی پٹیل سے پوچھا کہ تم اس قتل عام کو روکنے کے لئے کیا کر رہے ہو۔ پٹیل نے جواب دیا کہ آپ کو جو خبریں مل رہی ہیں وہ بہت مبالغہ آئینز ہیں۔ وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انھوں نے کہا کہ درحقیقت ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مسلمان اتنے خوفزدہ ہوں اور ایسی شکایتیں کریں۔"

دراصل پٹیل، احب گاندھی جی سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ جمیعہ علماء کے حضرات اکابر آپ کے سامنے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ مگر گاندھی جی نے انھیں جواب دیا کہ میں کہیں غیر ملک میں نہیں رہتا بلکہ دہلی ہی میں موجود ہوں اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اپنی ہی آنکھوں کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں۔ گاندھی جی نے بار بار کہا کہ پٹیل کا طرزِ عمل درست نہیں ہے اور ان کو فساد کو روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مگر پٹیل صاحب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔

”مجھے خوب یاد ہے کہ ہم تینوں (جو اہرلال، مولینا آزاد اور پٹیل) گماندہی جی کے پاس بیٹھے تھے جو اہرلال نے بڑی درد مندی سے شکایت کی کہ وہ دلی کی صورت حال کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں مسلمان شہری کتوں اور بلیوں کی طرح قتل کے جا رہے ہیں۔ وہ بھجور اور بے بس ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو پمانے کے لئے کچھ نہیں کر پارہے ہیں۔ ان کا ضمیر انھیں چین نہیں لینے دیتا کہ وہ تو تم کو اس بھیانک صورت حال کا کیا جواب دیں۔ انھوں نے بار بار اپنے دکھ درد کا اظہار کیا تو سردار پٹیل نے بڑی بے پردائی سے جواب دیا کہ جو اہرلال کی شکایت پورے طور پر غیر متقول ہے۔ کہیں کہیں آگا دکا واقعات ہو رہے ہیں مگر حکومت مسلمانوں کی جان و مال حفاظت کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کچھ زیادہ نہیں کیا جاسکتا۔“

کانگریسی لیڈروں میں ایک گروپ پٹیل ہی کے ساتھ تھا اور اس کو کسی طرح یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لئے کوئی انتظام کیا جائے۔ کانگریس کے پرانے لیڈر پٹیل اور راجندر پرشاد وغیرہ ہندو مہا بھاک کے لیڈر شیا پرشاد مگر جی کی قیادت میں کانگریسی نظریات کے مقابلے میں ہندو اکثریت کے مفادات کو پیش نظر رکھتے تھے وہ مسلمانوں کو پاکستان کے ہندوؤں کے بدلے میں یرغمال بنا کر رکھنا چاہتے تھے انھوں نے اس تجویز پر نہرو سے اختلاف کیا کہ مسلمانوں کے لئے کچھ محفوظ علاقے مخصوص کرنے جائیں۔ ”بدھان چند رائے اور پٹیل نے نہرو کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ پاکستان سے صحت صحت یہ کہہ دیا جائے کہ وہاں سے جتنے ہندو ہندوستان میں آئیں گے ہم اتنے ہی مسلمان پاکستان میں ڈھکیل دیں گے۔“

راجندر پرشاد بھی پٹیل کی طرح ایک معمولی درجے کے وکیل تھے۔ کانگریس میں دوسرے لیڈر بھی کانگریس میں آنے سے پہلے معمولی درجے کے لوگوں میں شمار ہوتے تھے مگر پھر بھی

ان میں بیشتر کی کچھ نہ کچھ حیثیت تو تھی ہی مگر ان دونوں کی تو ساری شخصیت از سر تا پا گاندھی جی ہی کی مرہون منت تھی، 'راجندر پرشاد اپنی دکالت میں مشغول تھے۔ ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ منظر الحق اور حسن امام وغیرہ کی موجودگی میں ان کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے۔ جب گاندھی جی بہار آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صوبے کی سیاست مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، میں نے قابل اعتماد ذرائع سے سنا کہ ڈاکٹر سپدانند سنہانے بڑے بڑے ہندوؤں کو گاندھی جی سے لایا ان لوگوں نے گاندھی جی سے کہا کہ اگر لیڈر شپ ایک ہندو کو دے دی جائے تو بہار کے ہندو آپ کی نان کو آپریشن تحریک میں شریک ہو جائیں گے۔ گاندھی جی نے جواب دیا کہ لیڈری تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو تختہ آدے دوں لیکن اگر کوئی قابل اور مخلص ہندو سامنے آئے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ اس پر راجندر پرشاد کا نام پیش کیا گیا اور چند ہی سالوں میں وہ گاندھی جی کی کوششوں سے آل انڈیا لیڈر بن گئے، یہی راجندر پرشاد نے دین قتل و خون کے وقت، اربسمبر کو لکھا کہ مسلمانوں کو بچانے کے لئے ملٹری لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے حکومت ہندوؤں میں غیر مقبول ہو جائے گی۔ شہزاد تھی ہندو اور سکھوں کی کیا شکایت کی جا سکتی تھی۔ یہاں تو حکومت، اس کے وزیر اور اعلیٰ ذمہ داران ہی مسلمانوں کو اکھاڑنے، بھگانے اور برباد کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، ان حالات میں مسلمانوں کی حفاظت کی طرف سے بالکل ہی مایوسی ہو گئی۔ پنڈت جواہر لال مولانا آزاد اور جمیعہ علماء نے یہ پروگرام بنایا کہ نوری طور پر کوئی پناہ گاہ اور رہائشی کیمپ مخصوص کر دیا جائے اور بعد میں مسلمانوں کو اپنے گھروں پر واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ پُرانا قلعہ اور بعض دوسری جگہیں پناہ گزینوں کے لئے کیمپ مقرر ہوئے۔ وہاں کھلے میدان، کھنڈرات اور کوڑوں کے ڈھیر ان لوگوں کی پناہ گاہیں بنیں۔ ان میں بچے، بوڑھے، مریض، عورتیں، زچائیں، حاملائیں، عورت مرد سبھی کجا تھے۔ دو ہی تین روز میں گندگی اور تعفن کا ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ اچھا بھلا آدمی چلا جائے تو بیمار ہو جائے۔ لوگ بیمار ہونے، سکھنے اور مرنے لگے۔

انہوں نے گڑگڑا کر درخواست کی کہ ہمیں ہمارے گھر نہیں بھیجا جاسکتا تو پاکستان ہی بیچ دیا جائے بہت سے ذمہ داران اسی انتظار میں تھے، فوراً اپنل ٹرینوں کا انتظام کیا گیا، لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ان میں ٹھونے گئے اور آدھے تپے راستے میں قتل سے بچ گئے، دہلی ٹیٹے زخمی گھائل پاکستان پہنچ گئے۔

گاندھی جی کی بے چینی لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوا تھا کہ لوگوں کو ان کی بات کی کوئی پروا نہیں رہ گئی تھی وہ بار بار ٹیل سے کہتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے دہلی کے مسلمانوں کی تباہی دیکھ رہا ہوں اور تم جو میرے اپنے آدمی ہو اور امن وامان کے ذمہ دار ہو، کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہو۔ ایک ایسے ہی موقع پر جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں پر حملوں کا کوئی جواز پیدا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ذمہ داروں کے سامنے انہوں نے یہ قصہ پیش کیا کہ مسلمانوں کے گھروں سے بڑے خطرناک ہتھیار برآمد ہوئے ہیں جو انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں پر حملے کے لئے جمع کئے تھے اگر ہندو اور سکھ ان پر غلہ نہ کر دیتے تو مسلمان انہیں تباہ کر دیتے۔ یہ ہتھیار یہاں برابر کے کمرے میں موجود ہیں، آپ لوگ چاہیں تو دیکھ لیں۔ ریلیف کمیٹی کے لوگوں نے ان ہتھیاروں کو دیکھا وہاں درجنوں سبزی کاٹنے کی باورچی خانے کی زنگ آلود چھریاں، قلم تراش چاقو، بغیر دستے کی معمولی چھریاں، پائپ کے پرانے ٹکڑے اور لوہے کی سلاخیں رکھی تھیں جن کو سردار ٹیل خطرناک ہتھیار بتلا رہے تھے۔

ایک تو یہ صورت حال تھی دوسرے گاندھی جی اس پر مصر تھے کہ پاکستان کا بچپن کر ڈر روپیہ اس کو بلاتا خیر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ روپیہ روکنا غلط ہے، بے ایمانی ہے، اخلاق کے خلاف ہے اور بین الاقوامی وعدہ خلافی ہے، جب بالکل ہی مایوسی ہو گئی تو انہوں نے اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا اور ۱۳ جنوری ۱۹۴۷ء کی صبح ۱۱ بجے یہ اعلان کر دیا کہ جب تک مسلمانوں کے جان و مال کی ضمانت نہیں ہوتی اور ہندوستان پاکستان کے بچپن کر ڈر روپیے ادا نہیں کرتا اور معاہدوں کی لفظ بہ لفظ پابندی نہیں کرتا اس وقت تک میں برت نہیں کھولوں گا۔ یا

حالات ٹھیک ہوں گے یا میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس خبر پر آریس ایس کے لاکھوں ممبر غصے سے بے قابو ہو گئے۔ پونہ میں ایک اخبار ہندو راشٹرا کے ایڈیٹر ناتھورام گوڈ سے نے اپنی تقریر میں کہا گاندھی جی نے یقین دلایا تھا کہ ملک کے بٹوارے سے پہلے میرے جسم کا بھی بٹوارہ ہوگا۔ ملک کا بٹوارہ ہو گیا۔ گاندھی جی کا جسم صحیح سلامت ہے۔ ہندو شرنارتھی بھو کے مر رہے ہیں گاندھی جی کو مسلمانوں کی خدمت سے فرصت نہیں ہے۔ گاندھی کی اہنسانے ہندوؤں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دئے ہیں۔ گدھ ہماری مادر وطن کا گوشت نوح رہے ہیں۔ سرعام ہندو عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور کانگریس کے ایجنٹس آنکھ کھول کر دیکھتے بھی نہیں۔ مادر وطن کب تک یہ ظلم برداشت کرے گی!

یہ نوجوان آریس ایس کے لیڈر ویرساور کر کا پیر دتھا اور اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی جس کا مقصد مسلمانوں کو تباہ کرنا اور ہندو قومیت کو ترقی دینا تھا۔ اس کے گروپ میں مدن لال یاہوا، ڈگمبر بگڑے، نارائن آپٹے وغیرہ شامل تھے۔ گاندھی جی نے مسلمانوں کو بچانے اور پاکستان کی رقم کی ادائیگی کے لئے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تو ان لوگوں کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ گوڈ سے نے آپٹے سے کہا "مسلمان قاتلوں اور عزت لوٹنے والوں کو ان کی رقم بلا شرط اور بغیر تاخیر دے دی جائے۔ اس کے لئے یہ بڈھا اپنی جان داؤ پر لگا رہا ہے یہ خالص بلیک میلنگ ہے۔ حیدرآباد میں چھاپے مارنے سے پہلے اور جناح کو مارنے سے پہلے اب ہمیں گاندھی کو ختم کرنا ہوگا۔ اپنی تمام طاقت اور اپنے تمام وسائل و اسباب ہمیں اب اس مقصد میں لگا دینے ہیں!"

گاندھی جی کے برسے یکایک پورے ملک کی آنکھیں کھول دیں۔ سیدھے سادے عوام تو پہلے بھی اس ہتیا چار میں دل سے شریک نہیں تھے مگر جیسے جیسے گاندھی جی کی حالت کمزور ہوتی گئی ویسے ہی ویسے وہ لوگ بھی جو ملک کی تقسیم اور شرنارتھیوں کی تباہی و بربادی کی وجہ سے فسادیلوں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے پیچھے ہٹنے لگے۔ خود شرنارتھیوں کے گروپ اور جتنے

کانگریس کے لیڈروں سے ملنے لگے کہ ہم سے جو چاہو وعدہ لے لو مگر گاندھی جی کی جان بچا لو۔ ہجرت کی بات یہ تھی کہ سب سے زیادہ ہمدردی پاکستان نے ظاہر کی۔ لاہور سے تار کے ذریعہ گاندھی جی کو اطلاع دی گئی کہ یہاں ہر آدمی کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ گاندھی جی کی زندگی کیسے بچائی جائے۔ پاکستان کی ساری مسجدوں میں گاندھی جی کی زندگی کیلئے دعائیں کی جا رہی ہیں۔

برت کے تیسرے دن پنڈت جواہر لال نہرو نے لال قلعہ کے میدان میں لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں اس کی اپیل کی۔ گاندھی جی کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر ہم نے گاندھی جی کو کھو دیا تو ہم ہندوستان کی روح سے محروم ہو جائیں گے۔ جس نے نعرہ لگایا گاندھی جی امر رہیں۔ مہاتما گاندھی کی جے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا لوگوں کا سیلاب گاندھی جی سے ملنے کے لئے براہوں کی سمت بڑھ رہا تھا۔ مگر اسی ہندوستان میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو ہر حالت میں مسلمانوں کو تباہ دہرا د کرنے پر تلا ہوا تھا اور انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے مجرم گاندھی جی کو کسی حالت میں معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ "ہندوستان میں بہت لوگ ایسے تھے جن کو گاندھی جی سے ایسی نفرت تھی جتنی سادو کر کو تھی۔ اس سے ملنے کے لئے سادو کر سدن میں وہ لوگ آئے جن کی زبردست خواہش تھی کہ گاندھی جی مرجائیں اور وہی نہیں بلکہ ان سے پہلے دو افراد اور بھی وہاں آپکے تھے۔ ناتھو رام گوڈے نارائن آپٹے اور ڈیگبرگرٹے سے پہلے دشمن کر کے نے دن لال پاپوا کو دیر سادو کر کے سامنے پیش کیا۔ یہ پنجابی نوجوان ہمارا بہت حوصلہ مند کارکن ہے، اس ملاقات کے بعد ڈیگبرگرٹے ہندو مہا سبھا کے عام مہمان خانے میں رات گزارنے چلا گیا۔"

گاندھی جی کے برت پر سب سے زیادہ غصہ دلجھ بھائی ٹیل کو آیا۔ اس سے پہلے تک کوئی ایسی رکاوٹ نہیں پیش آئی تھی جو مسلمانوں کے قتل و بربادی کے راستے میں روڑبان کے گورنمنٹ کے سامنے ہندوؤں، سکھوں اور شرناتھیوں نیز پولیس اور فوج کے منظم کی جو

بھی شکایت پیش کی جاتی تھی ان کو آسانی کے ساتھ ٹالا جاسکتا تھا۔ " نہ صرف یہ کہ پٹیل مسلمانوں کی حفاظت میں ناکام رہے تھے بلکہ ان کے سامنے مظالم کی جو داستان پیش کی جاتی تھی ان کو وہ بڑی بے پردائی کے ساتھ ٹال جاتے تھے۔"

فوج پولیس اور گورنمنٹ کی بیورو کریسی کانگریس کے ہاتھ میں اور کانگریس بھائی پٹیل اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں تھی۔ مگر گاندھی جی کے برت سے سارا کھیل ہی بگڑا جا رہا تھا۔

"ایک طریقے سے یہ برت پٹیل کے طرز عمل کے خلاف ہو رہا تھا اور پٹیل اس کو جانتے تھے۔ برت کے پہلے دن میں (مولانا آزاد، جواہر لال اور پٹیل گاندھی جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دو سہ دن پٹیل بے بسی جانے کے لئے تیار تھے اور گاندھی جی سے رسمی طور پر بات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے شکایت کی کہ وہ بلاوجہ برت رکھ رہے ہیں اور اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ ان کے اس برت سے سردار پٹیل کے خلاف الزام کا راستہ ہموار ہوگا۔ انہوں نے تلخ کلامی کے ساتھ کہا کہ گاندھی جی کے رویے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پٹیل ہی مسلمانوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ اس پر گاندھی جی نے اپنے مخصوص پرسکون اور ٹھنڈے لہجے میں کہا میں چین میں نہیں بلکہ دہلی ہی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے کان اور آنکھیں ابھی سلامت ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ سن رہا ہوں اس پر اعتبار نہ کر دوں۔ اور مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی شکایت کی کوئی وجہ نہیں ہے تو نہ میں آپ کو قائل کر سکتا ہوں نہ آپ مجھے۔ ہندو اور سکھ میرے بھائی ہیں، وہ میرے گوشت پوست ہیں اور میں ان کا۔ اگر وہ غصے میں اندھے ہو گئے ہیں تو میں ان کو کوئی الزام نہیں دیتا۔ مگر خود اپنی جان دے کر اس کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ میرا کفارہ سچائی کو پہچاننے کے لئے ان کی آنکھیں کھول دے گا۔ اس پر

پٹیل جھٹلا کر گاندھی جی سے سختی اور درشتگی کے ساتھ بات کرنے لگے۔ گاندھی جی کے ساتھ ان کے اس برادر پر جواہر لال کو اور مجھے بہت صدمہ ہوا اور ہم خاموش نہ رہ سکے۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے ان سے کہا دلچہ بھائی! شاید تمہیں اندازہ نہ ہو لیکن ہمیں یہ بات بہت سختی سے محسوس ہو رہی ہے کہ تمہارا طرز کلام کس قدر توہین آمیز ہے اور تم نے گاندھی جی کو کس قدر تکلیف پہنچائی ہے۔ پٹیل ایک لفظ کہے بغیر اٹھ کر جانے لگے۔ میں نے ان کو روکا اور کہا تم اپنا پروگرام ملتوی کر دو۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ اس لئے جب تک گاندھی جی کا برت جاری ہے تم دلی سے نہ جاؤ۔ پٹیل نے چیخ کر جواب دیا میرے پھرنے سے کیا فائدہ؟ گاندھی جی میری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ انھوں نے طے کر لیا ہے کہ ساری دنیا میں ہندوؤں کا منہ کالا کر کے رہیں گے۔ ان کے اس رویے کے ساتھ میرا کنبے کا رہنا ہے، میں اپنا پروگرام نہیں بدل سکتا اور بھئی ضرور جاؤں گا!

بہر حال ہندوستان انہی لوگوں کا نام تو تھا نہیں۔ اور نہ گاندھی جی کی شخصیت اتنی غیر اہم اور سستی تھی کہ دو چار دس بیس آدمیوں کی بنیاد پر پورا ملک ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لیتا۔ منٹ منٹ پر ان کی صحت کے بارے میں بلیٹین شائع ہو رہے تھے اور گھنٹے گھنٹے پر آل انڈیا ریڈیو انھیں اناؤنس کر رہا تھا۔ گاؤں گاؤں اور بستی بستی گاندھی جی کی جان بچاؤ کمیٹیاں قائم ہو رہی تھیں۔ ڈاک خانوں میں لفافوں، کارڈوں اور مراسلات پر مہر لگ رہی تھیں "فرقہ وارانہ امن قائم رکھیں، گاندھی جی کی جان بچائیں"۔ جگہ جگہ پر ارتھنا بھنائیں منعقد ہو رہی تھیں اور اس میں ان کی زندگی کے لئے دعائیں ہو رہی تھیں۔ مسجدوں میں دعائیں کی جا رہی تھیں۔ پورا ملک پیار محبت صلح و دوستی کی آواز پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، اُچرے ہوئے، شرنار تھی، بیوائیں، یتیم برلا ہاؤس کی طرف چل رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے "ہم بھی برت رکھیں گے، ہم بھی باپو کے ساتھ مریں گے"۔ آل انڈیا ریڈیو نے آخری بلیٹین شائع کیا "ہم ملک کو

بتا دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آخری حد آگئی ہے جس کے بعد اگر برت جاری رہا تو وہ کسی ٹپے ایلیے کی طرف جائے گا۔“

شام کو گاندھی جی کے سکرٹری پیارے لال نے اُن سے کہا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے آپ کی شرطوں کو مان لیا ہے اور منظوری پر دستخط کر دئے ہیں۔ سب لوگ امن و امان کا وعدہ اور عہد کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے پھر پوچھا، کیا ساری ہی جماعتوں نے دستخط کر دئے ہیں، کوئی جماعت رہ تو نہیں گئی ہے؟ پیارے لال نے جواب دیا، ”دو جماعتیں ہندو ہا بسھا اور آریس ایس رہ گئی ہیں۔ وہ یقین دلاتی ہیں کہ کل تک دستخط کر دیں گی۔ اب آپ برت توڑ دیجیے“ نہیں! ہرگز نہیں!“ گاندھی جی نے جواب دیا، ”مجھے جلد بازی میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ میں اس وقت تک برت نہیں توڑوں گا جب تک سب سے زیادہ سخت دل والے بھی نرم نہ ہوجائیں“ فوراً ہندو ہا بسھا اور آریس ایس والے بلائے گئے۔ گاندھی جی اپنی درسی پر بے ہوش پڑے تھے۔ بڑی مشکل سے ان کو ہوش میں لایا گیا۔ ان کے چاروں طرف ہندوستان کے وزیر، پاکستان کے ہانی کشر زابدین، اخباروں کے نمائندے، ہندوستان کے ہر قسم کے لیڈر جمع تھے۔ صرف ایک دلچہ بھائی پٹیل غیر حاضر تھے۔ پیارے لال نے اُن سے کہا سب جماعتوں کے دستخط ہو گئے ہیں۔ گاندھی جی نے کچھ کہا جو کسی کو سنا ہی نہیں دیا۔ ان کی پوتی سنو نے اپنا کان اُن کے منہ سے لگا دیا۔ وہ کہہ رہے تھے میں صرف دلی کے امن و امان سے مطمئن نہیں ہوں گا۔ میں یہ ضمانت چاہتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں سکھ، شانتی، بھائی چارہ اور رواداری ہو۔ ایک ایک کر کے سارے لیڈروں نے گھٹنے ٹیک کر عہد کیا کہ وہ سارے ہندوستان میں امن چہن رکھیں گے۔ گاندھی جی نے کہا اب میں برت توڑنے کے لئے تیار ہوں۔ ایشور کی مرضی پوری ہی ہونی چاہیے۔ آئیے سب مل کر ایشور سے امن، سلامتی اور پریم و آشتی کے لئے پرا رتھن کریں۔ قرآن پاک کی آیتیں، گیتا کے اشلوک اور بائبل کے کلمات پڑھے گئے۔ مولینا آزاد نے جذبات سے بھر پور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سنترے کے رس کا گلاس گاندھی جی کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اور برت ختم ہوا۔ ایک اہم تاریخی واقعہ ذہن میں محفوظ کر لیجیے۔ برت کھولنے سے پہلے جب ساری ہی باتیں پوری ہو گئیں تو سب سے آخر میں گاندھی جی نے کہا کہ جیتے علماء کے مولینا صاحبان کہاں

ہیں۔ جیتے کے ارکان مولانا حفیظ الرحمن، مولانا احمد سعید اور دوسرے بہت سے، جنہوں نے روزانہ گاندھی جی کو پل پل کی رپورٹ دی تھی اور دلی کے قتل عام کے سارے ہی مناظر ان کو اپنی آنکھوں سے دکھائے تھے، آگے آئے۔ گاندھی جی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مصلحتیں ہیں اور برت ان کے اطمینان دلانے کے بعد ہی کھولا۔ اب تمام ملک میں امن و چین کی بارش ہو گئی، مسرت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پاکستان کو اس کے حصے کے بچپن کو ڈر روپے اور بقیہ سامان مل گیا، مرتے ہوئے لوگ جی گئے اور گرے ہوئے انسان اٹھ پڑے۔ ڈرے بسے عوام مصلحتیں ہو گئے۔ پورے ملک میں امن و آشتی اور بھائی چارے کی نفاذ پھیل گئی۔ گاندھی جی نے سب کو دکھایا۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ اس امن و انسانیت کے واپس آ جانے سے ان کی امیدوں پر پانی پڑ گیا۔

• پیل خوش نہیں تھے، ان کا بڑا دکھ گاندھی جی کے ساتھ بہت خشک اور

فائل تھا، وہ گاندھی جی کے اس اقدام سے جس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں میں امن کا احساس پیدا کر دیا تھا، پسند نہیں کرتے تھے۔ اس ذہنیت میں پیشیل اکیلے ہی نہیں تھے۔ ہندوؤں کی ایک جماعت اس وقت سے گاندھی جی کے خلاف ہو گئی تھی جب پوز سے رہائی کے بعد انہوں نے جناح سے بات چیت کی تھی۔ ہندو مہا سبھا اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے زیر اثر ہندوؤں کی ایک جماعت صاف کہتی تھی کہ گاندھی جی ہندوؤں کی مخالفت میں مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے گاندھی جی کی پرا تھنا سبھا کی مخالفت کے لئے بھی ایک منظم گروپ تیار کیا تھا اور کہتے تھے کہ پرا تھنا سبھا میں ہم قرآن اور بائبل نہیں پڑھتے دیں گے۔

• برت کے بعد جب گاندھی جی میں کسی قدر طاقت آگئی اور وہ اپنی سبھا میں آنے لگے تو ایک دن گاندھی جی کو گولی مارنے کے ارادے سے ڈاکٹر بگڑے سبھا میں شریک ہو گیا مگر

عین وقت پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اُدھر اسکیم کے مطابق پنجابی شرمار تھی مدن لال پاہوا نے ہم کے فیلتے میں آگ لگادی۔ دوسری طرف ناتھورام گوڈ سے کا اشارہ پا کر گوبال گوڈ سے نے اپنا دستی بم بھی پھینک دیا۔ اچانک دھماکے سے لوگوں میں بھگدڑ پھیل گئی اور جھج و پکار کی آوازیں فضا میں گونج گئیں۔ ایک عورت نے مدن لال کو فلیٹہ جلاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس نے اسے پکڑوایا۔ پولیس نے تحقیق کی تو اس نے ساری تفصیل، سازش کا نقشہ، گوڈ سے کے اخبار کا نام سادر کر مدن میں قیام اور میٹنگ وغیرہ سب کچھ بتلادیا۔ مگر ناتھورام اور دوسرے ساتھیوں کے نام نہیں بتلائے یا شاید پولیس اور سی آئی ڈی نے ان کے نام جاننے نہیں چاہے۔ دلی کے سی آئی ڈی انسپکٹر ڈی جے سنچوا اس قسم کی تحقیقات اپنے اسٹنٹ مسٹر مہرا پر چھوڑ دیا کرتے تھے مگر اس بم کیس اور مدن لال پاہوا سے تفتیش کے معاملے کو انھوں نے خاص طور پر اپنے ہاتھ میں لیا اور مہرا کو فون کیا کہ مدن لال کے معاملے میں آپ پریشان نہ ہوں، یہ کیس میں خود دیکھ لوں گا۔ چنانچہ دلی سی آئی ڈی اور پولیس اس معاملے میں پریشان نہیں ہوئے۔ انھوں نے جتنی باتیں جان لی تھیں ان سے وہ ناتھورام گوڈ سے اور نارائن آپٹے تک پہنچ سکتے تھے اس کے باوجود پولیس نے جس طرح کام کیا اسے جان کر تیس سال گزرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جو ہوا وہ کیسے ہوا۔

مدن لال سے دوبارہ تحقیقات ہوئی۔ اس بار اس نے کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ صاف صاف بتا دیا مگر جس وقت سے ڈی جے سنچوا نے کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا اس وقت سے پولیس کی کارروائی میں اتنی ڈھیل ہو گئی تھی جو کسی حالت میں قابل ممانی نہیں ہو سکتی۔ مدن کے بیان سے یقینی طور پر سارے آدمیوں کی شناخت ہو سکتی تھی۔ غضب یہ کہ انھوں نے پونہ پولیس کو بھی فون نہیں کیا: 'ڈی آئی جی آت سی آئی ڈی پونہ کی فائلوں میں گوڈ سے، آپٹے اور کر کے کے بارے میں ساری معلومات اور ان کے نوٹ موجود تھے مگر سنچوا اور رانا نے ایسی سرد مہری دکھائی جیسے وہ معاملے کو پوری سست رفتاری سے آگے بڑھانا

چاہتے تھے۔ وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بمبئی کے تھانہ ایشیئن پر دو چار دن غیبہ طور پر ملے۔ ناٹھورام گوڈ سے نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا گاندھی کو گولی میں اڑوں گا۔ ایک شخص کو تو قربانی دینی ہی پڑے گی۔ اس دن کے بعد گوڈ سے اور آپٹے ہوائی جہاز سے گاندھی جی کو قتل کرنے کے لئے روانہ ہو رہے تھے۔ ۳۱ جنوری ۱۹۴۸ء کو شب کو جب گاندھی پر اڑتھنا بھا میں پہنچے تو ناٹھورام نے اپنے بیٹوں کی تین گولیاں اُن کے بیمار، کمزور اور لرزتے ہوئے جسم میں آتادیں۔ گاندھی جی نے ہاتھ جوڑ کر اُسے نسا کر کیا اور رام رام کرتے ہوئے بے جان ہو کر گر پڑے۔ جس دن اُن پر بم پھینکا گیا تھا اسی دن ماؤنٹ بیٹن اور اُن کی بیوی نے پُنج جانے پر مبارکباد دی تھی۔ گاندھی جی نے کہا مبارک باد؛ کس چیز کی مبارک باد بھ میں نے کون سا بڑا کام کیا ہے؛ مبارک باد کے قابل تو میں اُس دن ہوں گا جس دن قابل مجھے گولی کا نشانہ بنا دے اور میں اسے نسا کر کے دعا دیتا ہوں اور اُسے معاف کر دوں، آج انھوں نے یہی کر کے دکھایا۔ اور آج اُن کی روح دنیا کی سب سے بڑی مبارک باد کی مستحق ہے۔ دو ہی چار روز کے بعد گاندھی جی دلی سے پاکستان تک اور پھر پورے پاکستان کی امن اور بھائی چارہ کا پیغام دینے کے واسطے بیدل یا ترا کے لئے روانہ ہو رہے تھے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور جناح صاحب نے انھیں پاکستان آنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔

اس پورے افسانے میں ظلم و فسادات کی داستانوں میں جہاں ایک ایک لفظ دل ہلا دیتا ہے اور کلیجے کو دہلا دیتا ہے وہیں ایک حقیقت اور بڑی حقیقت اُمیدوں کی شمع بھی روشن کر رہی ہے اور گھور اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن بھی جھللا رہی ہے۔ اُن تمام قاتلوں میں، دزدوں میں، بھٹیروں اور راکھشوں میں جنہوں نے انسانیت کو قدموں تلے روندنا ظلم اور بربریت کی تاریخ بنائی اور انسان کشی کا ریکارڈ قائم کیا، ایسے انسان بھی نظر آئے ہیں جنہوں نے ہندو جو کہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی اور مسلمان ہوتے ہوئے اپنے سر تھیلی پر رکھے اور ہندوؤں کی جان بچائی۔ صحیح تعداد معلوم کی جائے تو یہ آجلا نظر آئے گا کہ ملک میں ناٹھوراموں، سادروں، مدن لالوں وغیرہ کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی نہروؤں، سنڈر لالوں، سی آر داسوں، بھولا بھائی ڈیساہوں

دیگرہ وغیرہ کی ہے۔ گاندھی جی کا قتل لاکھ دل شکن اور روح فرساہی مگر عیسیٰ مسیح تو صلیب ہی پر چڑھے ہوئے سجتے ہیں اور انسانیت کا رنگ حسین کے خون ہی سے نکھرتا ہے اس غمناک موقع پر ہزاروں مرثیے لکھے گئے اور نظیوں تصنیف کی گئیں۔ ان سب میں علامہ اقبال ہسپل کی نظم اپنے تاثر اور فن کے اعتبار سے نہایت ممتاز اور منفرد ہے۔ جی چاہتا ہے کہ قارئین کی ضیافتِ طبع کے لئے یہ تاریخی فن پارہ بھی پیش کر دیا جائے۔

وہ حدیثِ روح پیام جاں جسے سن کے ہم نے بھلا دیا
 وہ حیرتِ غیب کا ارمغان جسے پا کے ہم نے گنوا دیا
 وہ نیمیدہ قد خم ماہِ خودہ نظر فریبِ خاک سی ضو
 وہ نگاہِ برقِ عمل کی لو جسے حسرتوں نے بھجا دیا
 اُسے اتباعِ مسیح نے وہ عجیبِ دشتِ شفا دیا
 جو گرے تھے اُن کو اٹھا دیا جو مرے تھے اُن کو جلا دیا
 وہ کتابِ صلح کا سرورق کہ مٹائی کش مکشِ فریق
 وہ قبتیلِ خنجرِ صبر و حق کہ وطن پر خود کو مٹا دیا
 وہ بدھ و کرشن کا جاں نشیں ہم تنِ عمل ہم تنِ یقین
 وہ تبتسم سحرِ آفریں کہ چین لبوں سے بھلا دیا
 وہ بزمِ آئینہ صافِ دل وہ فردغِ فطرتِ آبِ و گل
 کہ جہادِ نفس نے متصل اُسے اور حُسنِ جہلا دیا
 وہ جلالِ شیروہِ سادگی وہ جمالِ صورتِ زندگی
 وہ زلالِ چشمہِ آگہی کہ زمانے بھر کو جگا دیا
 تری شان کون گھٹا سکے اُسے خود خدا نے بڑھا دیا
 کہ تجھے بقتائے دوام دی تجھے منصبِ شہدِ ادا دیا
 جو اٹھا تھا شعلاً شور و شر اُسے اپنے خوں سے بھجا دیا
 جو پڑا تھا پردہ نگاہوں پر اُسے آپ اٹھ کے اٹھا دیا

تری غامشی وہ زبان تھی کہ دلوں کو جوشس نوا دیا
 تن فاتہ کش میں وہ جان تھی کہ حصار کبر ہٹا دیا
 وطن عزیز کو شان دی اسے قیدِ غم سے چھڑا دیا
 رہ اتھا دین جان دی، جو کہا وہ کر کے دکھا دیا
 یہ عرِ دسِ کشور ہند تھی ہمہ بے کسی ہمہ بے دل
 اُسے تو نے غازہ خرمی ترے خون نے رنگِ خدا دیا
 تجھے مسجدوں نے صدائیں دیں کہ ترے کرم سے امان ملی
 تجھے مندروں نے دعائیں دیں کہ تباہیوں سے بچا دیا
 یہ کمال پیرِ دیّٰ علی یہ فرارِ خوسنگی تری
 کہ خود اپنے دشمن جاں کو بھی وہی ارمان دُعا دیا
 تجھے بے کسی نے پناہ دی تجھے مشکلات نے راہ دی
 تجھے بجیلیوں نے پناہ دی تجھے تلپیوں نے مزا دیا
 یہی دھرم ہے یہی اصل دین کہ جو قولِ سچ تو عمل میں
 حق و اہل حق پر رہے یقین یہ پیامِ سب کو سنا دیا
 ہمہ روشنی تری ذات تھی ہمہ سوز تیری حیات تھی
 تری روح شمع تھی گل ہوئی ترے تن کو پھول بنا دیا
 ترافیعِ دہر میں عام ہو یہ غبارِ اٹھ کے غمام ہو
 تری خاک تیرا پیام ہو یہ سمجھ کے اس کو بہا دیا

تاریخی اور لافانی کردار

اس حقیقت سے پردہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا کہ اس بٹوارے کے مظالم میں کتنے معصوموں کی جانیں تباہ ہوئیں۔ اتنی بڑی ہجرت کے نتیجے میں ان اعداد و شمار کے سارے ذرائع ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ دس لاکھ انسان قتل کئے گئے۔ مگر جن لوگوں نے صحیح اعداد و شمار حاصل کرنے کی امکانی کوشش کی ہے ان میں سے کسی نے اتنی بڑی تعداد کا نام نہیں لیا۔ جی ڈی کھ سلہ چار سے پانچ لاکھ قتل بتلاتے ہیں۔ ائن اسٹیفن کے نزدیک پانچ لاکھ انسان مارے گئے ہیں، ہینری ٹریولین صرف دو لاکھ پچاس ہزار مقتول بتلاتے ہیں۔ پنجاب کے پہلے گورنر چندو لال تریویدی دو لاکھ پچاس ہزار انسانوں کا قتل شمار کرتے ہیں۔ ان سب اعداد و شمار میں غالباً سب سے زیادہ قابل اعتماد تعداد پنڈرل لون نے بتلائی ہے جو دو لاکھ ہے۔ ایک تخمینہ یہ بھی ہے کہ پانچ لاکھ انسان مارے گئے اور ایک کروڑ افسراد بے گھر بے در اور بے آسرا ہو گئے۔ یہ قتل و غارت گری تو فقط افتتاحی تقریب کے وقت کی ہے۔ اس کے بعد سے آج پینتالیس برس تک ہندو مسلمان، بنگالی، پنجابی، سندھی، مہاجر، پٹھان اور بہاری وغیرہ وغیرہ کے نام سے جو خونخواری اور درندگی جاری ہے اس کے اعداد و شمار بھی جمع کر لئے جائیں تو دو چار لاکھ کی تعداد اس خانے میں بھی آئے گی۔ کم و بیش ایک ملین آدمیوں کے خون اور جان کی تباہی اسی فرقہ پرستی، نفرت اور عداوت کا نتیجہ تھی جس کی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کی تھی۔ اب حضرت کم و بیش پچھتر برس کے ہو گئے تھے، اس کے ساتھ ہی ابتدائے عمر سے لے کر آج تک کی سلسل اور انتھک جدوجہد نے جم و جان کو پارہ پارہ اور ٹٹیوں کو پگھلا دیا تھا۔ گذشتہ دس سال سے ملک اور ملت کی بے راہ روی اور تقسیم کے ساتھ انسانیت

کی قتل گاہ نے بالکل ہی خستہ و شکستہ کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ حیات مستعار کے دن بھی بس گئے تھے ہی رہ گئے تھے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اٹھ کر دم لینے اور کہیں بیٹھ کر سانس لینے کا شدید اور طبعی تقاضہ قدم قدم پر راستہ روکتا تھا۔ مگر اچانک ظلم اور دہشت کا یہ حملہ ہوا تو ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر جوان عزم و ہمت کے ساتھ حضرت نے ایک نئی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ ہندوستانی مسلمان اس وقت موت و ذریت کی کش مکش میں مبتلا تھے۔ سہارے ٹوٹ چکے تھے اور بھروسے و غادے گئے تھے۔ گورنمنٹ میں جہاں کچھ لوگ ان کی پشت پناہی کے حق میں تھے وہیں بہت سے ان کو فنا کرنے کی تدبیریں بھی سوچ رہے تھے۔ مشہور ناہقیوں اور غمخیزوں کا ریلوایا پنجاب سے طوفان کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ آریس ایس اور جن سنگھ کے جتھے اس کے استقبال کے لئے اور شعلوں کو ہوادینے کے لئے قدم قدم پر تیار بیٹھے تھے۔ سہارن پور پنجاب کی طرف سے صوبہ یوپی کا پہلا ضلع تھا۔ یہاں اسٹیشن سے لے کر شہر تک چبے چبے پر لٹے اور جذبہ انتقام سے بھرپور شہر تیار تھی بھرے پڑے تھے۔ ماحول بالکل تیار تھا کہ یہاں بھی مشرقی پنجاب کا تجربہ دہرایا جائے۔ یہاں اگر مسلمان اڑ جاتے تو پورے صوبے میں ان کے قدم اکھڑ جاتے۔ ٹھیک یہی پوزیشن دلی کی بھی تھی۔ یہاں مسلمانوں کے تھے رہنے کا مطلب پورے ہندوستان میں ان کی بقا اور شہادت قدمی تھی۔ اگر دہاں سے مسلمان اکھڑ جاتے تو پھر پورے ملک میں انہیں پناہ نہ ملتی اور یہی مخالفین کا پروگرام تھا۔ ایسے نازک وقت میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت عملی اور عزم و جواں نے ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو جوصلہ دیا اور دلوں کو عزت نفس اور شوق شہادت سے معمور کر دیا۔ سراسیمہ دحیران مسلمانوں نے اپنے وطن میں ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ جو ہجرت کے لئے تیار تھے انہوں نے بستر کھول دئے، جو لوگ سوار یوں کا انتظار کر رہے تھے وہ گھروں کو لوٹ آئے اور پورے عزم و ارادے کے ساتھ ہر ہر شہر میں۔ دلی اور سہارن پور میں اہم مقامات اور محلوں کے ناکوں پر دیوار بن کر ڈٹ گئے۔

آمدورفت کے وسائل معدوم تھے، راستے مسدود تھے، قدم قدم پر حملوں اور غارتگری کے خطرات تھے، مگر ہر رکاوٹ کو نظر انداز کر کے اسی آگ کی بارش سے گزر کر حضرت دیوبند

سے دئی پہنچے۔ پنڈت جواہر لال اور گاندھی جی نے اس پر نہایت اندیشے اور قلق کا اظہار کیا کہ ایسے حالات میں آپ بلا کسی حفاظتی انتظام کے تشریف لائے۔ آئندہ کے لئے براہ کرم جب بھی سفر کرنا ہو تو اطلاع کرا دیں تاکہ سرکاری فوجی ٹرک لانے اور پھر واپس پہنچانے کے لئے پہنچ جایا کرے۔“

حضرتؒ نے حجیۃ علماء کے بچے کچھے ساتھیوں اور رہنماؤں، مولینا حفظ الرحمن، مولینا احمد سعید، مولینا ابوالکلام آزاد، مولینا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولینا محمد میاں صاحب رحمہم اللہ کو جمع کیا اور اپنی نئی جدوجہد اور نیا پروگرام ان کے سامنے رکھا۔ اور اس طرح پوری جماعت اپنی جان ہتھیلیوں پر لئے ہوئے اللہ پر بھروسہ کر کے ایک نئے سفر پر گامزن ہو گئی۔ عام حالات میں حضرتؒ کے مزاج میں اس قدر تواضع اور فروتنی تھی کہ بہت سے خدام، مریدین، مترشدین اور تلامذہ حضرت کے اس مزاج اور برتاؤ سے ناجائز فائدہ اٹھالیتے تھے اور عجب نفس نیز بر خود غلط فہمی میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ مگر کبھی کبھی مخصوص حالات میں یہ تواضع اور منکسر مزاجی اسی درجے کے وقار، رعب اور دبدر میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ تقسیم کے بعد غیر منصفانہ رویوں پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت کا یہی معمول ہو گیا تھا۔ جو بات کرتے دلائل و شواہد کے ساتھ اور جو اقدام کرتے تھے فیصلہ کن انداز میں کرتے تھے۔ سہارن پور اور دلی کے بارے میں پنڈت جواہر لال اور پنڈت گوندو لہجہ پنٹ وزیر اعلیٰ یوپی سے حضرت نے اسی فیصلہ کن انداز میں فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت چاہے اور مسلمانوں کی حفاظت کا اور امن و امان کا انتظام نہ ہو اگر آپ لوگ کوئی انتظام نہیں کر سکتے تو مجھ سے صاف صاف کہہ دیجئے۔ میں ان کی حفاظت اور زندگی کے انتظامات خود کر لوں گا۔

”۱۹۴۷ء کے فسادات کے دوران آپ نے پنڈت پنٹ وزیر اعلیٰ یوپی سے

سخت غضب ناک لہجے میں باز پرس کی۔ انھوں نے کہا کہ آپ کہیں تو دارالعلوم کی حفاظت کے لئے فوج بھیج دی جائے۔ اس پر حضرت مدنی نے سخت فحشے میں فرمایا کہ دارالعلوم تو

خدا کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ سہارن پور کی خبر لیجئے۔ اگر آپ مسلمانوں کا تحفظ کرنے کے بارے میں مذہب ہیں یا اس میں ناکامی کا شبہ ہے تو مجھے اجازت دیجئے، میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنا تحفظ خود کریں:

انہام و تفہیم، انتظار و برداشت اور اتہام و بخت کے بعد جب حضرت اس درجہ پر پہنچ جاتے تھے تو اس کا نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے بلا کسی تاخیر کے سہارن پور کے کلکٹر کا تبادلہ کیا اور معلوم نہیں کہاں سے ایک کلکٹر رامیشور دیال کو فون کر کے بلایا کہ وہ سہارن پور کا چارج لے۔ رامیشور دیال دیکھنے میں بالکل حامی سمولی اور گاؤں کا کسان معلوم ہوا تھا۔ ٹخنوں کو چھوتی ہوئی دھوتی، سفید کھدر کا لمبا کوٹ، سر پر پگڑی اور پاؤں میں ہندوستانی جوتے، یہ اس کا حلیہ تھا۔ اُس نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ سہارن پور کا انتظام معمولی بات نہیں ہے۔ وہاں ساٹھ ہزار خانماں برباد شرناز تھی پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے دل و دماغ اور جسم زخموں اور صدمات سے چور ہیں۔ ایسے میں موقع پرستوں کی بن آئی ہے۔ وہ جھوٹ اور سچ اتہامات لگا کر اقصیٰ گڑھ کر اور افسانے بنا کر شرناز تھیوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور حکومت سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر آپ مجھے بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو میں ایک بات کا اطمینان چاہتا ہوں۔ میرے کاموں میں اور اقدامات میں دخل نہ دیا جائے۔ کسی کانگریسی یا غیر کانگریسی نیتا اور لیڈر کی کوئی بات میرے خلاف سنی نہیں جائے گی اور اگر میں کسی نیتا کو بند کر دوں گا تو مجھ سے شکایت نہ ہوگی۔ اس یقین دہانی کے بعد وہ سہارن پور آئے اور ایک ہفتہ کے اندر اندر قتل و غارت گری کا وہ سیلاب جو پاکستان اور مشرقی پنجاب سے چڑھا ہوا آرہا تھا سہارن پور پہنچ کر رک گیا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے جیسا کہ گزر چکا ہے وہی کے لئے حضرت پہلے ہی جمیعتہ علماء کے ذمہ داران کے ساتھ میٹنگ کر کے قیام امن کا نقشہ بنا چکے تھے۔ ۲۷ ستمبر ۱۹۴۷ء کو شاہجہانی مسجد فتحپوری میں عین نماز کے وقت بم کا گولہ پھٹا۔ مسلمانوں کی سرسبکی اور دہشت آخری حدوں تک پہنچ گئی۔ مگر جمیعتہ علماء کے ذمہ داروں،

لہ حکایت مولینا احتشام الحسن کا، زحلوی، مانوڈ از شیخ الاسلام۔ ایک سیاسی مطالعہ، بلاکٹر، ابولمان شاہجہانپوری

مولینا حفظ الرحمن، مولینا محمد میاں وغیرہ نے اس کے فوراً بعد والی نماز میں پورے اطمینان توکل علی اللہ اور وقار کے ساتھ جماعت کی نماز قائم کی۔ اگر یہ ایک جماعت تھنا ہو جاتی تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس مسجد کو پھر اذان کی آواز نصیب ہوتی یا نہیں؛ حضرت رحمۃ اللہ اور اُن کے متبعین ہجیتہ علماء ہند کے علمائے کرام جو کچھ کرتے تھے محض اخلاص، ادائیگی فرض اور رضائے باری تعالیٰ کے لئے کرتے تھے۔ اپنے کاموں اور سرفروشیوں کے لئے آسانیوں موڑوں گاٹیوں اور سازد سامان کی بات تو بہت بڑی تھی، ان اللہ کے بندوں کے پاس تو رہنے کے لئے قاعدے کے گھر بھی نہیں تھے۔ بڑھاپے، کمزوری اور بے سروسامانی کی حالت میں مولینا حفظ الرحمن، مولینا احمد سعید، مولینا تقار اللہ پانی پتی، مفتی عتیق الرحمن اور انبالہ کے عبدالغفار خاں وغیرہ دلی کے گلی کوچوں میں جان پھیلے مارے مارے پھرتے تھے اور جہاں بھی حلوں اور فسادات کا اندیشہ نظر آتا تھا بلاخون و خطر مردانہ وار آگ کے شعلوں میں کود جاتے تھے، فسادوں اور قاتلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لکارتے تھے، مسلمان نڈاکاروں اور جماعتوں کی مورچہ بندی کراتے تھے اور حکومت کا گریبان پکڑ کر قیام امن کی کارروائیوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس وقت دلی کے کمنڈر صاحبزادہ خورشید احمد خاں نبیرہ صاحبزادہ آفتاب احمد خاں تھے۔ مگر مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی حیثیت اور حدود اختیار صرف کے برابر تھے۔ ان کا نائب ایک سکھ زندھاوا تھا۔ وہ پکا فرقہ پرست اور دلجمہ بھائی پٹیل کا دست راست تھا۔ ایک دن مولینا حفظ الرحمن نے اس سے صورت حال کی وضاحت کی اور کہا کہ دلی ایڈمنسٹریشن کا یہ طرز عمل مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو اور کانگریس کے نظریات اور پالیسیوں کے بالکل خلاف ہے۔ اُس نے پوری صفائی کے ساتھ جواب دیا، "ہمارا تعلق سردار پٹیل سے ہے اور وہ ہمارے طرز عمل سے بالکل مطمئن ہیں۔" ایک طرف تو حضرت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیڑھ لاکھ مسلمانوں کو دلی میں جانے اور برقرار رکھنے کے لئے دن و رات ایک کرنے۔ اور دوسری طرف پورے ملک میں مسلمانوں کا حوصلہ برقرار رکھنے، ان میں خود اعتمادی

عزم و ہمت بیدار کرنے میں راتوں کی نیند اور دن کا آرام قربان کر دیا۔ راتیں سجدہ ریزی اور
المحاح و زاری میں اور دن ملک کے گوشے گوشے کی جاہد پیمائی اور بے قراری کی نذر ہو گئے
میوات کا علاقہ دلی سے بالکل متصل ہے۔ وہاں بھی فسادیلوں کی ٹیٹا خطرے کی حد تک پہنچ گئی
تھی مگر مسلمانوں نے ہمت کی اور اپنا وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جمیعتہ علماء نے وہاں گھائیٹرو
کے مقام پر ان کا مورال اونچا کرنے اور حوصلہ برقرار رکھنے کی غرض سے ایک کانفرنس کا انعقاد
کیا اس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی شریک کیا گیا اور گاندھی جی کی آمد کا خاص اہتمام کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ نے تو کچھ قابل اطمینان باتیں نہیں کیں مگر گاندھی جی نے کھلے لفظوں میں اعلان کیا کہ
میواتی بھارت کی ریڑھ کی ہڈی اور ملک کا گارڈھ خون ہیں۔ میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ وطن کا
گارڈھ خون اس کے بدن سے نکال دیا جائے۔ گاندھی جی نے اپنے خاص ورکردوں کو اس
علاقے میں صلح و آشتی اور امن و تحفظ کے کام پر مقرر کیا۔ دنو باجھا دے نے اس علاقے کے
دورے کئے اور جو مسلمان خون و دہشت کی وجہ سے ہندو ہو گئے تھے انھیں از سر نو مسلمان
کیا اور ان کی چوٹیاں کٹوائیں!

جمیعتہ علماء نے ہندوستان کے مشہور مزارات اور درگاہوں کی حفاظت اور رونق بڑھانے
کے لئے مخصوص اور مہتمم باشان انتظامات کئے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سرہند
شریف اور اس سے ملحقہ بستی بسی پٹھانان ریاست پٹیالا میں واقع تھی۔ اس ریاست مسلمانوں
کی تباہی و ہلاکت کے لئے جو رول ادا کیا اس کا ہلکا سا تذکرہ گذشتہ اوراق میں گزر چکا ہے جمیعتہ علماء
نے بار بار ذمہ دار اور شیر دل علماء کرام کے وفد سرہند شریف بھیجے۔ اور وہاں کے رہنے والوں
خدا م اور سجادہ نشین صاحب کی ہر ممکن خدمت اور ہمت افزائی کی۔ چنانچہ وہ درگاہ آج بھی آباد
اور سرسبز و شاداب ہے۔ اجیر شریف چاروں طرف سے ہندوؤں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں پر دہشت
گردی اور خون و ہراس کا یہ عالم تھا کہ مسلمان بھاری تعداد میں روز بروز پاکستان کی طرف ہجرت
کر رہے تھے۔ جمیعتہ علماء نے عین وقت پر اپنی پوری طاقت حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے کی

طرف مرکوز کر دی۔ اور وہاں کے باشندوں اور خدام کی ہمت اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ہر قسم کی کمک پہنچائی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسلک دیوبند کے مقتدا اور جماعت اہل سنت کے امام تھے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ درگاہ کی زیارت کے لئے شذر حال فرماتے مگر کسی سفر سے واپسی میں برسرِ راہ اجیر شریف میں قیام فرمایا اور درگاہ شریف میں حاضری دی۔ وہاں کے ضابطوں اور روایات کے مطابق وہاں کے خدام نے حضرت کے سر مبارک پر دستارِ خلافت باندھی۔ اس حاضری کا بہت گہرا اور دیر پا فائدہ ہوا آج وہاں کے فیوض و برکات دن دومی رات چوگنی ترقی کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سرہ کی درگاہ ایسے خطرے میں گھر گئی تھی کہ ذرا غفلت ہو جاتی تو یہ عظیم الشان خانقاہ ہمیشہ کے لئے سطحِ زمین سے نیست و نابود ہو جاتی۔ قصبہ مہرولی جہاں یہ درگاہ واقع ہے وہاں ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ خاص درگاہ اور خانقاہ میں ہزاروں شرناز تھی قبضہ کئے پڑے تھے۔ دلہ بھائی ٹیٹل اور دلی ایڈمنسٹریٹرن نے بار بار توجہ دلانے کے باوجود کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ آخر میں گاندھی جی کے سامنے پوری صورت، حال رکھی گئی اور انھوں نے برت توڑنے کی شرطوں میں یہ شرط بھی رکھی کہ قطب صاحب کی درگاہ مکمل طور پر خالی اور آباد کرائی جائے۔ چنانچہ وہ داگرار ہوئی۔ اس کے فوراً بعد جمیۃ علماء نے وہاں کے عرس کا انتظام کیا اور زیادہ سے زیادہ زائرین کی حاضری کا اہتمام کیا اور گاندھی جی کی وہاں حاضری کا اعلان کیا، اس موقع پر ایک لطیفہ پیش آیا۔ گاندھی جی اپنی پوتیوں منو اور ابھاکے گاندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلا کرتے تھے۔ اسی حالت میں حجرے کے دروازے پر پہنچے۔ تو مزار کے دربانوں نے لڑکیوں کے داخلے پر اعتراض کیا۔ مولینا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ مہینوں کے انتظامات، دن رات کی تنگ و دو اور ہزار ہا روپیوں کے اخراجات کے بعد اب جبکہ صرف آنکھوں کی سویاں رہ گئی ہیں تو ذرا سی بات کے لئے سارا کھیل بگڑا جا رہا ہے، جلدی سے آگے بڑھے اور حاجیوں سے فرمایا کہ آپ لوگ کسے روک رہے ہیں۔ ارے یہ تو گاندھی جی کی بیساکھیاں ہیں جن کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے۔ الحمد ورات تباخ عند اللہ ودرات۔ مولینا کی شکل و شمائل کا رعب داب، دل میں اتر جانے والا اسلوب کلام، اور ماحول کی سحر آفرینی، جب تک وہ لوگ سنبھلیں اور غور کریں محج آگے بڑھ گیا اور گاندھی جی مح اپنی بیساکھیوں کے مزار

پر حاضر ہو گئے۔ اس عرس کے انعقاد کا مذہبی جی کی اس میں شرکت اور اس کے میچ میں درگاہ کی بازیابی کے اطمینان بخش اثرات دئیے تو مرتب ہوتے ہی ساتھ ہی ساتھ پورے ہندوستان پر صلح و آشتی کی لہریں موجزن ہو گئیں۔ ہر چند کہ درگاہوں، مزاروں، عرسوں اور رسمی فاتحوں کے لئے انتظامات، اہتمام اور شرکت حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جماعت دیوبند اور مسلمانوں کے خلاف ہے مگر اس وقت مسئلہ ان درگاہوں، عرسوں اور تعزیوں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کے استقرار اور استعمال کا تھا جس کے لئے ان بزرگوں نے سارے مجروری اختلافات ایک طرف رکھ دئے تھے۔

ذرا سانس لینے کا موقع ملا تو جیتے علماء نے لکھنؤ میں ایک آل انڈیا آزاد مسلم کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع اس سے پہلے شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ یہی وہ کانفرنس تھی جس کے بعد ہندوستان کے افق پر مسلمانوں کے عزائم، ارادوں اور جسرات و عزیمت کا پرچم بلند ہوا۔ اس میں جیتے علماء کے ناظم عمومی مولانا حفیظ الرحمن صاحب نے فرمایا:

”مسلمانان انصافی اور ناحق بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ خون و

ہراس، بزدلی اور کم ہمتی کو دل سے نکال دو اور یہاں عہد کر کے جاؤ کہ ہر ظلم

اور ہر ناانصافی کا ڈٹ کر مقابلہ کرو گے۔ ہم نے جس طرح مسلم فرقہ واریت کا مقابلہ

کیا ہے اسی طرح جن سنگھ، ہندو ہاں سبھا، آرائس ایس اور ہندو فرقہ واریت

کو بھی پیروں سے کچل کر دم لیں گے۔ کانگریس اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ آزادی

رائے اور آزادی ضمیر کی فضا اور ملک کی یک جہتی کے لئے اپنی آخری کوششیں

صحت کر دے۔“

مولانا حفیظ الرحمن صاحب کو حق تعالیٰ نے ایک امتیازی صفت یہ بھی عطا فرمائی تھی

کہ مسائل پر ان کے تجزیے اور دلائل کو رد کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ ان کی تقریر اور بحث کے

مقابلے میں بڑے سے بڑے مقابل کو قائل اور ساکت ہونا پڑتا تھا۔ اس وصف کے ساتھ

اخلاص، جرات، ذہانت اور علم بھی قدرت نے وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ ایسا انسان مخالفین کے لئے دو دھاری تلوار ثابت ہوتا ہے۔ مولینا موصوف کے ساتھ مولینا احمد سعید صاحب کی رہنمائی بھی شامل تھی۔ وہ سجان الہند مشہور تھے، ان کی زبان بیان اور پیرایہ اظہار میں جو مٹھاس، شگفتگی اور دل نوازی تھی وہ تو اپنی جگہ پر تھی اس وقت مستزاد یہ تھا کہ ان کا دل دکھا ہوا اور جذبات اور احساسات مجروح تھے۔ جب وہ دلی ایڈمنسٹریشن کی زیادتیوں اور مسلمانوں کی حالت زار کا تذکرہ کرتے تھے تو سننے والوں کو ضبط کا یارا نہ رہتا تھا۔ گاندھی جی بڑے اہتمام سے روزانہ ان کی رپورٹیں اور مشاہدات سنتے تھے۔ اور اس معاملے میں ان کے علاوہ کسی کا اعتبار نہ کرتے تھے۔ تاریخ کے صفحات اس کی گواہی دیں گے کہ یہ انہی نیشنلسٹ مسلمانوں کا دل گردہ تھا حضرت رحمۃ اللہ اور ان کی جماعت کی سرفروشی تھی اور جمعیتہ علماء کی فہم و فراست اور عظمت و عزیمت تھی کہ گاندھی جی، پنڈت جواہر لال، چودھری برہم پرکاش، 'رج موہن'، شریستی سمھدرا جوشی، 'مس مردلا سارا بانی' اور سیکرٹوں دوسرے نصف مزاج اور سیکولر مزاج والے کانگریسی مسلمانوں کی آبادی اور حفاظت کے لئے جی جان سے تیار ہو گئے تھے۔ مشرقی پنجاب کے مسلمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے تھے مگر چند اللہ کے بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے سر سے کفن باندھ کر اپنے قدموں اور عزائم کو ثابت و قائم رکھا۔

مولینا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی نے دہلی میں عارضی قیام اختیار کیا اور لدھیانہ میں اپنے مکان کی بازیابی کا مطالبہ جاری رکھا۔ جلد یا بدیر ان کا مکان واپس ملا اور کئی مسجدیں خالی کرائی گئیں اور اس طرح مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کی آباد کاری دوبارہ شروع ہوئی۔ مولینا تقی اللہ صاحب عثمانی پانی پت میں بلاخوف و ہراس قائم و دائم رہے اور کسی قیمت پر پانی پت بھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آج وہاں مسلمان موجود ہیں۔ عبدالنفاذ خاں صاحب پوری بے خوفی اور عزیمت کے ساتھ انبالہ میں مقیم رہے اور ہر قسم کی مشکلات اور خطرات کو اپنی جان پر جمیل کر مسلمانوں کا استحقاق ثابت کیا۔ آج وہاں دوسروں کے ساتھ مسلمان بھی آباد ہیں۔ میوات میں وہاں کی ریاستوں بھرت پور، اور اور خاص جماعتوں نے طے کر لیا تھا کہ ایک ایک مسلمان کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ مگر جمعیتہ علماء نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا کر انہیں وہاں ثابت قدم رکھا حضرت

نے اس بڑھاپے، ضعف اور عمر کے آخری حصے میں اپنی طاقت اور ہمت کی آخری رقم اس کا عظیم کے لئے قربان کر دی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق اور حیثیت کمزور نہ ہونے پائے۔ دلی میں جماعت تبلیغ کا مرکز واقع ہے جہاں ہزاروں مبلغین ہر لمحہ موجود رہتے تھے اور وہیں نظام الدین ریلوے اسٹیشن سے دلی کے آجڑے ہوئے ہابجرین کے قافلے اپیشل ٹرینوں کے ذریعے روزانہ پاکستان کے لئے یارستے میں شہید ہونے کے لئے روانہ ہوا کرتے تھے۔ بہت سے مخلص اور بااثر لوگ جماعت کے امیر مولانا محمد یوسف صاحب پر زور دیتے تھے کہ اپنی جماعت کے ساتھ پاکستان روانہ ہو جائیں۔ یہ واقعات مولانا ذکر یا صاحب کی زبان میں زیادہ دلچسپ ہیں :

”یہ مسئلہ بھی تین چار ماہ تک بہت ہی معرکہ آرا رہا کہ پاکستان جانے والے احباب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بہت ہی شدید اصرار کرتے تھے۔ بعض اکابر تو روزانہ پچیس تیس ہوائی جہاز کے ٹکٹ لے کر آتے تھے کہ مولانا محمد یوسف کو مع ان کے گھر والوں کے لے کر جائیں۔ ان کا اصرار تھا کہ مسلمان بکثرت وہاں منتقل ہو گئے ہیں۔ اس لئے مولانا محمد یوسف صاحب کی وہاں جانا ان کی دینی اصلاح کے لئے بہت ضروری ہے۔ نیز اس وقت یہاں کی جو متزلزل حالت تھی اور یوپی اور دہلی کا جو انخلاء ہو رہا تھا اس کی وجہ سے یہاں دینی کام کی امید کم معلوم ہوتی ہے۔ مگر حضرت مولانا یوسف صاحب کا ایک ہی جواب تھا کہ اگر کبھی جی (مولانا ذکر یا صاحب) تشریف لے جاویں گے تو میں بھی جاؤں گا ورنہ نہیں“

تبلیغی جماعت کے اس مرکز سے ہندوستان اور دلی میں رہ جانے والے مسلمانوں کو بڑی ڈھارس اور تقویت تھی۔ اگر اس وقت مولانا محمد یوسف صاحب رختِ سفر باندھ لیتے تو لاکھوں مسلمان چشمِ زدن میں دلی اور یوپی سے اکٹھے جاتے۔

اپنے وقت کے مشہور بزرگ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پور ضلع سہارنپور میں دریائے جمن کے قریب نہر جن شرتی کے کنارے اپنا خانقاہ میں رونق افروز تھے، آس پاس کی

صد ہستیوں کے ہزاروں مسلمان آپ کے مرید اور متقدّم تھے، خانقاہ میں رات دن سیکڑوں سالکین اور زاہدین کا مجمع رہتا تھا۔ جنما کے ایک کناسے پر مشرقی پنجاب تھا جہاں سے مسلمانوں کا صف یا ہو چکا تھا۔ دوسرے کنارے پر ضلع سہارن پور کی سرحد تھی جہاں مسلمان کثیر تعداد میں آباد تھے اور اسی خانقاہ سے اپنے حوصلوں، عزائم اور ہمت کے لئے طاقت اور غذا حاصل کرتے تھے۔ مولینا عبدالقادر اصلاً مغربی پنجاب ہی کے رہنے والے تھے اور اپنے پیر و مرشد مولینا عبدالرحیم صاحب کے بعد ان کی گدی نشینی کی وجہ سے رائے پور میں رہ رہے تھے۔ ان کے مریدین میں بڑی تعداد مشرقی اور مغربی پنجاب کے لوگوں پر مشتمل تھی جو ہر ہر طریقے سے ان پر زور ڈال رہی تھی کہ پاکستان ہجرت کر چلیں اور سفر کی ساری ضروریات مہیا کرنے میں مصروف تھے مگر مولینا موصوف فرماتے تھے کہ میری رائے اور سفر حضرت مولینا مدنی اور حضرت مولینا زکریا صاحب پر موقوف ہے اور میں انہی کے ساتھ ہوں۔ پھر حضرت مدنیؒ سے فرمایا:

”حضرت! اپنے سے تعلق رکھنے والے تو سارے مشرقی اور مغربی پنجاب کے

تھے اور حضرت قدس سرہ (اعلیٰ حضرت رائے پوری) کے متعلقین بھی زیادہ تر انہی دو جگہوں کے تھے۔ مشرقی تو سارا مغربی کی طرف منتقل ہو گیا۔ ان سب حضرات کا بہت اصرار ہو رہا ہے کہ میں بھی پاکستان چلا جاؤں اور میرا تو مکان بھی مغربی پاکستان میں ہے اور ان مظلومین کی دلداری بھی اسی میں ہے مگر میں نے آپ دونوں کے مشورے پر اپنا جانا معلق کر رکھا ہے!“

مولینا یوسف صاحب حضرت مولینا زکریا صاحب کے تابع تھے اور مولینا عبدالقادر صاحب ہمارے حضرت اور حضرت مولینا زکریا صاحب پر انحصار کئے ہوئے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگر ایسے موٹے پر ہندوستان سے ترک سکونت فرماتے تو مدینہ طیبہ جاتے جہاں حضرت کے شاہان شان استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اپنا ذاتی وسیع اور آرام دہ گھر موجود تھا۔ بھائی بھتیجوں مستقیدین اور تلامذہ کی ایک جماعت چشم براہ تھی بلکہ اصرار کر رہی تھی کہ اب ہندوستان میں قیام کی کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں دینی اور علمی تعلیمی خدمات کے لئے حضرتؒ کی

بہت ضرورت ہے۔ سعودی حکومت علماء، اصحاب اور اتقیا کی خدمت اور پذیرائی کے لئے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ حضرت اس کے حسن انتظام، امن و امان اور کتاب و سنت کی خدمات کے معترف و مداح بھی تھے۔ حضرت کے ان خیالات کا تذکرہ ہم آگے کسی باب میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت کے خاندان اور اس کی دینی و علمی خدمات کی سعودی حکومت کی نگاہوں میں بڑی قدر و منزلت تھی۔ ایک اشارہ ہو جاتا تو ہر قسم کی سہولتیں اور راحتیں مہیا ہو سکتی تھیں۔ اس موقع پر یہ بھی یاد کر لیجئے کہ مالٹا سے آنے کے بعد بمبئی ہی سے حضرت کی طبیعت میں مدینہ کی واپسی کا تقاضہ شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے آج تک کم دیش چالیس برس تک یہ آتش شوق تیز تر ہی ہوتی گئی تھی۔ اختلاف و اس بات کا تھا کہ پیر و مرشد اور اتنا جو بار امانت سپرد کر گئے تھے اس کا حق ادا ہو جائے اور ان کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ یہ ماعول تھا اور حالات تھے جن میں حضرت مولینا زکریا صاحب اور مولینا عبدالقادر صاحب نے حضرت سے ہجرت کے بارے میں مشورہ کیا اور اس حقیقت کا اظہار بھی کیا کہ اب ہمیں یہاں رہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ حضرت نے فیصلہ کن انداز میں وضاحت اور صفائی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو روکتا نہیں ہوں۔ مگر خود مسلمانوں کو اس حالت میں چھوڑنا کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا اور انہی کے ساتھ مرنے جینے کا فیصلہ کرتا ہوں یہ حکایت بھی مولینا زکریا صاحب ہی کی زبان سے سنئے :

”حضرت مولینا عبدالقادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ یہاں تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے۔ اہل اللہ موجود ہیں مگر وہاں اللہ اللہ کرنے والوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ اجڑ گئے۔ اور تقریباً حضرت کی گفتگو کا رخ یہ تھا کہ وہاں قیام ضروری ہے۔ اس سب کو سن کر حضرت مدنی قدس سرہ نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ ہماری اسکیم تو نیل ہو گئی۔ اگر ہماری تجویز مان لیتے تو زکشت و خون ہوتا، تبادلہ آبادی کی نوبت آتی۔ اب میں تو کسی کو جانے سے روکتا نہیں۔ اگرچہ میرا وطن مدینہ ہے اور محمود (برادر خورد) وہاں بلانے پر اصرار بھی کر رہا ہے۔ مگر میں ہندوستانی مسلمانوں کو اس بے سرو سامانی اور دہشت و قتل غارت گری میں چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔ جسے اپنی جان و مال، عزت و آبرو، دین و دنیا

یہاں کے مسلمانوں پر قربان کرنی ہو وہ یہاں پٹھر سے اور جس کو تھک نہ ہو وہ ضرور چلا جائے۔ حضرت قدس سرہ کے اس ارشاد پر میں جلدی سے بول پڑا کہ میں تو حضرت ہی کے ساتھ ہوں۔ اس پر حضرت اقدس مولینا راسخ پوری نے فرمایا کہ تم دونوں کو چھوڑ کر میرا جانا بھی مشکل ہے۔

آج چالیس برس بعد حضرت کے اس پیغمبرانہ فیصلہ کی عظمت کا اندازہ شاید نہ لگایا جاسکے۔ مگر ممکن ہو تو اس کی قدر و قیمت اُن مسلمانوں سے پوچھیے جو اُس وقت موت و زیت کی کش مکش میں مبتلا تھے۔ اُس ماحول سے دریافت کیجئے جو اُس وقت آگ و خون برسا رہا تھا اور اُس زمین و آسمان سے معلوم کیجئے جس نے اُس وقت دنیا کے سب سے بڑے حادثے کا بوجھ اپنے سینے پر اٹھا رکھا تھا۔ کہ حضرت کے اس اعلان اور عزم و ارادے نے رستے ہوئے ناموس کس طرح منڈل کر دئے۔ ٹپکتے ہوئے زخم کس خوبی سے بھر دئے اور اُڑھی ہوئی بستیاں کتنی آسانی سے پھر سے بسادیں۔

جہاد آزادی میں حضرت کی جاں بازیوں اور سرفروشیوں کی داستان اس باب کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ چلتے چلاتے آخر میں یہ بات خوب ذہن نشین کرتے چلے کہ یہ جنگ آزادی میں ملک کے ساتھ شانہ بشانہ جدوجہد ہی تھی۔ ہندو مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کا نظریہ ہی تھا اور متحدہ قومیت ہی کا موقف تھا جس نے نیشنلسٹ مسلمانوں کو ہجرتہ علماء کو اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حوصلہ اور استحقاق دیا کہ انھوں نے ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کو پوری جرات و شہامت کے ساتھ لکرا لکرا کر حکومت کو خم ٹھونک کر چھینچھوڑا اور مسلمانوں کو حوصلے اور تہمت کے ساتھ ثابت قدم رہنے پر ابھارا۔

تاریخ جنوں یہ ہے کہ ہر دورِ خرد میں اک سلسلہ وارد رہن ہم نے بنایا

آزادی کے بعد مسلمانوں کی خدمات

ملک کی تقسیم اور قیام پاکستان کے نتیجے میں مسلمانوں پر جو مشکلات اور مصائب نازل ہوئے! ان کی نوعیتیں اور صورتیں لاتعداد اور بے شمار ہیں۔ ان کے اعداد و شمار تفصیل اور ریکارڈ جمع کرنے کے لئے کئی سال اور کئی اصحابِ علم و قلم کی دن رات کی کوششیں درکار ہیں۔ ہم اپنی محدود بساط کے مطابق اس ضمن کے دوری چار دانے پیش کر سکتے ہیں اور انہی سے ہمارے موضوع کا تقاضا کسی نہ کسی درجے میں پورا ہو جائے گا۔ مسلمان ایسا کمزور اور دل شکستہ بھی نہیں تھا کہ طوفان کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا مگر یہ مقابلہ اس لئے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ آزاد حکومت اور کانگریسی ایڈمنسٹریشن کے بہت سے سربراہان و حضرات اور ذمہ دار افراد مسلمانوں کی دشمنی میں کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ مارا قتل و غارت اور ظلم و بربریت کی جو تھوڑی بہت تفصیل پچھلے صفحات میں گزری ہیں۔ یہ وہ منظم تھے جو سب کو کھلی آنکھوں نظر آرہے تھے۔ مگر انتقاموں اور کینہ پروریوں کی کچھ سازشیں اور منظم اسکیمیں ایسی بھی تھیں جو قانون اور انتظام کے نام پر شروع کی گئیں۔ یہ سازشیں اوپر سے تو نظر آتی نہیں تھیں مگر ان کی جڑیں بہت گہری تھیں۔

”مشرقی پنجاب میں چیف منسٹر بھارگو اور مرکزی حکومت میں

ہوم منسٹر دلہ بھائی ٹیل کا منصوبہ یہ تھا کہ دہلی اور اس کے آس پاس کے

مسلمانوں کی شدھی کر لی جائے اور اس پر مسلمانوں کا سایہ بھی باقی نہ رہے۔

اس سلسلے کا آغاز محلہ کسٹوڈین کے قیام سے کیا گیا۔ یہ محلہ اس لئے قائم کیا گیا

تھا کہ ہندوستان چھوڑ کر جانے والے لوگوں کی جائیدادوں، دکانوں اور مکانوں کی قاعدہ

ضابطہ کے ساتھ حفاظت کی جائے اور ان میں حسب استحقاق شہرنا رہتیوں کو آباد کیا جائے۔ یہ ایسی ضرورت تھی جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مگر اصل کام کے بجائے یہ محکمہ مسلم دشمنی، تعصب اور عناد کا مرکز ہو کر رہ گیا تھا۔ چار بھائیوں میں سے ایک بھائی پاکستان چلا گیا تو حکومت نے چاروں بھائیوں کی جائداد کے انحصار کا نوٹس دے دیا اور دلیل یہ دی کہ چونکہ جائداد تقسیم شدہ نہیں تھی اس لئے جائداد کے سارے ہی اجزاء میں جانے والے کا حق اور حصہ بیٹھتا ہے اور ساری ہی جائداد متروکہ پراپرٹی کے ضمن میں آتی ہے۔ اس طرح یہ تینوں ہندوستانی بھائی بھی بے گھر اور بے در ہو گئے۔ کوئی شخص اپنے گاؤں، شہر اور ضلع سے دور بمبئی، کلکتہ میں بغرض معاش مقیم ہے، محکمہ کسٹوڈین نے فیصلہ کر دیا کہ وہ پاکستان چلا گیا ہے۔ اب وہ آئے، عذر داری کرے اور تین چار بلکہ بعض حالتوں میں سات آٹھ سال تک یہ ثابت کرنا رہے کہ جانا اور رہنا تو کجا اُس نے پاکستان کا نام تک بھی نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد بھی اس کی ملکیت واکرار ہو یا نہ ہو یہ محکمہ کی صوابدید پر منحصر ہے۔ کچھ لوگ اپنے اغزہ کو وداع کرنے ہندوستان کی آخری حد اتر سر بمبئی یا کھوکھرا پار گئے، واپس آئے تو پتہ چلا کہ حکومت کے محکمہ کسٹوڈین نے ان کو راتوں رات پاکستانی قرار دے کر انحصار کا نوٹس دے دیا ہے اور وہ برسوں کے لئے عذر داریوں، ایپیلوں اور دلیلوں کی پھانسی پر لٹک گئے ہیں۔ یہ اور اس قسم کی اور بہت سی نا انصافیوں اور مظالم کے علاوہ ایک ایک طریقہ متوقع نکاسی کا نکالا گیا تھا۔ لوگ اپنے گھروں پر رہ رہے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ اچانک محکمہ کسٹوڈین انھیں نوٹس دیتا ہے کہ چونکہ تم پاکستان جانے والے ہو اس لئے تمھاری املاک متوقع نکاسی قرار دی جاتی ہیں۔ یہ ایسا قانون تھا جس کی زد سے کوئی مسلمان بچ ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس ننگی اور قانونی تلوار کو لے کر کسٹوڈین نے آزادی کے ساتھ چومکھا وار کرنا شروع کر دیا دہلی کے ایک بزرگ حاجی محمد دین چھتری والے دہلی ہی میں قیام پذیر تھے۔ انھوں نے پاکستان کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ مگر کسی ذریعے سے پاکستان میں بینتالیس ہزار پڑے کی ایک جائداد اس خیال سے خریدی تھی کہ کسی موقع پر فروخت کر کے چار پیسے کمائیں گے۔

عکس کسٹوڈین تو تاک ہی میں رہتا تھا۔ اس باب کو بنیاد بنا کر ان کی ساٹھ لاکھ روپے کی ساری جائیداد کو نکاسی قرار دے دیا۔ اور انھیں سڑک پر کھڑا کر دیا۔ بے شمار واقعات ایسے بھی ہیں کہ پاکستان سے آئے ہوئے سزنا رنجیوں نے مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں پر زبردستی قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے لئے کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔

تعصب، نفرت اور فرقہ پرستی کا جو بیج برطانوی حکومت نے ہندوستان میں بویا تھا اب وہ تناور درخت بن چکا تھا تقسیم کے نتیجے میں اسے آزادی اور فراوانی کے ساتھ آبیاری نصیب ہوئی تو وہ ایسے زہریلے ناگ میں تبدیل ہو گیا جس نے سارے ملک کو گھلنا شروع کر دیا۔ ملک کے تعصب پر وہ پگنڈے نے عوام کے ذہن میں یہ تلخی بھردی کہ یہ مسلمان ہی ہیں جنہوں نے ملک تقسیم کر لیا ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں لا تعداد افسراد اور متعدد جامعیں ایسی تھیں اور آج بھی موجود ہیں جن کی بے عملی، جہالت اور پست ذہنیت کی وجہ سے ان کو سماج میں کوئی اہمیت اور قدر و قیمت نہیں مل سکتی ہے۔ یہ ہارے ہوئے اور پسماندہ ذہن کے لوگ اپنی خود غرضیوں اور منفعت کوشیوں کے لئے عوام میں جذباتی فرقہ پروری اور غلط مذہبی جذبات برانگیختہ کر کے اپنی شہرت اور اقتدار کی دکان چلانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس طبقے کو اس وقت منہ مانگی مراد ملی، اس نے زمین بالکل ہموار پائی اور آزادانہ فسادات اور قتل و غارت گری شروع کر دی۔ فساد اور لوٹ مار آزادی سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ مگر ہر حال میں اس کا میدان محدود ہی رہتا تھا۔ اور بہادری کے پہلے ہی دوسرے اہل میں غباروں کی ہوائیں اٹھ جاتی تھی نیز دونوں ہی فرقوں کو آٹے وال کا بھاد معلوم ہو جاتا تھا۔ مگر آزادی کے بعد اس وحشت و بربریت میں حکومت کے تنگ نظر اور بدصلحت افسران بھی شریک ہو گئے اور اب فریق دو کے بجائے تین ہو گئے۔ فسادات کا عنوان تو یہی رہا مگر درحقیقت ان کا عمل اب قتل عام کی شکل اختیار کر گیا۔ تنظیم، ترتیب اور مکمل تیاریوں کے ساتھ اقلیتوں پر حملے کئے جانے لگے۔ حلوں کے آخر میں جو مظلوم جلانے، مارنے اور تباہی سے بچ جاتے ان کو مقدمات میں دھر کے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ واقعات بڑے روح فرسا اور بہت

طویل ہیں۔ ان کی تحقیقات اور تفصیلات لکھی جائیں تو کئی ہزار صفحات کی دستاویز تیار ہو جائے گی۔ تقسیم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد حکومت ہندوستان نے اعلان کیا کہ مسلمان افسران اور ملازمین کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو ہندوستان میں رہیں یا پاکستان چلے جائیں اور ساتھ ہی یہ رعایت بھی ہے کہ حملوں، بلوؤں اور قتل و غارتگری سے بچنے کے لئے جو لوگ عارضی طور پر جانا چاہیں وہ حالات معمول پر آنے کے بعد واپس اپنے مناصب، عہدوں اور ملازمتوں پر واپس آسکتے ہیں۔ بڑی تعداد تو ہمیشہ کے لئے پاکستان ہی چلی گئی۔ مگر ایک مستندہ تعداد نے ہندوستان ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا اس کے ساتھ بہت سے ملازمین ایسے بھی تھے جو وقتی طور پر حالات کی سختیوں سے گھبرا کر زندگی کی حفاظت کے لئے صرف عارضی طور پر پاکستان گئے اور یہ لکھ کر گئے کہ جوں ہی حالات قابو میں آئے ہم واپس آئیں گے مگر جب انہوں نے واپس آنا چاہا تو حکومت کے متعصب افسران نے ان کی راہ میں ہزاروں کانٹے بچھا دیئے۔ اس کے ساتھ جو افسران ہندوستان ہی میں رہ گئے تھے ان پر ڈپارٹمنٹل اور ایڈمنسٹریٹو راستوں سے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ اس اجمال کی تفصیلات بھی بڑی صبر آزما اور طویل ہیں جن کا احاطہ ہماری گنجائش کے لئے مشکل ہے۔

مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور کثیر جماعت ایسی بھی تھی جو جان کی حفاظت کے لئے کیپوں میں، اعزہ، افارہ کے گھروں میں، اور مختلف محفوظ مقامات پر چلے گئے تھے مگر کسی قیمت پر اپنا ملک اور اپنے زمین و آسمان چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے تھے۔ پاکستان سے آنے والے شرنا تھیوں نے ان کے پیچھے دروازے توڑ کر، تالے کھول کر اور دیواریں پھانڈ کر ان کے گھروں کو لوٹ کر ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ حالات پر سکون ہو جانے کے بعد ان مسلمانوں نے اپنے گھروں پر واپس جانا چاہا مگر اب ان کو دوبارہ بسانا آسان کام نہ تھا۔ حضرت مولینا حبیب الرحمن صاحب لدھیانویؒ لدھیانہ میں اپنا عالی شان مکان چھوڑ کر دلی آگئے۔ حافظ محمد عثمان صاحب چاندنی چوک میں اپنی دکان مقفل کر کے اپنے گھر میں قیام پذیر تھے۔ خان عبدالغفار صاحب انبالہ میں، مولینا عبدالبرہیم صاحب میواتیؒ

گورکھا نواں میں مولینا لقا، اللہ صاحب غمانی پانی پت میں اور ایسے ہی ہزاروں بندگانِ خدا اللہ کے توکل پر جانیں تھیلیوں پر رکھ کر اپنی اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہے مگر شہزاد تھیوں سے ان سب مکانات کی بازیابی اور مسلمانوں کی دوبارہ آباد کاری آسان نہ تھا۔ جماعتیں اور افراد تو کیا حکومت بھی اس معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے پس و پیش کرتی رہی۔

ایک بڑا مسئلہ اغوار شدہ دوشیزاؤں اور خواتین کی بازیابی کا تھا۔ گنتی میں تو ایسی عورتوں کی تعداد دوسری تباہیوں کے مقابلے میں کسی قدر کم رہی ہوگی۔ مگر جذباتی اور نفسیاتی اعتبار سے یہ واقعات سب سے زیادہ روح فرسا اور کربناک تھے۔ پہلے پہلے تو آہوں، کراہوں اور خون کے فواروں کے سامنے اس مسئلے کی طرف دھیان دینے کا ہوش ہی نہ آیا۔ مگر جب آگ کچھ ٹھنڈی پڑی اور سڑکوں اور گلیوں کی آوازوں کے ساتھ گھروں کی چینیں بھی سُنائی دینے لگیں تو پتہ چلا کہ ہزاروں بہویں اور بیٹیاں اغوار کی جا چکی ہیں اور لاتعداد بچیاں بھی بھگائی گئی ہیں۔ دو چار دس بیس کی بات ہوتی تو ایسی مشکل بات نہ تھی۔ مگر ہزاروں لڑکیوں کا سراغ لگانا، تلاش کرنا اور پھر انھیں ناجائز اور حرام قبضوں سے نکالنا جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ ان میں بہت سی لڑکیاں رس بس گئی تھیں اور اپنی قسمت پر روپیٹ کر صبر کر چکی تھیں۔ بہت سی معصوماں اس خون و دہشت میں مبتلا تھیں کہ ان کے والدین اب انھیں جیتے جی قبول نہیں کریں گے۔ ایسی دوشیزائیں بھی تھیں جنھیں ڈرایا گیا تھا کہ اگر تم چسلی گئیں تو جس طرح بھی ہوگا ہم تمھاری جان لے کر رہیں گے۔

مشرقی پنجاب، دہلی، میوات اور بہت سے دوسرے علاقوں میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد خون و دہشت اور موت کے ڈر سے سڑد ہو گئی تھی۔ یہ انتہائی عبرت ناک اور حسرت ناک صورت حال تھی۔ قانونی اعتبار سے ان کو دوبارہ واپس نہیں لایا جاسکتا تھا۔ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے کروڑوں روپے کے اوقاف ہیں۔ یہ ایسی جائدادیں ہیں جن کی آمدنیاں پل پل اور منٹ منٹ بڑھنے والی تھیں۔ حکومت نے ایک کمیشن مقرر کر دیا جو اس بات پر غور کر رہا تھا کہ ملک میں جتنے بھی خیراتی ادارے، زفہ عام

کی جائیدادیں اور اوقاف ہیں ان سب کو ایک مشترک نظام کے ماتحت کر دیا جائے۔ ایک بڑا حملہ اردو زبان پر بھی کیا گیا اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی تدبیریں کی گئیں اور آخر کار گاندھی جی کی ہندوستانی کی جگہ ایسی ہندی جاری کی گئی جس میں سنسکرت کے الفاظ اور اصطلاحات کی بھرمار کر دی گئی۔ مسلمان ہندی جانتے اور بولتے بھی تھے اور اس کو خوشی کے ساتھ قبول بھی کر سکتے تھے مگر سنسکرت کے آگے وہ بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو وہ تعلیمی اور علمی میدان میں کمزور ہونے لگے اور دوسری طرف ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے پست ہستی کا شکار ہو گئے۔ ملک کے مختلف حصوں میں ایسی کتابیں، مضامین اور بیانات چھاپے گئے اور بیان کئے گئے جن میں مسلمانوں کی تاریخ، تہذیب، عقائد اور مذہب پر علی الاعلان حملے کئے جاتے تھے۔ ایک سے زیادہ مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ناگفتہ بہ باتیں کہی گئیں۔ یہ چند مثالیں ہم نے آزادی کے بعد مسلمانوں کے بے شمار مسائل کے نمونوں کے طور پر پیش کی ہیں ورنہ حقیقت میں چھوٹے بڑے ایسے سیکڑوں معاملات اور واقعات ہیں جن میں ہندو فرقہ وارانہ تنظیمیں مسلمانوں کو اگانے، برا بھلا کہنے، نقصان پہنچانے اور اکھاڑنے کے منظم اور مرتب پروگراموں پر عمل پیرا ہیں۔

ان تمام جانکاح حالات اور حادثات نے حضرت رحمۃ اللہ کی ذہنی اور جسمانی توانائیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مزاجی اعتبار سے حضرت تحمل و برداشت اور صبر و ضبط کے پہاڑ تھے۔ مگر پھر بھی انسان تھے۔ اور اب تو کم و بیش ستر بہتر برس کے ہو چکے تھے۔ عمر بھر کی سیاسی جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا۔ اور پوری قوم ابتلا و آزمائش میں مبتلا دیکھی تو دل سے نکلی ہوئی آہ زبان پر بھی آہی گئی۔ "آن سہلوں، بلوؤں، سازشوں اور منتقامانہ کارروائیوں کے درمیان ایک روز

"حضرت نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا۔ ہماری اسکیم فیل ہو گئی اور ہماری کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ اگر مسلمان ہماری بات مان لیتے تو نہ یہ تبادلہ آبادی ہوتا اور ہی اس خون خرابے کی نوبت آتی"۔

۱۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا آپ جی نمبر

اس عمر، کمزوری اور ضعف کی حالت میں حضرت دین، قوم اور اسلام کی خدمت کے لئے ایک بار پھر میدان میں صف آرا ہو گئے۔ آزادی کی جنگ بہت آسان تھی عزم و ہمت جوان تھی اور مقابلہ بھی غیروں اور دشمنوں سے تھا مگر آج اپنے ہی عداوت پر آمادہ تھے اور جن کو ہمیشہ دوست کہا اور سمجھا وہ دشمن ثابت ہوئے تھے مگر حضرت کے عزم و حوصلے میں کوئی فرق نہ آیا۔ فوراً اپنے رفقاء، مخلصین اور مریدین مولینا حفظ الرحمن، مولینا محمد میاں، مولینا احمد سعید، مولینا ابوالکلام آزاد اور سیکڑوں دوسرے درد مندوں کو جمع کیا اور صورت حال پر غور کر کے حالات کے مقابلے اور مصائب کے مقابلے کی ممکنہ تدابیر متعین کیں۔ اور ضعف کمزوری اور بڑھاپے کے ساتھ اس دل شکستہ و پابستہ جماعت نے خود کو از سر نو ملک و قوم کی بھٹی میں جھونک دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کے بعد اپنی کچی کچھی توانیاں اپنی زندگی کے اصل مقاصد دینی، علمی اور تعلیمی کوششوں اور جدوجہد کی جانب مرکوز کر دی تھیں، مگر ساتھ ہی مسلمانوں کے سیاسی اجتماعی مسائل کے حل کرنے، قوم کا حوصلہ بلند رکھنے اور اس کو حالات کے مقابلے کے لئے تیار کرنے کے لئے ایٹری سے چوٹی تک زور صرف کر دیا۔ اور ملک کی طاعونتی طاقتوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔

کسٹوڈین کی نا انصافیوں اور منتقاناہ کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک طرف تو قانونی چارہ جوئیوں کا مکمل انتظام کیا گیا اور دوسری طرف حکومت کے ذمہ داروں پر ذاتی اثر و رسوخ استعمال کیا گیا۔ چھوٹے اور معمولی نوعیت کے معاملات میں جمیعہ علماء کی نگرانی اور پیروی میں عدالتی کارروائی پورے اہتمام اور جانفشانی کے ساتھ کی گئی اور بڑے معاملات جن کا اثر اصولی سیاست پر اور پورے ہندوستان پر پڑنے والا تھا ان میں عدالتی چارہ جوئیوں کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ ذاتی طور پر پنڈت جواہر لال اور کبھی کبھی دوسرے ذمہ داروں سے مل کر ان پر زور دیتے تھے کہ نا انصافیاں اور مظالم فوراً بند ہوں۔

جمیعہ علماء، ہند کے جن اکابر نے ان نازک اوقات میں اپنی زندگیاں ملک اور

قوم کے لئے وقف کر دیں ان میں حضرت مولینا حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی سر فہرست ہے۔ آپ نے جمیئہ علماء اور حضرت رحمۃ اللہ کے مشن کو کامیاب کرنے کے لئے زندگی اور جان کی بازی لگادی۔ موصوف سیاسی معاملات میں حضرت کے دست راست اور سب سے زیادہ معتمد تھے۔ آپ کی دلسوزی اور جان فروشی کی داستان دو چار دس صفحوں میں آنی ممکن نہیں ہے۔ دئی کے گلی کوپے اور ہندوستان کا چھپہ چپہ اس بات کا شاہد ہے کہ حفظ الرحمن جیسا جری، صاحب فہم و فرست، عالم و فاضل اور مخلص جان نثار نہ ماضی قریب میں نظر آتا ہے نہ مستقبل قریب میں پیدا ہونے کی امید نظر آتی ہے۔ اُس زمانے میں کسٹوڈین کے سب سے بڑے افسر کوئی اچھرو رام تھے۔ محمد دین پھتری والا کے مقدمہ میں ابتدائی کسٹوڈین سے محمد دین کے خلاف فیصلہ ہوا تو کسٹوڈین جنرل اچھرو رام کی عدالت میں اپیل کی گئی۔ مگر اس نے بھی ابتدائی کسٹوڈین کا فیصلہ بحال رکھا۔ ایک برجمیئہ علماء ہمت نہ ہارے۔ وہ جانتے تھے کہ اس مقدمے میں ہار گئے تو ہندوستان بھر... لاکھوں معاملات میں ہار جائیں گے۔ چنانچہ وہ اپنی کوشش میں لگے رہے اور آخر کار ہندوستان کی مجلس وزراء نے اچھرو رام کے فیصلہ کو غلط قرار دے کر محمد دین کو باعزت برسی کر دیا اور ان کی جائیدادیں واکڈار لیں۔ اچھرو رام نے طیش میں آکر کسٹوڈین جرنی سے استعفیٰ دے دیا اور کینٹ آف منسٹرز کے فیصلہ کے خلاف پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا۔ پنڈت جواہر لال نے اس کے جواب میں قانونی اور وضاحتی بیان دے کر اس متعصبانہ کارروائی کا ہمیشہ کے لئے سدباب کر دیا۔

فسادات تو ہوتے ہی رہے اور آج تک ہو رہے ہیں۔ مگر اول تو مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اس بات کے لئے آمادہ کیا گیا کہ وہ حلوں کا مقابلہ بہادری اور جی داری سے کریں، دوسرے وہ قانونی چارہ جوئیوں اور حکومت کے نیز عوام کے انصاف پسند حلقوں کو متوجہ کر کے ان کی شدت کو بہت کم کر دیا گیا۔

جن دکانوں، مکانوں اور جائیدادوں پر ناجائز قبضے ہو گئے تھے، اگر ان کے مالکان پاکستان نہیں گئے تھے تو ان کو واکڈار کرایا گیا۔ اور چاندنی چوک، صدر بازار وغیرہ کی دکانیں

پھر ان کے مالکوں کے حوالے کی گئیں۔ پانی پت، لدھیانہ، انبالہ وغیرہ میں مسلمانوں کو دوبارہ آباد کرایا گیا۔ بہت سی مسجدیں اور اوقاف کی جاہادیں خالی کرائی گئیں اور انھیں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا۔ جو لوگ خوف و دہشت اور زور و زبردستی کی وجہ سے مُرتد اور بددین ہو گئے تھے ان کے بارے میں مرکزی حکومت سے احکام جاری کرائے گئے کہ یہ جبریہ تبدیلی مذہب ہے جس کو ہندوستان کا دستور منظور نہیں کرتا ہے اس لئے سرکاری طور پر ایسے لوگوں کی مدد کی جائے اور جو لوگ اپنے قدیم مذہب پر واپس ہونا چاہیں ان کی حفاظت اور اعانت کی جائے۔ اس حکمنامہ کی بنیاد پر جمعیتہ علمائے اپنے سارے ہی ذرائع استعمال کر کے ایسے لوگوں کی بڑی تعداد کو نعمت دین و توحید سے دوبارہ مالا مال کیا۔ جو افسران اور ملازمین جائز اور قانونی طور پر دوبارہ ہندوستان آنے پر تیار ہوئے، ان کی ساری رکاوٹوں اور مشکلات کو دور کرایا گیا۔ اور اس طرح اس ضابطہ کو بروئے کار لایا گیا جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ جو لوگ عارضی طور پر جائیں گے وہ واپس آسکتے ہیں۔ دین اسلام اور اکابر اسلام کی توہین و تحقیر پر مشتمل کتابوں اور مضامین کی طرف پوری قوت کے ساتھ ذمہ داران حکومت کی توجہ دلائی گئی اور اس قسم کی کارروائیوں کا استیصال کیا گیا۔ اُردو زبان، اُردو اسکولوں اور اداروں کے لئے بہت سی آسانیاں اور رعایتیں منظور کرائی گئیں اور اسکولوں میں اس کی تعلیم کا انتظام منظور کرایا گیا۔ اغوا شدہ عورتوں اور لڑکیوں کی بازیابی اور پرورش و نگہداشت کا مکمل اور منظم اہتمام کیا گیا اور ہزاروں لڑکیاں تلاش کر کے انھیں ان کے ٹھکانوں تک پہنچایا گیا۔

یہ دعویٰ تو کسی طرح نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمانوں کے سارے ہی مسائل کا حل تلاش کر لیا گیا اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ مسلم قوم کی زندگی ہمیشہ کے لئے مطمئن و محفوظ ہو گئی مگر یہ اعلان تو بجا ننگ دہل کیا جاسکتا ہے کہ ان اللہ کے بندوں نے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر نازک اور حساس معاملات پر اس جاکھاہی کے ساتھ کام کیا اور ایسے ضوابط اور اصول بنوائے جو ملکی اور قومی زندگی میں ہمیشہ کے لئے بنیاد بن گئے اور جن کی بنا پر کسی فرقہ یا گروہ کے لئے متعصبانہ اور منتہانہ کارروائی آسان نہیں رہ گئی۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی جماعت اور ان کے ساتھیوں کی یہ خدمات ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ واضح الفاظ میں لکھی جائیں گی۔ ایک مورخ کی رائے ملاحظہ فرمائیں:

”یہ درست ہے کہ اس قسم کے کیسنز میں مولینا ابوالکلام آزاد نے دل چسپی لی مگر جس ذات نے مولینا آزاد اور پنڈت جواہر لال کو دل جیسی لینے پر مجبور کیا وہ شیخ الاسلام حضرت مولینا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ سرہ العزیز صدر جلیتہ علماء ہند کی شخصیت تھی۔ یا مجاہد ملت مولینا حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد تھی جو مسلسل جاری رہی۔“

ان تمام ظاہری اور مادی کوششوں کے ساتھ ساتھ حضرت کی ایک جدوجہد اور بھی تھی جو عام لوگوں کی نگاہوں سے بالکل پوشیدہ تھی۔ بارہ چودہ گھنٹوں کی مسلسل تنگ دو بعد آدھی رات سے اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور ملت کی زندگی، عزت و آبرو اور فلاح و بہبود کے لئے سسک سسک کر اور گڑا گڑا کر بھیک مانگتے تھے۔

اس حقیقت کا کھلے دل سے اعتراف کرنا پڑے گا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ان تمام مساعی کی بنیاد یہی ہندو مسلم اتحاد، متحدہ قومیت، ایکو لزم، ڈیموکریسی اور نیشنلزم کے نظریات تھے جن کی حضرت نے ہمیشہ حمایت کی تھی اور یہی وہ نظریہ تھا جس نے ہر ہر موقع پر ملک کی تنگ نظر، رجعت پسند اور فرقہ پرست طاقتوں کو پوری جرات کے ساتھ لٹکارا، حکومت کو پوری طاقت اور استحقاق کے ساتھ پکارا اور مسلمانوں کو پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ ثابت قدم رہنے پر ابھارا اور یہی وہ نظریہ ہے جس کے سہارے پورا ملک آج بھی ترقی کی جانب گامزن ہے۔

دارالعلوم دیوبند کی خانہ تلاشی

برطانوی ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند اور اس کے زیر اثر مدارس اور مراکز شروع سے آخر تک علی الاعلان جنگ آزادی کے میدان میں صف آرا رہے تھے۔ ۱۸۵۶ء سے ۱۹۴۷ء تک نوے برس کے عرصے میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ یہ مرکز اپنے اساتذہ طلباء اور متعلقین کے ساتھ غیر ملکی تسلط کی بیخ کنی سے غافل رہا ہو۔ مولانا محمد قاسم جو اس مدرسے کے موسسین میں شمار ہوتے ہیں مع اپنی کثیر جماعت کے پہلی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں شریک رہے تھے۔ ان کے شاگرد اور مدرسہ دیوبند کے دوسرے دور کے سب سے بڑے مقتدا شیخ الہند مولانا محمود حسن نے آزادی کے لئے سب سے پہلی سیاسی جدوجہد کی بنیاد ڈالی تھی۔ ان کے شاگرد اور مدرسے کے تیسرے دور کے سالار قاضی مولانا حسین احمد مدنی کی قربانیاں اور جاں فروشیاں جو ملک کے لئے پیش کی گئیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان تینوں حضرات اکابر قدس اللہ اسرارہم، ان کی جماعت اور مدرسہ دیوبند کی ایک بڑی خدمت یہ بھی تھی کہ انہوں نے ملک میں فرقہ پروری، تعصب اور تنگ نظری کے خلاف جنگ میں اپنی زندگیاں داؤ پر لگادی تھیں۔ ان کے نزدیک سارے انسان، بنی آدم ہونے کی حیثیت سے برابر تھے اور یہ ہر ایک قوم اور فرقہ کے لئے خیر مانگتے تھے۔

”ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بانی جماعت تبلیغ نے حضرت

مدنی سے کہا کہ مسلمانوں کے لئے دعا فرمائیے، تو حضرت مدنی نے تیز لہجہ میں فرمایا

کیوں؟ کیا غیر مسلم مخلوق خدا نہیں ہے؟

جنگ آزادی اور اتحاد و اتفاق کی راہ میں دامنے درمے درمے سخنے اس اخلاص

اور بے غرضی کے ساتھ شرکت کی مثال پورے ہندوستان میں کوئی دوسرا ارادہ یا مرکز نہیں پیش کر سکتا۔ مختصر یہ ہے کہ یہی وہ تنہا اور واحد جماعت تھی جس نے ملک میں سب سے پہلے آزادی کا نعرہ بلند کیا تھا اور غیر ملکی حکومت کے خلاف جھنڈا اٹھایا تھا مگر باوجود ان تمام حقارتی کے حکومت برطانیہ نے سو برس کی مدت میں کوئی ایسا موقع نہیں پیش آنے دیا جس میں اُس نے اس مدرسے کے ساتھ رعایت، احترام اور شرافت کا معاملہ نہ کیا ہو۔ ساری ہی خرابیاں تھیں مگر یہ مان لینا چاہیے کہ انگریز معمولی باتوں اور روزمرہ کے رکھ رکھاؤ میں کم ظرفی اور چھپورے پن کا قائل نہ تھا۔

اس کے مقابلے میں ہندوستان کی آزاد حکومت نے اختیار حاصل کرتے ہی مدرسہ دیوبند کے ساتھ پہلا معاملہ جو کیا اس کو کم ظرفی اور احسان فراموشی کے سوا کوئی دوسرا نام دینا مشکل نظر آ رہا ہے۔

دور دراز کے غیر ملکوں کے اور مصروف و مشغول مسلمان بقرعید کے موقع پر مدرسہ میں رقوم بھیج دیا کرتے تھے اور ان کی جانب سے یہیں قربانی ہو جی یا کرتی تھی۔ آزادی کے بعد پہلی بقرعید پڑی تو حسب معمول مدرسہ میں قربانی کے لئے جانور خریدے گئے، ان میں منجملہ دوسرے جانوروں کے گائیں بھی تھیں۔ مقامی حکام نے اعتراض کیا کہ گائے کی قربانی سے نقص امن کا اندیشہ ہے۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور مولینا طیب صاحب ہتم مدرسہ دونوں دیوبند میں موجود نہیں تھے۔ معاملہ فقہی اور دینی مسئلہ کا آپڑا تھا۔ جو جانور قربانی کی نیت سے خریدے گئے وہ اگر قربانی میں نہ دئے جائیں تو ان کا کیا جائے۔ جو حضرات موجود تھے انھوں نے صورت حال پر غور کیا اور حکومت کو یقین دلایا کہ مدرسہ میں گائے کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ مگر دو روز کے بعد مدرسہ کی تلاشی کا حکم آیا۔ آزادی سے پہلے حکومت برطانیہ کے دور میں اگر کبھی حکومت کو کسی قانونی اور آئینی تفتیش و تحقیق کی ضرورت پیش آتی تھی تو حکومت مدرسہ کے وقار اور احترام کو پوری طرح ملحوظ رکھتی تھی۔ مگر اس بار معاملہ سودیشی حکومت سے آپڑا تھا۔ کافی بحث و تمحیص اور انہام و تفہیم کے بعد حکومت تلاشی پر مضر رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دفن ترا

درس گاہوں اور کتب خانوں کے گوشہ گوشہ کی تلاشی لی گئی۔ کوئی غلاف ضابطہ چیز تو برآمد نہیں ہوئی، صرف وہ اشتہارات جن میں قربانی کے مسائل بیان کئے گئے تھے اور جن میں گائے کی قربانی کا مسئلہ بھی تھا ضبط کر لئے گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سفر سے آئے تو ان کو ان واقعات کا بہت صدمہ ہوا اور سارے ہندوستان میں مہینوں بلکہ سالوں صدائے احتجاج گونجتی رہی۔ اس موقع پر کسی شاعر کی ایک نظم اجمیعت کے دارالعلوم نمبر میں نقل ہوئی ہے۔ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیے۔

دارالعلوم دیوبند کی تلاشی

آج نیرنگ زمانہ سے تماشا ہوں میں !
 کسی ناکام وفا کا تہی پہلو ہوں میں !
 وہی شے آپ کی دشمن جو ہمیں پیاری ہے !
 جس نے لاکھوں کئے انگریز کے باغی پیدا !
 ضامن امن و اماں اور یہ خیانت افسوس !
 موسم گل میں بھی بوچھاڑ ہے انگڑوں کی !
 سچ کہو تم تو جفا کیش جفا کار نہیں !
 رام کو کس نے دیا دیش نکالا بولو !
 کہئے بانڈو پہ ہوئی تیغ نوازی کس کی !
 جو تھا بھارت کی نگاہوں کا ستار افسوس !
 ہے یہی مسلکِ امینِ دین کہئے گا !
 تنگی ظن کے معنی ہیں بھکاری ہونا !
 قاسم و سید و محمود شہید اسماعیل !
 مایہ قوم وہ محمود حسن زندانی !
 شیر میسور کا اعلانِ وفا بھول گئے !
 اور وہ کا گوری کے اشفاق کی خوئیں ڈولا !
 یاد تحریکِ خلافت کی نہیں قربانی !
 اب بھی انگریز کے گولوں کے نشان باقی ہیں !

آج تو ہین ملامت کا نشانہ ہوں میں !
 آج حسین احمد و آزاد کا آنسو ہوں میں !
 کیا یہی آپ کا انصاف رواداری ہے !
 دیوبند جس نے کئے بیکڑوں غازی پیدا !
 اس ادارے کی تلاشی و اہانت افسوس !
 آہ تقدیر صداقت کے پرستاروں کی !
 آج کہتے ہو مسلمان و فادار نہیں !
 کس نے گوتم کو دیا زہر کا پیالہ بولو !
 پاک سیتا پہ ہوئی دست درازی کس کی !
 کس نے گاندھی سے وفا کیش کو مارا افسوس !
 اپنے محسن کو جو ڈس لے اسے کیا کہئے گا !
 قوم کی موت ہے اخلاق سے عاری ہونا !
 قابلِ فخر مسلمان بزرگانِ جلیل !
 یاد ہوگا تمہیں وہ میرا جمالِ افغانی !
 میرے ٹپور سے بہادر کو بھی کیا بھول گئے !
 شوکت و اجل و انصاری وہ جوہر ہیں یاد !
 یاد ہے کیا تمہیں ہنگامہ قصہ خوانی !
 سینہ دل میں پیچھو لوں کے نشان باقی ہیں !

اپنے چھوڑے تمہیں سینے سے لگایا ہم نے !
 ہم نے رنگین بنایا ترے افسانے کو !
 وحدتِ قوم کی عظمت کے علم دار ہیں ہم !
 ایک دن مالکِ مختار یہاں ہم بھی تھے !
 ہم نے آنکھوں پہ بٹھایا تمہیں ایسا سجھا !
 کیا یہی آپ کا آئینِ جہاں داری ہے !
 خون اپنا سر میدان بہسایا ہم نے !
 گلشنِ ناز میں بدلاترے دیرانے کو !
 تمہیں ہرزد سے بچایا وہ خطا کار ہیں ہم !
 ایک دن ہند کے سردار یہاں ہم بھی تھے !
 تم نے نظروں سے گرایا ہمیں کانٹا سجھا !
 جس کے ادراک سے ہر نفہم و خرد خاری ہے !

ہم ہیں غدار تو پابندِ وفا تم بھی نہیں
 اپنی کثرت پہ زاتراؤ خدا تم بھی نہیں

صدارت اجلاس جمعیت علماء ہند

۱۹۴۸ء

آزادی کے فوراً بعد عین وحشت، درندگی اور ظلم و ناانصافی کے ماحول میں جماعت علماء حق نے حالات کی سنگینی ان کے روح فرسائے اور ان کے مقابلے کی تدابیر پر غور کرنے کے لئے بمبئی میں جمعیت علماء ہند کا سالانہ اجلاس مقرر کیا۔ یہ اجلاس حضرت کی زیر صدارت ۲۷ اپریل ۱۹۴۸ء کو منعقد ہوا۔ اس میں حضرت نے ۳۲ فل اسکیپ سائز کا خطبہ صدارت پیش فرمایا اور اس میں تقسیم ہند کے اسباب، اس کے بھیانک نتائج اور ہندوستانی مسلمانوں کی آئینہ زندگی کے لاکھ عمل پر روشنی ڈالی۔ حضرت نے قیام پاکستان کے لئے کانگریس کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ پورا خطبہ تو پیش کرنا ہمارے لئے مشکل ہے مگر اس کے بعض اقتباسات ملاحظہ کریجئے جن سے حضرت کے تاثرات کا اندازہ ہو جائے گا:

”کلکتہ، نواکھالی، گڑھ مکتیشر، بہار اور پھر صوبہ سرحد اور پنجاب کے انسانی سوز ہنگاموں نے ہندوستانیوں کے دماغوں پر وہ جنون مسلط کر دیا کہ کم و بیش ہر فرقہ تقسیم ہند کو نجات کا ذریعہ سمجھنے لگا۔ بسکھوں نے تقسیم پنجاب کا مطالبہ کیا۔ مہا بھانے تقسیم بنگال کا نعرہ لگایا اور جب خود باشندگان ملک تقسیم کا مطالبہ کرنے لگے تو کانگریس کو بھی کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ SELF DETERMINATION اور ان کے حق خود ارادیت کو سلب کر لیتی۔ چنانچہ انڈین نیشنل کانگریس نے بھی اپنی عظیم اتان تاریخ میں اس غلطی کا ارتکاب کیا جس کے لئے زعماء کانگریس کے دل آمادہ نہ تھے اور زبانیں اعتراف کر رہی تھیں کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں۔“

آگے چل کر حضرت نے بیان کیا کہ تاریخ کے اس نازک موڑ پر جمعیت علماء ہند نے

اپنا فرض پوری جرات اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا اور کانگریس کی پالیسی اور تقسیم سے بیزاری کا بجا ننگ دہل اعلان کیا:

”جمیۃ علماء ہند نے اس غلطی میں کانگریس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اور اجلاس لکھنؤ میں کانگریس کی اس عجیب و غریب غلطی سے بیزاری کا اعلان کیا مگر انوس زمام اختیار ان باتوں میں تھی جو تقسیم ہند کا فیصلہ کر چکے تھے۔“

آزادی اور تقسیم کے بعد کے فسادات اور قتل و غارت گری کے لئے ’بھی حضرت‘ نے برطانوی پالیسی ہی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ حضرت آج بھی اپنے اسی نظریہ اور موقف پر قائم تھے کہ اپنے مفاد کی خاطر سامراجی ذہن دونوں قوموں میں فساد و اقتران جاری رکھنا چاہتا ہے، فرمایا کہ:

”حدود پاکستان اور لاہور کے متعلق کچھ ایسے اصول اور نکات رکھے گئے کہ اعلان تصفیہ ایک ہولناک خانہ جنگی کا الٹی میٹم بن گیا۔ اور ہر فرقہ دوسرے کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مزید برآں باؤنڈری کمیشن جو اختلافی اور نزاعی حدود کے تصفیہ کے لئے مقرر کیا گیا تھا، بد قسمتی سے وہ ایسے فیصلے کی تلاش میں کامیاب ہو گیا جو مخصوص طور پر مسلمانوں کے لئے اشتعال انگیز تھا۔“

حضرت نے بڑی کلفت کی تقسیم کے بارے میں اس طنز اشارہ کیا ہے، ’اس میں مسلمانوں کے لئے ناقابل اطمینان حدود مقرر کی گئیں اور یہ صرف اس لئے کیا گیا کہ مسلمان برطانیہ کے سایہ عاطفت میں رہنے پر مجبور ہوں۔ اس کی دلیل حضرت نے یہ لکھی کہ:

”پنجاب خفیہ پولیس کے کمشنر MR JEN HINS نے برطانوی خفیہ کے ایک انسپرائی کو، ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کی تاریخ میں پنجاب کلب لاہور سے ایک خفیہ خط لکھا جو لندن کے اخبارات میں شائع ہوا اس میں HINS نے لکھا تھا کہ امید

یہی ہے کہ حد بندی کمیشن کے فیصلے سے مسلمانوں میں بے چینی بڑھ جائے گی اور اگر ایسا ہوا تو مسلمان برطانوی حفاظت کے زمرہ میں رہنا پسند کریں گے۔

اس خط پر پاکستان ٹائمز نے لکھا کہ پنجاب کے سابق گورنر SIR AVAN JEN KINS کے خط سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری بہت سی مشکلات کا سرچشمہ ہمارے یہ سابق حکمران ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انتقال اختیارات پر غور ہو رہا تھا تو یہ برطانوی افسر ہمارے ملک میں خفیہ ایجنٹوں کا جال بچھا کر ایک سازش کی تیاری کر رہے تھے۔

MR JEN KINS کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ حد بندی کا فیصلہ مسلمانوں کے لئے بے چینی کا موجب ہوگا؟ کیا ہم سمجھیں کہ حد بندی کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا؟ غیر منصفانہ فیصلہ سے ہی ہندوستان و پاکستان کے درمیان ناخوش گوار تعلقات پیدا کئے جاسکتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ اس لئے نا انصافی کی گئی کہ وہ کمزور پارٹی کے تھے۔ اشتعال کے نتیجے میں جب دوسری مصیبتوں سے پریشان ہوں تو لامحالہ انگریز کو یاد کریں اور محتاج ہو کر شاطرانِ برطانیہ کے پھندے میں پھنس جائیں۔

فسادات کی ظاہری نوعیت فرقہ وارانہ تھی مگر حقیقت سنگ دل اور ملکیت پرست ٹوریوں کے ہاتھ اس فرقہ پرستی کے پردے میں کام کر رہے تھے۔ پنڈت سندر لال کو گاندھی جی نے پنجاب کا دورہ کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ انھوں نے بیان میں کہا کہ میرا یقین ہے کہ کسی غیر جانب دار عدالت کے سامنے یہ ثابت کرنے میں کوئی دقت نہ ہوگی کہ اسلمہ اور گولی بارود کا زیادہ تر ذخیرہ جو مختلف مقامات پر ہندو مسلمانوں یا سکھوں نے استعمال کیا یا استعمال کیا جانے والا تھا وہ ذمہ دار برطانوی افسروں کے ذریعہ آیا۔

لائل پور کے مسلم ڈپٹی کمشنر نے وہاں کے ہندو چیرمین ڈسٹرکٹ بورڈ سے کہا کہ اگر اس ضلع کے انگریز کرنل فینچ کو ہٹا دیا جائے تو ایک بھی ہندو یا سکھ نہ لٹے گا۔ راولپنڈی کے تقریباً تمام سربراہان ہندو مسلمانوں کی متفقہ رائے تھی کہ وہاں کے مارچ کے فسادات کی براہ راست ذمہ داری مسٹر سی ایل کوٹس ڈپٹی کمشنر اور مسٹر میکڈانلڈ ہوم سکرٹری پر تھی۔

مشرقی پنجاب کے ایک ضلع میں جب ہندو مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ اقلیت کے لوگوں

کو نہ ستایا جائے تو ایک برطانوی افسر نے آگ کو دوبارہ سلگانے کی غرض سے موٹر میں طویل سفر کیا اور راستہ میں عوام پر گولیاں چلائیں اور ان کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ ان واقعات، اعداد و شمار اور مقامات کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں سے انگریز افسران فسادات اور بد امنی کو ہوا دینے کے لئے اسلحہ اور ہتھیار سپلائی کر رہے تھے، حضرت نے فرمایا:

”واقعات کی شہادت یہ ہے کہ جس زمانے میں ہندوستان آزادی کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا اور ہندوستانی لیڈران آئینی، قانونی اور پرامن طریقہ پر برطانیہ سے حصولِ اختیارات کی جدوجہد میں مصروف تھے، میں اسی زمانے میں ٹورسی پارٹی کے انگریز کارکن سرزمین ہندوستان میں فسادات کی بارودی سُرنگیں بچھا رہے تھے۔ ابھی ۵ اگست آیا بھی نہ تھا کہ سُرنگیں بھڑکنے لگیں اور تقریباً ۱/۲ ہندوستان کی اقلیتوں کو نذرِ آتش کرنے لگیں۔ تبادلا آبادی نے اس آگ پر تیل کا کام کیا اور بربریت و وحشت کی وہ مثالیں پیش کیں جن کی نظیر سے ہندوستان کی تاریخ خالی ہے۔“

اس کے بعد حضرت نے تبادلا آبادی کی اسکیم کی بنا پر جو مظالم اور تباہیاں پیش آئیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پنڈت سندر لال کی رپورٹ کا یہ اقتباس نقل کیا:

”انتقالِ آبادی کی کارروائی ان نیت کے ساتھ ایک گناہِ عظیم ہے، شاید اس سے زیادہ تاریک گناہ انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ مجھے تو اکثر یہ خیال آتا ہے کہ کم از کم ہمارے ایک درجن چوٹی کے لیڈر جن میں سیاسی پارٹیوں کے لیڈر شامل ہوں اور برطانوی قوم کے سیاسی لیڈروں پر اس جرم کا مقدمہ انہی پناہ گزینوں کے سیدھے اور غیر جانب دار نمائندوں کی عدالت میں چلانا چاہیے جن پر ان مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔“

آگے چل کر حضرت نے انغوا شدہ خواتین کی مظلومیت، مصیبت اور حالِ زار کا تذکرہ کر کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ:

"ظلم و ستم کا استیصال اور مظلوموں کو نجات دلانا اسلام کے پروگرام کا ایک حصہ اور مسلمانوں کا فرض ہے۔ اس لوٹ مار اور قتل و غارت کو اسلامی جہاد کہنا اسلام کی مہلکانہ توہین ہے۔"

تحریک پاکستان اور اس کے نتائج کے بارے میں وضاحت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمایا:

"اپنی خواہشات کو اسلام کی طرف منسوب کرنا اور من مانی چیز کو اسلامی چیز قرار دینا اسلام کے ساتھ ظلم عظیم اور ملت کے ساتھ غداری ہے۔ سیدھے سادے مسلمان ایک عرصے تک تحریک پاکستان کو اسلامی تحریک سمجھتے رہے لیکن اس سادگی اور غلط رہنمائی کے نتائج جو ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم چشم بصیرت رکھتے ہیں تو ہمیں سبق لینا چاہیے۔"

آگے چل کر گاندھی جی کے قتل اور ان کی خدمات کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت نے جمعیتہ علماء ہند کی سیاست سے علیحدگی کا اعلان فرمایا:

"جمعیتہ علماء ہند ہمیشہ سیاسیات میں ہندو مسلم اشتراک کی قائل رہی ہے۔ ہندوستان کبھی بھی سیاسی اور ملکی معاملات میں تفرقہ اور اختلاف کا قائل نہیں رہا ہے۔ اس کے حکومتیں خواہ مسلم حاکم کے زیر اثر رہی ہوں یا ہندو فرمانروا کے زیر نگیں کبھی بھی افتراق و امتیاز سے آشنا نہیں ہوئیں۔"

"۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد جبکہ ہندوستان اپنی قسمت کا نود مالک ہو گیا ہے اور انڈین یونین کی دستور ساز اسمبلی نے جداگانہ انتخاب کی نعمت کو انڈیا سے ختم کر دیا تو قدرتی طور پر جمعیتہ علماء بھی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئی جو اس نے جوہراً اپنے سر لی تھی۔ لہذا اس کی مجلس عاملہ منعقدہ یکم فروری ۱۹۴۷ء نے اعلان کر دیا کہ آئندہ جمعیتہ کا دائرہ عمل صرف مذہبی تمدنی اور تعلیمی حقوق و فرائض کے دائرے میں محدود ہوگا اور یہی اصول اب جمعیتہ علماء ہند کا مسلہ اصول ہے۔"

”اگرچہ ہندوستان میں مسلمان اب ۱/۲ سے گھٹ کر صرف ۱/۱۰ رہ گئے ہیں ان کی تجارتی اور اقتصادی حیثیت ختم ہو گئی لیکن تمام کمزوریوں کے باوجود انڈین یونین کے مسلمانوں کا مستقبل تاریک نہیں ہے۔ مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے عمل اور کردار سے ملک کے لئے مفید ثابت ہوں۔“

ایک خاص نکتہ جس کی طرف حضرت نے ارشاد فرمایا غور کرنے کیلئے اور یاد رکھنے کے بلکہ ریکارڈ رکھنے کے قابل ہے:

”پاکستان کے مفادات اور مصلحتیں الگ ہیں۔ اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے مفادات علیحدہ ہیں۔ کہیں کہیں ان دونوں مفادات و مصالح میں تضادات بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس لئے ہندوستانی مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں ہی کے مصالح کی طرف نظر رکھیں۔“

”اگر مسلمانوں کی خواہش ہے کہ ان کا مستقبل زیادہ شان دار ہو تو ان کا فرض ہے کہ اپنے عمل اور کردار سے اپنی اہمیت اور افادیت کو ثابت کریں۔ وہ ملک کے لئے جس قدر زیادہ مفید ثابت ہوں گے اسی قدر ان کی عزت و وقعت ہوگی۔ ملک اور ملک کی خدمت کا صحیح جذبہ اور قابلیت پیدا کریں۔ لامحالہ کامیابی اور کامرانی ان کے ہم آغوش ہوگی۔ تقسیم ہندوستان نے مسلم مفادات کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ جس طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ جو معاملہ پاکستان کے لئے مفید ہو وہ انڈیا کے لئے بھی ہو بلکہ بسا اوقات پاکستان اور ہند کے مفاد میں تضاد پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو معاملہ پاکستانی مسلمانوں کے لئے مفید ہو وہ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے بھی مفید ہو۔ بلکہ ممکن ہے کہ کوئی معاملہ پاکستانی مسلمانوں کے لئے مفید ہو مگر ہندوستانی مسلمانوں کے لئے تباہ کن ہو۔ جب مفادات میں ایسا تضاد ہو جائے تو سوال یہ ہے کہ ہمیں ہندوستانی مسلمانوں کے مفاد کا لحاظ رکھنا ہوگا یا پاکستانی

مسلمانوں کے مفاد کا؟ ظاہر ہے کہ ہم پر پاکستانی مسلمانوں کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں۔ ہم برہندوستان کے تقریباً چار کروڑ مسلمانوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہیں ہر صورت میں وہ مشکل اختیار کرنی چاہیے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے مفید ہو۔

ہماری خواہش ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوں۔ لیکن اگر کسی موقع پر ان دونوں کے نقطہ نظر میں اختلاف ہو تو ہمیں اسی اصول کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوگا اور یہی اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے۔

مذکورہ بالا مشورہ، نصیحت یا لائحہ عمل ہندوستانی مسلمانوں کی خصوصی توجہ اور اہتمام کا مستحق ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک معمولی تقریر یا رسمی خطبہ صدارت نہیں ہے بلکہ ایک قوم اور ملک کے مستقبل کا پروگرام ہے جس پر مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا دارومدار ہے۔ اس ضمن میں حضرت نے مسلمانوں کو مسلسل جہاد میں مشغول رہنے کا مشورہ دیا کہ بغیر جہاد کے ہندوستان میں ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے مگر جہاد کا وہ مطلب نہیں جو عوام ظاہری اعتبار سے سمجھ بیٹھے ہیں بلکہ اس کے معنی صبر، استقامت، ضبط و تحمل اور اخلاق عالیہ سے مزین زندگی ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اختیار فرمایا ہے :

”اسلامی تعلیمات، قرآن حکیم کے حکم و مواعظ، ربّانی ارشادات آپ کے

سامنے ہیں اگر آپ صحیح طور پر ان پر عمل کریں تو تارتخ پھر اپنے آپ کو دہرا سکتے ہیں۔ اور ایسے پاک نفوس سامنے آسکتے ہیں جو مرجع خلافت ہوں اور ہر فرقہ اور جماعت کے نیک سیرت ان کی تعظیم و تکریم پر مجبور ہوں۔ آج مسلمانوں کو جہاد کا لفظ یاد رہ گیا ہے مگر یہ یاد نہیں رہ گیا ہے کہ باشدنگانِ مکہ جیسے مسانین اسلام اور دشمنانِ ملت کے مقابلے میں صبر و استقامت، ضبط و تحمل کے ساتھ

اعلیٰ اخلاق کے مظاہرہ کو جہاد اکبر فرمایا گیا ہے۔ وجاہد ہم بہ، جہاد اکبراً۔ اور خود اپنے نفس کے غیر صالح جذبات، مضبوط خواہشات اور اخلاق رذیلہ کے پامال کرنے کو اور ان کے بجائے صالح جذبات اور سکرام اخلاق سے مزین ہونے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجعتنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر۔ اس جہاد کبیر اور جہاد اکبر میں تیغ و تفتنگ کی ضرورت ہے نہ خنجر و سنناں کی۔ بلکہ صرغ مضبوطی اور پختگی کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے جو ہتھیاروں سے زیاں زد اتر ہے۔

اصبر کما صبر الوالعزم من الرسل وتوکل علی اللہ۔ ودع اذا هم وتوکل علی اللہ۔

الوالعزم پیغمبروں کی طرح صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ان کی ایذا رسانیوں کی پروا نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔

مہتمم دارالعلوم دیوبند کی ہجرت پاکستان

عام مسلمان اور پاکستان کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے والے کم پڑھے لکھے یا بالکل ہی ناخواندہ لوگوں نے تو اس طرح ہجرت کی کہ گھر بار، جان مال، عزت و آبرو غرض پوری متاع زندگی داؤ پر لگا کر روانہ ہوئے مگر تعلیم یافتہ اور سیاست سے آشنا حضرات نے زیادہ تر ایسی حالت میں ہندوستان چھوڑا کہ ایک سوئی کا نقصان بھی نہیں اٹھایا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ کسی خاص عنوان سے محدود ویزا پر پاکستان گئے۔ دو چار ماہ رہے، حالات کو ٹٹولتے رہے دیکھا کہ موقع بیٹھ رہا ہے تو رہ گئے ورنہ مدت مقررہ کے اندر اندر واپس آگئے۔ بہت سے ایسے بھی رہے کہ موقع کی تلاش میں آج آج کل آج کل کرتے کرتے واپسی کی مدت ختم ہوگئی اور لاکھ لاکھ سر پٹکتے رہے مگر کبھی واپس نہیں آسکے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ مہتمم دارالعلوم حضرت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خلیفہ تھے اور اپنے مزاج اور رجحان کے اعتبار سے مسلم لیگ اور پاکستان کے مؤید، معترف اور مددگار تھے۔ مگر چونکہ اس تائید و طرف داری سے علی الاعلان مدرسہ میں سیاسی مجاز آرائی ہوتی تھی اس لئے جماعت کے مصالح کا خیال فرماتے ہوئے ہمیشہ اپنی رائے اپنے ہی تک محدود رکھتے تھے۔ لیکن پاکستان بن جانے کے بعد نوعیت بالکل الگ ہوگئی تھی۔ علماء کرام وہاں تشریف لے جا رہے تھے اور شیخ الاسلام، مفتی اعظم اور مقتدا امت جیسے مناصب پر فائز ہو رہے تھے۔ حضرت مہتمم صاحب بھی کسی موقع پر پاکستان تشریف لے گئے تو تلامذہ اور متقیدین نے وہیں قیام پر اصرار کیا۔ فوری طور پر کوئی صورت تو سامنے نہ آسکی مگر اس ہنگامہ و دوام میں واپسی کی مدت ختم ہوگئی اہل دعویٰ تو سب ہندوستان میں تھے ہی موصوف کی شہرت، عزت اور مقبولیت بھی بہ نسبت پاکستان کے ہندوستان میں کسی گنا

زیادہ تھی۔ ان حالات میں ہندوستان واپسی ضروری سمجھی گئی۔ مگر اب راستے ہمیشہ کے لیے سدود ہو چکے تھے۔ سمول کے مطابق ہندوستانی ہائی کمیشن کی طرف رجوع کیا تو حمان جواب ہو گیا۔ ادھر ادھر سے سسی سفارش کرائی تو بالکل بے سود ہوئی۔

آخر کار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کر واپسی کے لئے چارہ گری کے طالب ہوئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے منتظر ہی تھے خط پانے ہی مولانا حفظ الرحمن سے فرمایا کہ مولانا طیب صاحب کی واپسی کی اجازت حاصل کریں۔ مولانا نے ارباب حکومت سے رجوع کیا تو پتہ چلا کہ اب ان کی واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ ہر دیسل کے جواب میں حکومت یہ کہتی تھی کہ اگر ان کو اجازت دے دی گئی تو بڑے بڑے مسلم لیگیوں اور پاکستانیوں کے لئے دروازہ کھولنا پڑے گا، بہت سے اصحاب رائے بھی اس بات کے خلاف تھے کہ حضرت مولانا طیب صاحب کو واپس بلا یا جائے مگر حضرت ایسی ہر تجویز کو سختی سے رد کرتے رہے اور آخر طور پر برہنہ نفس مو لیسنا ابو الکلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وزیر تعلیم کے پاس تشریف لے گئے۔ مولانا آزاد ملاقاتوں اور معاملات میں ضوابط و قواعد اور دوسرے لفظوں میں پر ڈوکول کے بہت پابند تھے۔ بلا اطلاع اور تعین وقت کے کسی سے نہیں ملتے تھے۔ اب تو خیر حکومت کے حلقہ وزارت سے منسلک تھے۔ جب بالکل ہی گوشہ نشین تھے اس وقت بھی ان کے رکھ رکھاؤ اور پابندی ضوابط کا یہی حال تھا۔ ایک بار ملک کے سب سے بڑے اور تہلہ احترام لیڈر سی آر داس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ میں مشغول ہوں کسی دوسرے وقت آئیں۔ ادھر اپنے حضرت کا یہ حال تھا کہ انھیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ملاقات کے لئے بھی کسی پابندی اور ضابطہ داری کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ حسب دستور بلا کسی تکلف اور اہتمام کے پہنچ گئے۔ مولانا آزاد کے یہاں ان ضوابط و قواعد میں کچھ مستثنیات بھی تھے جن میں حضرت بھی شامل تھے حضرت نے سلام و دعا کے بعد اظہار مدعا کیا۔ مولانا نے حضرت کو تفصیل سے سمجھا یا کہ قانون کی پابندی لازمی ہے اور اس کی رو سے مو لیسنا طیب صاحب کی واپسی ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولانا آزاد نے اپنی رائے کا بھی

ظہار کیا کہ مولانا طیب صاحب وہیں بہتر ہیں آپ ان کو وہیں رہنے دیں۔ اس بات پر حضرت کے تیور بدل گئے اور سختی سے فرمایا کہ ان کو ہر حال میں یہاں آنا چاہیے۔ آپ اس معاملے میں لیت و لعل نہ کریں۔ مجبور ہو کر مولانا آزاد نے پنڈت جواہر لال کو فون کیا اور حضرت کے اصرار کے بارے میں تفصیل سے مطلع کیا۔ پنڈت جی نے اسی وقت فرمادیا کہ آپ حضرت کو مطمئن کر دیں میں ابھی ان کی واپسی کے احکامات صادر کرتا ہوں۔ مولانا طیب صاحب جب دیوبند پہنچے تو طلباء دیوبند اساتذہ اور خود حضرت نے ان کا بہت شاندار استقبال کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ موصوف کوئی بڑا دینی اور اسلامی معرکہ سر کر کے آئے ہیں۔ راقم الحروف نے دیکھا اور خوب اچھی طرح یاد بھی ہے کہ ہتم صاحب ٹرین سے اتر کر حضرت کی طرف لپکے اور معانقہ و مصافحہ کیا۔ حضرت نے اپنی خیر مقدمی تقریر اس شعر اے تماش گاہ عالم روئے تو۔ تو کجا بہر تماشائی روی اے شروع کی۔ اسی شام کو مدرسہ میں مولینا کے اعزاز میں جلسہ ہوا۔ حضرت ہتم صاحب نے اپنی تقریر سے پہلے یہ شعر پڑھا۔

کہاں میں اور کہاں یہ نکبت گل نسیم صبح تیری مہربانی
اور پھر فرمایا کہ اب جبکہ میری واپسی کی ساری تدابیر مسدود ہو چکی تھیں۔ یہ محض حضرت مدنی مدظلہم کی مہربانی ہے کہ میں آج پھر یہاں حاضر ہوں۔

مدرسہ دارالعلوم کی سیاست اور معاملات میں اس واقعہ کی اہمیت کیا تھی؟ ہمیں اس سوال سے کوئی تعلق نہیں یہاں پر نمونہ اس بات کا دکھلانا ہے کہ آزادی کے بعد حضرت نے مدارس اسلامیہ اور مراکز دینیہ کی طرف بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی توجہ مرکوز رکھی اور اس پالیسی پر عمل پیرا رہے کہ تقسیم کے نتیجہ میں اور اس افزائفری کے وقت میں مدارس میں کوئی کمزوری تبدیلی اور بد نظمی نہ ہونے پائے۔

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی تاریخ اور پاکستان کے لئے اس کی خدمات کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آزادی کے فوراً بعد اس کی بقا اور تحفظ کا سوال بڑا نازک اور اہم تھا۔ حضرت کی زیر قیادت ان کے خدام اور جیوئے علماء کے ذمہ داران نے دن رات ایک کر کے

اس کی بنیادوں کو پھر سے مضبوط کیا جو جڑ سے ابل چکی تھیں۔ مدرسہ عالیہ عربیہ کلکتہ تو تقریباً بند ہی ہو چکا تھا۔ مگر حضرت کی زیر ہدایت آپ کے معتقدین 'مریدین اور تبعین عثمانیہ کی ایک جماعت مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا حمید الدین صاحب سابق شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء، مولانا محمد کیفیل صاحب بمبوزی رحمہم اللہ، مولانا مفتی رشید احمد صاحب، مولانا محمد طاہر صاحب وغیرہ وغیرہ نے کلکتہ پہنچ کر مدرسہ کی خدمات کو از سر نو زندہ کیا اور پہلے سے زیادہ ترقی پر گامزن کیا۔ آج ہندوستان میں جو مدارس دینیہ اور مراکز اسلامیہ اپنی سابقہ روایات اور طریقوں پر سرگرم عمل ہیں اس میں حضرت رحمۃ اللہ کی پیش بندیوں، جانکاہیوں اور خدمات کا بہت بڑا دخل ہے۔

اس باب میں ایک تاریخی حقیقت جریدہ عالم پر ہمیشہ تابندہ و پائندہ رہے گی کہ حضرت کی کوششوں کی تکمیل و تنفیذ امام الہند مولانا آزاد کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ ہندوستان اور ملت اسلامیہ کی تاریخ میں مولانا کا یہ کارنامہ ہمیشہ سنہرے حروف میں چمکتا رہے گا۔

حکومت ہندوستان اور حضرت

ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں جن اصحاب نے ہندوستان کی آزادی یا اس کی تقسیم کے لئے ٹھوڑی بہت بھی خدمتیں انجام دی تھیں انہوں نے آزادی کے بعد اس کی خوب خوب قیمتیں وصول کیں۔ البتہ بہت سے حضرات ایسے بھی نکلے جنہوں نے از خود کوئی مطالبہ یا درخواست نہیں کی مگر حکومت کی طرف سے اگر کوئی پیش کش ہوتی تو بدل و جان قبول کیا۔ حضرت کا دامن اس نوع کی کسی بھی آلودگی سے کبھی ملوث نہیں ہوا۔ گورنمنٹ کی کیبنٹ کے سارے ہی ممبران حضرت کے جیل اور ریل کے پرانے رفق تھے۔ ان میں سے بعض بہت زیادہ متفقہ تھے اور بعضوں سے بڑے قریبی تعلقات تھے۔ مگر شدید اور نازک ترین قومی اور ملکی مسائل کے مواقع کے علاوہ حضرت نے کبھی ان لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کی۔ یہ ضرور ہے کہ جو صاحبان از خود ملاقات کے لئے آستانہ پر حاضر ہو گئے یا درخواست کی ان سے پوری بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج اور طبیعت تانسیہ تھی کہ عامی 'عالی' بڑے چھوٹے اور مال دار و فقیر ہر ایک کے ساتھ یکساں مروت، اکرام و احترام اور دلداری کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کسی کے ساتھ کوئی کوتاہی کرتے تھے کسی کے لئے 'مبالغہ آرائی' فرماتے تھے۔

سنہ اور تاریخ تو اب یاد نہیں مگر واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ذہن میں ہے کہ ایک بار ملک اور تاریخ ہندوستان کے مشہور لیڈر سبھاش چندر بوس سلہٹ گئے۔ اتفاق سے حضرت بھی اس وقت وہیں موجود تھے اور رمضان شریف کے اخیر عشرے میں حسب معمول مسجد میں متکف تھے۔ سبھاش نے حضرت سے ملاقات کی خواہش کی۔ لوگوں نے بتلایا کہ وہ مسجد میں متکف ہیں اور باہر تشریف نہیں لاسکتے۔ اس پر انہوں نے مسجد ہی

میں حاضری پر اصرار کیا۔ ان کی استقبالیہ کے لوگ پہلے تو بہت پس دہش میں پڑے مگر آخر میں حضرت کے سامنے ان کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ حضرت کی اجازت پر وہ مسجد اور معتکف ہی میں تشریف لائے۔ راقم السطور اس وقت عمر کے اُس مرحلے پر تھا کہ نہ ملاقات کی کوئی اہمیت محسوس ہوئی اور نہ ملاقات کرنے والوں میں کوئی خصوصیت نظر آئی۔ اس لئے باوجود مجلس میں حاضری کے یہ بالکل یاد نہیں کہ ملاقات کتنی دیر ہوئی اور کیا باتیں ہوئیں۔

کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی غیر ملکی اہم شخصیت کی ہندوستان آمد کے موقع پر حکومت ہند کا یہ پروگرام ہوتا تھا کہ حضرت ان سے ملاقات کریں۔ مصر کے مشہور لیڈر اور سابق صدر انور السادات ہندوستان آئے۔ اس وقت وہ شاید مصر کے مذہبی امور کے وزیر اور جمال عبدالناصر کے بڑے متحد تھے۔ حکومت ہند نے ان کی دیوبند حاضری کا اہتمام کیا۔ حضرت نے حسب عادت ان کے ساتھ اخلاق کریمانہ اور عزت افزائی کا معاملہ کیا۔ اس موقع پر ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ بوقت رخصت انور السادات نے حضرت کے ساتھ نوٹو کھینچوانے کی خواہش ظاہر کی اور عرض کیا کہ ایک منٹ کے لئے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت کو خیال بھی نہ آیا کہ اس کھڑے ہونے کا کیا مطلب مقصد ہے۔ چلتے چلتے کھڑے ہو گئے۔ نوٹو گرفتار نے کیمروہ سامنے کیا تب بھی حضرت نہیں سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیوں سامنے لائی گئی ہے۔ مگر جب فلش کی چمک ہوئی تب حضرت کو یاد آیا کہ ایسی روشنیاں جلسوں جلوسوں میں نوٹو کھینچنے کے وقت ہوتی ہیں۔ فوراً ترشردی کے ساتھ الگ ہو گئے اور تلخی کے ساتھ سادات کو مخاطب کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے دوزخ میں جو لوگ جائیں گے وہ مصورین ہی ہوں گے۔ ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرشاد نے بھی حضرت سے ملاقات اور مدرسہ میں حاضری کے لئے دیوبند آنے کا ارادہ کیا۔ صدر جمہوریہ کے باڈی گارڈ عملہ نے اعتراض کیا کہ صدر دمد اور قلب کے مریض ہیں، دیوبند چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اس میں راحت رسائی کے انتظامات نہیں ہو سکتے۔ مگر راجندر پرشاد

کے اصرار پر حکومت کو مجبور ہونا پڑا اور آخر کار وہ دیوبند آئے اور حضرت رحمۃ اللہ نے اپنی مزاجی خوش خلقی کے ساتھ ان کی تواضع فرمائی۔

سابق وزیر اعظم ہندوستان لال بہادر شاستری آستانے پر حاضر ہوئے اس وقت وہ حکومت ہند میں ریوے منسٹر تھے۔ متواضع اور منکسر مزاج انسان تھے۔ حضرت کی مجلس میں ایک فرد تریجگہ پر بیٹھ گئے۔ حضرت نے مجلس کی ممتاز جگہ پر اشارہ کر کے فرمایا کہ اب آپ وزیر ہیں اس جگہ تشریف رکھیے۔ انھوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ حضرت آپ کو یاد نہیں رہا۔ جیل میں بھی آپ کے دربار میں میری یہی جگہ مقرر تھی۔ آج بھی میں یہیں بیٹھوں گا۔

ایک دوسرے مرکزی وزیر مہا بیر تیاگی بھی بغیر کسی رسمی تکلفات کے حضرت کے دولت کدے پر آکر ملے۔ پنڈت گوندو لہجہ پنت جس وقت یوپی کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اس زمانے میں کسی سرکاری دورے پر دیوبند تشریف لائے اور حاضری کا ارادہ کیا۔ حضرت نے کثرت مشاغل کی بنا پر غدر فرمایا مگر ان کے میزبان انھیں عصر بعد کی عام مجلس میں لے آئے جس میں ہر کس و نا کس کو باریابی کی اجازت تھی۔ جب وہ آہی گئے تو حضرت نے حسب عادت و مزاج خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملاقات فرمائی۔ اسی طرح مرحوم رفیع احمد قدوائی بھی ایک دن بلا اطلاع تشریف لائے اور عام حاضرین کی صف میں فروکش ہو گئے۔ کسی نے انھیں پہچانا بھی نہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت اندرون خانہ سے برآمد ہوئے تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ قدوائی صاحب ہیں۔ اس قسم کی ملاقاتوں کے علاوہ کبھی کبھی قومی اور ملی تقاضوں پر حضرت اور حکومت کے ذمہ داران 'راجندر پرشاد' جواہر لال اور مولانا ابوالکلام آزاد کے درمیان مراسلت بھی ہوتی تھی۔ افسوس کہ اُس درویشانہ اور فقیرانہ ماحول میں اس کی کبھی کوئی اہمیت نہ سمجھی گئی کہ ان مراسلات کی نقول رکھی جائیں اس لئے کہ حضرت اس قسم کی رسمی اور غیر ضروری باتوں کی طرف کبھی توجہ نہیں فرماتے تھے۔

حکومت ہندوستان نے خدمات کے اعتراف کے طور پر حضرت کو پدم و بھوشن کا خطاب دیا۔ اس خطاب کے ساتھ کوئی تمغہ، خلعت اور تاجیات کوئی ماہوار رقم پیش کی جاتی ہے جس مجلس میں قاصد نے اس خطاب کی اطلاع دی حضرت نے اسی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ

حکومت کو لکھ دیا جائے کہ میں یہ خطاب نامنظور اور واپس کرتا ہوں۔ اس بارے میں جو خط حضرت نے حکومت ہند کو لکھا وہ انکار کی صیغہ میں پیش کرتا ہے۔

بمغفور جناب فیض آب صدر جمہوریہ ہند دام اقبالکم

بعد از آداب عرض آنکہ اگرچہ اب تک مجھ کو باقاعدہ کوئی اطلاع نہیں دی گئی مگر اخباروں میں شائع شدہ اطلاعات سے معلوم ہوا کہ جناب نے پدم و بھوشن کے تمغے سے بنا بر صدارت جمیعتہ علماء ہند اور خدمات عالیہ دارالعلوم دیوبند اور جذبہ آزادی وطن میری عزت افزائی ہے، اگر واقعی ہے تو میں آپ کی اس عزت افزائی اور تقدیرانی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور عرض رساں ہوں کہ چونکہ ایسا تمغہ میرے نزدیک پبلک کی نگاہوں میں بے لوث آزاد خادان ملک ملت کی آزادی رائے اور اظہار حق کو مجرد کرنا اور قومی حکومت کی مسیح اور سچی راہ نمائی کی راہ میں ایک قسم کی رکاوٹ ہے اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعد شکریہ اس تمغہ کو واپس کر دوں۔

ننگ اسلان حسین احمد غفرلہ

۲۴ ستمبر ۱۹۵۴ء

آزاد حکومت کے ساتھ حضرت کا تعلق بس اپنی حدود تک محدود رہا۔ قومی اور ملکی معاملات کے علاوہ حضرت نے حکومت سے نہ کوئی لفظ کہا نہ لکھا اور نہ از خود کبھی کسی ذاتی معاملات کے لئے تشریف لے گئے۔

اجلاسِ جمعیتہ علماء لکھنؤ کی صدارت

۱۹۴۹ء

آزادی ملے کچھ کم دو سال ہو چکے تھے مسلمانوں کے گوناگوں مسائل اور مشکلات روز بروز فروں تر تھے۔ تعصب اور عناد کا معاملہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں یوپی میں زیادہ نمایاں تھا۔ اس بار جمعیتہ علماء ہند کا سولہواں اجلاس اسی صوبہ کی راجدھانی یوپی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زیر صدارت منعقد کیا گیا۔ اس میں حضرت نے جو خطبہ صدارت ارشاد فرمایا وہ ہندوستانیوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لئے ایک قیمتی دستاویز ہے جس میں کچھ روشنی گذشتہ سیاست پر بھی ہے اور مستقبل کا لائحہ عمل بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس جگہ اس خطبہ کی صرف تلخیص ہی نقل کی جاتی ہے جس سے اصل کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔

حضرت نے فرمایا:

یہ برطانیہ کی سیاست بازی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان کی دو بڑی قومیں آپس میں برسریکار ہوئیں۔ برطانیہ نے دو قومی نظریہ کی ایجاد اسی مقصد کے لئے کی تھی کہ ہندوستان کے ککڑے کرٹے جائیں اور اسی نظریہ کے ذریعہ سے نو اکھالی، بہار، گڈھ مکتیشہ، بمبئی، احمد آباد، الہ آباد اور پنجاب وغیرہ کی سرزمین کو ظلم و ستم کے خون سے سینچ کر تقسیم کی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا۔ جس کے نتیجے میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ کانگریس جیسی قومی جماعت نے بھی تقسیم کو منظور کیا۔ جمعیتہ علماء ہند ایک اکیلی جماعت ہے جس نے آخر تک تقسیم کی پوری طاقت کے ساتھ مخالفت کی۔ دو سال کی قلیل مدت میں ملک کے ہر فرد اور ہر طبقہ نے دیکھ لیا کہ تقسیم کے نتیجے میں لاکھوں ہندو مسلمان نباہ و برباد ہوئے اور موت کے گھاٹ اتر گئے، کروڑوں انسان بے در، بے گھر اور خانماں برباد ہو گئے۔ ہزاروں بہنوں بیٹیوں اور بہوؤں کی عصمت و عفت کا دامن تار تار کر دیا گیا۔ یہ واقعات دل و دماغ میں زخم بن کر چھبہ

رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہمیں اتنا اطمینان ضرور ہے کہ ہمارے ہاتھ
تقسیم ہندوستان کے خون سے پاک ہیں۔

جدید ہندوستان کی تعمیر میں مسلمانوں کا حصہ

جو کچھ گزر گیا وہ ختم ہوا مگر اب ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آئندہ
کے لئے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے؟ ملک کی کمزوریوں کو کس طرح ختم کیا جائے
جنگ آزادی کے دوران عوام سے جو وعدے کیے تھے ان سے کس طرح عہدہ برآ ہوا جائے۔
سب سے پہلے ہمارے سامنے علمی اور تعلیمی ترقی کی انتہائی ضرورت سامنے آتی
ہے۔ ہماری اور خاص طور پر مسلمانوں کی پوری توجہ اور جدوجہد اس میدان میں خسر چ
ہونی چاہیے کہ ہم ایسی علمی قابلیت اور ایسی امتیازی حیثیت حاصل کریں کہ حکومت، عوام
اور ملک ہم سے استفادہ کرنے اور ہماری قابلیت کے اعتراف پر مجبور ہو جائے۔ اس
کے ساتھ ہمیں دینی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پر بھی اپنی کوششیں مرکوز کرنی پڑیں
گی۔ اگر دنیا میں اور ملک میں امن قائم رکھنا ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ مادی
ترقیات کے ساتھ ساتھ اخلاقی ترقی اور اصلاح کا بھی پورا خیال رکھا جائے اور اس کے
لئے دلوں میں خوف خدا اور دینی و مذہبی اسپرٹ بیدار کرنی سب سے زیادہ ضروری ہے۔

زبان اور رسم الخط

زبان اور رسم الخط کا سلسلہ بھی نازک اور نہایت اہم ہے۔ ملک میں یک جہتی اور
اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جس طرح انڈین نیشنل کانگریس اور مہاتما گاندھی
نے ہندوستانی کو پورے ملک کی زبان بنا نا طے کیا تھا اس پر عمل کیا جائے۔ ہندوستانی
زبان کا رسم الخط دیوناگری بھی ہو اور اردو بھی ہو۔ زبان کسی مذہب کا جزو نہیں ہوتی۔ اسلامی
تصنیفات اور تعلیمات کا بڑا ذخیرہ اردو میں موجود ہے۔ مگر اب وہ ہندی اور سنسکرت میں بھی
منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ کس قدر افسوسناک اور حیرت انگیز بات ہے کہ ہندوستان کے مختلف

فرقے جو صد ہا سال سے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں ایک دوسرے کے خیالات، عقائد، ان کی مذہبی فلاحی اور ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہوتے۔ جو ملک سیکڑوں ہزاروں میل دور ہیں ان کی زبان، تہذیب اور احساسات و نفسیات تو ہماری توہجات کا مرکز بن سکتے ہیں مگر خود اپنے ملک والوں کی تواریخ اور معتقدات سے ہم ناواقف رہتے ہیں۔ آج ہندی قومیت کے افراد اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس اجنبیت کو ختم کریں۔ ہندی قومیت والے ہندوستانی زبان اختیار کریں اور ہر ہندوستانی ہندی کے ساتھ اردو سے بھی واقف ہو اور مسلمان اردو کے ساتھ ہندی تعلیم میں بھی جدوجہد کریں۔

ملک کی حقیقی اور سچی تاریخ کی ضرورت

برطانیہ کی باقیات جمیٹہ میں سے ایک وہ طومار ہے جس کو ہندوستان کی تاریخ جدید کہا جاتا ہے جو اس وقت اسکولوں اور کالجوں میں داخل نصاب ہے اور نوجوانوں کو یاد کرائی جاتی ہے۔ یہ ہندوستان کی صحیح تاریخ نہیں ہے بلکہ "تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو" کی پالیسی کو کامیاب بنانے کے لئے برطانوی دماغوں کی پیداوار ہے۔ تاریخی ماخذ سے نہیں بلکہ سیاسی ضرورتوں سے گڑھی گئی ہے۔ اس کے ثبوت میں حضرت نے برطانوی مولفین و محققین کے حوالے دینے کے بعد فرمایا اگر آج ہم اخلاص، اخلاق اور انسانیت کی بنیادوں پر نئے ہندوستان کی تعمیر کر رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سخی شدہ تاریخ کی اصلاح کریں اور ہندوستان کے اخلاقی معیار کو اجاگر کریں۔"

ملک میں مسلمانوں کا مستقبل

آج ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سوال وہی قوم کر سکتی ہے جس کے پاس اپنی تاریخ اور اپنا لائحہ عمل موجود نہ ہو۔ اسلام نے ہماری زندگی اور مستقبل کے لائحہ عمل کو ہمارے اپنے کردار، جدوجہد اور عمل پر موقوف رکھا ہے۔ ان اللہ لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بآلئفسہم، یعنی عزت، ذلت، بلندی، پستی، کامیابی، ناکامی

اقبال مندی و نامرادی کی جو بھی حالت کسی قوم کی ہوتی ہے خدا اس میں تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے عمل اور کردار میں تبدیلی نہ پیدا کرے۔

اجتماعی اور قومی زندگی میں جو مشکلات اور ناکامیاں پیش آتی ہیں ان کو لوگ خدا قدرت یا قسمت پر محمول کر دیتے ہیں، مگر قرآن حکیم اس کا ذمہ دار خود ہمارے ہی کردار اور افعال کو قرار دیتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں: وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم جو مصیبت تم کو پیش آئی وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل ان کے اپنے کردار، قوت عمل، اخلاق فاضلہ، صبر و انتظار اور حسن تعامل پر موقوف ہے۔ اپنے ملک میں اپنا حصہ قوت عمل، محنت اور ترقی کی روڑ میں حصہ لے کر حاصل کیجئے۔ ہندوستان ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہے۔ اگر آپ کے پاس اہلیت اور قابلیت ہے تو یہاں آپ کے حقوق کوئی غصب نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی قوم اپنے حقوق اور حصہ کی بھیک مانگتی ہے تو اس خیراتی زندگی سے موت اچھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں پر بڑا صبر آزما وقت آپڑا ہے اور آئندہ اس سے بھی زیادہ حوصلہ شکن حالات پیش آئیں گے مگر یہ بھی ایک حقیقت ثانیہ ہے کہ آپ کی عظمت اور وقار کا راز حسن عمل، اخلاق کریمانہ اور اعلیٰ کردار میں مضمر ہے۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا نام سرفہرست ہونا چاہیے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے صبر و اتحاد اور توکل علی اللہ کی ہدایت فرمائی ہے: اصبر و صابروا لولوا بطور العتوا للہ لعلکم تفلحون۔ وان اللہ مع الصابرين۔

میں آپ کو ایک بنیادی بات بتلاتا ہوں۔ اگر آپ میں عزم و ہمت اور قوت عمل ہے تو دنیا، اس کی ساری ترقیاں اور دائمی سعادت آپ کے ہاتھوں میں ہے لیکن اگر یہ صفات آپ میں نہیں ہیں تو کوئی تدبیر آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔

تحریک مدح صحابہ کی حمایت

بیسویں صدی کی ابتداء سے ہندوستان اور خصوصاً لکھنؤ میں شیعہ سنی اختلافات اور عداوتوں کی شروعات ہوئی۔ اس معاملے کی تاریخ، اسباب اور اصل حقائق تو اس موضوع پر تحقیق و مطالعے ہی والے جانتے ہوں گے۔ مگر دونوں فریق کے اقوال، اعمال اور دلائل سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں 'جو گوئی' اور سب و شتم شیعہ حضرات کے نزدیک ان کے مساک کی اساس ہے۔ چنانچہ یہ لوگ برسرعام، جلسوں میں، مجلسوں اور محرم کے جلوسوں میں حضرات صحابہ اور بالخصوص ان تینوں خلفائے راشدین پر تبرا پڑھتے ہیں۔ اور ظلم یہ کہ یہ حضرات تبرا کا مطلب اہانت، تحقیر اور سب و شتم قرار دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت و الجماعت یعنی سنیوں نے بھی برسرعام سڑکوں اور گلیوں میں جواب دینے کا طایقہ اختیار کیا۔ مگر چونکہ بچو اور سب و شتم تو کجا ان کے مذہب میں کسی عافی اور معمولی شخص کی بھی بدگوئی اور عیب جوئی حرام ہے اس لئے انھوں نے یہ جواب مدح صحابہ پڑھ کر دیا مگر سنیوں کا یہ اقدام اور مدح صحابہ کا عمل شیعہ حضرات کے نزدیک اس درجہ قابل اعتراض قرار پایا کہ اس کی مخالفت میں لڑائی جھگڑے، بلوہ و فساد اور مقدمہ بازی شروع ہو گئی۔ اس مقابلہ بازی اور زور آزمائی کا منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف مستقل جماعتیں اور مکمل اکھاڑے جم گئے۔ سنیوں کی طرف سے مجلس احرار اسلام لال لال قیصیں پہن کر اور امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ چاریاری جھنڈا لے کر مقابلے میں آگئے۔ اور مدح صحابہ کو ایک تحریک کی شکل دے ڈالی۔ حکومت یوپی نے منسلک میں سال کے تین دنوں یوم عاشورہ، چہلم اور ۲۱ رمضان المبارک میں مدح صحابہ پر ہنسنے پر پابندی لگا دی۔ سنیوں نے اس پابندی کے خلاف ایچی ٹیشن کرنے کا فیصلہ

کیا۔ ۱۹۳۶ء میں اس تحریک کے تحت ایک شاندار کانفرنس منعقد ہوئی جس میں وقت کے بہت سے سربرآوردہ علماء نے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت فرمائی اور اپنی تقریریں فرمایا:

”مدح صحابہ امر مستحب اور مستحسن ہے، مگر شرعی اصول یہ ہے کہ جب کوئی ظالم جماعت اور جابر حکومت کسی امر مستحب پر بندش لگائے اور مسلمانوں کو مجبور کرے تو شرعاً اس امر کا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور منع کرنے والی جماعت کا یہ فعل مداخلت فی الدین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مدح صحابہ جو پہلے مستحب تھا حکومت کی دخل اندازی سے اب مسلمانوں پر واجب ہو گیا ہے۔ اس لئے خردی ہے کہ مسلمان دامنے درے سخنے جس طرح ممکن ہو اس ناقابلِ نفرت قانون سے آزادی حاصل کریں۔ اگر مقامی مسلمان قربانی دیتے دیتے ہار جائیں تو قربان د جوار کی بستیوں کے رہنے والے مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔“ اٹھنے لے

حضرت نے تحریک مدح صحابہ کے سکرٹری مولانا ظفر الملک علوی مرحوم کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس میں مدح صحابہ کے وجوب پر مفصل دلائل تحریر فرمائے۔ اس مکتوب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر تنقید اور ان پر نکتہ چینی کے مسائل میں بھی حضرت کے مسلک کی وضاحت ہے اور ساتھ ہندوستانی باشندوں کی رواداری اور اتحاد و اتفاق پر ان کی پالیسی کی نشاندہی ہے۔ فرماتے ہیں:

”احادیث صحیحہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ثنا و وصف، ان سے محبت رکھنے کی تاکید، ان کی شان میں گستاخی کی مذمت، ان کی تابعداری کا حکم، ان کے ذکر بانحیر کا ارشاد وغیرہ نہایت کثرت سے مذکور ہے۔ اسی بنا پر مسلمانوں کے اجتماعات، عیدین، حج اور جہود وغیرہ میں خطبہ پڑھتے ہوئے صحابہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی ثنا و وصف کرنی نہ صرف مستحب قرار دی گئی ہے بلکہ اس کو

شمار اہل سنت والجماعت بھی قرار دیا گیا ہے۔ (در مختار، شامی، عالمگیری، مکتوبات مجدد الف ثانی جلد دوم ص ۵ وغیرہ) اس کے علاوہ جس جگہ صحابہ کرام سے نہ صرف یہ کہ بدظنی پھیلائی جاتی ہو بلکہ اشھد ان علیاً وصی اللہ و خلیفۃ بلا فصل باواز بلند اذان میں کہا جاتا ہو نیز امام باڈوں، مجلس خاص، خصوصی مساجد میں ان کی طرف جھوٹے اور غلط اہانت آمیز واقعات منسوب کئے جاتے ہوں اور عوام سنیوں کا انھیں سننا، شریک ہونا اور غلطی میں پڑنا ممکن ہو تو سنیوں کی اصلاح اور تحفظ عقائد کے لئے ایسی مجالس کا منعقد کرنا جن میں صحابہ کرام کے صحیح واقعات بیان کئے جائیں اور ان کی ثناء و صفت بیان کی جائے، واجب ہے۔

بالخصوص جبکہ دوسری تویم اس کو مجرم قرار دینے لگیں اس وقت اس کا وجوب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ انہی امور کی بنا پر لکھنؤ میں مدح صحابہ کا سلسلہ چلا آتا ہے۔ مگر اہل شیعہ نے حکام پر اثر ڈال کر سنہ ۱۹ء سے اس میں رکاوٹیں پیدا کیں۔ تشددات ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، مدح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اس کے لئے جیلے جلوس سنیوں کا انسانی شہری اور اجتماعی حق ہے۔

ہندوستان مختلف اقوام اور مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے یہاں اس وقت تک اس د عافیت نہیں رہ سکتی جب تک ایسے امور اور معاملات پر روک نہ لگائی جو بین الاقوامی میل ملاپ اور رواداری کے خلاف ہوں۔ کسی بھی جماعت کے پیشواؤں کو برا بھلا کہنا اور ان کی تذلیل و توہین کرنا بین الاقوامی مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اتحاد اور رواداری کو فنا کے گھاٹ اتارنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعزیرات ہند ص ۲۹ کے ماتحت ہمیشہ سے تبراً ہندوستان میں ممنوع ہے۔ بوجہ حکومت ایران نے بھی اسے شدید ترین مجرم قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی رواداری کے لئے یہی ضروری ہے کہ ہر شخص اور ہر جماعت کو اپنے پیشواؤں کی ثناء و صفت کی جائز طریقہ پر آزادی ہو۔ ہندوستان میں ہندو مسلم، چین، عیسائی، یہودی، شیعہ سب اپنے اپنے پیشواؤں کے جلسوں نکالتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں ان کو کسی زمانے میں رکاوٹ پیش آئی نہ

کسی کو اس پر اعتراض ہے۔ اگر کسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس مجمع مذاہب ملک میں بسنا ہے تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہاں ہر شخص کو اپنے ضمیر اور مذہب کی آزادی ہے اگر کوئی اس حق میں مداخلت کرتا ہے تو امن عامہ میں خلل انداز ہوتا ہے۔ اس پر قانونی کارروائی کرنا اور حقوق عامہ کو غاصبوں کی دستبرد سے بچانا حکومت کا فرض ہے۔ (تخلص)

مسلمانوں کے احتجاج کے نتیجے میں حکومت یوپی نے تبراً اور مدح صحابہ کی شرعی حیثیت کے ثبوت کے لئے ۱۹۳۷ء میں ایک کمیشن مقرر کیا جس کے دو انگریز ممبر، الہ آباد ہائی کورٹ کے جج مسٹر ایچ۔ ایس۔ راس تھے۔ حضرت نے اس کمیشن کے سامنے بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ :

”خلفائے راشدین کی تعریف مستحب ہے لیکن اس سے روکا جائے تو فرض ہے۔ حرم کی دوسری کو اگر شہدائے کربلا کا ذکر کیا جائے تو لازم ہے کہ اس کے ساتھ صحابہ کرام کی بھی تعریف کی جائے تاکہ مخالف فرقوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ مدح صحابہ کا جلوس اور جلسے برعت نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی برائی کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجمع عام میں حضرت ابو بکر کی مدح سرائی میں قصیدہ پڑھا جائے۔“

حرم کے موقع پر وہ ساری باتیں کی جاتی ہیں جو حضرت حسین کی شہادت کے بعد دشمنانِ حسین نے کی تھیں۔ انہوں نے اپنے گھروں میں روشنی کی تھی، چراغیاں کیا تھیں۔ دلال نکالے تھے اور جلسے منعقد کی تھیں اور شہدائے عظام کے مبارک سردوں کو نیزوں پر اٹھا کر پھرایا تھا۔ یہی ساری باتیں آج تعزیرہ داری میں بھی ہوتی ہیں۔ اس لئے اس کو حرام سمجھا جاتا ہے اور اس کے حرام ہونے کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں۔“

یکشن اور عدالت کے شخصی اور انفرادی طور پر اپنے حیالات کا اظہار کرنے کے علاوہ ملک کے عام مسلمانوں سے مدح صحابہ کی تائید اور اعانت کی اپیل کرتے ہوئے ایک جلسہ عام میں فرمایا:

”مسلمانوں کو چاہیے کہ بعد از نماز جمعہ جلسہ کریں اور اس میں گورنمنٹ کے اس فعل پر کہ اس نے مسلمانوں کے مذہبی ’انسانی اور شہری حق‘ مدح صحابہ میں ناجائز مداخلت کر کے ان کے مذہبی جذبات کو ایسی ناقابل برداشت ٹھیس پہنچائی ہے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں مسلمان پروانہ وار جیل کی کوٹھڑیوں میں بند ہیں۔ صدائے احتجاج بلند کریں اور مطالبہ کریں کہ وہ جلد از جلد مدح صحابہ کے جلسوں اور جلوسوں پر سے ہر قسم کی پابندی اٹھالے“

”ہمیں چاہیے کہ ہم ان مجاہدین ملت کو مبارکبادیں ہتھوں نے مذہب و ملت اور حق قومی کے لئے اپنے آرام و راحت کو تھک کر قانون شکنی اور رسول نافرمانی

اختیار فرمائی“

آخر میں ایک نکتہ پر غور فرمایا لیجئے بلکہ اُسے ذہن میں رکھیے صحابہ کرام کا احترام ان کے ساتھ عقیدت اور ان کا اتباع حضرتؐ کے نزدیک دینی شعار اور مذہبی حکم ہے۔ دُنیا کے ہر مذہب کو اپنے مذہبی شعار اور دینی پیشواؤں کے احترام، محبت اور مروج سرائی کا حق ہے۔ کسی بھی قوم کو دوسری اقوام کے اکابر کو بُرا بھلا کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ تو شرعی مذہبی اخلاقی اور معاشرتی واجبات و فرائض ہیں مگر ٹھیک اسی وقت جب ان حقوق اور فرائض کا بیان فرما رہے ہیں، شیعہ سنی اتفاق و اتحاد پر بھی زور دے رہے ہیں:

”حضرت مدنی کا بیان ایک گھنٹہ جاری رہا اس کے بعد عدالت برخواست

ہو گئی۔ حضرت کے اس بیان سے جو چیز نمایاں طور پر سامنے آئی وہ مدح صحابہ کا شرعی وجوب تھا۔ لیکن آپ نے اپنے بیان میں شیعہ سنی اتحاد پر بھی کافی روشنی ڈالی“

اس شیعہ سنی اتفاق کی اہمیت اور کوشش کا تذکرہ خود حضرت کی زبان سے بھی سُن لیجئے :

"۱۹۲۰ء میں میں نے امرہ ہر حاضر ہو کر وہاں تقریر بڑے مجمع میں کی جس کی وجہ سے اشتعال ٹھنڈا ہوا۔ میں نے ہر فریق سنیوں اور شیعوں کو سمجھایا اور وقت کی نزاکتوں کو دکھلا کر زور دار اپیل کی کہ کوئی اس قسم کی کارروائی اس زمانے میں مناسب نہیں ہے جس سے افتراق کی خلیج میں دست ہو، ضروری ہے کہ اتفاق و اتحاد کو مضبوط کیا جائے۔ میں نے مشرقین، بغداد، عراق کے انگریزی، مخالف دکھائے نیز مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقامات مقدسہ کے قیامت خیز واقعات بھی دکھائے اور شیعوں اور سنیوں دونوں کو ملامت کی پلے

اتنی تفصیل اور سُن لیجئے کہ یہ کوئی عام موقع اور معمولی مجمع نہیں تھا جس میں حضرت نے اشتعال کو ٹھنڈا کیا۔ دونوں فرقوں میں جان جان کی بازی لگی ہوئی تھی۔ دونوں طرف کے بڑے بڑے اکھاڑے باز مقررین اور مناظرین جمع تھے اور زور آزمائی اور مقابلہ بازی کی پوری پوری تیاری تھی۔

تبلیغی جماعت کی تائید

حضرت مولینا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کا میدان عمل مسلمان عوام میں ارکان اسلام، اسلامی عقائد اور عبادت و ریاضت کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ اس کے لئے ہفتوں، مہینوں اور سالوں کی فراغت، سفر اور مسلسل سعی و کوشش ضروری ہوتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات، علوم اسلامیہ، حدیث و قرآن کی تدریس، تعلیم اور ترویج نیز روحانی اشغال، باطنی سلوک و معرفت اور ریاضت و عبادت پر مشتمل تھیں۔ بنیادی طور پر ان دونوں نفوس قدسیہ کی زندگیوں اور ان کی جدوجہد اور نقل و حرکت، دین، اسلام اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے وقف تھیں۔ طریقی کار الگ ہونے کے باوجود مقصد و منزل کے اتحاد کی وجہ سے دونوں حضرات میں اخلاص، اشتراک، تعاون اور اتحاد فکر تھا۔ تبلیغی جماعت کی تحریک کے ابتدائی زمانے میں دہلی کی بنگلہ والی مسجد سے ہفتہ بندہ دن میں دو دو چار چار افراد تبلیغ کے لئے تیار ہو کر نکلتے تھے۔ آج جس مقام پر تبلیغ کا بین الاقوامی مرکز قائم ہے اس زمانے میں یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بنگلہ والی مسجد تھی اور نکلنے، رہنے اور تعلیم حاصل کرنے والے حضرات کی تعداد بھی حضرت مولینا محمد الیاس صاحب اور ان کے صاحبزادے مولینا محمد یوسف کو ملا کر معدودے چند ہی حضرات تک محدود تھی۔ اسی مسجد سے ہفتہ بندہ دن میں دو چار افراد کی ایک دو جمعیتیں چلا گشت اور تبلیغ کے لئے نکلا کرتی تھیں۔ اُس زمانے میں ان کی منزلیں اور دارے بھی قریب ہی قریب کے اضلاع اور مقامات ہو کرتے تھے۔ مولینا الیاس صاحب ان جماعتوں کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضری کی ہدایات دیا کرتے تھے۔ حضرت ان لوگوں کی پوری پوری تواضع اور تحکیم فرماتے تھے۔ مولینا الیاس صاحب کو حضرت سے جو عقیدت و خاصیت تھی اس کا اندازہ آپ کے ان جذبات سے ہوتا ہے کہ:

”حضرت مولانا محمد الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر تبلیغی کام کی رکاوٹ نہ ہوتی تو میں حضرت مدنیؒ سے بیعت کر لیتا اور ان کے کام میں شریک ہو جاتا۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ تبلیغی کام مجھ سے چھوٹ گیا تو پھر حضرت مدنیؒ کے ساتھ مل کر کام کروں گا اور اگر کسی وجہ سے حضرت مدنیؒ سے کاغذیں کا کام چھوٹ گیا تو پھر وہ بھی وہی کام کریں گے جو میں کر رہا ہوں۔ کاغذیں میں شرکت کے لئے اتنی دلیل کافی ہے کہ حضرت مدنیؒ اس میں شریک ہیں۔“

یہ خوب سمجھ لیجئے کہ حکایت کسی ایسے ویسے اور ہر شاکی نہیں بلکہ مولانا احتشام الحسن صاحب کی ہے جو مولانا الیاس صاحب کے ہمہ وقتی حاضر باشوں اور مخصوصین میں تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ تحریری اور تقریری طور پر خواص اور عوام سے اس جماعت میں شرکت اور تعاون کی تاکید فرماتے رہتے تھے۔ حضرت کے متعدد خلفاء، تلامذہ اور منتسبین جماعت تبلیغ کے اعیان، ارکان اور عاملین میں شامل رہے اور آج بھی آپ کے بے شمار مریدین و متقیدین تبلیغی جدوجہد میں شریک اور تبلیغی اصطلاح کے اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت کی ایک اپیل ملاحظہ فرمائیے:

”میرے محترم بزرگ، یہ جماعت تبلیغ نہ صرف ایک ضروری اور اہم فریضہ کی حسب استطاعت انجام دہی کرتی ہیں بلکہ اس کی بھی سخت محتاج ہیں کہ ان کی ہمت افزائی کی جائے اور ان کو خود بھی مسلمانوں سے رابطہ قومی پیدا ہو اور مسلمانوں میں اتحاد و یکجا نگت کا قومی جذبہ پیدا ہو اور ان کو مذہبی احساسات کی سرگرمیوں کی طرف چلایا جائے جس سے مستقبل میں نہایت اعلیٰ درجہ کے ثمرات اور نتائج کی قومی امیدیں ہوتی ہیں۔ بنا بریں میں امیدوار ہوں کہ آئندہ اس میں پوری جدوجہد کو کام میں لایا جائے اور ان کی ہمت افزائی کی صورت عمل میں لائی جائے۔“

لہ مقالہ مولانا احتشام الحسن کا نلدھلوی بحوالہ روزنامہ الجلیتہ شیخ الاسلام نمبر ۲۶، مطبوعہ پاکستان

کے مکتوبات، جلد ۴، ص ۱۵۰

مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب مرحوم حضرت کے بے تکلف ہم عصر اور مدرسہ دیوبند کی مجلس شوریٰ کے ممبر تھے ضلع میرٹھ میں حکیم صاحب موصوف کے اثرات اور مقبولیت کے پیش نظر اس بات کی بڑی اہمیت تھی کہ ان کی تائید و حمایت سے دین اور تبلیغ کی تحریک کو بڑی تقویت حاصل ہوگی، حضرت ان کو تحریر فرماتے ہیں :

”یہ بات معلوم کر کے تعجب ہوا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی تبلیغی جماعتیں شہر میرٹھ اور اس کے گرد و نواح میں تبلیغی سرگرمیوں کے لئے آتی ہیں مگر آپ حضرات اور آپ کے اجاب و اعزہ ان کی ہمدردی، رہنمائی اور ہمت افزائی میں کوئی حصہ نہیں لیتے، میں سمجھ نہیں سکا کہ اس کا راز کیا ہے؟“

اپنے ایک خلیفہ مجاز جناب سید احمد شاہ صاحب مراد آباد کو تحریر کیا،

”تبلیغی جماعت کی خدمات کے انجام دینے اور اس کے لئے مولانا محمد الیاس صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ہدایات حاصل کرنے کا قصد نہایت مبارک ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور پھر توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس عظیم الشان خدمت کو بلکہ اپنی خاندانی وراثت کو بخیر و خوبی انجام دیں۔“

حضرت رحمۃ اللہ کے نزدیک تبلیغی جماعت اور کام کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ مندرجہ بالا واقعات اور اقتباسات سے بخوبی ہو رہا ہے۔ اس باب میں بہت ارشادات اور فرمودات پیش کئے جاسکتے ہیں مگر اصل موضوع کے لئے یہ دوچار ہی کلمات کافی ہیں۔ مزید تطویل غیر ضروری بھی ہے اور ہماری محدود گنجائش کے لئے مشکل بھی۔ تاہم آخر میں ایک دلچسپ واقعہ اور ملاحظہ کے قابل ہے :

”قصبہ کھتولی ضلع مظفرنگر یوپی میں ایک تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا جس میں مولانا محمد الیاس صاحب تشریف فرما تھے۔ جب ان کے فرمودات اور تقریر کا موقع آیا تو عین دقت پر مولانا الیاس صاحب کو پتہ چلا کہ اسی قصبہ میں کسی جگہ اسی دقت

ہاں گریس کا ایک جلسہ ہوا ہے جس میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی تقریر ہو رہی ہے۔ مولانا یاسین نے فوراً اپنے جلسے کے التوا اور اختتام کا اعلان کر دیا اور جمع سے کہا کہ سب لوگ حضرت مدنی کی تقریر میں ملیں۔ ادھر حضرت مدنی کو تبلیغی اجتماع اور مولانا یاسین صاحب کے وعظ کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی تقریر کا پروگرام ختم کر دیا اور تبلیغی جماعت میں شرکت کا اعلان فرمایا، نتیجہ یہ ہوا کہ مزید جلسہ ہوا نہ وہ اجتماع ہو سکا۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا وصال ہوا تو حضرت رحمۃ اللہ پر بڑا اثر ہوا۔ فوراً ایصالِ ثواب کیا اور کرایا اور مجمع عام میں مولانا کے کارناموں اور فضائل کا طویل تذکرہ فرمایا اس کے ساتھ ہی مولانا کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب کو ایک تعزیتی خط ارسال فرمایا:

وماکان قیس ہلکۃ ہلک واحد و لکنہ بنیان قوم تمدما
میرے عزیز محترم سلمکم اللہ تعالیٰ ورتا کم علی اعلیٰ درجات الرضوان والقرب
آمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب کہ میرا قلب ان آرزوؤں اور امیدوں سے بھرا ہوا تھا جن کو میں مولانا محمد الیاس کی ملاقات سے حاصل کرنے کا شرف حاصل کرتا اور احوال حاضرہ ان کی تقریب کی خوش خبری دے رہے تھے ناگاہ مایوسی اور غم و دلال سے اخبار انصاری نے یکایک تبدیل کر دیا۔ دل پر سخت چوٹ لگی۔ ہم ناکاروں کے لئے ایسے ظلمِ رحمانی کا اٹھ جانا سخت جانکامی کا موجب ہے۔ جب ہم دور افتادوں کا یہ حال ہے تو تو مسلمین، اغزہ اور اشبال کا کیا حال نہ ہوگا۔

میرے عزیز حضرات! ہم کو ہر قدم پر قرآنی ہدایات، سنن نبوی اور اسلاف کرام رحمہم اللہ کے طریق کا اتباع کرنا اشد ضروری ہے۔ قدرت کی آنکھیں ہم سے

اسی کی طلب گار ہیں۔

وَلَنبَلُوَنكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَنَتَنَّهُ - وَلَنبَلُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ
نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ - الْآيَاتُ -

مجھ کو قوی امید ہے کہ آپ اور دوسرے اعزہ و اقارب اس امتحان میں
پاس ہوں گے۔ مرحوم ہمارے درمیان و دائع خداوندیہ میں سے عزیز ترین و دلیسہ
تھے، اللہ نے ہم سے واپس لے لیا اس لئے شکر یہ کاموتج ہے نہ حزن طال کا۔
حضرت شیخ الحدیث صاحب ادا م اللہ ظلہ اور اہلیہ محترمہ اور دیگر اعسزہ و
احباب کی خدمات عالیہ میں بھی تاکید جبر و شکر مع سلام سنون اور اتدعائے دعوت
صالحہ پہنچادیں۔ والسلام

دور افتادہ نیاز مند قدیم

چراغ محمد غفرلہ ۲۷ رجب ۱۳۶۳ھ

یہ والا نامہ جیل سے لکھا گیا تھا اس لئے عام اسم گرامی کے بجائے تاریخی نام سے
بھیجا گیا تھا۔

صدارت اجلاس جمعیتہ علماء ہند منعقدہ حیدرآباد ۱۹۵۱ء

اپریل ۱۹۵۱ء کی بالکل آخری تین دنوں تک حیدرآباد دکن میں جمعیتہ علماء کا سترہواں سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ یہ دو ملک یاریات تھی جو گذشتہ سو دو سو برسوں سے علماء، فنکار، مقررین، مستغنی، شعراء، ادباء اور دوسرے اصحاب فکر و فن کی آماجگاہ تھی۔ شمالی ہند کے چھوٹے بڑے، عالی و عامی، مشہور و گننام کتنے ہی اصحاب علوم و فنون دن رات اس ملک اور شہر میں وارد ہوتے اور اس کی سرپرستی اور فراخ دستی سے فیضیاب و مستفید ہوتے تھے۔ ان میں بہت سے ایسے تھے کہ آئے، تھے تو تھوڑا بہت درجہ اپنے پاس کا بھی تھا مگر حیدرآباد کی برکت سے ڈاکٹر، پروفیسر، علامہ اور مولینا کے بلند اور مشہور مناصب تک پہنچ گئے اور ایسے بھی تھے کہ آئے تو کچھ نہ تھے اور رہے تو سب کچھ ہو گئے۔ مگر کچھ بے نیاز اور مستغنی درویش ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے توکل، قناعت اور استغنیٰ کی دولتوں سے مالا مال کیا تھا۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی مادی وسیلے کی طرف ایک نگاہ غلط انداز بھی نہیں ڈالی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جن کا ایک قدم جیل میں دوسرا ریل میں رہا کرتا تھا اور جنہوں نے ہندوستان کے چپے چپے اور کونے کونے کا دورہ کیا تھا۔ اپنی پچھتر برس کی عمر میں کبھی حیدرآباد نہیں گئے تھے مگر ہندوستان کے پولیس ایشن اور قتل و غارت کے بعد پہلی بار ان کے دکھ درد میں شرکت کے لئے حیدرآباد تشریف لے گئے۔

”تقریباً ۲۹ سال پہلے کو کناڈا جاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے آپ کے یہاں حاضری کا موقع ملا تھا۔ اگر اس کو مستثنیٰ کر دیا جائے تو میرا یہ عرض کرنا صحیح ہوگا کہ آپ کے یہاں یہ میری پہلی حاضری ہے۔ لیکن اس غیبت کے باوجود ایک خاص تعلق آپ حضرات سے ہمیشہ رہا ہے۔“

اجلاس کے خطبہ صدارت میں حضرت نے بیعتہ علماء اور علماء کرام کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس وقت کے اہم موضوع ہندوستان اور پاکستان کے باہمی تعلق اور دونوں کے درمیان خوشگوار ماحول کی ضرورت پر زور دیا اور فرمایا :

”جس طرح ہندوستان کا دنیا کی سیاست میں ایک مقام ہے اسی طرح پاکستان بھی بین الاقوامی سیاست کا ایک مستقل یونٹ قرار دیا جا چکا ہے۔ اب گذشتہ قصہ ہائے پارینہ کو دہرا کر مندرجہ زخموں کو کھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب پورے ملک کا فائدہ اسی میں ہے اور نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے ایشیا کی مصلحتوں کا تقاضا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات خوشگوار ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر پورا اعتماد ہو۔ آپس کے قصیوں کو مفاہمت کے ذریعہ طے کریں۔ دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے کے قریب ہوں، ان کے تجارتی اور اقتصادی تعلقات زیادہ سے زیادہ بہتر اور مضبوط ہوں۔ آمد و رفت کے راستے کھلے رہیں۔ اور جو تلخیاں اور شکر رنجیاں برداشت کی جا چکی ہیں ان کو بھول کر محبت اور دوستی کے ترانے دونوں جگہ گائے جائیں!“

حکومت کی طرف سے حیدرآباد میں پولیس ایکشن کے نام پر جو ظلم اور زیادتیاں کی گئیں۔ ان کی اخلاقی، اجتماعی، معاشرتی، معاشی اور تمدنی زندگی تباہ و برباد کی گئی۔ اس پر حضرت نے وہاں کے عوام کو مخاطب فرمایا :

”یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں کے بے شمار مشکلات اور پریشانیوں کا ہجوم ہے۔ خصوصیت سے حیدرآباد کے مسلمان دوہرے انقلاب کا شکار ہوئے ہیں۔ ان کا انتظام معیشت درہم برہم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ مصائب آپ کی زندگی میں پہلی بار نہیں آئے ہیں۔ آپ کی پوری تاریخ مشکلات کی نٹوٹنے والی ایک زنجیر ہے۔ آپ نے ہمیشہ مصائب و مسائل کا مردانہ دارمقابلہ کیا ہے۔ اور ہمیشہ ہی

استقلال، استقامت اور حسن اخلاق کے ذریعہ مشکلات کو آسان بناتے رہتے ہیں۔
 اگر آپ حق پر ہیں اور آپ کا نصب العین صحیح ہے تو یقین رکھیے کہ نصرت
 الہی آپ کی زمین ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت مستحکم
 اعلان ہے **وَلْيَصْرَحَنَّ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُوا**۔ ان اللہ لغوی عزیز! دکان حقا
 علینا نصر المؤمنین (اللہ ان لوگوں کی یقیناً مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں
 اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے اور اسی کا حکم غالب رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 نے اپنے اوپر ایمان والوں کی مدد لازم کر لی ہے) مشکلات زندگی کی علامت
 ہیں۔ مصائب اور حوادث زندہ ہی افراد اور زندہ ہی قوموں پر نازل ہوا کرتے
 ہیں۔ وہی آزمائشوں میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔ زندہ ہی قوموں کو آگاہ کیا جاتا
 ہے **وَلَنبَلِّغَنَّكُمْ أَشْيَءَ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
 وَالثَّمَرَاتِ** (ہم تم کو کسی قدر خوف، بھوک اور جان و مال اور پیداوار کے نقصان
 میں مبتلا کر کے آزمائیں گے) یہ تکلیفیں، یہ تاریکیاں، اور مصیبتیں مایوسی کی نہیں
 ایک روشن مستقبل کی علامت ہیں۔ اس اندھیرے کے بعد اجالا ضرور ہوگا۔ مگر
 یاد رکھیے! اس کے لئے یہ ہے کہ ہماری زندگیاں، ہمارے اعمال و افعال، کردار
 و اخلاق نمونہ اور مثال ہوں ان میں خلوص اور لہیت ہو۔ ان متنہر کہہ اللہ
 ینصر کہہ دینشت اقد حکم۔۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری
 مدد کرے گا اور تمہارے قدم جاڑے گا۔

ایک مسلمان کا پہلا فرض ہے کہ اپنی انفرادی اور جماعتی زندگی کا
 نصب العین معلوم کرے اور اسے ہر لمحہ پیش نظر رکھے۔ یہ نصب العین
 قرآن پاک نے تمہیں کر دیا ہے کہ **نتم خیر امۃ اخرجت للناس** تا مدون
 بالمعروف و تنہون عن المنکر (تم بہترین قوم ہو ایسی امت میں جو ان لوگوں
 کے نفع کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے
 روکتے ہو اور اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہو)

اس امت کی بعثت کا اہم مقصد اور نصب العین یہ ہے کہ تمام نسل انسانی کو اس سے نفع اور خیر پہنچے۔ جس طرح آپ کو خیر اللہ ہونے کی سعادت حاصل ہے اسی طرح آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ ذات پاک رؤف و رحیم سے وابستہ ہیں جس کو دنیا میں اس لئے مبعوث کیا گیا کہ پوری کائنات پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ خوب سمجھ لیجئے کہ جس طرح سرور کائنات سارے عالم کے لئے باعث خیر و برکت تھے اسی طرح ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سارے عالم کے لئے باعثِ راحت و اطمینان ہو۔ مسلمان کی ذات اور اس کی خدمات صرف اس کی ذات، خاندان، قبیلہ اور گروہ تک محدود نہیں ہوتیں بلکہ وہ تمام عالم انسانی کو ایک ماں باپ کی اولاد، ایک خالق کی مخلوق اور ایک اللہ کے بندے سمجھ کر اعانت اور خیر خواہی کے جذبات عام کرے گا۔ اور بنی نوع انسانی کی فلاح و بہبود اس کا دائرہ کار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے اہل و عیال پر احسان کرے اور خدمت کرے (مشکوٰۃ شریف) دوسری جگہ فرمایا: المؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم (مومن وہ ہے جس کے ہاتھوں تمام انسانوں کی جان و مال محفوظ رہے۔) (بخاری شریف)

انسانیت اور اسلام کی روح یہ ہے کہ آپ بُرائی کا بدلہ بھلائی سے، زیادتی کا بدلہ احسان سے اور ظلم کا بدلہ عفو و درگزر سے دیں۔ یہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: صل من قطعک و اعف عن ظلمک احسن الی من آساء الیک (جو تم سے قطع تعلق کرے تم اُس سے تعلق قائم کرو۔ جو تم پر ظلم کرے تم اُسے معاف کرو۔ جو تمہارے ساتھ بُرائی کرے تم اُس کے ساتھ بھلائی کرو) مصائب کے طوفانوں اور مشکلات کے ہجوم میں اللہ تعالیٰ سے لمحہ بہ لمحہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور صبر و ضبط کا دامن نہایت مضبوطی کے

ساتھ پکڑنا چاہیے۔ ضبط و تحمل، استقامت، نالی و سگلی اور توبہ الی اللہ ہی طاقتیں ہیں جن کے سامنے دنیا کی ہر طاقت بالآخر سپردال دیتی ہے اور شکست کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار انہی طاقتوں سے اراد حاصل کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوٰۃ۔ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ جذبات اور اشتعال کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان بُرائی کا بدلہ بُرائی سے بلکہ ایک بُرائی کا بدلہ ہزاروں برائیوں سے دے لیکن یہ کوئی علاج اور مسئلہ کامل نہیں ہے۔ اس طرح ممکن ہے آپ گردنوں کو جھکا دیں مگر دلوں کو نتج کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بُرائی اس طرح ختم ہو سکتی ہے کہ بُرائی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے۔ اگرچہ یہ بہت مشکل ہے مگر قلب کو اسی طرح سخر کیا جاتا ہے۔ اور حق کا شن اسی طرح کامیاب ہوا کرتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ادفع بالتی ہی احسن، فاذا الذی بینک و بینہ عداۃ کانہ دلی جیم۔ وما یلقاھا الا الذین صبروا وما یلقھا الا الذر حظا عظیم۔ بُرائی کا بدلہ ایسے اخلاق سے دیجئے جو بہت بہتر ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن سے آپ کی دشمنی ہے آپ کے مخلص دوست بن گئے۔ مگر یہ بات صابر دشمن لوگوں کو اور قسمت والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے۔

ہاں! یہ ضرور خیال رہے کہ صبر، ضبط اور مکارم اخلاق کا مطلب بزدلی، خوں زدگی اور کمزوری نہیں ہے۔ صبر و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ انتقام کے موبائع ملتے ہوئے بھی شرافت، اخلاق، مردت اور رواداری کا مظاہرہ کیا جائے؟ اس کے بعد حضرت نے ہندوستان کے جمہوری، سیکولر اور غیر فرقہ واری دستور حکومت پر اطمینان اور اعتماد کا اظہار فرمایا اور اس کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ "یہ امر قابل اطمینان ہے کہ کانگریس اپنے اصولوں اور نظریات پر قائم رہی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ملک کا دستور جمہوریت اور نامندہ ہی اصولوں پر وضع کیا گیا۔ یہ دستور ہندوستان کے ہر باشندے کو مساوی حیثیت دیتا ہے اور بلا

اختلاف مذہب و ملت ہر ایک ہندوستانی کے لئے ترقی کے دروازے کھلے رکھتا ہے اور ہر طبقہ کو موقع دیتا ہے کہ وہ بقا و تحفظ و ترقی کے راستے سوچے اور آزادی کے ساتھ ان پر عمل کرے۔ مگر اسی کے ساتھ ہمارا فرض ہے کہ پوری مستعدی کے ساتھ ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوں جو اس سلسلے میں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان باتوں پر غور کریں کہ ملی اور اجتماعی فرائض کیا ہیں۔ ہم کس طرح اپنے مذہب، مذہبی علوم، اسلامی تہذیب، اپنے ماٹرو معاہدہ اور اپنے اوقات کی حفاظت کر سکتے ہیں اور کس طرح ملک کی تعمیر جدید میں اپنی اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت و ترقی کے ساتھ حصہ لے سکتے ہیں۔

مذہبی تعلیم کی اہمیت

سب سے اہم اور مقدم مسئلہ مذہبی تعلیم کا ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لئے تمام مذہبی طبقوں اور اسلامی اداروں کی یک جہتی اور ہمنوائی بے حد ضروری ہے۔ ہم ملکی مصالح کے پیش نظر سیکولر ازم اور غیر مذہبی حکومت کو خوش آمدید کہہ چکے ہیں۔ اگرچہ حقیقی امن و امان کی صحیح ضمانت مذہب ہی دے سکتا ہے۔ مگر ایک سیکولر اسٹیٹ سے یہ توقع قطعاً بے محل اور غلط ہے کہ وہ ملک کے تمام فرقوں کے لئے مذہبی تعلیم کا انتظام کرے اس لئے اس کی ذمہ داری ہمیں اپنے کاندھوں پر برداشت کر کے آزاد اور زندہ قوموں کی طرح حیات ملی اور ایشیا کا ثبوت دینا ہے، اسلام مذہبی تعلیم کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیتا ہے۔

اوقات کا مسئلہ

اس کے بعد ہمیں اوقات کے معاملہ پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک سیکولر اسٹیٹ میں اوقات ہی واحد ذریعہ ہیں جن کے ذریعہ مذہبیات اور مختلف طبقوں کی پرسنل ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ آج کے حالات اور آزاد ہندوستان میں اوقات کی جو اہمیت محسوس کی جا رہی ہے اتنی شاید اس سے پہلے کبھی نہیں

کی گئی ہوگی۔ حکومت اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ملک کے مختلف فرقے آسانی سے اپنی مذہبی ضروریات پوری کر سکیں۔ ان کے مذہبی ادارے محفوظ رہیں اور ترقی کے لئے آزاد ہوں۔ اگرچہ جمہوریہ ہندوستان نے اوقات کو وہ اہمیت دی ہے جو مسلمانوں کے پرسنل لاؤ کو حاصل ہونی چاہیے مگر خطرے کی بات یہ ہے کہ مذہبی حکومتوں میں طرز عمل یکساں نہیں ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہر صوبہ میں مسلم وقف ایکٹ کے بنیادی دفعات کی نوعیت یکساں ہو۔ اوقات کی آمدنی اور اس کے مصارف خالص دینی اور اسلامی احکام کے اندر محدود رہنے چاہئیں اور حکومت کی جانب سے اس میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔

ملک کا نصابِ تعلیم

تاریخ اور نصابِ تعلیم کی طرف عوام اور حکومت کی مکمل توجہ قومی زندگی کی تعمیر کا اہم جزو ہے۔ آج اسی نصابِ تعلیم کے ذریعہ ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے اور تباہی و بربادی اور فتنہ و فساد میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اسکولوں کے نصاب کا جائزہ لیں تو ہمیں افسوس ہوگا کہ اب تک بہتر مستقبل کے لئے کوئی تخم ریزی نہیں کی گئی ہے۔ میک تعلیم کے لئے جو کتابیں کورس میں داخل کی گئی ہیں ان میں سے اکثر کا معیار دو درجہ اسلامی کے معیار سے بھی زیادہ پست ہے۔ ٹھیک اسی طرح تاریخ بھی ابھی تک وہی رائج ہے جو انگریزوں، سرہنری ایلٹ اور مسٹر کیس ڈائرکٹر محکمہ تعلیم کے دماغوں کی اختراع تھی جس میں تاریخ کے بجائے وہ واقعات تیار کئے گئے ہیں جو ان کے مقاصد کے لئے بنائے گئے تھے۔ اس کو تاریخ کہنا تاریخ کا مذاق اڑانا اور اس کی توہین ہے۔ یہ ضروری ہے کہ تاریخ کے واقعات پوری تحقیق و تنقید کے بعد مرتب کئے جائیں اور انہیں مکمل احتیاط کے ساتھ صداقت

صحت کی ترازو میں تول لیا جائے۔

اُردو اور ہندی زبان

ملک کی زبان کے بارے میں پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سرکاری زبان ہندی ہوگی بہت سے اداروں کی کوشش یہ ہے کہ ہندی ادب کو مختلف علوم و فنون کا حامل بنا دیا جائے۔ مسلمان گذشتہ سو برس سے ایک غیر ملکی زبان انگریزی کو فروغ دینے کی کوشش میں سرگرم عمل رہے ہیں۔ ہندی تو اپنے ہی ملک کی زبان ہے۔ بہت سے علاقوں میں خود مسلمانوں نے اس کی ترقی اور تخلیق میں حصہ لیا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ اب مسلمان ہندی کو علمی زبان بنانے کی کوشش میں حصہ زلیں۔ لیکن اسی کے ساتھ اُردو کی حیثیت، اہمیت اور مقبولیت کو بھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف اور جمہوری اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ اُردو کی ترقی اور نشوونما کو برابر کا درجہ حاصل ہو مگر مختلف صورہ جبات کے ذمہ داران کوشش کر رہے ہیں کہ اُردو کی اہمیت کو ختم کر کے اُسے کسی بھی صورہ کی علاقائی زبان نہ رہنے دیا جائے یہ تعصب کی افونک کو تاہ بینی اور تنگ نظری ہے۔ یاد رکھیے! کہ صرف تنقید یا داویلا سے اُردو زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے لئے آپ کو ایشار کرنا پڑے گا۔ اخبارات، رسالے، دارالمطالعی، لائبریری اور تصنیف و تالیف کے ادارے کسی زبان کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اُردو کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایشار و قربانی سے کام لے کر اس قسم کے ادارے، اخبارات، رسالے اور لائبریریاں قائم کرنا اور انھیں ترقی دینا آپ کا پہلا فرض ہے۔

کسٹوڈین کی ریشہ دو انیاں

یہ محکمہ سمجھتا ہے کہ استحصال بالجبر اور مہذب لوٹ کھسوٹ کے لئے اس کو

قانونی طاقت عطا کر دی گئی ہے۔ اس محکمہ کی نانا انصافیوں اور زیادتیوں کے ازالہ کے جہتہ ملایا اپنی پوری قوت کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہے۔ مرکزی حکومت کے ذمہ داروں کو بہاری کوششوں سے ہمدردانہ دلچسپی ہے۔ توقع اور اطمینان ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور حالات میں اعتدال پیدا ہو گا۔

میرے اس معروضہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دین و ملت کی حفاظت اور تبلیغ و ترقی کے لئے پورے اخلاص، استقلال اور صبر و شکر کے ساتھ مکمل کوششیں صرف ہونی چاہئیں۔ وطن عزیز کی حفاظت، ترقی اور سر بندی کے لئے اپنے ذرا لٹن میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اتفاق، اتحاد، یکجہتی اور رواداری کے ہر حالت میں پیش نظر رکھنا چاہیے۔

میں آپ کو کسی خاص جماعت میں شرکت کا حکم نہیں دیتا مگر یہ ضرور عرض کروں گا کہ ملک اور اہل ملک کی ترقی اور بہبود کے لئے آپ اسی جماعت میں شریک ہوں جس کو ان مقاصد اور اصولوں کی روشنی میں بہتر سمجھیں۔ آپ کا نصب العین ملک کی خدمت اور آپ کی زندگی کا سرمایہ، بلند حوصلگی، اولوالعزمی اور اٹھک جدوجہد ہونا چاہیے۔

ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اتتنازل علیہم الملائکۃ
ان لاتخافوا ولا تحزنوا بشئ وبالجنة التی کنتم توعدون^{لہ}

مولینا ابوالاعلیٰ مودودی اور حضرت

۱۸۵۷ء کے بعد متعدد مصلحین، اصحاب فکر اور ارباب قلم نے اردو زبان کی نشریات کے ذریعہ اجتماعی، فکری اور اصلاحی میدانوں میں قومی خدمات انجام دیں۔ ان میں سے بعض حضرات کو عوام و خواص، عالی دعائی ہر طبقے میں مقبولیت و سیادت نصیب ہوئی۔ سرسید نے اپنی تحریروں، تقریروں اور جہدِ عمل کے ذریعہ سے ملی زندگی کی قیادت کی اور اس کا ذہنی و عملی رُخ اپنے افکار کی طرف موڑا۔ مولینا شبلی نے اپنا خاص اسلوب فوجانوں کو بیدار کرنے اور انہیں اپنی عظمت رفتہ کا احساس دلانے کے لئے استعمال کیا۔ مولینا محمد علی جوہر نے اپنی آتش نواہیوں اور دلنشین صداؤں کے ذریعہ بلا تفریق مذہب و ملت پورے ہندوستان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ مولینا ابوالکلام آزاد نے اپنے پرشکوہ انداز نگارش اور پر جوش اسلوب سے دماغوں کو جھنجھوڑ کر خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ انہی اصحاب فکر اور ارباب قلم کے سلسلے کی ایک کڑی مولینا سید ابوالاعلیٰ مودودی بھی ہیں۔ آپ نے بھی اپنے قلم اور خیالات سے تاریخی اہمیت کا کام کیا ہے۔ مولینا کے افکار اور ان کے مسلک سے مسلمان عمومی طور پر اور علماء کرام خصوصی طور پر متفق نہیں ہوئے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی علماء میں ہیں جو مولینا مودودی جیسا کہ خیالات کے اختلاف رکھتے تھے۔ اس باب میں ہمیں ان اختلافات کے اسباب و علل پر ایک ہلکی سی نظر ڈالنی ہے۔ بہتر ہے کہ پہلے مولینا مودودی صاحب کے پس منظر اور ان کے خیالات سے تھوڑا بہت تعارف ہو جائے۔

مولینا کی تسلیم رسمی اور ضابطہ کے اعتبار سے تو مکمل ذہنی مگر اپنی قدرتی ذہانت اور فطری تیزی طبع کی بدولت آپ نے اپنے ذاتی مطالعہ کا دائرہ اس قدر وسیع کر لیا تھا کہ مختلف زبانوں اور موضوعات پر خاصی دسترس پیدا ہو گئی تھی جس سلیقہ اور

سلسلہ محنت مولینا کے خاص اوصاف تھے، اس کے ساتھ اردو زبان میں موثر اور دلنشین پیرایہ اظہار کی نعمت بھی اللہ نے مولینا کو خصوصی طور پر عطا کی تھی۔ تاہم تعلیم کی وہ تکمیل جو مدرسہ درسگاہ کی خصوصیت ہوتی ہے مولینا کو حاصل نہ تھی۔ مولینا کے ایک معتقد کا بیان ہے :

”نوجوان ابوالاعلیٰ کی تعلیم روایتی دگر پر نہیں ہوئی، انہیں کسی مغربی طرز نے اسکول میں داخل کیا گیا، انہوں نے کسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کی تعلیم کی طہرت توجہ نہیں دی گئی، لیکن ان کی وارثیت ذہانت کے باوجود ابتدائی مرحلے میں کچھ خلا ضرور رہ گئے۔“

مولینا نے جو کچھ تعلیم پائی اپنے مطالعے کے ذریعہ پائی۔ انہوں نے روایتی دینی طرز تعلیم کا مطالعہ بھی کیا اور جدید تعلیم سے بھی آشنائی رکھی مگر ان کے نزدیک دونوں میں خامیاں اور کمزوریاں موجود ہیں۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں :

”مجھے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ میں ایک بیج کی راس کا آدمی ہوں، جس نے جدید و قدیم دونوں طریقہ ہائے تعلیم سے کچھ کچھ حصہ پایا ہے اور دونوں کو چوں کو چل پھر کر دیکھا ہے۔ اپنی بصیرت کی بنا پر نہ تو میں قدیم گروہ کو سراپا خیر سمجھتا ہوں اور نہ جدید گروہ کو۔“

مولانا نے نوجوانی ہی کی عمر سے تلاش معاش اور مستقبل کی تعمیر کے لئے ایگٹ دو شروع کر دی تھی اور آخر کار صحافت کا پیشہ اختیار فرمایا جو آپ کی ذہانت، ذکاوت اور جولانی طبع کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ تھا۔ خود مولینا اپنی کہانی اس طرح بیان کرتے ہیں :

”ڈیڑھ سال کے تجربات نے یہ سبق دیا کہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی

۱۔ ایک شخص ایک کاروان، مولینا مودودی کا شخصی مطالعہ، ص ۷۷

۲۔ مکتوبات شیخ الاسلام، ج ۲، ص ۱۷۰، بحوالہ ترجمان القرآن، نمبر ۳۲۷، ربیع الاول ۱۳۵۵ھ

بسر کرنے کے لئے اپنے پیروں پر آپ کھڑا ہونا ضروری ہے اور استقلال کے لئے جدوجہد کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ فطرت نے تحریر و انشاء کا ملکہ ودیعت فرمایا تھا عام مطالعے سے اس کو اور تحریک ہوئی۔ اسی زمانے میں جناب نیاز پنجوری سے دوستانہ تعلقات ہوئے، ان کی صحبت بھی وجہ تحریک بنی۔ غرض ان تمام وجوہ سے یہ فیصلہ کیا کہ قلم ہی کو وسیلہ معاش قرار دینا چاہیے۔^۱

چنانچہ مولینا اٹھارہ برس ہی کی عمر میں جمیعتہ علماء ہند کے اخباروں فرزانہ مسلم اور پیمبر الجمیعتہ کے ایڈیٹر مقرر ہوئے جن میں مولینا کی ایڈیٹری بہت کامیاب رہی۔ اس کے ساتھ مولینا نے کچھ رسالے بھی اسی زمانے میں تالیف کئے جو مقبول و مشہور ہوئے۔ اب آپ کی طبع رسا اور ذوق بلند پر دازی اخبار کی ایڈیٹری پر قانع نہ ہو سکی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عالم اسلام پر چاروں طرف سے یلغار ہو رہی تھی اور اس کی صفیں انتشار و انحران کا شکار ہو رہی تھیں۔ ابھی ماضی قریب میں سرسید، مولینا شبلی، حالی کی تحریریں اور تحریکیں بہت کامیاب ہو چکی تھیں۔ سرسید کی اصلاحی تحریک خوب خوب کامیاب ہوئی تھی اور کم و بیش نصف صدی گزر جانے کے بعد بھی اس کے آثار اور نشانِ راہ قائم اور روشن تھے۔ اس اصلاح کے بارے میں حضرت اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا:

حاضر ہوا میں خدمت سید میں ایک دن فرمایا تجھ پہ دین کی اصلاح فرض ہے
افسوس ہے کہ ہونہ سکی کچھ زیادہ بات میں چل دیا یہ کہہ کے کہ آداب عرض ہے
مولینا کے اپنے وقت میں بھی محمد علی شوکت علی کا ڈنکا ہندوستان کے کونے
کونے میں بج رہا تھا اور ان کی خلافت کی تحریک بھی قبولیت اور شہرت کے آسمان
تک پہنچ رہی تھی۔ اس کے موضوعات، عنوانات، منشورات اور طریق عمل تو مولینا محمد علیؒ
کے اخبارات ہمدرد اور کامیڈ میں روز ہی چھپتے رہتے تھے۔ ابھی دو ایک برس پہلے مولینا
ابوالکلام آزاد نے مسلمانوں کو مذہب کی راہ سے منظم کرنے اور حزب اللہ کے نام سے

۱۔ مولینا محمد یوسف لدھیانوی "اختلاف امت اور صراطِ مستقیم" ص ۱۶۰۔ جوال مولینا مودودی از اسد گیلانی ص ۷۷۲

ایک جماعت بنانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس تحریک کو بھی ملک کے اطراف و جوانب سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا تھا۔ حسن اتفاق سے مولانا آزاد اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے نہایت حساس، نازک طبع اور غیرت مند واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے بالکل ہی ابتدا میں محسوس کر لیا کہ قوم کا وہ طبقہ جسے دین و شریعت میں صدارت و سیادت کا مرتبہ حاصل ہے وہ مولانا آزاد کی امامت کو منظور نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ نہایت خاموشی کے ساتھ پچھنے ہٹ گئے اور یہ اسکیم آگے نہیں چل سکی۔ یہ واقعہ قاضی عدیل عباسی مرحوم سے سنئے:

”مولانا آزاد کی اسکیم کا خلاصہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مذہب کی راہ سے منظم کیا جائے۔ مسلمانوں کا ایک امام ہو اور امام کی اطاعت کو وہ اپنا دینی فرض سمجھیں۔ مسلمانوں میں یہ دعوت مقبول ہو سکتی ہے اگر قرآن و حدیث سے انھیں بتایا جائے کہ امام کے بغیر ان کی زندگی غیر اسلامی ہے اور ان کی موت جاہلیت پر ہوگی۔ مگر امام کون ہو؟ اس منصب کے لئے زیادہ سے زیادہ معتبر آدمی کو چننا ہوگا۔ ایسے آدمی کو جو کسی قیمت پر دشمن کے ہاتھوں تک نہ سکے۔ ساتھ ہی امام کو ہوشمند اور حالات زمانہ سے کما حقہ واقف ہونا چاہیئے، ظاہر ہے کہ مولانا اپنی ذات کے علاوہ کسے امامت کا اہل سمجھ سکتے تھے؟“

اس اسکیم کے مطابق مولانا آزاد نے حزب اللہ کی دعوت پر بیعت لینے شروع کر دی اور بہت سے صوبوں میں مسلمانوں نے مولانا کے ہاتھوں پر بیعت کر بھی لی لیکن اس سلسلے کی دوسری ضروریات کے ساتھ ایک بڑی اہمیت خلفاء اور مجازین بالبیعت کی بھی تھی۔ مولانا نے بھی اپنا ایک خلیفہ اور مجاز مسلمانوں کی بیعت کے لئے روانہ کیا۔ اور مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی کو مندرجہ ذیل خلافت نامہ عطا فرمایا:

”انجیم مولوی عبدالرزاق ملیح آبادی نے فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور بیعت لینے اور تعلیم و ارشاد و سلوک و سنت میں فقیر کی جانب سے مازون و مجاز ہیں۔ جو طالب صادق ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ انہوں نے خود حقیر کے ہاتھ پر بیعت کی والعاقبۃ للمتقین فقیر ابوالکلام کان اللہ! ۲۳-۱۹۲۰ھ“

”اسی زمانہ میں شیخ الہند مولینا محمود حسن صاحب مالٹا کی نظر بندی سے چھوٹ کر پہلی دفعہ لکھنؤ تشریف لائے اور فرنگی محل میں پھڑسے۔ چنانچہ عبدالرزاق ملیح آبادی وہاں گئے اور بزم خود دونوں بزرگوں یعنی مولینا عبدالباری اور مولینا محمود حسن کو مولینا ابوالکلام کے امام الہند بننے پر رضامند کرنا چاہا۔ مگر دونوں حضرات بات ٹال گئے۔“

”مولینا آزاد نے عبدالرزاق ملیح آبادی کو لکھا مولوی عبدالباری کا خط دیکھا، یار ما این دارد و آن نیز ہم، سردست اس قصہ کو تہہ کیجئے اور کام کئے جائیے۔“

”ہمارا دارُہُ عمل بہر حال مکمل ہو چکا ہے، پنجاب سندھ و بنگال متفق ہے اور اب بوری تیزی سے کام جاری ہو گیا ہے۔ ان لوگوں (مولینا عبدالباری، مولینا محمود حسن، مولینا حسرت موہانی) کے فیصلے کا انتظار بے سود تھا اور بے سود ہے۔“

ان تمام تحریکوں۔۔۔ ماند پڑ جانے کے بعد ہندوستان کا میدان بالکل خالی تھا۔ وقت مناسب اور زمین پیاسی تھی۔ انکار، خیالات، موضوعات، عنوانات، پروگرام اور طریق کار سب موجود اور تیار تھے۔ ضرورت بس سلیقہ اور ہوشیاری کے ساتھ نقشہ جانے کی تھی۔ چنانچہ

”ایک مرحلہ پر مولینا مودودی نے مسلمانوں کے سامنے احیاء دین

اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کو اصل نصب العین بنا کر خالص دینی بنیاد پر اس طرح کی ایک جماعت کی تنظیم اور اصلاحی دعوتی کام کی ایک کمیشن کی جس طرح کس دور میں مولانا آزاد مرحوم نے الہلال کے ذریعے حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت کی تنظیم شروع کی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ انھوں نے اپنے اس مضمون میں حوالہ کے ساتھ الہلال کے اقتباسات بھی نقل کئے تھے یہ

اس موقع پر اتنا اور سمجھ لیجئے کہ یہ حکایت کسی ہمہ شما اور عامی سمولی آدمی کی نہیں ہے بلکہ اس شخصیت کی زبان و قلم سے ہے جس سے زیادہ قدیم اور بنیادی رکن جماعت اسلامی کا اس تختی بر عظیم بند و پاک میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ جماعت کے بانیوں اور اولین ارکان اور داعیوں میں ہیں۔ ایک زمانہ میں وہ مولانا (مورودی) کے سب سے قریب رفیق اور مددگار سے بڑے مستند و مشیر رہ چکے ہیں۔ مولانا عمر منظور نعمانی مدظلہم کی یہ خصوصیت اگر باب میں ان کے دوسرے اقتباسات کے ملاحظہ کے وقت بھی پیش رہنی چاہیے۔

اس مرحلہ تک پہنچنے سے بہت پہلے اجمیعتہ کی ایڈیٹری ہی کے وقت مولانا نے اپنی روانی طبع کے لئے دینی، اصلاحی اور دعوتی موضوعات کا انتخاب کر لیا تھا۔ یہ ایک ایسا میدان تھا جس میں طبع آزمائی کے لئے ہر شخص بلا کسی قید و شرط کے پوری طرح آزاد تھا۔ اور پھر یہ کہ یہ ایسا پرانا تجربہ اور تیسرا بہدن نسخہ تھا کہ جس رنگ جس فکر اور جس ذہن کی بھی تبلیغ کیجئے گا مابانی یقینی ثابت ہو چکی تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ مولانا صاحب علامہ نیاز فتحپوری سے بھی استفادہ کر چکے ہیں۔ مولانا نے ایڈیٹری کے ساتھ مذہبی عزمانات پر چند کتابیں مثلاً 'سودا مسلمان' اور 'پاسی کش مکش' لکھیں۔ یہ تحریریں جدت پسند اور بعض مخصوص طبقوں میں بہت مقبول اور مشہور ہوئیں۔ اس مقبولیت اور شہرت کا نتیجہ یہ ہوا

۱۔ مولانا عمر منظور نعمانی "مولانا مورودی کے ساتھ میری رفاقت" ص ۲۵ سے ۵۰ ص ۵۰ پیش لفظ از مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہم

کو آپ کا اہم قلم ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ بہت جلد مولینا اس درجہ پر فائز ہو گئے کہ آپ کو ایک مستقل ماہوار رسالے کی گنجائش اور ضرورت محسوس ہوئی۔ ان ہی دنوں حیدرآباد سے ایک صاحب ایک دینی و تبلیغی رسالہ ترجمان القرآن نکالا کرتے تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے رسالہ سے سبکدوشی حاصل کرنی چاہی تو مولینا نے ان سے رسالہ لے لیا۔ مولینا کے ایک مداح لکھتے ہیں :

”انہیں (مولینا مودودی کو) اپنے افکار کی ترویج و تبلیغ کے لئے ایک معیاری رسالے کی ضرورت تھی چنانچہ ۱۹۳۱ء میں مولینا ابو مصحح سے ترجمان القرآن حاصل کر لیا۔ مولینا مصحح اس رسالے کے ذریعہ چند ماہ سے حیدرآباد دکن سے قرآن کے پیغام کی اشاعت کر رہے تھے اس وقت سے یہ رسالہ مولینا مودودی کی تحریک کا داعی ہے۔“

اس طرح مولینا کو ایک چلتا چلتا رسالہ ترجمان القرآن اور بنی بنائی راہ، اہم تعلیمات قرآن کی مل گئی۔ تبلیغ و تفکر کی دعوت تو یہ رسالہ پہلے ہی سے دے رہا تھا۔ اب مولینا صاحب نے اپنے افکار و خیالات کے مطابق رسالے کے مقاصد میں ایک اضافہ کیا اور مسلمانوں کو ایک نئے راستے پر چلنے کی دعوت کا اعلان کر دیا۔ چند برسوں تک رسالے کے صفحہ آخر پر یہ عبارت نمایاں طور پر چھپتی رہی :

”اس رسالے کا واحد مقصد اللہ کے احکام کی اشاعت اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر جہاد کی دعوت دینا ہے۔ اس کا خصوصی دائرہ کار یہ ہو گا کہ قرآن کے نقطہ نظر سے ثقافت اور تہذیب کے ان اصولوں اور نظریات پر تبصرہ کیا جائے جو اس وقت دنیا میں فروغ پا رہے ہیں تاکہ قرآن و سنت میں پیش کردہ نظریات کی تشریح، سمجھ، فلسفہ، سائنس، سیاسیات، معاشیات، ثقافت اور عمرانیات کے پس منظر میں واضح ہو سکے اور قرآن و سنت کے قوانین کو جدید طور پر

لے ایک شخص ایک کارڈاں، ص ۷۸، مطبوعہ دہلی

منطقت کرنے کے لئے ڈھالا جا سکے۔ یہ جریدہ امت مسلمہ کو ایک نئے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔

اس باب کو پڑھتے ہوئے قرآن و سنت کو جدید طور پر منطقت کرنے کے لئے ڈھالنے اور امت کو نئے راستے کی طرف دعوت دینے والی بات پوری طرح ذہن میں رکھیں تاکہ اس موضوع کو سمجھنے اور مولانا مودودی کی دعوت پر غور کرنے کا صحیح انداز حاصل ہو سکے۔

مولانا کا رسالہ بلکہ ان کی مشگفتہ تحریر، مستدل اسلوب بیکارش اور عام فہم انداز بیان تعلیماتہ اور کالج اور یونیورسٹیوں کے نوجوان طالب علموں میں خوب مقبول اور کامیاب ہوا۔ قدیم ملاریشوخ، داعظین اور مبلغین و مدرسین کے مقابلے میں مولانا نے ایک بالکل نیا انداز تحریر اختیار کیا تھا۔ مولانا خود بھی جدید نیشن اور نئے طرز زندگی کے دلدارہ تھے۔

”میں یہ بات سن چکا تھا کہ مولانا مودودی صاحب کے ایمان انسردز مضامین سے ان کے طرز زندگی کے بارے میں جو اندازہ کوئی لگا سکتا ہے، ان کی زندگی اس سے بہت مختلف ہے۔ یعنی جس اسلامی زندگی کے وہ پرزور داعی ہیں خود ان کی زندگی وہ نہیں ہے۔ جن صاحب نے یہ بات مجھے بتائی تھی وہ مولانا کے ملنے والوں میں سے تھے اور ترجمان القرآن کے مضامین سے متاثر اور ان کے متذردان تھے انہوں نے بتلایا تھا کہ مودودی صاحب مخلوق اللہیہ (دراصلی منڈے) ہیں۔“

یہ تو مولانا منظور صاحب نے کسی دوسرے سے سنی ہوئی روایت نقل کی ہے اب خود ان کا مشاہدہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

”پھر میں (مولانا منظور صاحب) نے ان (مولانا مودودی صاحب)

سے کہا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ تقلید شخصی کو ضروری نہیں سمجھتے لیکن میرا خیال ہے کہ گفتگوں کے اس زمانہ میں یہ آپ بھی ضروری سمجھتے ہوں گے کہ جس مسئلہ پر اندازہ برہنہ متفق ہوں اس کے خلاف نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں اور اس سے خروج کو جائز نہیں سمجھتا۔

اس زمانہ تک بھی مولینا کی دائرہی بہت مختصر تھی اور سر پر انگریزی بال بھی رہتے تھے۔ میں نے دوستانہ بنے بگلی کے ساتھ ان کی دائرہی کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا کیا ایسی دائرہی رکھنا آپ کے نزدیک جائز ہے؟

ایسے حالات اور ماحول میں مولینا مودودی صاحب نے اپنی تحریک اور جماعت کی بنیاد رکھ دی اور نام کے معاملے میں بجائے اس کے کہ حزب اللہ، دین الہی، خلافت اسلامیہ وغیرہ وغیرہ کی بحث میں پڑتے سیدھے سیدھے اپنی تحریک کا نام جماعت اسلامی رکھ دیا۔ اس نام کی حیثیت شرعی اور دینی اعتبار سے جو کچھ بھی رہی ہو مگر ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سیدھے سادے عوام یہ سمجھنے لگے کہ جو اس تحریک میں اور مولینا صاحب کی امارت میں شامل نہیں ہو گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ دین کی اساسی فہم و علم رکھنے والوں میں سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ اس قسم کے دعویٰ اور دعوتیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس بارے میں مولینا نعمانی فرماتے ہیں :

”راقم سطور (مولینا محمد منظور نعمانی) کو یاد ہے کہ جماعت اسلامی کے بالکل ابتدائی دور میں جب مولینا سید سلیمان ندوی، مولینا عبدالماجد دریا بادی اور مولینا مناظر احسن گیلانی نے مولینا مودودی کے اپنی طرز فکر اور اس پر مبنی دعوت سے شدت کے ساتھ اختلاف کیا تھا تو مولینا گیلانی نے اپنے کسی مضمون یا مکتوب میں لکھا تھا کہ مودودی صاحب جس طریقہ پر اور جس انداز میں دعوت دے رہے

ہیں۔ یہ امت کے مصلحین و مجددین کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبیوں کی دعوت کا ہوتا ہے۔ موردی صاحب نبیوں کی نقل کرنا چاہتے ہیں۔^{۱۰}
 یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ جماعت کی تاسیس سے پہلے مولانا گیلانی موردی کے ہمدر و مددگار تھے۔ مگر تھوڑے ہی دنوں میں ان پر مولانا کی اقتاد طبع کا یہ انداز ظاہر ہوا۔ بہر حال قبل اس کے کہ لوگ اس پر تحقیق و تدقیق کریں، مولانا صاحب سے گفت و شنید کریں اور اظہار رائے کریں مولانا موردی صاحب نے صاف صاف اعلان کر ڈالا کہ جو میری تحریک اور دعوت میں شریک نہیں ہوگا وہ یہودیوں والا طریقہ اختیار کرے گا۔ مولانا کی نیت کا حال تو اللہ ہی جانتا ہوگا مگر الفاظ سے بالکل یہی مفہوم ظاہر ہوا کہ جو ہمارے ٹولے میں نہیں آئے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ بیان اور اعلان ملاحظہ فرمائیں:

”اس موقع پر ایک بات نہایت صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس قسم کی دعوت کا جیسی کہ ہماری یہ دعوت ہے کسی مسلمان قوم کے اندر اٹھنا اس کو ایک بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیتا ہے جب تک حق کے بعض منتشر اجزاء باطل کی آغوش کے ساتھ سامنے آتے رہیں ایک مسلمان قوم کے لئے ان کو قبول نہ کرنے اور ان کا ساتھ نہ دینے کا ایک معقول سبب موجود رہتا ہے۔ مگر جب پورا حق بالکل بے نقاب ہو کر اپنی خالص صورت میں سامنے رکھ دیا جائے اور اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے تو اس کے لئے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کا ساتھ دے اور اس خدمت کو انجام دینے کے لئے اٹھ کھڑی ہو جو امت مسلمہ کی پیدائش کی ایک ہی غرض ہے یا نہیں تو اسے رد کر کے وہی پوزیشن اختیار کر لے جو اس سے پہلے یہودی قوم اختیار کر چکی ہے۔“^{۱۱}

۱۰ مولانا موردی کے ساتھ میری رفاقت، ص ۱۳۴

۱۱ مولانا موردی کے ساتھ میری رفاقت، ص ۱۳۲، بحوالہ روادار جماعت اسلامی حصہ دوم صفحات ۱۷-۱۸

اس جگہ مولینا منظور نعمانی کے ساتھ پیشیں آیا ہوا ایک واقعہ اس بیان کی وضاحت کے لئے ملاحظہ فرمائیجئے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ایک سفر میں جماعت اسلامی کے کچھ حضرات ان سے ملنے آئے، مولانا نعمانی بہت پہلے جماعت اسلامی سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ ان حضرات نے مولینا کو جماعت اسلامی کے حق میں ہموار کرنا چاہا۔ مولینا نے اس موضوع پر گفتگو سے اجتناب کیا مگر وہ حضرات اصرار کرتے رہے۔ آخر میں ان میں سے ایک صاحب بہت غصہ میں آگئے اور فرمایا کہ اب ہم صاف کہتے ہیں کہ آپ مرتد ہو گئے ہو۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ توبہ کر کے پھر اسلام میں آجاؤ۔ مولینا نعمانی کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے مجھے بالکل غصہ نہیں آیا اور میں یہ سمجھا کہ شاید اس بے چارے نے مودودی صاحب کے اسی مذکورہ بیان ہی سے یہ سمجھا ہو کہ جو شخص جماعت اسلامی میں شامل ہو کر الگ ہو گیا وہ مرتد ہو گیا۔

اس اعلان 'دعویٰ' اور فیصلے کے بعد مولینا مودودی صاحب نے قرآن کے مفہوم، حدیث کی استناد، فقہ، انبیاء و رسل، صحابہ، خلفائے راشدین، اولیائے دین، اسلام کرام، علمائے سلف اور اکابر خلف کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ بد قسمتی سے ان کے اشبہ قلم نے ایسی ایسی راہیں اختیار کیں جو علمائے دین اور شرعی و اسلامی تعلیمات کا فہم و بصیرت رکھنے والوں کے لئے بالکل نئی اور ناتاہل قبول تھیں۔

مولینا مودودی صاحب کی جماعت کے دستور میں ایک اصول یہ بھی رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو چاہے وہ کوئی بھی ہو تنقید سے بالاتر نہ سمجھا جائے۔ شرعی اور علمی طور پر یہ اصول اچھا ہے یا بُرا؟ اس پر مختلف علماء کرام کا فی جہت کر چکے ہیں مگر اس کا ظاہری نتیجہ یہ نکلا کہ مسائل و معاملات میں سمجھنے اور سمجھانے کی بات تو دب گئی اس کی جگہ مفسرین، محدثین، نقہائے کرام

مولینا مودودی صاحب کی ان عبارتوں کو آپ نے سرسری طور پر پڑھا جو تو ایک بار غور سے پھر پڑھ لیجئے اور اس کے بعد ان کے بارے میں مولینا سید ابوالحسن علی ندوی کی رائے پڑھیے جن کی قرآن فہمی اور دینی بصیرت کا آج پورا عالم معترف ہے وہ لکھتے ہیں :

”ان عبارتوں کا پڑھنے والا جس کا مطالعہ گہرا اور وسیع نہیں ہے اور جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عام گمراہی اور دین سے ایسی ناآشنائی سے جو زمان و مکان کی حدود سے لے کر نیاز و ہوساری امت پر سایہ ننگن ہو، محفوظ رکھا ہے، یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ قرآن مجید کی حقیقت اس طویل مدت تک امت کی (یا زیادہ محتاط الفاظ میں امت کے اکثر افراد کی) نگاہوں سے اوجھل رہی اور امت بحیثیت مجموعی ان بنیادی الفاظ کی حقیقت سے بے خبر رہی جن کے گرد اس کتاب کا پورا نظام گردش کرتا ہے اور جن پر اس کی تعلیمات اور دعوت کی عمارت قائم ہے اور یہ پردہ اس بیسویں صدی کے وسط ہی میں اٹھ سکا۔“

”اس نتیجے سے اس امت کی گذشتہ تاریخ اور اس کے مجددین، مصلحین اور مجتہدین کے علمی و عملی کارنامے بھی مشکوک ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لئے بھی یہ بات بڑی مشتہ ہو جاتی ہے کہ جو کچھ کہا گیا اور سمجھا گیا ہے وہ صحیح ہے۔“

مگر مولینا مودودی صاحب کے نزدیک قرآن فہمی کے لئے کسی مستند مفسر یا تفسیر کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تفسیر کا علم حاصل کرنے کے لئے طلبائے علوم عربیہ و دینیہ کی کوئی اہمیت ہے۔ موصوف فرماتے ہیں :

”قرآن کے لئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر کافی ہے جس نے قرآن کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا ہو اور جو جدید طرز پر قرآن پڑھانے اور

سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ وہ اپنے کچھروں سے انٹریڈیٹ میں طلبہ کے اندر
قرآنِ نبی کی ضروری استعداد پیدا کرے گا۔ پھر لی۔ اسے میں ان کو پورا قرآن
اس طرح پڑھائے گا کہ وہ عربیت میں بھی کافی ترقی کر جائیں گے۔

اس کے بعد مولینا نے محدثین اور علمِ حدیث پر شبہ کا اظہار فرمایا ہے۔ الفاظ
اور خیالات صحیح ہوں یا غلط ہوں مگر اتنی بات تو واضح ہے کہ اسی قسم کے شکوک و شبہات
نے امت کے ایک گروہ کو انکارِ حدیث کے دلائل فراہم کئے ہیں۔ مولینا صاحب کے
خیالات ملاحظہ ہوں:

”محدثین رحیم اللہ کی خدمات مسلم۔ یہ بھی مسلم کو نقدِ حدیث کے لئے جو

مواد انہوں نے فراہم کیا ہے وہ صدرِ اول کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت

کار آمد ہے۔ کلام اس میں نہیں بلکہ اس امر میں ہے کہ کلیتہً ان پر اعتماد

کرنا کہاں تک درست ہے وہ بہر حال تھے تو انسان ہی۔ انسانی علم کے لئے جو

حدیث اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں ان سے آگے تو وہ نہیں جاسکتے تھے۔ انسانی

کاموں میں جو نقص فطری طور پر رہ جاتا ہے اس سے تو ان کے کام محفوظ رہتے

پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے۔“

تفسیر اور حدیث کے بعد اب فقہ، فقہاء اور ائمہ مجتہدین بلکہ ائمہ اربعہ کی باری

ہے۔ ان کے ساتھ علمائے دین و مفتیانِ شرع میں کا بھی احاطہ کر لیا گیا

ہے۔ فرماتے ہیں:

”قیامت کے روز حق تعالیٰ کے سامنے ان گنہگاروں کے ساتھ

ساتھ ان کے دینی پیشوا بھی بکڑے ہوئے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے

گناہ کیا تم نے تم کو علم و عقل سے اس لئے سرفراز کیا تھا کہ تم اس سے کام نہ لو۔ کیا

ہماری کتاب اور ہمارے نبی کی سنت تمہارے پاس اس لئے تھی کہ تم اس کو لئے بیٹھے رہو اور مسلمان گمراہی میں مبتلا ہوتے رہیں۔ ہم نے اپنے دین کو یسر بنایا تھا تم کو کیا حق تھا کہ اسے عسر بنا دو۔ ہم نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا تھا۔ تم پر یہ کس نے فرض کیا کہ ان دونوں سے بڑھ کر اپنے اسلاف کی پیروی کرو۔ ہم نے ہر شکل کا علاج قرآن میں رکھا تھا تم سے کس نے کہا کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ اور اپنے لئے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو کافی سمجھو، اس باز پرس میں کوئی امید نہیں کہ کسی عالم دین کو کفر الدقائق، ہدایہ اور عالمگیری کے مصنفین کے راستوں میں پناہ مل سکے گی۔ البتہ جہلا کو جواب دہی کرنے کا یہ موقع ضرور مل جائے گا کہ دینا انا اطعنا ساداتنا وکبراءنا
 فاضلونا السبیلہ۔ دینا اتھم ضحیفین من العذاب والعنہم
 لعناً کبیراً

مولینا صاحب کا یہ بیان پڑھنے کے ساتھ ہی ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ مذکورہ آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھیں کہ وہ لوگ باری تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کریں گے کہ ہمیں ہمارے اکابر نے گمراہ کیا تھا اس لئے انھیں دُگنا عذاب دیجئے اور ان پر زبردست لعنت وارد کیجئے۔ مولینا مودودی جیسا کہ مذکورہ بیان بے شبہ ہوتا ہے کہ آیت کا مصداق فقہاء، امت اسلامیہ اور ائمہ مجتہدین ہیں۔ اور اسی لئے مولینا دین، شریعت اور اسلامی انکار کے بارے میں کسی کو قابل اعتبار نہیں سمجھے بلکہ جو کچھ اپنی رائے اور مطالعہ سے سمجھتے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”میں اپنا دین معلوم کرنے کے لئے چھوٹے یا بڑے علماء کی طرف دیکھنے کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ خود خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے معلوم کر سکتا ہوں کہ اس ملک میں جو لوگ دین کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں

دو کسی خاص سلسلہ میں صحیح مسک اختیار کر رہے ہیں یا غلط؛ اس لئے میں اپنی جگہ پر مجبور ہوں کہ جو کچھ قرآن و سنت سے حق پاؤں اُسے حق بھی کہوں اور اس کا اظہار بھی کر دوں۔

یہاں تک قرآن حدیث، فقہ، تفسیر وغیرہ کے بارے میں مولینا مودودی صاحب کے مسک کا کچھ بیان پیش کیا گیا ہے۔ اگلی سطور میں انبیاء و رسل، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اکابر امت کے بارے میں موصوف کی رائے ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے انبیاء کے بارے میں ان کے فرمودات پیش ہیں۔

”موسیٰ علیہ السلام کی مثال اس جلد باز فاتح کی سی ہے جو اپنے اقتدار کا استحکام کے بغیر رچ کر تا ہوا چلا جائے اور پیچھے جنگل کی آگ کی طرح مغموم علاقہ میں بغاوت پھیل جائے۔“

”حضرت داؤد علیہ السلام کے فعل میں خواہش نفس کا کچھ دخل تھا۔ اس کا حکم اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرمان روا کو زیب نہ دیتا تھا۔“

سیدنا یوسف علیہ السلام کے قول، ”اجعلنی علی خزائن الارض کے بارے میں فرماتے ہیں:

”یہ شخص وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ ڈکٹیٹر شپ کا مطالبہ تھا اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام

۱۔ اخلاق امت اور صراطِ مستقیم، ص ۱۳۲ بحوالہ حقوق الزوجین از مولینا مودودی، ص ۹۸

ص ۱۰۸ بحوالہ رسالہ ترجمان القرآن عدد ۲۹، ص ۵

بحوالہ تفسیر القرآن

کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب ہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں مسولینی کو حاصل ہے۔^۱

”حضرت یونس علیہ السلام سے فائدہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔ غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔“^۲

صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے بارے میں ان کے خیالات ان کی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں ملاحظہ فرمائیے:

”حضرت علی (کرم اللہ وجہہ) نے اس پورے نعتیہ کے زمانے میں جس طرح کام کیا وہ ٹھیک ٹھاک ایک خلیفہ راشد کے نمایان شان تھا۔ البتہ صرف ایک بات ہے جس کی مدافعت میں مشکل ہی سے کوئی بات کہی جاسکتی ہے۔ وہ یہ کہ جنگ جمل کے بعد انہوں نے قائلین عثمان کے بارے میں اپنا رویہ بدل لیا۔ جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بیزار تھے، بادل ناخواستہ ان لوگوں کو برداشت کر رہے تھے اور ان پر گرفت کرنے کے لئے موقع کے منتظر تھے۔“

”لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے یہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمانؓ کے خلاف شورش کرنے اور بالآخر انھیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے۔ حمزہؓ کو انہوں نے مالک بن حارث الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دئے درآں حالیکہ قتل عثمان میں ان دونوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا لگا جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔“^۳

۱۔ اختلاف امت اور صراطِ مستقیم ص ۱۰۸ بحوالہ تفہیم القرآن

۲۔ ” ” ” ”

۳۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، خلافت و ملوکیت، ص ۱۳۷

لئے الگ نکال لیا جائے پھر باقی مال شرعی قاعدے سے تقسیم کیا جائے۔ یہ
مذکورہ بالا بیان اور اپنی کتاب 'خلافت و ملوکیت' میں صحابہ کرام کی غلطیوں
اور کمزوریوں پر بہت سے بیانات مولانا مودودی صاحب نے تاریخ کی کتابوں سے
نقل کئے ہیں۔ جو شخص عدشین کرام پر کھلتا اعتماد نہیں کرتا اس نے موزین پر اور وہ بھی صحابہ
کرام اور خلافت راشدین کی کوتاہیوں کے بارے میں ان کے محاکمہ پر کیسے اعتبار کر لیا؟
بہت سی باتیں عوام کی عدالت میں پیش کرنے سے صحت اس بنا پر اجتناب کیسا جاتا
ہے کہ ان سے ابتلا، آزمائش اور فتنہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ اصول حدیث شریف سے
ثابت ہے جو اصحاب علم و بصیرت سے مخفی نہیں ہے۔

اب ترتیب کے اعتبار سے اکابر امت کا معاملہ آتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی
مولانا صاحب کے خیالات، توجہ اور غور و فکر کے طالب ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے
میں ارشاد ہے:

"امام غزالی کے تجدیدی کام میں علمی و فکری حیثیت سے چند نقائص بھی
تھے اور وہ تین عوانات پر تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔ ایک قسم ان نقائص کی جو
علم حدیث میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے کام میں پیدا ہوئے۔ دوسری
قسم ان نقائص کی جو ان کے ذہن پر عقلیات کے غلبہ کی وجہ سے تھے اور
تیسری قسم ان نقائص کی ہے جو تصورات کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہونے
کی وجہ سے تھے۔"

اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں اپنا فیصلہ سناتے ہیں:

"تاہم یہ واقعہ ہے کہ وہ کوئی ایسی تحریک نہ اٹھاسکے جس سے نظام
حکومت میں انقلاب برپا ہوتا اور اقتدار کی کئی جاہلیت کے ہاتھ سے نکل کر

۱۔ خلافت و ملوکیت، ص ۱۶۲، بحوالہ طبقات ابن سعد، ج ۴، ص ۱۸۸

۲۔ اختلاف امت اور صراطِ مستقیم، بحوالہ تجدید اچائے دین از مولانا مودودی، ص ۷۸

پھر وہی چنیا بیگم یاد آجاتی ہے جو صدیوں سے ان کو تھپک تھپک کر سُلّاتی رہی ہے۔^۱

ہر چند کہ اس بار زبان کسی درجہ میں مبتدل ہو گئی ہے مگر یہی مولینا صاحب کا کمال ہے کہ ان کو ہر صنف اسلوب پر قدرت حاصل ہے۔

ایک مسلمہ اصول یہ ہے کہ انسان بشری کمزوریوں کا پتلا اور خطا و نسیان سے مرکب ہے۔ اسی فطرت کے مطابق مسلمانوں سے بھی کبھی کبھی ادبِ نیچ اور بھول چوک ہو جاتی ہے۔ مگر بے عمل اور قصور وار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور شفاعتوں کا بڑا سہارا تھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ :

قل لعبادی الذین اسرفوا علی
انفسهم لا تقنطروا رحمة اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب
آپ کہہ دیجئے۔ اے میرے وہ بند و جنہوں نے
اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں۔ تم اللہ کی رحمت
سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تمام گناہوں کو یقیناً
معاف کر دیں گے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما من عبد قال لا اله الا اللہ ثم
مات علی ذلک الا دخل الجنة۔ قلت
وان زنی وان سرق قال وان
زنی وان سرق قلت وان زنی و
ان سرق قال وان زنی وان سرق
علی رغم انف ابی ذر (المحدث تفسیر علیہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا
بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے (اور
اس پر ایمان رکھے) اور اسی عقیدہ پر
اُسے موت آجائے تو وہ ضرور جنت میں داخل
ہوگا۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا
رسول اللہ چاہے اُس نے چوری اور زنا کیا
ہو۔ فرمایا کہ ہاں چاہے اُس نے چوری اور
زنا کیا ہو۔ میں نے پھر پوچھا کہ چاہے اُس نے

چوری اور زنا کیا جو۔ فرمایا کہ ہاں چاہے اُس نے چوری اور زنا کیا جو۔ میں نے پھر پوچھا کہ چاہتے اُس نے چوری اور زنا کیا جو۔ فرمایا کہ ہاں چاہے اُس نے چوری اور زنا کیا جو اور اذکر کے علی الرغم وہ پھر بھی جنت میں جائے گا۔

(بخاری مسلم)

یہ ایک آیت اور حدیث شریف ہے جو نونے کے طور پر نقل کی گئی۔ اس قسم کی دوسری کئی بشارتیں ہیں جو مسلمانوں کے لئے بڑا سہارا اور آسرا ہیں، مگر مولانا مودودی صاحب نے اس شجر امید کو بڑھی سے کاٹ دیا۔ اور فیصلہ فرمایا کہ جو مسلمان عمل میں کوتاہی اور فرافض میں غفلت برتے گا وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مولانا صاحب فرماتے ہیں :

”وہ لوگ جن کو عمر بھر کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ حج بھی کوئی فرض ان کے ذمہ ہے، دنیا بھر کے سفر کرتے رہتے ہیں، کچھ یورپ کو آتے جاتے ہیں، تاجاز کے ساحل سے بھی گزر جاتے ہیں جہاں سے مکہ صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے اور پھر حج کا ارادہ تک ان کے دل میں نہیں گزرتا تو وہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں، جھوٹ کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔“

”اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے بغیر نماز روزہ اور ایمان کی شہادت سب بیکار ہیں، کسی کا بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔“

”ان دو ارکان (روزہ نماز) سے جو لوگ روگردانی کریں ان کا دعویٰ

ایمان ہی تھوٹا ہے۔“

مولانا کے یہ خیالات اور اعلانات علمائے دین کی نظر سے گزرتے رہتے تھے اور

ان کو اعراض بھی ہوتا رہتا تھا مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ان تحریروں پر مطلع ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ترجمان القرآن اور بہت سے دوسرے اخبارات و مجلات حضرت کے نام آتے رہتے تھے مگر اپنی تدریسی، علمی اور روحانی مصروفیتوں کی وجہ سے حضرت کو خارجی مطالعہ کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے دوسرے علماء اور طلباء جو ترجمان القرآن کا مطالعہ کرتے تھے ان میں سے بعض ترجمان القرآن اور مولینا کی تحریر سے متاثر اور ان کے مداح بھی ہو گئے تھے۔ اسی درمیان میں مولینا نے ایک کتاب 'مسلمان اور موجودہ سیاسی کش مکش' لکھی۔ نظریہ متحدہ قومیت اس وقت کا بہت گراگرم موضوع تھا۔ مودودی صاحب نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایسے انداز میں قلم باری کی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ نظریہ اور پالیسی کو عنوان بنا کر حضرت کی ذات گرامی اور شخصیت کو نشانہ بنانا مقصود تھا۔ حضرت کے مخالفین و معاندین کے ایک بڑے حلقے نے جس کا مفصل تذکرہ پچھلے اوراق میں گزر چکا ہے مولینا کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور آپ کی شہرت و مقبولیت میں دن دینی رات چوگنی تیزی آگئی۔

”تحریک پاکستان کے دور نہاؤں اور مسلم لیگ کے مرکزی عہدیداروں

یعنی مولینا ظفر احمد انصاری اور نواب زادہ صدیق علی خاں تصدیق کرتے ہیں

کہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول و دوم اور مسئلہ قومیت وہ واحد

موضوع تھا جو مسلم لیگ نظریہ پاکستان کے حق میں استعمال کرتی تھی اور اپنے

خرچ پر چھپو کر اسے تقسیم کرتی تھی۔“

یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ مولینا مودودی نہ مسلم لیگ کے موافق تھے اور نہ پاکستان کے حامی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس تحریر میں حضرت سے ذاتی مخالفت کا جذبہ بھی شامل رہا ہو اس لئے کہ اگرچہ حضرت نے اب تک کوئی اعراض و اعراض نہیں کیا تھا۔ مگر خطرہ ہر وقت تھا کہ بات آگے بڑھے گی اور تحریک کا نعرہ بلند ہوگا تو شاید

حضرت اپنی رائے ظاہر فرمادیں۔ مختصر یہ کہ ان مضامین کی اشاعت اور ان کے استعمال پر حضرت بالکل خاموش رہے۔ راقم السطور کو خوب یاد ہے کہ ایک خادم نے کتاب حضرت کو دکھائی اور متعلقہ مضامین زبانی عرض کر کے خواہش ظاہر کی کہ یا تو خود حضرت اس کا جواب دیں یا اپنے متعلقین و تلامذہ میں سے کسی کو اجازت دیں کہ وہ لکھ کر حضرت کو دکھا کر جواب دے مگر حضرت نے صاف انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس قسم کی باتیں روز ہی پیش آتی رہتی ہیں۔ لوگ کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں۔ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اگر نہ شخص کا جواب دینے لگو گے تو اپنے دینی و دنیوی فرائض کیسے ادا کر گے؟ اس طرح بات آئی گئی ہو گئی اور حضرت عرصہ تک مولینا کی تحریروں اور تحریکوں سے لاعلم اور خاموش رہے۔ مگر آخر میں منتسبین اور مریدین نے مولینا کی کتابوں اور تحریروں کے اقتباسات بھیج کر ان کے معتقدات کے بارے میں حضرت کی رائے طلب کرنی شروع کی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں مولینا ابوالیث اصلاحی امیر جماعت اسلامی ہندوستان نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھے اور ملاقات نیز انہام و تقسیم کی دعوت دی۔ ایک دو خطوط تک تو حضرت چُپ رہے مگر جب اصرار بڑھا تو حضرت نے مولینا مودودی کی تحریروں کا مطالعہ اور ان کے بارے میں اہل رائے حضرات سے مشورہ کرنا چاہا۔ اس کی تفصیل حضرت شیخ الحدیث مولینا زکریا صاحبؒ نے لکھی ہے جس کو مختصراً ہم یہاں نقل کرتے ہیں :

”شوال ۱۳۷۰ھ کی بات ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن ٹانڈہ

سے دیوبند تشریف لے جا رہے تھے۔ میں ملاقات کے لئے سہانپور اسٹیشن پر حاضر ہوا، مولینا عبدالعقار صاحب رائے پوری بھی ہمراہ تھے۔

حضرت مدنی قدس سرہ حضرت رائے پوری سے مل کر بہت خوش ہوئے اور

ارشاد فرمایا کہ مجھے تم دونوں سے مشورہ کرنا ہے۔ چنانچہ اسی روز حضرت قدس سرہ ہمراہیوں اور سواروں کو دیوبند پہنچا کر واپس آئے اور ہم دونوں سے فرمایا کہ مودودی کے متعلق مجھے تفصیل سے کتابیں دیکھنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ کچھ

تراشے لوگوں نے بھیجے ہیں وہ دیکھتا رہا۔ اب مولوی ابواللیث کے خطوط اس سلسلے میں آرہے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں گفتگو کرنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ تم دونوں کا اس میں کیا خیال ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! چار ماہ شب و روز ان ہی کی کتابیں دیکھنے میں گزرے ہیں اور اتنا مواد میری کاپیوں میں موجود ہے کہ حضرت اتنا دیکھ بھی نہیں سکتے۔ حضرت مدنی نے فرمایا کہ اس وقت تو فرصت نہیں ہے تین چار دن میں مولانا اعزاز علی صاحب کو ساتھ لاؤں گا پھر آپ کی ساری تحریریں سنوں گا۔ چنانچہ دونوں حضرات تشریف لائے اور وہ نوٹ بھی لے کر اصل کتابوں میں نشان لگا کر وہ نوٹ اور بہت سی کتابیں ساتھ لے گئے۔ اسی وقت سے حضرت مدنی کا جوش بھی مودودیوں کے خلاف بہت تیز ہو گیا۔ اس لئے کہ حضرت مدنی نے اپنی آنکھوں سے ان مضامین کو اصل کتابوں میں پڑھ لیا تھا، لہ

ان تحقیقات، مطالعے اور مشوروں کے بعد ہی حضرت رحمۃ اللہ نے مودودی صاحب کی تحریروں کے بارے میں اظہار رائے فرمایا۔ حضرت تحریر و تقریر میں بالکل سادہ اسلوب بیان کے عادی تھے۔ عبارت آرائی اور سخن سازی کا کبھی اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ خاص طور پر جس مسلک، مذہب اور موقف کو صحیح سمجھتے تھے اس کے اعلان و احقاق میں کسی رد و رعایت، ممانعت اور لحاظ ملاحظہ کو روا نہیں رکھتے تھے۔ مولانا ابواللیث صاحب نے حضرت کو تین خطوط تحریر کئے جن میں سے پہلا خط میں ۲۲ اپریل ۱۹۵۱ء کو ہونے والے جماعت اسلامی ہند کے کل ہند اجتماع منعقدہ رام پور میں شرکت کی دعوت نامہ کی دوبارہ یاد دہانی کی گئی تھی اور دیوبند کے اس فتویٰ کے بارے میں جو سہارنپور سے شائع ہوا تھا توجہ دلائی گئی تھی کہ

مودودی فتنہ کو مٹا دو مودودی فتنہ کو مٹا دو مودودی کے ہم خیال گمراہ

ہیں، مودودی تحریک، ہنگام اور زہرِ قاتل ہے۔ مودودیوں کے ہچکچے نماز، پڑھو کی موٹی موٹی سرخیوں کے ساتھ ایسے فتویٰ کا دارالعلوم دیوبند سے منشا ہونا ہمارے لئے حیرت اور قلق کا موجب ہوا۔

تیسرے خط میں بھی پچھلے خط کی یاد دہانی کرائی گئی تھی اور یہ لکھا گیا تھا کہ آل جناب کا کوئی گرامی نام یہاں (راہپور) کے کسی صاحب کے نام آنا معلوم ہوا ہے جس میں آپ نے ہدایت کی کرجاعت اسلامی کی ہر طرح مخالفت کی جائے۔ اور سنا گیا ہے کہ جماعت اسلامی کی کتابیں ایک کمیٹی کے سپرد کی گئی ہیں کہ وہ جماعت کی غلطیاں چھانٹ کر الگ کریں۔ اس لئے یہ درخواست کی گئی کہ کمیٹی مذکورہ کا فیصلہ آنے تک ان فتوؤں کا سلسلہ روک دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ جماعت کو موقع دیا جائے کہ وہ اعتراضات کے ضمن میں اپنا نقطہ نظر پیش کر سکے۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں خطوط کے جواب میں مولانا ابواللیث صاحب کو جو مکتوب ارسال کیا اس کی مندرجہ ذیل تلخیص سے مولانا مودودی صاحب کے افکار اور مسلک پر حضرت کے اعتراضات اور موقوف کی بخوبی وضاحت ہو جاتی ہے حضرت نے لکھا کہ

واللہ انامہ اور اس سے پہلے دعوت نامہ باعث سرفرازی ہوا۔ میسری مصروفیتوں کا جناب نے صحیح طور پر اندازہ کیا۔ جن موٹی موٹی سرخیوں والے اشتہارات کا آں جناب نے ذکر کیا ہے ان کا آپ کے واللہ انامہ سے پہلے مجھے کوئی علم نہ تھا ہاں ایک صاحب نے رسالہ کشف حقیقت یعنی تحریک مودودیت اپنے اصلی رنگ میں بھیجا تھا، اس کا البتہ علم ہوا تھا۔

محترم! پہلے میرا خیال تھا کہ آپ کی تحریک اسلامی مسلمانوں کی تنظیم اور ان کی علمی، اعلیٰ اور دنیاوی انتشار اور دینی کمزوریوں کو دور کرنے تک ہی محدود

ہے۔ اگرچہ طریق تنظیم میں اختلاف رائے ہو۔ اس لئے میں نے اس کے خلاف آواز اٹھانا کبھی مناسب نہ سمجھا۔ اگرچہ افراد جماعت اور قائد جماعت کی طرف سے بسا اوقات ناشائستہ کلمات، تقریر اور تحریریں معلوم ہوئے مگر ان سب سے چشم پوشی کرنا ہی ان سب معلوم ہوا۔ مگر اب ہندوستان و پاکستان سے مختلف حضرات نے مودودی صاحب کے اقتباسات بھیج کر میری رائے معلوم کی تو میں اپنے مطالعہ اور فہم سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ،

آپ کی تحریک "اسلامی" خلاف سلف صالحین مثل مستزاد، خواجہ، روانغز، جیمیہ وغیرہ فرق قدیمہ اور مثل قادیانی، چکڑالوی، مشرقی، نیچری، مہدوی، بہائی وغیرہ فرق جدیدہ، ایک نیا اسلام بنانا چاہتی ہے اور اس کی طرف لوگوں کو کھینچ رہی ہے۔ وہ ان اصول و عقائد و اعمال پر مشتمل ہے جو کہ اہل سنت والجماعت اور اسلاف کرام کے خلاف ہیں۔

وہ قرآن شریف کی تفسیر بالرائے کی قائل ہے۔ ہر وہ پر و فیسور جو کہ ملحدان یورپ اور ان کی نئی روشنی کا حامل اور تھوڑی بہت عربی زبان سے واقف ہے اس کے نزدیک یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی رائے اور اپنے مذاق سے تفسیر کر کے مسلمانوں کے لئے مشکل راہ بنوخواہ اس کی تفسیر سلف صالحین اور صحابہ کرام کے اقوال کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قیاسات اور اٹکوں پر چلانے والا بتلاتی ہوئی تاریخی واقعات کے ذریعے سے احادیث صحیحہ اور حسنہ کو ردی کی ٹوکری کی نذر کرتی ہے۔

وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سقیم یا صحیح، غیر حقیقی المراد روایات کی بنا پر مثل روانغز غیر قابل وثوق اور بدن ملامت بناتی ہے۔
وہ صحابہ کرام کی متعدد روایتوں کو خواہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہوں، ان کی خوش اعتقاد ہی پر بسنی بتاتی ہوتی واقیبت سے درر کردتی ہے۔

وہ احادیث صحیحہ کے راویوں اور ائمہ حدیث کو مجروح اور غیر ثقہ بتاتی ہوئی اقوال ضعیفہ یا غیر ظاہر المراد اقوال صحیحہ یا ان کے خود غرض اہل ابواء دشمنوں کے اقوال پیش کرتی ہے اور شاہیر عالم ائمہ ثقات کو غیر قابل اعتبار قرار دیتی ہے۔ حالانکہ اس سے تمام ذخائر احادیث بالکل فنا ہو جاتے ہیں اور من آخر ہذہ الامۃ اولہا کا سانہ پیش کرتی ہے۔

: یہ تقلید شخصی کو نہایت گمراہی اور ضلالت قرار دیتی ہے۔ حالانکہ یہ آیات قرآنیہ فاسئلوا اهل الذکر الایۃ۔ واتبع سبیل من اناب۔ الایۃ۔ ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین الایۃ۔ کی بنا پر فی زمانہ (جبکہ اہل علم و جامین شروط اجتہاد معدوم ہیں جیسا کہ چوتھی صدی کے بعد سے آج تک کے اقوال بتلا رہے ہیں) تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔

وہ ائمہ اربعہ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کی تقلید کو گمراہی اور حرام بتلاتی ہے۔

وہ طریقی تصون اور اس کے اعمال کو جاہلیت اور الحاد و زندقہ قرار دیتی ہے اور اس کو بڑھ ازم اور یوگ بتلاتی ہے۔

وہ سلف صالحین اور اولیاء اللہ سابقین کی شان میں نہایت زبان دراز کرتی ہوئی سخت گستاخانہ الفاظ استعمال کرتی ہے اور ان کو عوام الناس میں نہایت ذلیل و خوار کرتی ہے۔

وہ حضرت مجدد الف ثانی حضرت شیخ سرہندی قدس سرہ العزیز اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ العزیز اور ان کے اتباع و احقاد اور دیگر ائمہ ہندی خواجہ معین الدین چشتی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت شیخ شہاب الدین بہروردی قدس اللہ اسرارہم ائمہ طریقت کو مسلمانوں میں انیون اور ضلالت و گمراہی کے انجکشن دینے والا بتلاتی ہیں۔

وہ مذکورہ بالا مشائخ طریقت رحمہم اللہ تعالیٰ کو یوگ اور بڑھ ازم

اور ضلالت پھیلانے والا بنائی ہوئی ان کی تذلیل کرتی ہے۔

وہ علماء، نظائر اور مخالفین علوم شرعیہ کی شان میں سخت گستاخی کے الفاظ استعمال کرتی ہوئی عوام کو ان سے متنفر کرتی ہے اور ان کی تذلیل و توہین عمل میں لاتی ہوئی غیر قابل اعتماد ٹھہراتی ہے اور عام مسلمانوں کو نئے اسلام اور اس کے لیڈر کی تقلید اور تابعداری کی طرف بتلاتی ہے۔

وہ چکر الوسی کی طرح ذخیرہ احادیث کو بے معنی اور ہزیان بتلاتی ہے۔ وہ مثل فرق قادیانیہ اپنے قائد اعظم اور امیر کو ایسا مختار بناتی ہے کہ اپنے مذاق سے جس حدیث کو قابل اعتماد قرار دے اور جس کو چاہے رد کرے۔ وہ ذخائر حقہ کو غلط اور ذخیرہ ضلالت بتاتی ہوئی ترمیم اور اصلاح اور حذف کا حکم دیتی ہے اور مسلمانوں کے آج تک کے تیرہ سو برس کے عمل درآمد کو جاہلیت اور گمراہی بتلاتی ہے اور سب گذشتہ مسلمانوں کو غیر ناجی کہتی ہے۔

مختم! دور حاضر میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کو اکثریت، موجودہ حکومت، مہا بسھائیوں کی فرقتہ دارانہ ذہنیت، آرائیں ایس کی اسلام دشمنی وغیرہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان میں دن بدن احساس کتری پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات کا تقاضا تھا کہ اس شیرازہ کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جاتی۔ مسلمانوں کے دل سے خون و ہراس، بدحواسی اور بزدلی بے دینی اور لاعلمی کو دور کیا جاتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تحریک دینی و دنیاوی انتشار کی وبا پھیلا رہی ہے۔ اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس تحریک سے علیحدہ رہنے اور مودودی صاحب کے لٹریچر کو نہ دیکھنے کا مشورہ دوں۔

اور مذکورہ کی موجودگی میں میں نہیں سمجھتا کہ جناب سے شرف ملاقات سے کوئی نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے میں ایک پرانا مسلمان، اخاف کا مقلد، مشائخ طریقت کا خادم ہوں۔ مسلمانوں کو سلف صالحین کے راستے پر چلانا چاہتا ہوں اور اسی میں

ان کی نجات بگھتا ہوں۔

آپ حضرات نے اسلام کے روشن چراغ ہیں۔ مودودی صاحب کے نئے اسلام پر مسلمانوں کو چلانا چاہتے ہیں۔ ان کی تجدید اور احیاء کو جو مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت سید احمد شہید وغیرہ رحمہم اللہ کو بھی نصیب نہیں ہو سکی اس کو مسلمانوں کے لئے ذریعہ نجات قرار دیتے ہیں۔ آپ مسلمانین کی تیرہ سو جاہلیت سے مسلمانوں کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ ان اصول بون بید کی موجودگی میں ہم ایک دوسرے پر کیا اثر ڈال سکتے ہیں۔

بہر حال میں آپ کی توجہ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا

فضل فرمائے۔

مذکورہ بالا بیان میں تفصیلات، کے بعد حضرت نے اپنے موقف کا بالکل وضاحت

کے ساتھ بھی اعلان فرمایا:

”میں مودودی صاحب، ان کے لٹریچر اور ان کی جماعت کو سنت گراہ

اور خال اور مغل سمجھتا ہوں۔ مجھ کو جس قدر بھی ان کی تعینفات دیکھنے کی ذہنت

آئی اسی قدر میرا گمان متعلق عقیدہ بڑھا گیا۔“

حضرت رحمۃ اللہ کے علاوہ ایک بڑی جماعت جن میں مولانا امین احسن اصلاحی،

مولانا عبد الغفار حسن، مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہم، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مدظلہم، مولانا حکیم عبد الرحیم اشرف، غازی عبد الجبار، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا وحید الدین خاں

صاحب بانی مرکز اسلامی و مجلہ الرسالہ دہلی، مولانا سید صبغت اللہ بختیاری، مولانا سید محمد جعفر

ندوی، وغیرہ وغیرہ وہ حضرات ہیں جن میں سے بعض جماعت اسلامی کے موسسین، بانی

اور السابقون الاولون ہیں، بعض مجلس مشاورت کے ارکان اور بعض امیر، نائب امیر

اور قیم تھے اور بعض موید اور ہمدرد تھے، ان میں سب ثقہ، محتاط، متبحر علماء اور صاحب تقویٰ بزرگ ہیں۔ رفتہ رفتہ سارے ہی حضرات جن کی مجموعی تعداد مولینا منظور نعمانی نے تقریباً ستر تکھی ہے نہ صرف جماعت سے الگ بلکہ مخالف ہو گئے اور مولینا مودودی کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جن کا مبلغ علم دین صرف اتنا سا تھا کہ وہ اردو کی کتابیں پڑھ کر جماعت اسلامی سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اور یہی لوگ اب جماعت کے امیر، نائب امیر، قیم اور شوریٰ کے رکن تھے۔ اس بارے میں مولینا محمد منظور نعمانی صاحب مدظلہ کا بیان قابل ملاحظہ ہے۔ مولینا نعمانی مدظلہ کے بارے میں ایک بار پھر سمجھ لیجئے کہ وہ جماعت اسلامی کے سب سے پہلے بانیں اور موسیٰین میں تھے۔ فرماتے ہیں:

"یہ طبقہ (جو جماعت اسلامی کا اصل کارفرما عنصر ہے) اس حال میں نہیں ہے کہ براہ راست کتاب و سنت سے اور ائمہ سلف سے اور امت کے علماء و محققین سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ اس کے پاس علم دین کا سارا سرمایہ بس مودودی صاحب کی تصنیفات اور جماعت کا لٹریچر ہے۔ پھر اس (طبقہ) کو دین کی حکمت عملی کے عنوان سے مولینا نے یہ اصول بھی سکھا دیا ہے اور اس پر عمل کر کے اور کرا کے دکھلا بھی دیا ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد کے سلسلہ میں (جس کی عملی صورت اب الگ نئی معرکے ہی ہیں) اگر ضرورت پڑے تو بقدر ضرورت کسی ناجائز حرام کام کا بھی ارتکاب کیا جاسکتا ہے"۔

"احتیاط سے کام لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ جماعت اسلامی میں اٹھانوے ننانوے فی صدی ایسے ہی حضرات ہیں جن کے لئے دین کا ماخذ صرف مودودی صاحب اور ان کی تصانیف ہیں۔"

"امیر اپنی جگہ پر خود مولینا مودودی صاحب نے! ان کی رہنمائی میں جماعت نے ہمارے عزیز دوست میاں طفیل محمد صاحب کو جو غالباً بی۔ اے ایل ایل بی

ہیں اور جماعت اسلامی پاکستان کے نائیندسے کی حیثیت سے جنرل سکریٹری پروفیسر
غفور احمد صاحب کو بنایا ہے۔ جماعت کے سکریٹری دوسرے صاحب ہیں وہ بھی جدید
تعلیمیاتہ طبقہ کے ایک فرد ہیں۔

مولانا وحید الدین خاں صاحب صدر اسلامی مرکز نئی دہلی پندرہ سال تک مسلسل
جماعت اسلامی سے وابستہ رہے۔ اس درمیان میں نہ صرف مرکزی مجلس شوریٰ کے ممبر
رہے بلکہ جماعت کے فکری، ذہنی اور تحریکی کاموں کی تعمیر میں بھی شریک رہے مگر آخر
میں اس نتیجہ پر پہنچے کہ :

”مولانا مودودی کے لٹریچر میں دین کی جو تشریح کی گئی ہے اس کے متعلق
میرا شدید احساس یہ ہے کہ وہ دین کے صحیح تصور سے ہٹتی ہوئی ہے۔ اس تشریح
کے اجزائے ترکیبی تو وہی ہیں جو اصلاً خدا کے دین کے ہیں مگر نئی ترکیب میں اس کا
حلیہ اس طرح بگڑ گیا ہے کہ وہ بجائے خود ایک نئی چیز نظر آنے لگا ہے اور دین
کی اصل حیثیت اس میں بُری طرح مجروح ہو گئی ہے۔“

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف صاحب بنوری قدس اللہ سرہ العزیز نے مولانا
مودودی کی شہرہ آفاق تالیف خلافت و ملوکیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ
”اس تازہ متنہ انگیز تالیف کے مولف کے حق میں مجھے سو خاتمہ کا
انذیشہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حضرت عثمان غنی منظم
پر اعتراض ناقابل عفو جرم ہے۔“

مولانا عبد الماجد دریا بادی مرحوم نے ’مودودی صاحب‘ کے عنوان سے مولانا کا
تذکرہ لکھا ہے۔ طوالت تو ضرور ہے مگر خلاصہ اور چھوٹے کے طور پر یہ پورا تذکرہ نقل کر دینے
کے قابل ہے۔ کچھ ہمت ہم کر رہے ہیں اور کچھ جبر آپ کیجئے اور مولانا مودودی صاحب

۱۔ مودودی صاحب کے ساتھ میری رفاقت ۱۹۷۰ء مولانا وحید الدین خاں، تعبیر کی غلطی، ص ۲۱

۲۔ اہنامہ بینات، مولانا محمد یوسف بنوری نمبر، شمارہ فروری ۱۹۷۰ء، ص ۶۲۵

پر مولانا عبد الماجد صاحب کا یہ تذکرہ پڑھ ہی لیجئے:

”سید ابوالاعلیٰ مودودی کا نام سب سے پہلے اُس وقت سننے میں آیا جب وہ جیتے علماء کے اخبار الجمیۃ ہفتہ وار دہلی میں ایڈیٹر ہو کر آئے اور پھر چند سال بعد دکن جا کر وہاں سے اپنا ماہنامہ ترجمان القرآن نکالا۔ الجہاد فی الاسلام کے عہد میں ان کے پرزور اور دلنشین مقالے الجمیۃ میں عرصے تک نکلتے رہے اور یہی آگے چل کر ایک کتابی صورت میں مرتب ہو کر شائع ہو گئے۔ ان کے مسلم کی روانی نے کتاب نویس کو ایک فاضل کی شکل میں پیش کر دیا۔ مضمون پر مضمون، مقالے پر مقالے نکلتے رہے خصوصاً پروردہ اور سود پر، اور اسی طرح کتابی صورت میں بھی شائع ہوئے۔ لکھنے والا اہل نظر کو ہونہار ہی نظر آیا۔“

کچھ روز بعد قلم میں بجائے اعتدال، توازن اور متانت کے تشدد اور کٹر پن کے اثرات نظر آنے لگے اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ جیسے لکھنے والا محض مقالہ نگار یا مصنف ہی نہیں بلکہ ایک مستقل پارٹی یا ٹولی (حزب) کا لیڈر ہے اور اپنا ایک جتھا بنا لینا چاہتا ہے۔ اجتہاد کے قدم بھی تیز سے تیز تر ہوتے گئے اور مودودی صاحب ہندوستان سے منتقل ہو کر پٹھان کوٹ (پنجاب) پہنچ گئے اور ایک مخلص صاحب خیر نے اپنی کئی ایک مآزین اسلام نگریا دارالسلام بسانے کے لئے دی۔ باتیں اب بھی بہت کام کی کرتے رہے لیکن جو جو عیب اکثر لیڈروں اور جماعتی کارکنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں ان میں بھی پیدا ہو گئے اور وہ محض نظریاتی مسائل میں نہیں بلکہ عملی سیاست میں بھی پورا حصہ لینے لگے۔

تصنیفی کام بھی تیزی سے جاری رہا، خصوصاً ان کی تفسیر تفہیم القرآن جسے ان کا شاہکار کہنا چاہئے تیار ہوتی گئی۔ خیر کا ذخیرہ یقیناً بڑھتا رہا لیکن ساتھ ہی اس کے جو شرکا ذخیرہ بھی ان کے قلم سے نکلتا رہا وہ بھی کچھ ایسا کم نہ رہا۔ ”جماعت“ ان کی جماعت اسلامی سے موسوم ہوئی اور ذہنیت اس کی خوارج کی سی پیدا ہو گئی، لپک یعنی خود تنقیدی ان کے قلم سے رخصت ہو گئی اور

ملی اور سیاسی معاملات میں عجب عجب رائیں دینے لگے۔ دو باتیں ان کی کسی طرح بھلائے نہیں بھولتیں اور ان کا یقین کر لینا بھی ان کے سابق مخلصوں اور متدبیرانہ نیاز مندوں کے لئے آسان نہیں۔

ایک تو جب صدر پاکستان کے الگشن کا مسئلہ چھڑا اور صدر ایوب خان (صدر پاکستان) سے خفا ہوئے تو فرادیا کہ ایک طرف ان میں کوئی خوبی اس کے سوا نہیں کہ وہ مرد ہیں اور دوسری طرف ان کے مقابل میں مسلمان جنات ہیں جن میں کوئی برائی نہیں سوا اس کے کہ وہ عورت ہیں۔ زبان کی اس درجہ بے احتیاطی بجائے خود ایک قہر الہی ہے اور اللہ اپنے اس قہر سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔

دوسرا معاملہ وہ ہے جو انھوں نے غلان کبہ تیار کر کے پاکستان کے ہر شہر میں اس کی زیارت اس طرح کرائی جیسے رونے والی عینیں اپنے اپنے روضوں کی کراتی رہتی ہیں۔ اور ایک شدید بدعت کی ترویج میں پوری سرگرمی دکھادی۔ یہ اس طرز عمل کی مثالیں ہیں جو کسی طرح میرے حلق سے نہیں اترتیں اور کوئی تاویل مجھ سے بن نہیں پڑی۔ یوں الگ سے ان کی جماعت بہت سے کارخیر پاکستان میں بھی کر رہی ہے اور ہندوستان میں بھی۔ بلکہ ہندوستان میں پاکستان سے کہیں بڑھ کر۔ لیکن جو ساکھ مولینا مودودی نے اپنے ہاتھوں اپنی بگاڑ رکھی ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ تحریروں میں دہی اکر برابر جاری ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مولینا اپنے سے کسی غلطی یا لغزش کے صدور کا امکان ہی نہیں سمجھتے اور نہ آج تک کوئی ایسی نظیر یاد پڑتی ہے کہ مولینا نے بے شمار مسائل میں اپنی غلطی کسی ایک مسئلہ میں تسلیم کی ہو۔ زبان کی بے احتیاطیوں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت یونس انبیائے کرام تک کے باب میں پرہیز نہ رہ سکا گویا اس کا احساس ہی باقی نہیں رہ گیا ہے کہ ان کے قلم کو کبھی بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے۔

غلات کعبہ کی زیارت اور نمائش کا تذکرہ آہی گیا ہے تو اس کی دو ایک آنکھوں دیکھی
جھلکیاں بھی دیکھتے چلے :

"آج کل مغربی پاکستان کے ریلوے اسٹیشنوں پر دو ٹرینیں غلات کعبہ
زیارت کر رہی ہیں۔ ایک ٹرین لاہور سے پشاور کی طرف منزل بہ منزل رواں ہے
دوسری خاص ٹرین اوکاڑہ منڈی کی جانب تشنگان دیدار غلات کو سیراب کر رہی
ہے۔ ہر اسٹیشن پر عوام کے ذوق و شوق اور عقیدت و محبت کا عجیب عالم ہے، چھوٹے
چھوٹے اسٹیشنوں پر لاکھوں کا جوم ہوتا ہے۔ مرد عورتیں بچے بوڑھے جسے
دیکھتے بس ایک نظر دیکھ لینے کی سعادت حاصل کرنے کو تے تاب ہیں۔ خواتین
غلات کعبہ پر پھول اور پیسے بچھاؤں کرتی ہیں بڑے بڑے افسر اور معززین عقیدت
سے اس کے حضور دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ غلات کعبہ کو چھوٹے
اور چھوٹے کی اجازت نہیں ہے اس لئے بعض مقامات پر لوگوں نے فرط عقیدت
میں ٹرین ہی کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔"

یہ خیال رہے کہ یہ کسی بریلوی، آغا خانی یا رضا خانی رپورٹر کا بیان نہیں ہے بلکہ
خاص انی ص جماعت اسلامی ہی کے اخبار کا آنکھوں دیکھا بیان اور اس کے کارنامے پر
مفخرت نامہ ہے۔ اب دوسری جھانکی بھی ملاحظہ فرمائیے :

"۱۳ مارچ کو سوانو بجے غلات کعبہ اللہ زاد اللہ عظمتہ اور اس کے ناچیز
خدام کو لے کر غلات کعبہ اسپیشل ٹرین نعرہ ہائے تکبیر کے درمیان روانہ ہوئی۔ راہ
میں سادھو کے مرید، وغیرہ جن اسٹیشنوں پر گاڑی کو رکن نہیں تھا۔ لیکن ہزاروں
آنکھیں تیز تجسس گاڑی کو ہمک رہی تھیں۔ لائن کی مرمت کی وجہ سے چند منٹ
کے لئے ان پیاسی نگاہوں کی تسکین کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ کامونکے ہر گاڑی کے
دونوں طرف عورتوں اور زائرین کا جم غفیر منتظر تھا۔ اسی طرح گجرانوالہ، وزیر آباد

سیاکوٹ میں علی الترتیب ممتاط انداز سے تقریباً دس لاکھ افراد زیارت سے مشرف ہوئے۔ لوگ دور دراز فاصلوں دیہات سے سفر کر کے آئے۔ اور عقیدت بھسرے دل 'بخت سے پریم آنکھیں اور رخسار ملتے ہوئے زائرین میں سے حرکت کر کے اپنا راستہ بیکانا شکل ہو جاتا تھا۔ عورتیں اپنے دوپٹے، تسمیعیں، مرد و مال، ٹوپیاں اور گڑیاں غلام مقدس سے مس کر کے چومنے کے لئے بے تاب تھے۔ بچوں کے اراگلدستے، عطر کی شیشیاں غلام کے لئے لاتے رہے۔

”اسی زمانے میں مولوی عتیق الرحمان سنبھلی (ایڈیٹر القرآن لکھنؤ) نے

”القرآن“ کے ایک ادارے میں یہ سارے اقتباسات ”ایشیا“ اور ”شہاب“ لاہور

غلام کبر نمبر سے نقل کئے تھے اس ادارے کا عنوان تھا

دیکھو مجھے جو دیدہ عسرت نگاہ ہو

چلتے چلاتے انہی مولانا عتیق الرحمان کے ایک مضمون کے کچھ ٹکڑے اور بھی پڑھو

نیچے، جن کا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراضات سے گہرا تعلق ہے:

”تلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید

حال ہی میں جماعت اسلامی پاکستان ایک بڑے حادثے سے دوچار ہوئی

اور جیسا کہ ناظرین سمجھ رہے ہوں گے۔ وہ جماعت سے بعض اہم شخصیتوں کی علیحدگی۔

جن میں سے چار تو وہ ہیں جو مختلف اوقات میں جماعت کی امارت کے منصب پر

فائز رہ چکے ہیں اور پانچویں ہیں جناب مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب (ایڈیٹر

ہفت روزہ الخیر لاہور) جو جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ کے اہم ارکان میں

سے تھے۔

انہوں نے (حکیم عبدالرحیم اشرف نے) ایک کتاب مرتب کی تھی جس کا نام

۱۔ مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت، بحوالہ ”ایشیا“ لاہور ۲۸ مارچ ۱۹۶۳ء

۲۔ ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۔ ماہنامہ الفرقان لکھنؤ، بابہ شعبان و رمضان ۱۳۴۴ھ

تھا، کیا جماعت اسلامی حق پر ہے؟ اس کا تعلق خاص طور پر حضرت مولینا مدنی کے اعتراضات سے تھا۔ یہ کتاب ہمارے پاس تبصرہ کے لئے آئی تھی۔

”چنانچہ اسی خیال سے میں بے کچھ لکھنا شروع کیا تھا۔ مگر جلد ہی یہ رائے قائم کی کہ یہ جو کچھ میں لکھنا چاہتا ہوں کھلے تبصرے میں لکھنے کی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد وجدان پر ہے دلائل پر نہیں۔ چنانچہ اس کو روک کر محض مختصر سے تعارف پر اکتفا کیا تھا۔ کیا پتہ تھا کہ اس بات کے کھلے طور پر اظہار کا موقع اتنی جلدی آجائے گا اور اس وجدانی نتیجے کے حق میں جس کے اظہار میں خود اشرف صاحب سے تکلف ہوتا تھا، حقائق کی شہادت خود اشرف صاحب ہی کے قلم سے فراہم ہوگی۔“

”اس وقت اشرف صاحب کی کتاب پر میں جو کچھ لکھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں تک حضرت مولینا حسین احمد صاحب مدنی علیہ الرحمۃ کے اعتراضات اور جماعت اسلامی پر عائد کردہ الزامات کے دلائل کا تعلق ہے، ایمان داری کی بات یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنی علمی بے بھضاحتی کے شور کے ماتحت، اظہار اختلاف کو تو اگرچہ ہم اپنے حدود سے بھی تجاوز سمجھتے ہیں مگر ان کے اعتراضات کی صحت اور دلائل کے وزن کو سمجھنے سے، اپنی فہم کی حد تک ہم بھی قاصر ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی جگہ پر بہت تعجب ہوتا ہے۔“

”مگر یہی تعجب اور یہی الجھن ہماری رہنمائی اس طعن کرتی ہے کہ اس شدت کی بنیادیں ان ظاہری بنیادوں سے الگ کہیں اور تو نہیں ہیں؛ یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولینا مودودی کے قلم سے چھڑکے ہوئے یہ بیج جو آج بڑی حرکت ہیں بے ضرر بلکہ نفع بخش نظر آ رہے ہیں۔ یہ حضرات مستقبل میں ان سے پیدا ہونے والے کر دے کیلئے جگہ و بار کی بوسوگھ رہے ہوں؛ اور ان کے قلوب مصعفیٰ پر مستقبل میں جماعت اسلامی کے کسی غلط موڑ کا ٹکس پڑ رہا ہو؟“

مگر اُس وقت اس کے گھسنے میں تکلف ہوا کیوں کر یہ ایک وجدانی بات اور محض ایک خیال تھا جس کی پشت پر نہ صرف دو مردوں کو متاثر کرنے والی کوئی دلیل نہیں تھی بلکہ خود اپنے ذہن کو بالکل مطمئن اور ناراض از محنت کر دینے کی پوری قوت بھی اس میں نہیں تھی لیکن اب خود حکیم عبدالرحیم صاحب ہی کے قلم نے کچھ ایسے حقائق کی نشاندہی کر دی ہے جن پر نظر کر کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خیال محض عقیدت ہی کا کرشمہ نہیں بلکہ حقیقت کا پرتو تھا اور اس وقت اگرچہ مشکل تھا مگر آج تو کہنا ہی پڑتا ہے کہ

قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید^۱

مولانا مودودی صاحب کے بارے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نیز علمائے دین کی تحسیریں خاصی بسوٹا، مدلل اور طویل ہیں مگر ہم نے صرف اختصار پر اکتفا کیا ہے اس لئے کہ مولانا مودودی صاحب کے افکار اور مسلک پر بحث و تحقیق اور ان پر تبصرہ ہمارے موضوع سے بالکل خارج ہے۔ اور ہمارا موضوع صرف حضرت کے شبہات اور اعتراضات کی حکایت ہے۔

مراد ما حکایت بود گفتیم حوالہ با خدا کر دیم ورتیم

اللہم ارنا الحق حقاً وونقنا اتباعاً

وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناباً

صدارت سالانہ اجلاس جمعیتہ علماء ہند بمقام کلکتہ

۱۱ فروری ۱۹۵۵ء

آزادی ملے، ہندوستان کو تقسیم ہوئے اور پاکستان بنے سات آٹھ برس گزر چکے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کے اچھے ہوئے اور مشکل مسائل کسی طرح حل ہو جائیں اور ان کے لئے کوئی مستقل لائحہ عمل مقرر ہو جائے۔ جمعیتہ علماء کے سالانہ اجلاسوں میں تمام ہندوستان کے نمایندہ حضرات کو بل بیٹھنے، گفتگو کرنے اور مشورہ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اس سال کلکتہ میں اجلاس کا مقصد یہی تھا کہ عام ہندوستانی مسلمانوں کے معاملات کے ساتھ وہاں کے خصوصی مسائل بھی زیر بحث آئیں اور ان پر توجہ دی جاسکے۔ اس اجلاس کے خطبہ صدارت میں حضرت نے ابتدائی کلمات کے بعد فرمایا کہ

”آج مسائل اور مشکلات پر بہت کافی لکھا اور بولا جاسکتا ہے مگر ضروری ہے کہ معاملات کو مختصر طور پر بیان کر کے باتوں سے زیادہ عمل کے دائرے کو وسیع کیا جائے۔“

۱۹۴۷ء کا واقعہ ملک کے لئے ایک انقلاب تھا۔ اور اس اعتبار سے دنیا کا نرالا انقلاب تھا کہ جنگجو فوجیں اور سرکاری حلقے جو انقلاب کا عام نشانہ ہوتے ہیں وہ بالکل محفوظ اور مامون رہے اور جانی و مالی تباہیاں ان کروڑوں عوام کو برداشت کرنی پڑیں جن کا اگر اس انقلاب سے واسطہ تھا بھی تو بہت دور کا تھا۔ اس انقلاب میں ہندوپاک کے لاکھوں کروڑوں عوام کو جس طرح جانی، مالی اور عزت و آبرو کی تباہی کا شکار ہونا پڑا وہ تاریخ انسانیت کا دردناک حادثہ ہے۔ مسلمان اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے چنانچہ انقلاب نے ان کے جماعتی نظام پر ضرب کاری لگائی اور ہندوستان کے مسلمانوں کا شیرازہ منتشر ہو کر رہ گیا۔

”اس نازک صورت حال میں جمیۃ علماء ہند کا نظام بنائے جانے اور سخت جان ثابت ہوا اور بجز اللہ اس کا شیرازہ انتشار سے محفوظ رہا۔ فردمبارات کے لئے نہیں بلکہ تمدنیثِ نعمت کے طور پر یہ عرض کرنا صحیح ہے کہ اس پر آشوب دور میں جس نے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے بے لوث خدمات انجام دیں وہ جمیۃ علماء ہند کا نظام ہے۔ دور انقلاب کے ہنگامے نہایت ہولناک تھے جمیۃ علماء ہند نے ان کا مقابلہ کرنے میں جان کی بازی لگا دی اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب اور کامیابی نے ان کی جدوجہد کا استقبال کیا۔ ہم پر امید ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ ہنگامی حالات ختم ہو جائیں گے اور بفضل خدا مسلمانان ہند اپنا صحیح موقف و مقام حاصل کر سکیں گے۔

یہ ہنگامی حالات کتنے ہی دہشت انگیز ہوں مگر اس دور کے ساتھ ہی ان کے اثرات و نتائج بھی ختم ہو کر رہیں گے۔ مگر ملت کی حفاظت، دینی علوم، مذہبی تعلیمات، اسلامی آثار و روایات کی بقا اور ان کا احیاء، آنے والی نسلوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنا ایک اہم ترین نصب العین ہے۔ جمیۃ علماء ہند نے اس جدوجہد کو اپنے دستور اساسی میں جگہ دی ہے اور یہ مقصد کبھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔

ایک سیکولر جمہوری ملک میں پرائمری تعلیم ہر بچے کے لئے ضروری ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی تعلیم مذہبی اور روحانی تعلیم کا بدل نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً ہندوستان جیسے ملک میں یہ ضروری ہے مگر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ذریعہ نظام تعلیم میں کسی خاص مذہب کے ایسے رجحانات موجود نہ ہوں جو دوسرے مذہب کے لئے ناقابل قبول ہوں۔

مسلمانوں کے لئے خاص طور پر انتہائی ضروری ہے کہ ان کے بچے ایک طرہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وطن کے بہترین شہری ثابت ہوں۔ دوسری طرف سچی اسلامی تعلیم پاکر توحید کے علمبردار، خدا کے بچے پرستار اور بندگان خدا کے

حقیقی خدمت گزار بنیں۔

دینی تعلیمی کنونشن

جمعیت علمائے ہند کا عظیم الشان اجتماع گذشتہ مہینہ بمبئی میں 'دینی تعلیمی کنونشن' کے عنوان سے منعقد ہوا۔ اس میں ہر مکتب خیال کے مقتدر اور صاحب الرائے علماء و فضلاء شریک ہوئے اور ایک مرکزی بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس اجتماع کا روشن اور امید افزا پہلو یہ ہے کہ تمام مکتب خیال کے مسلمان بیدار ہو کر میدان عمل قدم ٹھکانے کے لئے ہم آہنگ ہیں۔ یہ بڑی مبارک فال ہے۔ اب آپ کا فرض یہ ہے کہ چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مکتب خیال سے ہو مگر ہر قسم کے اختلاف سے اجتناب کرتے ہوئے وحدت کلمہ کی اس اساس کو جو "دینی تعلیمی کنونشن بمبئی" نے قائم کیا ہے زیادہ سے زیادہ مضبوط و استوار بنائیں۔

بنیادی مذہبی تعلیم اور ہمارے فرائض

یا ایھا الذین آمنوا اتقوا انفسکم و اھلیکم ناراً و تودھا الناس و الحجارہ جیسے ارشادات نے ایک کلمہ گو کی نجات کے لئے جس طرح ان فرائض کی ادائیگی ضروری قرار دی ہے اسی طرح اہل و عیال کی تربیت جو ادبی نجات کا ذریعہ ہو سکے ذاتی فریضہ قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہور ارشاد الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ میں ہر سرپرست کو اس کے لواحقین کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔

اگر ہمارا ہر ایک گھر تعلیم گاہ اور تربیت گاہ بن سکے تو کم از کم ہر ایک مسجد تو تربیت گاہ ہونی ہی چاہئے۔ ائمہ مساجد کا تکفل آپ کریں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ائمہ پوری کریں تو یہ سہل و آسان نظام مساجد تعمیر ملت کی مشکلات حل کر سکتا ہے۔

ہیں اپنے پرائیویٹ اسلامی مکاتب و مدارس کا جال پورے ہندوستان میں پھیلانا چاہیے، مگر مفاد ملت کا تقاضا یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں وہ صلاحیت بچوں اور نوجوانوں میں پیدا کریں کہ ترقی کی دوڑ میں وہ اپنے ہم وطنوں سے پیچھے نہ رہیں۔

دینیات کا مفہوم

یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دینیات فقط عقائد و عبادات میں ہی منحصر نہیں ہیں۔ اسلام مہد سے لے کر لحد تک زندگی کے ہر دور میں دینی بخشنا ہے۔ وعدہ اور قول کے پابند پیشہ ور کو اللہ تعالیٰ کا محبوب گردانتا ہے۔ کاشتکار کے پیدا کئے ہوئے ہر دانہ پر انعام اور ثواب کی امید دلاتا ہے۔ بچوں کی صبح پر درش اور بیوی سے تعلق کو ثواب و انعام کا مستحق قرار دیتا ہے۔ راستہ سے پتھر ہٹانے، بھوکے پیاسے کتے اور جانوروں کو کھلانے پلانے پر آخرت کی نجات عطا کرتا ہے۔ اس کے دینیات صرف عقائد اور عبادت تک محدود نہیں ہو سکتے بلکہ جس طرح صوم، صلوٰۃ، حج، زکوٰۃ، پاکی، ناپاکی وغیرہ کے احکام دینیات کے ابواب ہیں ویسے ہی بلکہ کہیں کہیں اس سے بھی زیادہ حقوق عبادت اعزہ و اقارب کے حقوق، اہل و عیال کے ساتھ حسن معاشرت، نکل حلال، تجارتی اور کاروباری معاملات میں بہترین کردار، رہن ہن، میل ملاقات کے طریقے، آداب مجلس، میزبانی اور مہمانی وغیرہ وغیرہ کے آداب بھی اس کے دینیات میں داخل ہیں۔ ہمیں دینی تعلیم کا دامن ایسا ہی وسیع رکھنا چاہیے تاکہ مسلمان صرف رونق مسجد ہی نہ ہو بلکہ محفل دنیا میں بھی اس کا کردار صداقت و حق پرستی کا قبلہ بنا بن سکے۔

ترتیب معلین

یہ ضروری ہے کہ حضرات معلین کی تربیت کی جائے اور ان میں یہ جذبہ

پیدا کیا جائے کہ صفة اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کارنگ ان پر غالب ہو اور اسی رنگ میں تعلیم پانے والے بچوں کو رنگ دینا ان کی زندگی کا نصب العین ہو۔

دارس عربیہ کے فضلاء میں یہ شوق جذبہ ہوتا ہے اور اس کے لئے وہ بسا اوقات بڑی سے بڑی قربانی بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ان بور یہ نشین ارباب قناعت اساتذہ کا احترام نہ صرف میرا بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔

آج سیکڑوں بلکہ ہزاروں دیہات کے مسلم گھرانے خطرناک کنارے پر کھڑے ہیں۔ ان کے دین و مذہب کی دیواریں بہت کمزور ہیں۔ ان گرتی ہوئی دیواروں کو سنبھالنا اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے۔

روشن مستقبل

ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروہا بانفسہم۔ اگر ہم اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کر لیں، اپنے اخلاق، خصائل، جذبات اور رجحانات کو اسلامی اصول پر ڈھال لیں تو اپنے خطرات تو دور کنار ہم دوسروں کے خطرات بھی دور کر سکتے ہیں آج دنیا گندم نا جو فروش ہو رہی ہے۔ خدمت خلق، آزادی، رائے، اخوت، مساوات اور بہنی نوع انسان کی ہمدردی کے پردے میں خود غرضی، مفاد پرستی، غرور و نخوت اور تحقیر و نفرت کی بارود سی سرگیں بچھی ہوئی ہیں۔

آج جمہوریت کو رائے شماری سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ جمہوریت کا مطلب اخوت، مساوات، خدا شناسی، خداری، عدل و انصاف، آزادی، ضمیر اور دین و مذہب کی آزادی ہے۔

آپ دوسروں کا انتظار نہ کریں۔ آپ تو وہ ہیں کہ ان اصولوں کی مقدس امانت عمل کرنے اور دوسروں سے عمل کرانے کے لئے آپ کے سپرد ہوئی ہیں۔

کنتم خیر امة اخرجت للناس تا ہرون بالمعروف و تندھون عن المنکر

گورس کی کتابیں

سرکاری اسکولوں کی درسی کتابوں کے متعلق بجا طور پر یہ عام شکایت ہے کہ ان میں اکثر کتابیں سیکولر نظام تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ بلکہ ایک ہی فریق کی تعلیمات اور مذہبی رہنمائی کا ذخیرہ ہیں جو دو سکولر فرقوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ایسی کتابوں کے خلاف جمیعت علماء ہند احتجاج کرتی رہی ہے اور مرکزی و صوبائی حکومتوں نے اس احتجاج کی بنیاد پر ان کو درس سے خارج بھی کیا ہے اور ضبط بھی کیا ہے۔ تاہم حکومت کا فرض ہے کہ درسی کتابوں کی تصنیف و تالیف سے متعلق ایسا نظام قائم کرے کہ کوئی ایسی کتاب درس میں داخل ہی نہ ہونے پائے۔

سرکاری ملازمتیں اور مسلمان

مسلمانوں کو ملازمتوں، تجارتوں اور دوسرے پیشوں کے سلسلے میں انتہائی مشکلات پیش آرہی ہیں۔ ایک طرف تو ہم حکومت کو توجہ دلاتے ہیں کہ دستور میں اقلیتوں کے جو حقوق رکھے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ قومی حکومت کے سیکولر نظام کو بروئے کار لایا جائے۔

دوسری طرف مسلمانوں کو اس جانب توجہ کرتے ہیں کہ صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ملازمتوں کی طرف سے نظریں ہٹا کر تجارت، صنعت و حرفت کے میدانوں میں بوقت لے جانے کی کوشش کریں۔ کسی قوم کی ترقی کا دار مدار ملازمتوں پر نہیں بلکہ تجارت اور صنعت و حرفت پر ہے۔

اُردو زبان

اُردو زبان کسی فریق یا طبقہ کی زبان نہیں ہے بلکہ لاکھوں کروڑوں ہندوؤں مسلمانوں کی زبان اور عیسائیوں کی زبان ہے جیسا کہ انجمن ترقی اُردو ہند کی دستخطی ہم سے ثابت ہوا

ہے۔ جمعیتہ علماء ہند انجمن کی اس جدوجہد کی حمایت کرتی رہی ہے اور آج بھی اس کی تائید کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اردو کو جلد جلد ریجنل سرکاری زبان کا درجہ دے کر انصاف کا حق ادا کرے۔

اُجرے ہوئے خاندان

آخر میں میں مغربی بنگال اور کلکتہ کے ان ہزاروں خاندانوں سے ہمدردی کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جو شہہ کے ہنگاموں میں خانہ دیران ہوئے۔ کسی حکومت کے لیے اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہے کہ باشندگان ملک کی بڑی تعداد برسوں بے خاناں رہے۔ یہ درست ہے کہ جو بے خانماں پاکستان سے مغربی بنگال آئے ان کو ضرور آباد کرنا چاہیے مگر اس طرح نہیں کہ خود مغربی بنگال کے مسلمان اپنے ہی وطن میں خانماں برباد ہو جائیں اور اپنے مکانات میں آباد نہ رہ سکیں۔

حضرت کا آخری حج

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے جوں کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے۔ ۱۹۵۵ء میں حضرت نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، حضرت ضعیف اور کزدر ہوتے جا رہے تھے۔ عمر بھی اب کم و بیش اسی برس کی ہو گئی۔ اس لئے جیسے ہی حضرت کے سفر حج کے بارے میں لوگوں کو علم ہوا، 'مریدین' متبیین اور خدام کی ایک خاصی تعداد ہر کاب ہونے کی خواہشمند ہوئی۔ چند حضرات کے نام یاد رہ گئے ہیں جو اس سفر میں ساتھ تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کی دو صاحبزادیاں اور ان کے صاحبزادے مولینا ہادیون صاحب مرحوم، قاری اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خادم خاص اور خلیفہ حضرت رحمۃ اللہ، مولینا مولوی تاضی سجاد حسین، صاحب مرحوم صدر مدرس مدرسہ عالیہ فتحپوری دہلی، حاجی بدر الدین صاحب اپنچولی، مولینا مولوی بایزید شہید پانڈور ساؤتھ افریقہ، خلیفہ حضرت رحمۃ اللہ وغیرہ ہمراہیوں کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ اس سفر میں بھی چھوٹے بڑے کبھی اہل خانہ خادم اور حضرت کے بھتیجے مولینا وحید احمد مدنی مرحوم کے بیٹے ڈاکٹر رشید الوحیدی کے شریک سفر تھے۔ حکومت سعودی عرب کے فرماں روا اس وقت ملک سعود بن عبدالعزیز تھے ان کی طرف سے حضرت کے حج کے جملہ انتظامات کی پیشکش ہوئی۔ اگرچہ یہ بات حضرت کی عادت اور مزاج کے خلاف تھی مگر بوجہ چند اسے منظور فرمایا اور چھ سات موٹر کاروں حج کے نقل و حمل کے لیے حاضر ہو گئیں۔ جدہ میں قیام بھی شاہی اہتمام کے ماتحت ہوا۔ حضرت رحمۃ اللہ کے چھوٹے بھائی مولینا سید محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ نے بہت اصرار کیا اور ہر قسم کے انتظامات کی پیشکش کی کہ حضرت اب ہندوستان کے قیام کو ترک کر کے مدینہ طیبہ ہی میں رہ جائیں یا جا کر واپس آجائیں مگر حضرت نے منظور نہ کیا اور فرمایا کہ

ہندوستان کے مسلمان اس وقت ایسی حالت میں ہیں کہ اپنی آسائش اور آسائیوں کے لیے انھیں چھوڑ کر کہیں چلے جانا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ میں کچھ کرسکوں یا ذکر سکوں مگر صرف وہاں موجودگی سے بہت سے احباب اور دوستوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ چھوٹے بھائی کے علاوہ مدینہ طیبہ کے بہت سے معززین نے حضرت سے مدینہ کے قیام پر اصرار کیا مگر حضرت نے عذر فرما دیا۔ حضرت کی تشریف آوری پر حجاز مقدس کے اخبارات 'المنهل'، 'البلاد'، 'مكة المكرمة'، 'ام القہوی'، 'المدینة' وغیرہ نے حضرت کے حالات اور ترصیہی مقالات شائع کیے۔ اور جب تک مدینہ طیبہ اور حجاز میں قیام رہا شائقین علوم حدیث اور طالبان علوم نبوت خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرتے رہے۔ ان میں وہ حضرات بھی تھے جو حضرت سے پہلے بھی شرف تلمذ حاصل کر چکے تھے۔ اس قیام کے دوران بھی حسب اسفار سابق مواجہ تشریف میں طویل اوقات کے لیے حاضری اور ساکت و صامت کھڑے رہنا حضرت کا معمول رہا۔ رخصت ہوتے ہوئے مکمل تین گھنٹہ ایک طرح کھڑے ہو کر اشکبار رہے۔

آخری خطبہ صدارت

۲۷ سے ۲۹ اکتوبر ۱۹۵۶ء تک تین دن شہر سورت میں ہیئتہ علماء ہند کا انیسواں سالانہ اجلاس ہوا۔ صدارت حضرت رحمۃ اللہ کی ہوئی اور یہ اس عالم تکوین میں حضرت کی آخری صدارت تھی۔ وقت اور عمر کا تقاضہ بھی تھا اور لوگوں کو خیال بھی تھا کہ دیکھئے آئندہ اس عالم تاب روشنی کے اُجالے میں کوئی اجتماع نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ہندوستان کے گوشے گوشے سے ہزاروں ہزار بلکہ لاکھوں مریدین، متقدمین، مجاہدین اور معترفین ٹوٹ پڑے تھے۔ سورت کا چھوٹا سا شہر تین چار دن کے لئے ہندوستان کے مرکزی شہر کا مقابلہ کرنے لگا تھا۔ اس اجلاس میں حضرت نے اپنے آخری خطبہ صدارت میں ارشاد فرمایا کہ :

شان و شوکت، زیبائش و نمائش اور انجمن آرائی کسی زندہ قوم اور فعال جماعت کے شایان شان نہیں ہو سکتی۔ اسلام ہر قول کے لئے فعل کا مطاب کرتا ہے۔

کبر مقتاً عند اللہ ان تقولوا مالا تفعلون۔

ہم اس ملک میں باعزت بن کر رہیں یا پسماندہ بن کر رہیں یہ ہمارے بکرو فرات بیدار مغزوی اور کردار پر موقوف ہے۔ اگر ہم مسلسل کوشش اور جہد و جہد میں کوتاہی کریں گے تو پسماندگی کو نہیں ٹال سکتے۔ اگر ترقی مقصود ہے تو صراط مستقیم پر رہنے کی جدوجہد تیز کر دیجئے۔ دنیاوی امور ہوں یا دینی مقاصد ہوں حق تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ لیس لاکھ انسان الاماسمی انسان کو صرت وہی ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین کا احسان اور بخشش ہے کہ اُس نے انسان کو احسن تعویم کا پیکر عطا فرمایا۔ اور اس کی عظمت کا جھنڈا لہرا کر لفظ کومنا کی سند عطا کی۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ عمدہ کردار اور عمل صالح سے اس جھنڈے

علماء ہندوستان کا کردار

جمیعت علماء ہند کی پچاس سالہ تاریخ شاہد ہے کہ اس کی خدمات اور قربانیاں کبھی بھی مفاد پرستی اور خود غرضی کے غبار سے گرد آلود نہیں ہوئیں۔ اس نے ہمیشہ ہمہ گیر اور انسانیت نواز مقاصد کو پیش نظر رکھا۔ وہ بیگزروں ہزاروں علماء جنہوں نے دار و درسن کی عاشقانہ رسم یا قید و بند کی سنت یونہی زندہ رکھی ان کے حاشیہ خیال میں کبھی اقتدار و مناصب اور مادی دولت و ثروت کا مقصد نہیں آیا۔ انہوں نے صرف ہندوستان اور بیرون ہند کے کروڑوں مظلوموں اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کے لئے قربانیاں دیں۔ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کی عیال اور اس کا کنبہ ہے، جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرے گا۔ جو عشق مولا میں سرشار ہوگا وہ اپنی زندگی اس کی مخلوق کے لئے وقف کر دے گا۔

حدیث شریف کا ارشاد ہے :

المخلوق عیال اللہ ان احب المخلوق
الی اللہ من احسن الی عیالہ
مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو سب سے
زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبہ کے
ساتھ بھلائی کرے۔ (مشکوٰۃ)

دوسری حدیث یہ ہے :

الراحمون یرحمہم الرحمن۔
ارحمون فی الارض یرحمکم من
فی السماء (صحاہ)
رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے
تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان
والا تم کو رحم کرے گا۔

اسلام کا مستقبل روشن ہے کیونکہ اسلام کسی خاص قوم کا کلمہ نہیں ہے، وہ ہمہ گیر اصول کا نام ہے جس کو دنیا غیر شعوری طور پر اختیار کرتی جا رہی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اگر اسلام کا مستقبل روشن ہے تو اس کے ساتھ بے عمل مسلمانوں کا مستقبل بھی

روشن ہو۔ اگر ہم اپنا استقبال قبل بنانا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کا دامن منہوٹلی سے پکڑیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اگر آپ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کو اپنے دین حق کے لئے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔

وان تلو ایستبدل تو ما غیر کم اگر تم منہ موڑو تو اللہ تمہا سے سو کوئی دوسری
تم لایکو نو امثالکم قول بدل دے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

تاریخ سے سبق

قبیستہ سے آج ہمارے اعمال و اخلاق شیخ اسلام کے لئے حجاب بنے ہوئے ہیں اور پردانوں کو شیخ کے قریب آنے سے روک رہے ہیں۔ آپ اپنے کردار کو نور ایمان کا آئینہ دار بنالیں پر روانے خود بخود پیکس گے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اسی لئے ترقی اسلام بھی رک گئی۔ میں پوچھتا ہوں کہ مورخین تحقیق کر کے بتائیں کہ کیا محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، شمس الدین اتمش، شیر شاہ سوری، بڑا اکبر، جہانگیر و عالمگیر نے اپنے اقتدار و حکومت سے کبھی اسلام پھیلا یا ہے۔ اگر ان کے قومی جھنڈے اشیاء اسلام کے علمبردار ہوتے تو ان کے پایہ تخت اور ان کی فرماں روائی میں غیر سلوں کی غیر معمولی اکثریت باقی نہ رہتی۔ جن علاقوں میں ان کج کلاموں کی سر بلنگ یادگاریں آج بھی شوکت و عظمت رفتہ کا مریہ پڑھ رہی ہیں وہاں اور ان کے مضادات میں کبھی بھی مسلمانوں کو اکثریت نہیں نصیب ہوئی۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان علاقوں مہرولی، آگرہ، قنوج، دہلی، سہرام، پنجپور، سیکری، متھرا وغیرہ میں آج بھی مسلمان دس پندرہ فی صد سے زیادہ نہیں ہیں۔

۱۔ شیخ ابوعلی سندھی متوفی ۷۲۵ھ، شیخ علی بن عثمان، جویری ثم لاہوری متوفی

۷۶۵ھ، شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی، خواجہ غریب نواز مین الدین حسن السجری
اجیری، شیخ احمد بن یحییٰ نیرزی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا

فرید الدین شکر گنج، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے روحانی فیوض و برکات، بے لوث ہمدردی، خلق خدا اور بے مثال کردار و اخلاق سے اسلام کی اشاعت ہوئی اور ان کے اخلاق عالیہ سے غیر مسلم آج تک متاثر ہیں۔

شہاب الدین غوری کی فانیما: تلوار کسی ایک تنفس کے دل کو بھی صداقت اسلام کے اعتراف کے لئے نہیں جھکا سکی ہوگی۔ مگر اسی کا مسافر ایک فقیر بے نوا، خواجہ غریب نواز بغیر کسی شاہانہ طمطراق کے دہلی سے روانہ ہو کر اجیر پہنچتا ہے تو اسلام کے ایک مخالف مسٹر آرنلڈ مضمف "پریچنگ آف اسلام" کی شہادت یہ ہے کہ راہ میں سات سو خانہ دان اس کے ہاتھ پر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔

خود آپ کے صوبہ گجرات میں نویں صدی ہجری کے شروع سے دسویں صدی ہجری کے آخر تک دو سو برس اولوالعزم مسلمان بادشاہ حکومت کرتے رہے۔ ان کی نیک نفسی، ملک پروری، عدل و انصاف اور داد و بخشش تاریخ کی ثابت شدہ حقیقت ہے۔ مگر پھر بھی یہ شاہان گجرات اسلام کے داعی اور مبلغ نہیں تھے بلکہ نہروالہ کے مشائخ کبار، مثلاً شیخ حسام الدین عثمان بن داؤد ملتانی متوفی ۷۳۶ھ، شیخ یعقوب بن مولینا خواجگی متوفی ۷۹۵ھ، قاضی علم الدین شاطبی متوفی ۸۵۷ھ، احمد آباد کے قطب طریقت گنج بخش شیخ احمد کہتو ۸۲۹ھ، سید برہان الدین عبداللہ نیرہ مخدوم بہانیاں ۸۵۷ھ، شیخ کبیر الدین ناگوری ۸۵۷ھ، مولینا محمد ابن طاہر شیخ محمد غوث گویری، بھروچ کے سید کمال الدین قزوینی ۸۵۸ھ، بڑوڑہ کے سید یحییٰ بن علی ترمذی ۸۵۷ھ نوساری کے شیخ نصیر بن جمال ۸۵۸ھ، راندر کے شیخ نور الدین محمد بن علی، سورت کے سید محمد بن عبداللہ حضری ۸۵۳ھ وغیرہ رحمہم اللہ و قدس اللہ اسرارہم جیسے علماء و مشائخ کے مقدس چراغ و دانوں سے شمع اسلام کی کرنیں پھوٹیں۔

مختصر یہ کہ اسلام اقتدار، حکومت اور طاقت سے نہیں بلکہ اعلیٰ کردار اور

بہترین اخلاق سے پھیلتا ہے۔

سب سے پہلے اپنی اصلاح، اپنے قبیلہ اور خاندان کی اصلاح، بچوں اور نوجوانوں کی اخلاقی تربیت، احکام شریعت کی پابندی، دین کی اطاعت کیجئے، پھر بڑوسیوں اور اہل شہر کے حقوق کی حفاظت کیجئے، خدمت نفل کے راستے اختیار کیجئے، جب وطن کے فرائض انجام دیجئے۔ یہی آپ کے انفرادی اور اجتماعی مستقبل کی بنیادیں اور کامیابی کی راہیں ہیں۔

دینی تعلیمی تربیتی مرکز

پچھلے سال بمبئی میں دینی تعلیمی کونشن منعقد کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجہ میں دینی تعلیمی بورڈ قائم کیا گیا۔ جو قیامہ ملتان ہند نے اسی ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ میں دہلی کی شہرہ تاریخی مسجد زینت المساجد عن گھٹا مسجد میں ایک دینی تعلیمی مرکز قائم کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے امام تیار کئے جائیں جو شہروں، قصبوں اور دیہات بالخصوص پسماندہ دیہات میں بچوں کو محدود وقت میں دینی تعلیم دے سکیں، ان کی دینی تربیت کر سکیں اور بڑوں میں بھی دینی ماحول اور ذوق پیدا کر سکیں۔

پیشوایانِ مذاہب کا احترام

انسانیت، شرافت، سچائی اور خدا پرستی وغیرہ ایسے اوصاف و خصائل ہیں جن کی قدر بلا لحاظ فرقہ و مذاہب ہر انسان پسند کر لینی چاہیے۔ وہ برگزیدہ حضرات جنہوں نے ان اوصاف و صفات تیبہ کی تعلیم دیا ہے، یقیناً قابل تندر اور واجب الاحترام ہیں۔ ان کی تعظیم و تکریم لازم اور توہین پوری انسانیت اور انسانی شرافت پر ظلم عظیم ہے۔

مسلمان جو تمام برگزیدہ انسانوں کے احترام کو جزو ایمان سمجھتے ہیں جب

اس ذات اقدس کے بارے میں جس نے تمام پاکبازوں کی حفاظت ناموس کا درس دیا ہے گستاخانہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو ان کا احساس شدید ہو جاتا ہے۔ اور روح فرسا اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالیہ واقعہ میں جس طرح فرقہ پرستوں نے چہرہ دہستوں سے کام لیا ہے اور یوپی، مدھیہ پردیش میں شدید سے شدید تر جانی مالی نقصان پہنچایا ہے یہ ایک ناقابل برداشت وحشت و بربریت ہے۔

اس موقع پر میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ملک کے وزیر اعظم پنڈت نہرو کو مبارک باد پیش کروں کہ انھوں نے اس نفرت انگیز ماحول کے خلاف فوری قدم اٹھایا اور دہلی کی مشہور تاریخی تقریر کے ذریعے فرقہ پرستوں کے مذہب و عنعنات کا خاتمہ کیا۔

ہمارا فرض

واضعان قانون کا فرض ہے کہ وہ ایسا قانون پاس کریں جس سے فرقہ پرستی اور تعصب کا خاتمہ ہو۔ مگر صرف قانون ہی کافی نہیں ہے۔ قانون سننا تو دے سکتا ہے مگر جرم کے رجحانات نہیں ختم کر سکتا۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم قوم کی اصلاح اور تربیت کریں۔ اس کام کے لئے مختلف زبانوں میں ایسا لٹریچر تیار کرنے کی ضرورت ہے جو نوجوان انسان کی فلاح و بہبود کے پیغامات ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیلا دے اور فلاح و ایشاد کا مقدس فریضہ انجام دے۔

جو دعوت عمومی رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کا طالب پوری نزع انسانی کو گردانا گیا ہے۔

ایک قابل توجہ پہلو

تاریخ جغرافیہ اور شہریت پر مشتمل مضامین جو پرائمری تعلیم کے لازمی اجزاء ہیں ان کو صحیح سیکولر ازم کے جذبے کے ساتھ مرتب کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ ایک

خاص فرقہ کے پیشواؤں، یادگاروں اور معاشرت کا تذکرہ ان کتابوں میں آتا ہے، مگر مسلمان پارسی اور مسیحاؤں کے پیشواؤں اور متبرک یادگاروں کا ذکر ان میں نہیں آتا ہے۔ یہ ایک طرزِ رحمان فرقہ دارانہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لئے حکومت اور مختلف ادارہ ہائے نشر و اشاعت و تعلیمی انجمنوں کو پوری توجہ دینی ضروری ہے۔

اقتصادی مسائل

پورے ملک میں لاکھوں گریجویٹ اور اونچے تعلیم یافتہ روزگار کے لئے پریشان ہیں۔ افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ ملازمتوں میں کنبہ پروردی اور قبیلہ پروردی ہر جگہ میں کارفرما ہے۔ اس خطرناک پالیسی کا مسلمان خاص طور پر شکار ہیں۔ تقریروں کی جو رپورٹیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ وہ مسلمانوں کی محرومی کا کامل ثبوت ہیں۔

میں احتجاجی ذہنیت کا حامی نہیں ہوں نہ موجودہ حالات میں احتجاج کو کامیاب سمجھتا ہوں۔ البتہ عملی تدبیریں اختیار کرنے میں کامیابی لازمی ہے۔ مسلمان آج بھی صنعت و حرفت اور گھریلو صنعتوں میں غیر معمولی اکثریت رکھتا ہے، اگر وہ کاروباری دیانت داری، بلند حوصلگی اور محنت کے ساتھ ترقیاتی اسکیموں میں حصہ لے تو نہ صرف یہ کہ اپنے زخموں پر مرہم رکھے گا بلکہ ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی قابلِ فخر حصہ لے سکے گا۔

الکشنوں میں مسلمانوں کا حصہ

آزاد جمہوریہ ہندوستان میں انتخاب تشکیل حکومت کے متعلق آخری فیصلہ کا نام ہے۔ اس فیصلے کے صادر کرنے میں مسلم اقلیت کو ایک خاص مقام اور خاص اہمیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانیں اور

حُب وطن، ملکی احساس اور بیدار مغزئی کا پورا ثبوت دیں۔
اس معاملے میں حکومت اور ملک کی قوم پرورد جاعتوں کا فرض ہے کہ وہ ہر
اقلیت کے مقام اور حیثیت کو تسلیم کرنے کا عملی ثبوت دیں۔
بزرگان ملت اور برادران محترم

میں آپ کا کافی وقت لے چکا ہوں اور کوشش کے باوجود امن کلام کسی قدر
طویل ہو گیا ہے۔ اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے ہماری
نیئوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں ملک و ملت کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ
توفیق عطا فرمائے اور ہم ناکاروں کو اپنے ان باکار بندوں میں شمار فرمائے جن کے
متعلق اس کا پختہ وعدہ ہے۔

ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقری عزیز لہ

ضعف و امراض، پیری و اعراض

عام زندگی اور بڑھاپے میں لوگوں کو جو تکلیفیں اور شکایتیں زکام، نزلہ، بخار، سردی، کمر کا درد، پیٹ اور معدہ کی گرانی، شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ امراض پیش آتے رہتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تمام عمران امراض سے محفوظ و مامون رہے۔ محنت و مشقت، مسلسل کام اور بے آرامی، نیند کی کمی اور سکون و راحت کے فقدان کا یہ عالم تھا کہ جو شدید زندگی حضرت نے بیاسی برس تک گزاری وہ ایک عام انسان بیاسی دن گزارے تو زندگی بھر کے لئے دائم العین ہو جائے۔ مگر حضرت کے مزاج میں ایک دائمی سکون اور طمانیت کی کیفیت شامل تھی جو کسی بھی خارجی شدت و مشقت سے متاثر نہیں ہوتی تھی اور اسی سکون کی علامت ہونٹوں پر ایک دائمی مسکراہٹ کی شکل میں نمایاں رہتی تھی۔ قابل اطمینان صحت میں کچھ تو اس مزاجی کیفیت کا اثر رہا ہوگا اور کچھ یہ کہ حضرت نے زندگی کے ہر مرحلہ پر اعتدال، نظم، توکل، علی اللہ، راضی برضائے باری تعالیٰ کے اصولوں کی سختی کے ساتھ پابندی کی۔ تمام عمر ورزش کا اہتمام کیا۔ نہایت سادہ، معمولی اور قلیل غذا کا معمول رکھا۔ سادہ ترین زندگی گزاری اور دل کو کسی قسم کی تمنا اور آرزوؤں سے کبھی آکودہ نہیں ہونے دیا۔

کتنی سخت محنت کرتے تھے؟ کیسی سادہ غذا استعمال کرتے تھے؟ کیا کنیا ورزشیں کرتے تھے؟ اور ان کا کیا اہتمام فرماتے تھے؟ دل جو خواہشات اور شہوات کی آماجگاہ ہے کیسا تمناؤں اور آرزوؤں سے پاک تھا؟ انھیں مولیٰ پر کس درجہ بھروسہ تھا؟ یہ بڑی طویل، دلچسپ اور سبق آموز داستانیں ہیں جن کے بیان کا اصل موقع حضرت کی سیرت، خصائل و شمائل کے باب میں، اگر زندگی اور حالات نے موقع دیا تو دوسری ہی جلد میں آسکے گا۔ اس وقت تو صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ ساری صحت، طاقت اور عافیت کے باوجود بھی اب پچھتر اسی برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے حضرت پر بھی بشری

تقاضوں، ضعف اور پیری کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ بصیرت کے ساتھ ساتھ بعبارت کی نعمت تو آخر عمر تک مضبوط اور تیز رہی البتہ ساعت میں کسی قدر ثقل پیدا ہو گیا۔ مگر اتنا نہیں کہ سننے کے لئے کسی آریا پائپ کی ضرورت پیش آتی۔ ہاں گھٹنوں میں کمزوری محسوس ہونے لگی۔ لاکھ عالی ہمتی، جفاکشی اور قوت ارادی سہی مگر یہ گھٹنے تھے تو گوشت پر پشت ہی سے بنے ہوئے۔ اسی برس تک مسلسل مکان، ریاضت، مشقت، محنت اور انتھاک جدوجہد کا بوجھ نہ سنبھال پائے اور آخر کار جواب دے ہی گئے۔ مگر اس کے باوجود جسم و جان پر چاہے کچھ گزری ہو حضرت کے روزمرہ کے مشاغل، درس حدیث، عبادت و ریاضت، نماز، اجتماعات، اسفار و اجتماعات، وعظ و خطبات وغیرہ میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تاہم خدام و مخصوصین محسوس کرنے لگے تھے کہ دوسرے معمولات تو کسی نہ کسی طرح پورے ہو رہے تھے مگر روز روز کے طول و طویل اسفار اب ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے۔ شروع شروع میں کچھ غلصین و خدام نے دبی زبان میں عرض کرنا شروع کیا کہ اب اسفار بند ہو جانے چاہئیں مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ آخر میں مولینا حفظ الرحمن، مولینا محمد میاں اور بعض دوسرے مخصوصین محض اسی مقصد سے خدمت میں حاضر ہوئے اور اصرار کیا کہ اب سفر بند ہونے کا اعلان ہونا چاہیے۔ کافی بحث و تمحیص اور اصرار و انکار کے بعد بھی جب حضرت نے اسفار ترک کرنے پر آمادگی ظاہر نہ کی تو ان حضرات نے عرض کیا کہ کم از کم یہ تو ہو ہی جانا چاہیے کہ گاؤں دیہات اور چھوٹے چھوٹے قصبات جہاں آرام دہ اور تیز رفتار سواریلوں کا انتظام نہیں ہے اور جہاں خاطر خواہ قیام و راحت رسائی بھی مشکل ہوتی ہے وہاں نہ جایا جائے۔ اس پر حضرت نے سنجیدگی اور تاثر کے ساتھ فرمایا کہ اب میرا آخری وقت ہے۔ میرے پاس کوئی توشہ آخرت نہیں ہے۔ ڈرتا ہوں کہ کس منہ سے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ گاؤں دیہات کے یہ سیدھے سادے مومن مسلمان حضرات آتے ہیں اور مجھے لے جانے پر اصرار کرتے ہیں۔ میں اس امید پر ان کے ساتھ جاتا ہوں کہ شاید حق تعالیٰ میری یہ خدمت قبول فرمائے اور ان میں سے کسی کی دعا کے ذریعے میری مغفرت کا سامان ہو جائے۔

مختصر یہ کہ اسفار ساری کمزوریوں اور عوارض کے باوجود زندگی کے آخری وقت تک جاری رہے۔ ضعف اور عوارض کا علاج بھی ہوتا رہا۔ پہلے تو حسب معمول حکیمی علاج ہوتا رہا۔ یہ تو حضرت کی عادت اور معمول نہ تھا کہ مجونین، خیرے، شربت، عرقیات وغیرہ روزمرہ کے معمول میں داخل رہتے۔ کوئی شکایت ہوتی تھی تو بقدر ضرورت دوا استعمال فرماتے تھے۔ اس موقع پر بھی اطباء کی تجویز کردہ دوائیں اور غذائیں استعمال کی گئیں۔ مگر کوئی افات نہ ہوا۔ تو ڈاکٹر علاج کیا گیا۔ گولیوں، مکسچروں اور دوسری تدابیر کے ساتھ ایک بجلی کا علاج بھی ہوا۔ ٹیٹا سائیکل پینٹ کر گھنٹوں پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے بجلی کے اثرات پہنچتے ہیں مگر کسی تدبیر سے کوئی افات نہ ہوتی تھی۔ کام، مشاغل اور مشقتیں حسب معمول جاری رہیں مگر آہستہ آہستہ درس حدیث کے لئے اوپر کے دارالحدیث تک سیڑھیاں چڑھ کر آنا جانا متعذر ہو گیا۔ ناچار بیس برس پرانے دارالحدیث کو الوداع کہا اور درس کا انتظام نیچے کے دارالحدیث میں کیا گیا۔ یہ تبدیلیاں اور منتقلیاں تو عام طور پر وقت فوقتاً پیش آتی ہی رہتی ہیں مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ پہلا موقع تھا کہ روزمرہ میں کوئی تبدیلی پیش آرہی تھی۔ طلباء، اساتذہ، مریدین و متنبین، عوام و خواص اس دارالحدیث فوجانی کو جس میں دن رات قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں گونجتی رہتی تھیں اور جو جو میں گھنٹے خیر و برکات کی روشنیوں سے جگمگاتا رہتا تھا سنان اور تاریخ دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں ڈبڈباتی تھیں۔ مگر ابھی تک ابتدا تھی۔ ابھی ان آنکھوں کو اس سے بھی زیادہ دل سوز و دل خراش منظر دیکھنے تھے۔ جلد ہی وہ وقت بھی آگیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لئے گھر سے مدرسہ اور وہاں سے تھمائی دارالحدیث تک چل کر پہنچنا مشکل ہو گیا اور مجبور ہو کر سواری کا انتظام کرنا پڑا۔ کہاں تو وہ بابرکت مناظر تھے کہ جہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ گھر سے برآمد ہوئے تو بیسیوں بچوں اور طلباء و علماء مشایعت کرتے ہوئے راز ہوتے راتے میں مختلف موضوعات پر سوال کرتے۔ حضرت باواز بلند جواب دیتے کہ سب سے پیچھے آنے والے حضرات مستفید ہو سکیں۔ مدرسے کے احاطے میں داخل ہوتے تو لوگ

دوڑ دوڑ کر آتے، سلام کر کے تھوڑی دور مشاہدت کا فخر حاصل کرتے اور در سگاہ تک پہنچاتے۔ مدرسے میں دور دور تک اطلاع ہو جاتی کہ حضرت سبق میں اور دارالحدیث میں رونق افروز ہو گئے ہیں اور کہاں اب گھر سے سواری پر چل کر دو منٹ میں در سگاہ پہنچ جاتے تھے، دیکھنے والوں کا بھی بڑا کلیجہ تھا کہ دیکھتے رہے اور برداشت کرتے رہے مگر ابھی تو اور نہ جانے کیا کیا دیکھنا بڑا تھا۔

رخصتی نصیحتیں اور آخری وصیتیں

۱۹۴۷ء اور اس کے بعد۔ روح فرسا حادثات و واقعات کے مقابلے میں ضعف و پیری کے باوجود بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ آخری دم تک نبرد آزار ہے۔ وصال کے دن ہر ہر لمحہ اسی شکر اور جہد و جہد میں بسر ہوا کہ بدلے ہوئے حالات میں مسلمانوں کے مسائل کا کوئی مستقل حل نکل سکے۔ فسادات، 'حق تلفیاں'، مظالم اور مسلم دشمنیاں بھی جاری رہیں مگر حضرت کی سلسل قریبیاں بھی بار آور ہوتی رہیں۔ ہندوستان کے تمام ہی رہنے والے خصوصاً مسلمان اس حقیقت کو کبھی نہ بھلا سکیں گے اور ہندوستان کی تاریخ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے گی کہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تعمیر پورے طور پر اگر نہیں تو بہت بڑی حد تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد اور شب و روز کی جانکاہیوں کی مرہون منت ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کردہی مسلمانوں کو حضرت کی آخری وصیتیں ہیں جو وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً جمع کر کے فرماتے رہے۔ بلاشبہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ایک دائمی لائحہ عمل ہے۔ ان پر عمل کرنا انہی کے مطابق زندگی کو ڈھالنا اور انہی خطوط پر قومی زندگی کی تعمیر کرنا توبعد کی باتیں ہیں۔ سردست ایک نظر تو ان وصیتوں پر ڈالتے ہی چلئے:

(۱۱) پابندی شریعت

اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام لیجئے۔ احکام شریعت کی پابندی کیجئے اور حقوق اللہ نیز حقوق العباد کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کیجئے؛

”ہم اگر اپنا مستقبل روشن بنانا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ

سے زیادہ وابستہ ہوں اور داعیِ اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ رحمت کو زیادہ سے زیادہ مضبوطی سے تھام لیں۔

وانتم الاعلون ان کنتم
اگر صاحبِ ایمان ہو گے تو تم ہی سر بلند
مومنین رہو گے۔

”اپنی اصلاح، اپنے قبیلے عیشیہ کے اصلاح، بچوں اور نوجوانوں کی اخلاقی تربیت، احکامِ شریعت کی پابندی، زندگی کے ہر شعبے میں دین کی اطاعت، پڑوسیوں اور اہل شہر کے حقوق کی ادائیگی، خدمتِ خلق کے صحیح جذبات، حب وطن کے فرائض کی انجام دہی، انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے آپ کے روشن مستقبل کی ضمانت، تعمیر ملت کی بنیاد اور منزل کی کامیابی کی شاہراہیں ہیں۔“

(۲) توکل علی اللہ

اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو اور اسی کو مالکِ خیر و شر سمجھو۔

”ہمارا مذہب ہی، ملی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم خدائے واحد ہی کو تمام مشکلات کا حل کرنے والا اور کارساز حقیقی سمجھ کر پورے یقین اور اذعان کے ساتھ اس پر اعتبار کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں اور اس نصب العین کے لئے پورے استغفار اور استقامت کے ساتھ سرگرم جدوجہد جو جائیں۔ اگر ہم نے یہ راہ عمل اختیار کی تو نہ صرف دنیاوی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی بلکہ عالمِ بالا کی روحانی شہادتیں ہمارے دماغی انتشار کو دور کر کے دنیا میں بھی ہمیں اطمینان و سکون کی زندگی کا موت دیں گی اور آخرت میں بھی ہماری حیات پر سکون اور پرسور ہوگی۔ (انشار اللہ)

ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ
ان لاتخافون ولا تحزنونوا بشرنا بالجنة التي کنتم توعدون“

لہ نعلیہ صدارت اجلاسِ بیعتہ علماء شہر سورت ۱۹۵۶ء

حیدرآباد ۱۹۵۱ء

(۳) دینی تعلیم

کسی حالت میں مسلمان بچوں کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت سے غافل نہ ہو
ہزستی میں، ہر عملہ میں، ہر مسجد میں اور ہر گھر میں دینی تعلیم و تربیت کے ادارے قائم رکھو۔
۲۔ ضروری ہے کہ مسلمان تو می دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا فرض پوری

بیداری اور ذمہ داری کے ساتھ محسوس کریں اور صحت اپنے اعتماد پر ایسا ہمہ گیر نظام
قائم کریں جو اسلامی تعلیمات کی بقا، حفاظت کا ذمہ دار ہو سکے اور جس وقت بحسبہ کے
سادہ دل و داغ پر سرکاری اسکولوں میں دنیاوی تعلیمات کے نقش کندہ کئے جائیں
اسی کے ساتھ اس نظام کے ماتحت مکاتب و مدارس میں اسلامی عقائد و اخلاق کے
ذنگ بھی بھرے جاتے رہیں۔

”اگر ہمارا ہر ایک گھر تعلیم گاہ و تربیت گاہ نہ بن سکے تو کم از کم ہر مسجد تو
تربیت گاہ ہونی چاہیے۔“

”آخری شکل یہ ہے کہ ہم اپنے پرائیویٹ اسلامی مدارس و مکاتب کا جال
پورے ہندوستان میں پھیلا دیں۔“

(۴) اولوالعزمی اور عالی ہمتی

’عزم و ہمت اور جصلہ بلند رکھو۔ دل شکستگی کو پاس نہ آنے دو۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ
کرو۔ اگرچہ تم آج اقلیت بن کر رہ گئے ہو مگر دنیا میں اقلیتوں کا مستقبل تاریک نہیں ہو کرتا۔
ایمان اور بزدلی اور پست ہمتی ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی۔“

”یاس اور قنوطیت مسلمان کے لئے حرام ہے۔ زندگی سنی پیہم کا نام ہے۔ اگر
آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میدان عمل میں اترئیے اور جدوجہد میں پوری ہمت

صرف کر دیتے۔ پست ہمتی اور بزدلی بدترین امراض ہیں۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بزدل اور پست ہمت کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان باللہ اور بزدلی ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مشکلات سے گھبرا کر راہ فرار اختیار کرنا زندہ قوموں کے نزدیک سب سے بڑا جرم اور ناموس ملت کے لئے سب سے بڑا تنگ و عار ہے۔

قل لمن ینفککم الفار من الموت اذلا تموتون الا قلیلاً^۱

”ہم اسلامی تعلیمات کا گہری نظر سے مطالعہ کر کے جس قدر اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوں گے اسی قدر ہم وطن عزیز کے بہترین خادم، اس کے بہادر محافظ اور اہم ترین جزو ثابت ہوں گے۔ بے تنگ پاکستان بن جانے کے بعد مسلمان مجموعی طور پر اور صوبائی لحاظ سے بھی غیر موثر اقلیت بن گئے ہیں لیکن کیا اقلیت کا مستقبل تاریک ہوتا ہے؟“

(۵) اخوت و برادری

تصعب اور فرقتہ واریت سے بچو۔ یہ ایسا زہر ہے کہ اگر قلب و جسم میں سرایت کر گیا تو پورے ملک کو تباہ کر دے گا۔ ہر فرد بشر کے ساتھ ہمدردی، خوش اخلاقی اور بھائی چارگی کا برتاؤ کرو۔

”مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تمام تنگ نظریوں سے بالاتر ہو کر اعلیٰ اخلاق کا نمونہ، عدل و انصاف کا مجسمہ اور تہذیب و شرافت کا پیکر بن کر دنیا کے سامنے پیش ہو۔“

”مجھے تسلیم ہے کہ فرقتہ وارانہ ذہنیت کو ختم کرنے کا فرض پورا نا اہمیت کے ساتھ اکثریت پر عالمہ ہوتا ہے“ اور ”گلشن وطن کو فرقتہ واریت کے کانٹوں سے صاف کرنا“ ”تمام اہل وطن کا مشترکہ فرض ہے مگر یہ مسلمانوں کا مخصوص فرض ہو جاتا ہے کیونکہ محض باشندہ ملک کی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ اس حیثیت سے بھی

کہ وہ اس ذاتِ اقدس کا دامنِ نبھالے ہوئے ہیں جس کو مکارمِ اخلاق کی تکمیل کے لئے تمام جہازوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔

جب فرقہ واریت ایک مہلک مرض ہے تو اقلیت کا بھی فرض ہے کہ پوری احتیاط کے ساتھ اپنی نینٹ ٹوٹے اور کوئی بھی درجہ اس مرض کا وجود ہو تو جلد از جلد اس سے شفا پانے کی کوشش کرے۔ مرض کے علاج کے لئے دوسرے مریض کے اچھے ہونے کا انتظار کرنا قطعاً غلط ہے۔

(۶) علمی و علمی ترقی

اعلیٰ قابلیت اور صلاحیت پیدا کرو۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لو اور ہندوستان کے لئے اپنی ضرورت اور افادیت ثابت کرو۔

اگر مسلمانوں کی خواہش ہے کہ ان کا مستقبل روشن اور شاندار ہو تو ان کا فرض ہے کہ اپنے عمل اور کردار سے اپنی اہمیت اور افادیت کو ثابت کریں وہ ملک کے لئے جس قدر مفید ہوں گے اسی قدر ان کی عزت و وقعت ہوگی۔ جمہوری نظام میں مذہب، خاندان اور نسل ترقی کی دار نہیں ہوتی خدمت اور قابلیت معیار ترقی ہو کر رہتی ہے۔ مسلمان ملک و ملت کی خدمت کا صحیح جذبہ پیدا کریں۔ بہترین خدمت کی بہترین قابلیت پیدا کریں۔ کامیابی اور کامرانی لامحالہ ان کے قدم چومے گی۔

(۷) ملازمت سے صرف نظر

ملازمتوں کی تلاش چھوڑ دیجئے۔ تجارت، صنعت و حرفت میں ترقی کیجئے۔ ترقی کا دار و مدار ملازمتوں پر نہیں۔ تجارت و صنعت و حرفت کی ترقی میں ہے۔

”مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے وطنِ عسکریز اور۔“

اداے فرض میں مصروف رہیں۔ ملازمتوں کی تلاشیں چھوڑ کر صنعت و حرفت کے میدان میں گوئے بوقت لے جانے کی کوشش کریں کیونکہ کسی قوم کی ترقی کا دارومدار ملازمتوں پر نہیں ہے بلکہ صنعت و حرفت اور عملی کردار قوموں کو بام عروج پر پہنچاتا ہے۔ یہی تابناک مستقبل کے لئے بہترین پروگرام ہے جو فرقہ پرستی کی مسموم نگاہوں کو چھانٹ کر مستقبل کے تابندہ آفتاب کو طلوع کرے گا۔

(۸) پاکستان سے اچھے تعلقات

پاکستان ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اس سے ہر قسم کے تعلقات مضبوط کیجئے اسی میں دونوں ملکوں کی اور پورے ایشیا کی بھلائی ہے۔ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو آپس میں طے کریں۔ ملک تقسیم ہو چکا ہے۔ پاکستان کی اسکیم ایک حقیقت بن چکی ہے جس طرح انڈین یونین پوری دنیا کی سیاست میں ایک مرکز ہے اسی طرح پاکستان بھی انٹرنیشنل سیاست کا ایک یونٹ قرار دیا جا چکا ہے۔ اب پورے ملک اور ایشیا کی مصلحتوں کا یہی تقاضہ ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات خوش گوار ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر پورا اعتماد ہو۔ آپس کے قرضوں کو خود طے کریں۔ دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ ان کے تجارتی اور اقتصادی تعلقات زیادہ سے زیادہ بہتر اور مضبوط ہوں آمدورفت کے راستے کھلے ہوئے ہوں اور جو تینیاں برداشت کی جا چکی ہیں ان کی جگہ محبت اور دوستی کے ترانے ہر جگہ گائے جائیں۔ دھا ذلک علی اللہ بعزیز۔

(۹) ملک کی خیر خواہی

ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ دونوں ملکوں میں صلح اور بھائی چارہ قائم رہے۔ لیکن اگر بد قسمتی سے دونوں ملکوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ہمیں اپنے ملک کے مسلمانوں کا مفاد پیش نظر رکھنا چاہیے۔

ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات خوشگوار ہوں اور زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوں لیکن اگر کسی موقع پر ان دونوں کے نکتہ اُسے نظر میں اختلاف ہو تو ہمیں اسی اصول کی بنا پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم کو ہر موقع پر وہ صورت اختیار کرنی ہے جو ہندوستانی مسلمانوں کے لئے مفید ہو یہی ہمارا سیاسی (اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے۔“

(۱۰) اُردو زبان کی ترقی

اُردو زبان کی حفاظت اپنے بل بوتے پر کیجئے۔ شکایتوں اور فریادوں کے ذریعہ زبانیں محفوظ نہیں رہ سکتیں۔ نشر و اشاعت کیجئے اور نئی نسل کو اُردو پڑھائیے۔

”مرن فریاد، تنقید اور واویلے سے اُردو زبان محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ واقعی اُردو کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایثار کرنا پڑے گا۔ مرن گفتگو سے زبان زندہ نہیں رہ سکتی۔ زبان کی اصل زندگی اس کا لٹریچر ہے۔ اخبارات، رسائل، دارالمطالعے، لائبریریاں اور تصنیف و تالیف کے ادارے اُردو زبان کا اصل سرچرہ ہیں۔ ان کو ترقی دینا اور ان کی مالی ضرورتوں کو چورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم اُردو کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس فرض کی انجام دہی میں پورے ایثار سے کام لینا ہوگا۔“

(۱۱) ہندی زبان کی ترقی

ہندی زبان سیکھئے۔ وہ ملک کی قومی زبان ہے۔ مسلمان سو برس تک پورے شوق کے ساتھ غیر ملکی زبان انگریزی سیکھتے رہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ ملکی زبان ہندی نہ سیکھیں۔

”ہمارے ملک کی پارلیمنٹ نے ہندی زبان کو ملک کی سرکاری زبان قرار دیا ہے۔ بہت سے اداروں کی کوشش ہے کہ ہندی کو مختلف علوم و فنون کا حامل بنا دیا جائے اور

ہندی زبان کو ایسی ترقی یافتہ زبان بنا دیا جائے کہ پندرہ سال کے اندر وہ انگریزی کی جگہ لے سکے۔ مسلمان جو کم و بیش سو برس تک غیر ملکی زبان کو فروغ دینے میں سرگرم عمل رہے ہیں کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہندی سے نفرت کریں اور اس کو ملکی زبان بنانے کی کوششوں میں حصہ نہ لیں۔

(۱۲) اپنے قوتِ بازو پر بھروسہ رکھو

استحاج اور فریاد کا طریقہ چھوڑ دیجئے، عملی اقدامات اور جدوجہد کا راستہ اپنائیے۔

"میں استحاجی ذہنیت کا حامی نہیں ہوں۔ نہ موجودہ حالات میں استحاج کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ ہم سب کا فرض ہے عملی تدبیریں اختیار کریں۔ ہمیں کسی بہتر صورت سے اس فرض کو انجام دینا چاہیے، خصوصاً وہ راستے ضرور اختیار کرنے چاہئیں جن پر عمل کر ہم ملک کی ترقیاتی اسکیموں میں حصہ لے سکیں۔"

"گھریلو صنعتوں میں مسلمانوں کو غیر متولی اکثریت حاصل ہے اور یہ میدان اب ہم ان کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان کاروباری دیانت داری اور بلند جوہلی کے ساتھ ان ترقیاتی تجویزوں میں حصہ لیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے زخموں پر مرہم رکھ سکیں گے بلکہ ملک کی تیسر و ترقی میں قابلِ فخر حصہ لے سکیں گے۔"

(۱۳) بزدلی سے بچو، مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کرو

بزدلی اور نخوت کو اپنے دل سے نکال دو۔ آج تم دس کروڑ کی تعداد میں اس ملک کے باشندے ہو۔ بہادری کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرو۔ کبھی فساد کی ابتداء نہ کرو۔ لیکن اگر کوئی تم پر حملہ کرے اور مجبور ہی ہو جاؤ تو ڈٹ کر مقابلہ کرو، قدم پیچھے نہ ہٹاؤ اور عزت کی موت مر جاؤ۔

آج تم چسار کرڈ کی تعداد میں اس ملک میں موجود جو۔ یوپی میں تمہاری تعداد پچاسی لاکھ ہے پھر بھی تمہارے خون کا یہ عالم ہے کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے ہو۔ آخر کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں موت تم کو پا نہیں سکتی۔ جبین بزدلی اور خون کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ اسلام اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مبروہ استقال کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرو۔ اور کبھی فساد کی ابتداء نہ کرو۔ اگر فساد ہی تم پر چڑھ کر آئیں تو ان کو بھجاؤ۔ لیکن اگر وہ نہ مانیں اور کسی طرح نہ مانیں تو پھر تم معذور ہو۔ بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرو اور اس طرح مقابلہ کرو کہ فساد یوں کو چھٹی کا دردھ یاد آجائے۔ تمہاری تعداد خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو مگر قدم پیچھے نہ ہٹاؤ اور اپنی غیرت و حرمت کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دو۔ یہ عزت و شہادت کی موت ہوگی۔

۱۔ آج کل ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم دیش میں کم کر ڈ ہے۔

۲۔ آج کل یوپی میں ڈیڑھ کروڑ مسلمان ہیں۔

۳۔ رسالہ پیغام آزاد دہلی۔ مطبوعہ دیوبند۔

مرض و وفات

دم واپس برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار کے پروگرام ہفتوں، مہینوں بلکہ سال سال بھر پہلے سے مرتب اور طے ہوتے تھے۔ ان ترتیبات میں کبھی کوئی خلافت اور خلل واقع نہیں ہوتا تھا۔ قیام کی مدتیں بھی ایک دن، دو چار دن، ہفتہ اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھر کے لئے مقرر ہوتی تھیں۔ ان تمام پروگراموں کی حیرت انگیز طور پر پابندی ہوتی تھی۔ اسی معمول کے مطابق ۸ جولائی ۱۹۵۷ء کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ مدراس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس صوبے کے مختلف مقامات پر کم و بیش ڈیڑھ ماہ کے سفر کا پروگرام تھا۔ مگر دس بندہ روز بعد ہی اچانک واپس تشریف لے آئے۔ دیکھنے والوں کو نہایت حیرت اور صدمہ پہنچا کہ زندگی بھر میں پہلی بار بالکل خلافت معمول درمیان سفر میں اچانک واپسی کی کوئی غیر معمولی ہی وجہ پیش آئی ہوگی۔ دریافت حال پر معلوم ہوا کہ سانس لینے میں تنگی محسوس ہوئی اور خطبہ ہوا کہ یہ بڑھ نہ جائے اس لئے واپسی مناسب معلوم ہوئی۔ ایسی ایسی تنگیاں، تکلیفیں اور معمولی عوارض زندگی میں ہزاروں ہی بار تو پیش آئے ہوں گے۔ معمولات میں فرق تو کبھی کسی کو کالوں کا ان خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ سننے والوں نے سن تو لیا کہ سانس میں تنگی محسوس ہوئی مگر دلوں پر اس خبر سے قیامت گزر گئی۔ دو ہی چار دنوں کے بعد سینے میں حوائی قلب میں درد محسوس ہوا اور یہ تنفس عارضہ قلب میں تبدیل ہو گیا۔ شروع شروع میں جب تک درد قابل برداشت رہا۔ معمولات حسب دستور جاری رہے۔ حدیث شریف کے درس بھی ہوتے رہے۔ نمازیں مسجد میں باجماعت اور جمعہ کی نماز جامع مسجد میں۔ عام مجلس میں تشریف آوری برابر جاری مگر مرض بھی آہستہ آہستہ زور پکڑتا رہا۔ تکلیف بڑھ گئی تو مقامی ڈاکٹروں کی طرٹ رجوع کرنا پڑا اور انھوں نے قلب کا پھیلاؤ یا قلب کا بڑھ جانا تجویز کیا۔ عین اسی دوران سہارن پور اور رائے پور کا سفر درپیش آیا اور یہی اس دنیا کا آخری سفر ثابت ہوا۔ ۵ محرم کو سہارن پور گئے تھے۔

وہاں کے ایک قدیم اور مشہور ڈاکٹر برکت علی مرحوم نے اکر سے، کارڈیوگرام، بلڈ ٹسٹ وغیرہ کا معائنہ کیا اور نہایت احتیاطاً، مکمل آرام اور حتی الامکان سکوت و سکون کی تاکید کی مگر واپسی کے بعد بھی ہمت، توکل علی اللہ اور غم و ارادہ کے بل پر معمولات، ملاقاتیں، عبادتیں اور سبق وغیرہ جاری رہے۔ یہ چاہتے تھے کہ چاہے اسٹریچر پر سوار ہو کر جائیں، مگر بخاری شریف کے درس کا ناظر نہ ہو۔ دیوبند کے ایک قدیم استاد اور استاد الکمل حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ شریف پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ان کا بہت احترام اور خیال فرمایا کرتے تھے۔ وہ بیمار ہوئے اور مرض نے طول پکڑا تو حضرت سے درخواست کی اب مشکوٰۃ شریف کا سبق میرے بس کا نہیں رہ گیا ہے مجھے اس سے معذور رکھا جائے۔ مگر حضرت نے یہ درخواست منظور نہ کی۔ مولانا عبدالسمیع صاحب نے بہت خوشامد کی تو اتنی بات منظور فرمائی کہ دفتر تعلیمات کے انتظام میں مشکوٰۃ شریف کا درس تو آپ ہی کے ذمہ رہے گا مگر کوئی حاضری انتظام ہو جائے گا۔ جب شفا ہو جائے گی تو انشاء اللہ آپ ہی کو پڑھانا پڑے گا۔ مولانا عبدالسمیع صاحب نے بادل ناخواستہ اسے منظور کیا۔ مگر اسی بیماری میں ان کا وصال ہو گیا۔ ان کی تعزیت کے جلسہ میں مولانا محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے استاد (مولانا عبدالسمیع صاحب) کو دیوبند کے اکابر اسی لقب سے مخاطب کرتے تھے (کی درخواست ایسی سختی سے زد کی کہ ہمیں حیرت ہوئی۔ حضرت کی یہ عادت نہ تھی اور استاد کا تو وہ بہت خیال فرماتے تھے۔ مگر آج یہ محسوس ہوا کہ حضرت کی خواہش یہ تھی کہ مولانا عبدالسمیع صاحب حدیث شریف کے اشتغال اور تدریس ہی کی حالت میں جان جان آفریں کے سپرد کردیں اور قیامت میں جب ائمہ امت اور خدام حدیث کی صف آراستہ ہوتو اسی قطار میں استاد بھی رونق افروز ہوں۔ آج حضرت کو بھی وہی وقت اور وہی حالت درپیش تھی۔ اطباء نے خدام نے، حضرت مہتمم صاحب دارالعلوم نے اور علمائے دیوبند نے ہر ہر طرح سبق ملتوی کرنے پر اصرار فرمایا مگر اشتغال حدیث کے ترک پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوئے پکڑا کر اٹھا کر اور سہارے لے کر کسی نہ کسی طرح دارالحدیث میں تشریف فرما ہوتے رہے اور درود و تین تین گھنٹے کے درس میں حق تعالیٰ کی جانب سے اتنی دیر کے لئے ایسی طاقت عود کر آتی

رہی کہ سننے والے اور دیکھنے والے اندازہ بھی نہ کر پاتے تھے کہ یہ محدث عصر قلب کے امراض اور بیماریوں کے اعراض میں چور ہو چکا ہے۔ لیکن محض عزم و ہمت ہی کے سہارے یہ معمول کب تک نبھ سکتا تھا۔ آخر کار یہ سلسلہ باجوشم گریاں اور بادل ناخوارتہ منقطع کرنا پڑا اور حضرت نے ۲۸ محرم ۱۳۷۷ھ مطابق ۲۵ اگست ۱۹۵۷ء کو بخاری شریف کا آخری سبق پڑھا کر دارالحدیث کو دارالعلوم کو طلبائے حدیث کو اور سند محدثین کو ہمیشہ کے لئے الوداع کہا

جان کر شعلہ خاصانِ مینا نہ بجھے مدقوں رو دیا کریں گے جام و پیمانہ بجھے
 اس امید میں کہ اللہ کرے گا حضرت رحمۃ اللہ اس عارضی علالت سے پھر اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ حضرت مولینا سید فخر الدین صاحب شیخ الحدیث مدرسہ شاہی مسجد مراد آباد سے درخواست کی گئی اور انھوں نے عارضی طور پر بخاری شریف اور ترمذی شریف کے اسباق شروع کر دیے۔ اور بالکل مجبور ہو کر حضرت سارے معمولات سے دشت کش ہو گئے۔ اب تک تو اتنی سکت تھی کہ کسی نہ کسی طرح نمازیں گھر سے متصل مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا فرماتے رہے۔ مگر اب یہ آخری قوت بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی تھی۔ ناچار بڑی بڑی مشکل سے حجرہ استراحت سے اٹھ کر مہمان خانے تک تشریف لاتے اور نمازیں وہیں جماعت سے ادا فرماتے۔ مگر ابھی تک اٹھنے اور چلنے میں کسی کا سہارا لینے سے انکار فرماتے رہے اور ساری نمازیں کھڑے ہی ہو کر پڑھتے رہے۔ اس درمیان میں دوسرے معالجین کے ساتھ لکھنؤ سے ڈاکٹر حکیم مولینا سید عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے چھوٹے بھائی مولینا سید ابوالحسن علی الندوی کے ہمراہ معائنے کے لئے تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ مولینا علی میاں مدظلہم فرماتے ہیں کہ بھائی صاحب سفر نہیں کیا کرتے تھے مگر ایک بار حضرت کے بھتیجے مولینا وحید احمد دنی رحمۃ اللہ کے معائنے اور علاج کے لئے ٹانڈہ ضلع فیض آباد تشریف لے گئے تھے اور دوسری بار حضرت رحمۃ اللہ کے لئے دیوبند تشریف لائے۔ نہایت توجہ کے ساتھ معائنے تشخیص و تجویز فرمائی۔ ان کے بعد اپنے وقت کے مشہور ماہر قلب معالج لکھنؤ ہی کے ڈاکٹر عبدالحمید بھی آئے۔ یہ بھی اپنی بے پناہ مشغولیت اور رجوع خلق کے باعث کسی حالت میں اپنا مطلب نہیں چھوڑتے تھے۔ ان ڈاکٹر

حضرات کی تشخیص بھی قلب کا پھیلاؤ اور ہی اور سخت تاکید رہی کہ باہر نکلنا زیادہ اوقات میں کرنا اور کس قسم کی شمولیت میں مصروف ہونا بالکل ترک کر دیا جائے۔ آخر کار وہ وقت بھی آ ہی پہنچا کہ حضرت اپنے کمرے ہی میں خرد ہو گئے۔ خدام، مریدین، منتسبین اور ملائذہ جوق در جوق آتے اور گھنٹوں گھنٹوں بہان خانہ میں سرابا انتظار بیٹھ کر محروم واپس چلے جاتے۔ تکلیف برابر بڑھتی ہی رہی اور اسی کے ساتھ کمزوری میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ غذا اول تو ہوتی ہی کیا تھی اور جو تھی بھی اس میں ڈاکٹروں نے نمک کی ممانعت کر دی تھی اس لئے اب صرف برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ معالجین اس پر اصرار کر رہے تھے کہ نمازیں کھڑے ہو کر نہ پڑھی جائیں مگر حضرت اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ بیٹے جی بیٹھ کر نماز پڑھنے پر تیار نہ ہوں گے مگر ایک ایسا حلو ہوا کہ لیٹنا متعذر ہو گیا۔ بیٹے ہی لیٹتے تھے دل میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ اس لئے دن رات سارا وقت بیٹھے ہی بیٹھے گزر نے لگا اور اس حالت میں جسم و جان کی رہی ہی قوت بھی تحلیل ہو کر رہ گئی۔ نماز کے لئے اٹھنا کھڑے ہونا رکوع و سجود کرنا بالکل ہی مشکل ہو گیا۔ اسی حالت میں ایک وقت نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو لڑکھڑا گئے اور چونکی سے نیچے آ رہے۔ آخر بالکل ہی پانسانہ اور دل شکستہ ہو کر بیٹھ کر نمازیں شروع کیں۔ مگر مسجد نہ جاسکے، مہان خانے میں جماعت نہ کر سکتے، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتے کا دل پر بہت صدمہ گزرا اور اسی دکھ بے زندگی میں پہلی مرتبہ اب کراہنے لگے۔ ایک خادم نے عرض کی کہ جو بھی جس وقت بھی آپ سے پوچھا ہے کہ اب طبیعت کیسی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ الحمد للہ بالکل اچھا ہوں۔ مگر کراہتے ایسا ہیں کہ سننے والوں کا کلیجہ منہ کو آجاتا ہے۔ فرمایا کہ میں اس لئے کراہتا ہوں کہ ساری عمر بے مصرت اور بے کار گزر گئی اور کچھ ذکر سکا اور اب بالکل ہی مخدور ہو کر بڑ گیا ہوں۔ دروازے ہی پر سجد ہے۔ مہان خانے میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور میں سب سے محروم ہو کر کمرے میں اور بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں۔ اسی عالم میں ایک روز مولانا فخر الدین صاحب جو حضرت کی جگہ حدیث پڑھا رہے تھے۔ مزاج پر سی کے لئے حاضر ہوئے۔ حضرت نے اُن سے اپنے قلبی احساسات بیان فرمائے کہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ کوئی عمل پاس نہیں ہے۔ نمازیں بھی تیمم

کر کے اور بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں۔ تو نہ آخرت بالکل خالی ہے۔ منفعت کا کوئی سامان نہیں ہے دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ کی رحمت کا ملبہ جو شش میں آجائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اس بیان کے درمیان حضرت کا دل بھر آیا، آنکھوں سے زار و قطار آنسو رواں ہو گئے اور آہستہ آہستہ آنسو پچکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ بیاسی برس کی زندگی میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی نے حضرت کی آنکھوں میں آنسو اور مزاج پر گریہ کا اثر دکھایا تھا۔

غذا وغیرہ تو قریب قریب چھوٹ ہی گئی تھی۔ کوشش کی جاتی تھی کہ کسی نہ کسی پہانے کوئی پھل وغیرہ استعمال میں آجائے۔ ایک دن فرمایا کہ کیا بازار میں سردہ نہیں ملتا۔ واقعی اس وقت سردہ بازار میں موجود نہیں تھا۔ ایک خادم اس کی تلاش میں سہارن پور، میرٹھ، مظفر نگر اور دہلی تک پہنچا مگر کہیں نہ ملا۔ واپس آیا تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ دو روز سے کہاں تھا۔ عرض کیا کہ سردے کی تلاش میں گیا تھا۔ فرمایا کہ "نفس کی ایک خواہش کے نتیجے میں اتنی تکلیف اور اخراجات برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس قسم کی خواہشات نفس اور شیطان کے غلبہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے تمام عمر کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی مگر آخر وقت میں یہ کمزوری بھی صادر ہو ہی گئی۔" حالانکہ واقعہ کے اعتبار سے حضرت نے کوئی خواہش یا فرمائش نہیں کی تھی بلکہ صرف دریافت فرمایا تھا۔ خادم بیان کرتا ہے کہ یہ کلمات اور خصوصاً خواہشات سے اس درجہ احتراز میں کر میرے روگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعد میں سردہ پاکستان سے بذریعہ ہوائی جہاز آیا بھی مگر اس کا استعمال برائے نام حد تک ہی رہا۔ کوئی افاتہ نہیں ہوا تو یونانی علاج کا مشورہ ہوا۔ چنانچہ اس وقت کے سارے ہی ہندوستان گیر شہرت کے مالک معالجین حکیم عبدالجلیل صاحب، حکیم محمد اسماعیل صاحب صدیقی دواخانہ دہلی، حکیم محمد عمر صاحب دارالعلوم دیوبند، حکیم شفیق احمد صاحب دیوبند، حکیم محمد حسین صاحب گنگوہی، حکیم محمد صدیق صاحب بریلی، حکیم ذکی احمد صاحب جانشین، سید الملک حکیم اجل خاں، حکیم عبدالحمید صاحب مالک ہمدرد دواخانہ دہلی وغیرہ سارے ہی یونانی اطباء جمع ہوئے اور نہایت غور و فکر کے ساتھ دوائیں، علاج اور غذائیں تجویز کی گئیں۔ اس علاج سے حیرت ناک طور پر افاتہ ہوا اور ایک طویل مدت کے بعد حضرت باہر تشریف لائے۔ اس واقعہ سے اور

تشریف آوری کی خبر سے چاروں طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر رشید الوحیدی ڈیپارٹمنٹ آن اسلامک اسٹڈیز جامہ ملیہ اسلامیہ دہلی کی ایک نظم ملاحظہ فرمائی۔

گزر جائے تو اس جوش مسرت کا اندازہ ہو جائے :

کیا تو نے نہیں دیکھا اے شاہدِ ستانہ
مخمل میں نظر آیا وہ جلوہٴ جاناں
جو غنچہٴ گل اب تک محروم تبسم تھے

ہے ان کی نگاہوں میں خوشیوں کا اک افسانہ
وہ خوشوں نے بڑھ بڑھ کر پھر جام اٹھائے ہیں

ساتی تری آمد سے گردش میں ہے پیانا
وہ کون سی سے دی دیوانے پکار اٹھے

باقی رہے محشر تک یارب تر اے حنانہ
بے ہوش یہاں کوئی تقدیر سے ہوتا ہے

اس در کا بہکن بھی منزل کو ہے پا جانا
گم کردہ منزل کو کیا شوق جہاں بینی

بہتر ہے دو عالم سے اک رہبرِ فرزانہ
کیا شوقِ تماشہ ہے ساتی ترے زندوں کو

اک جذب کا عالم ہے اور خود سے ہیں بے گانہ
اب تک تھی نگاہوں پر پابند تھی نظر اہ

اب جلوہٴ نما خود ہے وہ جلوہٴ جاناں
ہے جس کی نگاہوں میں پیغامِ عمل کو شہی

راس آتی ہے مومن کو وہ جوارتِ زندانہ
تنہائی میں سوچا ہے میں نے یہ رشید اکثر
ہے ان کی غلامی میں اک مرتبہ شاہانہ

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارجعی الی ربک راضیة مَرْضِیَّةً ۝

اب حالت دن بہ دن کمزوری ہوتی جانی تھی۔ اب تک دن رات کے بیچ میں ایک آدھ گھنٹہ نیند آجاتی تھی اب اس سے بھی معذوری ہوگئی۔ ایک منٹ کے لئے بھی لیٹ نہیں سکتے تھے۔ جیسے اسی تیکے پر سر رکھتے تھے سانس پھولنے لگتا تھا اور مجبور ہو کر پھر بیٹھ جاتے تھے۔ سارا دن ساری رات بیٹھے اسی بیٹھے گزارتا تھا۔ ٹیک لگانے سے اور آگے پیچھے دائیں بائیں کسی قسم کا سہارا لینے سے بھی معذوری ہوگئی تھی اور سانس پھولنے لگتا تھا۔ جب تک جسم میں ذرا بھی طاقت رہی اٹھنے بیٹھنے یا کھڑے ہونے میں کسی کا سہارا نہیں لیا تھا۔ نمازیں بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے مگر اب لیٹنے اور بیٹھنے میں دوسروں کی مدد لازمی ہوگئی تھی۔ غذا کا اول تو نام ہی نام رہ گیا تھا مگر جو کچھ بھی رقیق سیال ایک آدھ چمچ پیٹ میں چلا جاتا تھا فوراً تے ہو جاتی تھی۔ کوئی چیز ایک منٹ نہیں رکتی تھی۔ کمزوری، مرض کی شدت، بے خوابی، عدم راحت اور بے چینی اپنی جگہ پر تھی۔ اس پر ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تے کی تکلیف نے بالکل ہی ٹھہال کر دیا۔ اس حالت میں بھی ضروری کاغذات دیکھتے، ہدایات دیتے اور دستخط کرتے رہے۔ عیادت کرنے والوں سے باتیں بھی کرتے تھے۔ ان کے احوال اس طرح پوچھتے رہے کہ گویا عام حالات کی معمول کے مطابق ملاقاتیں ہیں۔ امیر جماعت تبلیغ مولینا محمد یوسف صاحب، حضرت شیخ الحدیث مولینا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ وغیرہ تشریف لائے تو نہایت بشاشت سے ان کے ساتھ باتیں کیں۔ اپنی بیماری، کمزوری اور تکلیفوں کا کوئی شکوہ و تذکرہ نہیں فرماتے تھے۔ مزاج پرسی پر بھی یہی فرماتے رہے کہ الحمد للہ اچھا ہوں۔ اہل بزرگان دین و علمائے کرام کے سامنے مسجد کی عدم حاضری جماعت سے عذر دیا اور بیٹھ کر نمازوں کی ادائیگی پر صدمہ اور دکھ کا اظہار فرماتے تھے۔

پہلی یا دوسری دسمبر کو تنفس کی شکایت میں بہت افتادہ ہو گیا۔ بڑی راحت محسوس فرمائی۔ کچھ آرام بھی فرمایا۔ اہل خانہ میں، خدام میں اور مریدین و مستقین میں یہ مسرت افزا خبر

پھیل گئی کہ اب مرض کا ازالہ ہو رہا ہے۔ کمزوری باقی ہے۔

دوسرے دن ۱۹۵۷ء کی ایک ابرار اودھ کو زیادتی کے قریب کرے سے نکل کر بغیر کسی دیکھ بھل کے پھڑکی کے سہارے سخن میں تشریف لائے اور آرام فرمایا۔ بہت دنوں کے بعد صحت اور طاقت کی یہ سمجھائی کہ شبانی نظر آئی تھی۔ امید اور اطمینان کے لئے یہ تھوڑا سا سہارا بھی بہت کافی تھا۔ منٹ منٹ پر افاتہ اور اطمینان کی خبریں در سے میں، شہر میں اور شہر سے باہر علاقوں میں پھیل رہی تھیں۔ لوگوں کی خوشی و مسرت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ درمیان میں باتیں بھی کرتے رہے۔ مسکراتے اور ہنستے بھی رہے اور ہنسا ہنسا بنشاش رہے۔ بارہ بجے کے قریب کرے میں واپس آئے۔ کسی طرح غذا تناول فرمائی، بچوں اور اہلیہ محترمہ سے باتیں کیں۔ پان کھایا۔ اہلیہ محترمہ اور سب بچوں کو حسن خلق، حسن معاملہ اور پابندی شریعت کے بارے میں نصیحتیں فرماتے رہے۔ اس کے بعد کمرہ خالی کر دیا گیا۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اور سب ہی لوگ اس خیال سے باہر آگئے کہ کچھ دیر نیند آجائے۔ اس کے آدھ پون گھنٹے یا شاید ایک گھنٹے کے بعد کوئی لڑکا کرے میں داخل ہوا۔ حضرت آرام کے ساتھ محو خواب تھے۔ اس نے خوشی میں غور سے دیکھا تو پیشانی اس طرح پھڑک رہی تھی جیسے آنکھیں پھڑکتی ہیں یا گوشت کا کوئی ٹکڑا خود بخود تپش ہو جاتا ہے۔ خیال بھی نہ گزرا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہو سکتی ہے اور باہر آ گیا۔ اس کے ایک یا دو ڈھ گھنٹے بعد گھر کے لوگ نماز کے لئے بیدار کرنے کی غرض سے اندر گئے۔ پکارا، جگایا اور آخر میں ہلایا مگر کوئی جواب کوئی حرکت نہ دیکھی۔ لوگ سر ایسہ اور بدحواس ہو کر دوڑے بھاگے، ڈاکٹروں، حکیموں کو بلایا۔ انھوں نے معائنہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں اعلان کر دیا کہ حضرت شیخ العرب والعم، امام عصرؒ محدث دوران، قطب وقت، مجدد امت، جانشین شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ، سجادہ نشین قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، یادگار حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، نقیب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ، نائب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا مرشدنا و شیخنا سید حسین احمد صاحب مہاجر مدنی کا وصال ہو چکا۔ سدا رہے نام اللہ کا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ آسمان راتق بود گر خون بہا در برز میں۔ جسم پر وفات اور موت کا ذرہ برابر اثر

نہیں تھا۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ ذرا آواز ہوئی تو ابھی آنکھیں کھول دیں گے۔ چہرے پر فرشتوں جیسی معصومیت طاری تھی اور وہ دائمی مسکراہٹ بھی جو زندگی بھر ہونٹوں کا طرہ امتیاز رہی تھی۔ ابھی دو دن پہلے حسب معمول نہایت اطمینان سے حجامت بنوائی تھی جس کی وجہ سے بالوں، داڑھی، مونچھ اور چہرے کی صفائی و ترتیب میں کوئی فرق نہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کشش اور جمال میں اور اضافہ ہو گیا۔ وصال کے وقت آس پاس کے اور دور دراز کے اضلاع میرٹھ، مظفر نگر، بجنور، مراد آباد، دہلی، علی گڑھ وغیرہ وغیرہ کے تخلصین و مریدین در دولت پر حاضر تھے۔ فوراً ہر جگہ تار، ٹیلیفون اور فرستادہ دوڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آل انڈیا ریڈیو نے وصال کی اطلاع نشر کی۔ بہت سے شہروں میں بازار بند ہو گئے۔ ختم قرآن کا اہتمام ہونے لگا اور لوگ دیوانہ وار دیوبند کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسپیشل ٹرینیں اور بسیں، لاریاں، ٹرک، موٹریں، تانچے، ٹرکیٹریا، ٹیکسٹائل، موٹرسائیکلین، پیدل غرض جس کو جو سواری میسر آئی اس کے ذریعے دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر در در دیوبند اور حضرت قدس اللہ سرہ کے دولت کدہ پر جمع ہو گیا۔ لاکھوں انسانوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ لوگ بچکیاں اور سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ ہزاروں آدمی دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ بعض لوگ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ کہیں کہیں یہ خیر صاعقہ اثر سن کر لوگوں کے ہارٹ فیل ہو گئے۔ غم نصیبوں اور حسرت زدوں میں مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی برابر کے شریک تھے۔ بہت سے حضرات کو اس جگہ تک پہنچایا گیا جہاں جسد مبارک رکھا ہوا تھا۔ ان مجبین و عاشقین کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ قابو سے باہر ہو رہے تھے مگر پانچ ادب سے آواز نہیں نکلنے دیتے تھے حضرت شیخ الحدیث مولینا محمد زکریا صاحب ہاجر مدنی قدس اللہ سرہ تشریف لائے۔ حضرت کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ایسا پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ دیکھنے والوں کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ ڈھائی تین بجے وصال ہوا تھا۔ مغرب یا عشاء بعد اسی جگہ پر جہاں وفات ہوئی تھی۔ مولینا عبد الاحد صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند اور مولانا راشد حسن صاحب نمبرہ حضرت شیخ الہند مولینا محمود حسن صاحب رحمہم اللہ نے غسل دیا۔ ان کے ساتھ مولینا محمد حسین

صاحب درس دارالعلوم دیوبند، مولینا سید عزیز احمد صاحب فیض آبادی، مولینا مولوی شوکت خاں صاحب رحمہما اللہ اور حضرت کے دو مخصوص تلامذہ مولوی محمد عثمان ہزاروی اور مولوی محمد زکریا کراچی شریک رہے۔ اس کے بعد آخری حج کے احرام کی چادر کا کفن تیار کیا گیا اور اس میں حضرت کے مشائخ اور اساتذہ حدیث کے تبرکات حضرت کی خواہش کے مطابق منسک کر کے کفن پہنایا گیا۔ نونے تک جنازہ تیار کر کے تھوڑی دیر کے لئے اہلیہ محترمہ، صاحبزادیوں اور اعزہ خواتین کی زیارت کے لئے وہیں رکھا رہا اور پھر تقریباً ساڑھے نونے جنازہ اٹھایا گیا۔ جمع کا بے تابوں کا، آہ و بکا کا اور رنج و صدمہ کا حال بیان کے بس کی بات نہیں ہے۔ گھنٹوں گزر جائیں گے اور یہ دلخراش و جگر سوز داستان ختم نہ ہوگی۔ گھر سے مدرسہ تک پانچ منٹ کا یہ راستہ ڈیڑھ گھنٹے میں طے ہوا۔ جنازہ کی نماز حضرت شیخ الحدیث مولینا زکریا صاحب نے پڑھائی۔ اس کے بعد جنازہ زیریں دارالحدیث میں عام زیارت کے لئے رکھ دیا گیا۔ تین ساڑھے تین گھنٹے تک لائن بنا کر نظم و ضبط کے ساتھ زیارت ہوتی رہی۔ آخرت کو دو بجے کے قریب جنازہ اپنے سفر پر قبرستان کے لئے روانہ ہوا۔ اس پانچ چھ منٹ کے راستے میں ڈیڑھ پونے دو گھنٹے لگ گئے۔ قبرستان میں ہزاروں علماء، صلحاء اور اکابرین امت کے ساتھ شیخ الحدیث مولینا زکریا صاحب، شیخ الحدیث مولینا فخر الدین صاحب، امیر جماعت تبلیغ مولینا محمد یوسف صاحب، مجاہد ملت مولینا حفظ الرحمن صاحب، مولینا سید محمد میاں صاحب، مولینا مفتی عتیق الرحمن صاحب، قدس اللہ اسرارہم وغیرہ موجود تھے۔ قبر میں مولینا عبدالاحد صاحب، مولینا راشد حسن صاحب، عثمانی، مولینا شوکت علی خاں صاحب اور حضرت کے بڑے صاحبزادہ مولینا مولوی اسعد دینی صاحب نے اتارا۔ ایسے ہوش قسمت صاحبزادگان بھی دنیا میں خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ زندگی میں، کمزوری میں، علالت میں، مرض و منات میں تو راحت رسانی اور خدمت کا حق ادا ہی کیا۔ جب حضرت رحمۃ اللہ انساؤں سے آخری بار رخصت ہو کر اپنے مولیٰ کے ساتھ خلوت اور مراقبہ میں چلے گئے تو آخری انسان یہ بیٹا ہی تھا جو آخر تک باپ کا بدن دباتا رہا اور وصال سے چند ہی منٹ پہلے جدا ہوا اور آخر کار اپنے ہاتھوں سے بیوہ زین کیا۔ **فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَاذْخُلِي جَنَّتِي ۖ**

زرق تاہم ہر کجا کہی نگر

بارعب، باوقار مگر دلآویز کتابی چہرہ، گہواں رنگ، بھری ہوئی درازی ماٹل
 اور لہجہ، غلافی آنکھیں، جھکی جھکی نگاہیں، دوہرا بدن، میانہ قد، ابھری ہوئی پیشانی، مضبوط
 جسم، چوڑا سینہ، اٹٹھے ہوئے، کشادہ ابرو، کھلتا ہوا دہانہ، ترشی ہوئی لبیں، منڈے
 ہوئے بال، سبک خرام چال، زاہدانہ اور مومنانہ حال، بھرے بھرے ہاتھ پیر رکھ رکھاؤ
 میں وضعداری، بات چیت میں دل نوازی، عادات میں مسکنت، حرکات و سکنات میں
 پابندی سنت، زندگی میں قناعت، دنیا داری میں توکل، بات چیت میں آواز دھیمی اور
 لچک دار، وعظ تقریر میں اونچی اور گرجدار، دوستوں اور غلصین کے تابعدار، دشمنوں اور
 معاندین کے دل دار، درد مندوں اور محتاجوں کے غمخوار، کم خوراک، بے آزار، دنیاوی
 اور نفسانی خواہشات سے عاری، تلخ کلامی سے گریزاں، جاہ طلبی سے بے مبالغہ مخالفت میں ہلکتا
 تعلقات میں پابندی شریعت، فحاشیت میں ادب، لحاظ، معاملات میں دیانت و احتیاط
 فقیرانہ شان، درویشانہ انداز، دل میں یاد خدا زبان پر قال اللہ و قال الرسول، وقف و وقفے
 سے بے ساختہ و بلا ارادہ آواز بلند ذکر "الا اللہ" نیند پر کھل قابو میدان کارزار میں
 برسریکا رسپاہی کی طرح پانچ منٹ کا موقع ملے تو گہری نیند سو کر تازہ دم ہو جائیں اور
 اور چوبیس گھنٹے جاگنا پڑ جائے تو پیشانی پر بل نہ آئے۔ موٹا جھوٹا لباس، گرمیوں میں
 دو پلٹیا مولویانہ ٹوپی، گرمی کاڑھے کا لمبا کرتہ، مٹلی پاجامہ، آگے سے کھلی ہوئی شیردانی
 آنکھوں پر سنہری فریم کا چشمہ، ہاتھوں میں مڑے ہوئے دستے کی چٹری، سلیم شاہی جوتے،
 سردیوں میں کبیل نمائے کپڑے کی ادنی شیردانی، سوٹر، سر پر سبز رنگ کا عربی انداز کا ادنی
 رومال، جسم پر کھٹی رنگ کا عربی سلح (عبا)، عطر اور خوشبو سے رغبت میں سنت کی پیروی، جدھر
 سے گزر جائیں وہ گلی گھنٹوں و عود و عنبر کی خوشبو سے مہکتی رہے۔ پیروں میں روسی ساخت کا چرٹے

کا جرنیلی موزہ، سادہ دل، سادہ مزاج، نمود و نمائش اور ظاہر داریوں سے بیزار۔ نہ مشیخت نہ خانقاہیت نہ مولاناہیت، دنیا کے مخدوم مگر ب کے خادم، لاکھوں کے بے تاج بادشاہ مگر ایک فقیر درویش۔ ایثار، قربانی، اخلاص، شرافت اور مروت کے پتلے، دینداری، وفاداری، لہیت اور تقویٰ و پرہیزگاری کی تصویر، کھانا پینا، سونا جاگن، ہنسنا بولنا، چلنا پھرننا، لیٹنا بیٹھنا اور زندگی کا ایک ایک قدم، مصائب کا نمونہ اور رسول اللہ کا اسوہ، اخلاص، ناپہیت، عالی ہمتی، بلند حوصلگی، فراخ دلی، صبر و استقامت، عزم و ارادہ، حلم و بردباری اور عفو و درگزر جیسی صفات حسنہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی نظیر مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔ مختلف اوصاف حمیدہ اور متضاد محاسن آپ کی ذات میں اس طرح جمع ہو گئے تھے کہ مولینا کی عظمت و عزیمت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ مسلسل جدوجہد اور لگاتار مشاغل و مصروفیات آپ کی سرگرمیوں اور قوت عمل کو کبھی مضمحل نہیں کر سکے۔

۱۔ مولانا عبدالحئی۔ نزہۃ الخواطر۔ مطبوعہ حیدرآباد۔ ج ۸۔ ص ۱۱۶

مولانا عبدالحئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں ان کے خلف الرشید مولانا علی میاں صاحب ظلم نے بعض ایضانات و اضافات کئے ہیں۔ لیکن ہے کہ ہمارے اقتباسات میں کہیں ان کا اضافہ بھی شامل ہو گیا ہو۔

اولاد و اخلاف

حضرت نے تین صاحبزادگان اور چار صاحبزادیاں چھوڑیں۔ سب سے بڑے مولینا سید اسعد مدنی صاحب مدظلہم پیدائش (۱۹۲۷ء) حضرت کی تیسری اہلیہ رحمہا اللہ کے بطن سے ہیں۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی اور کچھ عرصے تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ تصوف و سلوک کی تربیت حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل اور ان کی کما حقہ خدمت کی۔ حضرت کے وصال کے بعد ان کے خلفاء نے آپ کو خلافت و اجازت بیعت دی۔ حضرت کے بعد بے آرج تک جمیعتہ علماء کے صدر ہیں اور ۱۹۶۴ء سے لے کر تالیف و تصانیف کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی پارلیمنٹ (راجیہ سبھا) کے ممبر ہیں۔ ان منصبوں کے علاوہ بہت سی دوسری تنظیموں کے ذمہ دار اور نائب امیر الہند، صدر مقرر بنائے قدیم دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن ہیں۔ آپ کی پہلی شادی آپ کے چچا مولینا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی و مہتمم مدرسہ علوم بشرعیہ مدینہ منورہ کی صاحبزادی عائشہ مرحومہ سے ہوئی تھی جن سے ایک لڑکا سید احمد ہے جو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا۔ یہیں تعلیم حاصل کی اور اب جدہ میں بینک الجزیرہ میں ملازم ہے۔ دوسری شادی مولینا حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ کلکتہ و دارالعلوم دیوبند کی صاحبزادی بریرہ خاتون سے ہوئی جن سے چار صاحبزادے حافظ محمود، حافظ مسعود، حافظ محمد اور حافظ مودود ہیں۔ چاروں دیوبند میں زیر تعلیم ہیں۔ بڑے حافظ محمود کی شادی دارالعلوم کے مشہور مبلغ و واعظ مولینا ارشاد احمد صاحب فیض آبادی مرحوم کی لڑکی سے ہوئی ہے جن سے تین بچیاں ہیں۔ دوسرے حافظ مسعود کی شادی اعزہ میں جناب ادا اللہ

صدیقی کی لڑکی سے ہوئی ہے جن سے ایک لڑکی ہے۔ تیسرے حافظ محمد کی شادی جون پور کے مشہور عالم دین مولانا ضمیر احمد صاحب سابق شیخ الحدیث و اہم مدرسہ عربیہ جلال پور ضلع فیض آباد مرحوم و منفور کی صاحبزادی سے ہوئی ہے۔ چوتھے حافظ مورود ابھی غیر شادی شدہ ہیں۔ مولینا اسد کی دو صاحبزادیاں عزیزہ سیدیہ خاتون اور ذکیہ خاتون سلہما ہیں۔ بڑی کی شادی حضرت مولینا مرغوب الرحمن صاحب رئیس شہر مخمور یوپی و اہم دارالعلوم دیوبند کے صاحبزادے مولینا انوار الرحمن صاحب فاضل دیوبند سے ہوئی ہے۔ ان کے تین بیٹیاں اور ایک بچہ ہے۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باقی اولاد میں دو صاحبزادگان اور چار صاحبزادیاں چوتھی اہلیہ مدظلہا سے ہیں۔ ان میں بڑے مولینا مولوی حافظ قاری ارشد مدنی صاحب دارالعلوم دیوبند میں درجہ علیا کے استاذ ہیں۔ آپ اپنے بڑے بھائی مولینا اسد کے خلیفہ ہیں۔ ان کی شادی مولینا عبدالوہاب صاحب فاروقی لکھنؤی مرحوم کی صاحبزادی بشریٰ خاتون سے ہوئی ہے جن سے چھ صاحبزادگان اور چار صاحبزادیاں ہیں۔ آپ کے بڑے لڑکے مولینا مولوی حافظ ازہد صاحب کی شادی مولوی حکیم سید محمد نفیس صاحب خان جہانپور ضلع مظفر نگر کی صاحبزادی سے ہوئی ہے جن سے ایک بچی ہے۔ مولوی ازہد صاحب جامعہ حسینیہ جوپور میں استاذ ہیں۔ باقی پانچ حافظ امجد، حافظ ازہر، حافظ حسین احمد، حافظ حبیب اللہ اور حافظ محسن سلہمہ دیوبند میں زیر تعلیم ہیں۔ لڑکیاں حسناء، ولیہ، فاطمہ اور امہ سلہمہ ہیں۔ حسناء کی شادی مولینا محمد عبید حسنی فاضل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ساکن رائے بریلی (یوپی) سے ہوئی ہے جن کے ایک صاحبزادہ ہے۔ دوسری ولیہ سلہما کی شادی ان کی چھوٹی کے لڑکے مولوی سید محمد سلمان صاحب سے ہوئی ہے۔ ان کے ایک لڑکا ہے دو بیٹیاں فاطمہ اور امہ ابھی چھوٹی ہیں۔ حضرت کے تیسرے صاحبزادہ مولینا مولوی سید اسجد مدنی سلمہ اللہ اُس وقت تولد ہوئے تھے جب حضرت کی عمر اسی برس کی تھی۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہیں اور جمعیتہ علماء ہند کے ناظم ہیں، آپ کی شادی حاجی محمد مسیح الرحمن صاحب مستی پور صوبہ بہار کی صاحبزادی رضیہ خاتون سے ہوئی ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادہ حافظ سید حسن سلہمہ زیر تعلیم ہیں۔ دو صاحبزادیاں

عالیہ اور ماریہ سلما صغیر الحسن ہیں۔

حضرت کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی عزیزہ ریحانہ سلما کی شادی مولینا حمید الدین صاحب سابق استاذ تفسیر و حدیث دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و مدرسہ عالیہ کلکتہ و سابق ممبر مجلس شوریٰ دیوبند کے صاحبزادے مولینا مولوی حافظ قاری رشید الدین صاحب جمیدی خلیفہ شیخ الحدیث مولینا زکریا صاحب و مہتمم مدرسہ قاسمیہ شاہی مسجد مراد آباد سے ہوئی ہے۔ ان کے تین صاحبزادے ہیں۔ بڑے عزیزم احمد سلمہ بی۔ اے (جامعہ) حفظ الرحمن ادارہ تعلیم و تربیت میں مدرس ہیں۔ ان کی شادی ان کے خاندان میں فیض آباد میں جناب حمید الدین صاحب کی پوتی سے ہوئی ہے۔ ان سے چھوٹے مولینا مولوی حافظ قاری اخلد صاحب مدرسہ جامعہ قاسمیہ شاہی مسجد مراد آباد میں استاذ ہیں، ان کی شادی خاں جہاں پور میں سید محمد انیس صاحب مرحوم کی صاحبزادی سے ہوئی ہے۔ ریحانہ کے تیسرے صاحبزادے حافظ اشہد سلمہ دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم ہیں اور دو صاحبزادیاں عزیزہ عائشہ اور سعدانہ سلما ہیں۔

حضرت کی دوسری صاحبزادی عزیزہ عمرانہ سلما ہیں ان کی شادی منصور پور ضلع مظفر نگر میں نواب سید محمد عیسیٰ صاحب کے صاحبزادے مولینا مولوی حافظ قاری حاجی سید محمد عثمان صاحب سلمہ استاذ درجہ علیا دارالعلوم دیوبند سے ہوئی ہے۔ ان کے دو صاحبزادے مولینا مولوی حافظ قاری حاجی مفتی سید محمد سلمان صاحب استاذ جامعہ قاسمیہ شاہی مسجد مراد آباد اور حافظ سید محمد عفان معلم دارالعلوم دیوبند ہیں۔ ایک صاحبزادی عزیزہ حافظہ رشیدی سلما ہیں۔ حضرت کی تیسری صاحبزادی عزیزہ صفوانہ سلما ہیں ان کی شادی مولینا مولوی سید محمد نعیم صاحب خاں جہاں پور ضلع مظفر نگر مالک نیشنل انجینئرنگ ورکس کھتولی سے ہوئی ہے۔ ان کے چار صاحبزادگان حافظہ محمد حارث، حافظہ محمد معاذ، محمد سعد اور محمد بشیر سلما ہیں اور دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم ہیں اور ایک صاحبزادی فاطمہ سلما ہیں۔

حضرت کی چوتھی صاحبزادی عزیزہ تحریرہ فرحانہ ہیں۔ سلما اللہ
حضرت کے دو بچے اور چار بچیاں ہیں سفر سنی میں ذخیرہ آخرت ہوئے۔

کس قیامت کا یہ ماتم ہے بپا تیرے بعد

سارے تعزیت نامے، ادارے، مضامین، تجویزیں اور تقریریں تلاش کی جائیں اور نقل کی جائیں تو اتنا رقت اور گنجائش کہاں سے لائی جائے؛ اور کس نہ کسی طرح ہمت کر بھی لی جائے تو اب اس سے فائدہ بھی کیا ہے؛ تاہم حادثہ کی شدت اور رنج و الم کی عمومیت کا اندازہ کرنے کے لئے نموناً چند تحریریں ملاحظہ کیجئے اور یہ خیال کریجئے کہ ان میں بعض متضربین اور منتقدین کے غم آمیز تاثرات بھی شامل ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔

ابتداءً مولانا عامر عثمانی مرحوم ایڈیٹر ماہنامہ تجلی دیوبند کے تین اشعار سے کر رہے ہیں جو موصوف نے اپنے تعزیتی ادارے میں لکھے ہیں۔ یہ ادارہ بھی آپ اگلے صفحات میں دیکھیں گے۔

حادثہ وفات حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی

وہ ایک تارا جو فوٹو لگن تھا حیات کے مغربی افق پر
 سیاہی شب کے پاسبان و خوشی مندا کہ وہ بھی ڈوبا
 وہ اک سفینہ جو تر جہاں تھا بہت سی غرقاب کشتیوں کا
 ہماری حالت پر ہنسنے والی ہنسی اُڑاؤ کہ وہ بھی ڈوبا
 وہ ایک دل جو دمک رہا تھا خلوص و ایماں کی تابشوں سے
 خلوص و ایماں کے دشمنوں کو خبر سناؤ کہ وہ بھی ڈوبا

عامر عثمانی

مولانا ابو محمد امام الدین رام نگر سی

قرالین نے آجہ شیخ اعظم حضرت مولانا مدنی قدس سرہ کی وفات کی سنائی تو اس ایسے کو قبول کرنے پر دل آمادہ نہ ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی ملت اسلامیہ یتیم ہو گئی۔ اس ذات نے لاکھوں مسلمانوں کا شیرازہ باندھ رکھا تھا۔ اب کوئی نہیں جو دوسرا حسین احمد بن کر کھڑا ہو۔ صبح سے بار بار روچکا ہوں۔ بار بار دل بے اختیار ہوجاتا ہے

جناب اصغر علی عابدی ایڈیٹر سے روزہ اخبار دعوت و ہٹی

”مولانا مدنی کا سانحہ وفات بڑا غم انگیز ہے۔ ان میں اور ہم میں نظریات و انکار کا چاہے جتنا بھی اختلاف رہا ہو لیکن ان کے لئے ہمارے دلوں نے کبھی وہ جذبہ محسوس نہیں کیا جو کسی مخالف کے لئے ہوتا ہے۔ ہمارے قلوب ان کی محبت اور عقیدت سے لرزیتے تھے۔ اللہ اور رسول ہی کے احکام اور دین ہی کی روشنی میں اگر ہم ان سے اختلاف کرنے سے معذور نہ ہوتے تو خدا عظیم ہے ان جیسا زاہد و عابد اور عالم و رہنما تو ہمارے سرکا تاج اور ہمارے دلوں کا مسند نشین تھا۔ بہر حال وہ اپنے رب سے جاملے اور ہم تمنا کرتے ہیں کہ ان جیسے زہد و تقویٰ اور جہد و عمل کی ہمیں بھی توفیق نصیب ہو۔“

آل انڈیا ریڈیو دہلی

حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کے برگزیدہ نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ

لے ماخوذ از ادارہ ماہنامہ تجلی دیوبند، بابت ماہ جزوی و فروری ۱۹۵۷ء

” ” ” ” ” ”

کہتے ہوئے قلب پر عجیب عالم گزر رہا ہے۔ ان کی موت نے لاکھوں مجتہد بھروسے دلوں کو غم و حزن کا مسکن بنا دیا ہے نہ جانے کتنی آنکھیں آج ان آنسوؤں کی جلوہ گاہ ہوں گی جن میں انتہائی خلوص و گداز شامل ہے۔

جنگ آزادی کا عظیم رہنما، حب وطن کا ایک بھر تواج، غم و استقلال کا ہمارا، علم و انحصار کا ایک سدا بہار گلستاں، جو دو کرم کا ابرگر بار، علم و عمل کے افق کا آفتاب، آج حجابات ظاہری کی مٹل سے اٹھ کر عالم باطنی کی خلوت میں مخویاب ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

سید حسین احمد، ہاں وہ مرد عظیم، انسانیت کی آبرو، عرفان و ایقان کا تجمل، شریعت کا ہادی، طریقت کا مرشد، مدرسہ و خانقاہ میں نشیت الہی سے سراپا گداز، میدان عمل میں جرات و ہمت کا کوہ گراں، وہ خطیب شملہ نشاں جس نے غیور ہندوستانیوں کے سینوں میں جذبہ آزادی کی چنگاری روشن کی۔

رشی رومال کی تنظیم جہاد ہو یا جنگ عظیم میں برطانیہ کی شدید مخالفت، مالٹا کا زندان ہو یا کراچی کی قید، تحریک خلافت ہو یا جدوجہد آزادی، تنک سازی کی ستیہ گرد ہو یا شراب خانوں کا احتساب، ۱۹۴۲ء کا نعرہ انقلاب ہو یا نظریہ تقسیم کا دلیرانہ استرداد، غرض ہندوستان کی کتاب آزادی کا ایک ایک ورق حضرت مولینا کے انوار، ایثار و قربانی سے تابناک ہے۔

ایک طرف جہد و عمل کا یہ وسیع میدان دوسری طرف مسند علم و عرفان سے علوم نبوت کی گہری زیاں اور گل باریاں، سچ تو یہ ہے کہ اس دور میں یہ امتیاز خاص حضرت کی ذات اقدس پر رقم ہو گیا۔

شیخ الاسلام، ہادی کل حضور رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے والد و شیدائی تھے۔ شفقت و رحمت، علم و تواضع، عفو و کرم، جو دو نوازش، ایثار و اخلاص اور خدمت و مدارات کے حسن و پاکیزگی نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو انتہائی دلآویز بنا دیا تھا۔

دینِ نبیت کی شمعِ جاوداں، حریمِ چشتیاں کا چراغِ ابدِ فردغ، دنِ علومِ مسارت کی خدمت و اشاعت سے روشن، راتیں ذکر و خشیتِ الہی سے پُر نور قائم اللیل، فارسِ انہار کی تفسیرِ جمیل، دشنامِ طرازیوں اور کچڑاچھالنے والوں پر غفور و کرم کے پھول برسانے والا، بدخواہوں کا سچا دعا گزار، ہاں حسین احمد اپنے ہادی برحق کے نقشِ قدم کا دیوانہ و رمارہِ نبیم کے جمال و نشین کا پرتو، جس کی زندگی تھی۔

طرقتِ بجز خدمتِ خلقِ نیست تسبیح و سجادہ و دلتی نیست

کر ڈروں ہندوستانیوں اور بے شمار دوسرے ملکوں میں رہنے والے عقیدہ مندوں کے غمزہ قلوب کی تسلی کے لئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پاک روح عالمِ باقی کے جھروکوں سے اشارہ کر رہی ہے۔ الا بذکر اللہ مطمن القلوب

ریڈیو سعودی عرب جَدہ تقریر مولینا ڈاکٹر عبد اللہ عباس صاحب ندوی حضرت شیخ الاسلام کی وفات کی اطلاع یہاں بجلی بن کر گری۔ پچھنبہ ۱۳ جہادی ۱۴۱۱ء کو یہ خبر ہندوستان اور پاکستان کے ریڈیو نے نشر کی۔ سعودی عرب ریڈیو کی اُردو نشریات کا پروگرام ملتوی کر کے مندرجہ ذیل تعزیتی تقریر نشر کی گئی:

حضرت مدنی جمعیتہ علماء ہند کے صدر، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور جہادِ حریت کے اولین سپہ سالاروں میں تھے۔ انھوں نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت، ترویجِ سنت اور احادیثِ نبوی کی تدریس میں گزار دی۔ وہ بزرگوں کے بزرگ، استادوں کے استاد، بڑے بڑے مرشدین کا ملین کے مرشد اور بہتر سے مسلم لیڈروں کے مربی اور استاد تھے۔ ان کے نقشِ حیات کا ایک ایک صفحہ عظمت کی بارگاہ ہے۔ نہ صرف ہندستان و پاکستان بلکہ براعظمِ انڈونیشیا، افغانستان، مشرقی و جنوب مشرقی افریقہ میں ان کے شاگرد

لے خصوصی ریڈیائی تعزیتی پروگرام میں روشن صدیقی جوالا پوری مرحوم و مغفور کی تقریر، انٹوز از اخبار الجمیۃ دہلی، ۹ دسمبر ۱۹۵۶ء

ہزاروں کی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ قوت و عزیمت کے کوہ گراں تھے جو اپنے وقت سے بال برابر بھی ہٹنا گناہ سمجھتے تھے۔ ان کی شخصیت ایک ہشت پہل نیکنہ کے مانند تھی۔ اگر ایک طرف گاندھی جی 'موتی لال نہرو اور دوسرے ہندوستانی لیڈر ان کے مداح و قدردان تھے۔ ان سے مشورہ لیتے تھے اور ان کے تعاون پر اعتماد و فخر کرتے تھے تو دوسری طرف وہ عظیم ترین روحانی مربی اور شیخ کامل تھے۔ ایک خدارسیدہ بندے کی معراج یہی ہے کہ وہ لوگوں کی مدح خوانی سے متاثر ہو نہ ان کے سب و شتم سے۔ اگر دنیا اس کے قدموں میں آجائے تو اس کے احساس بندگی دے مانگی پر غرور کی پر جھائیں نہ بڑے اور اگر ساری دنیا اس سے منہ موڑے تو اللہ کی معیت و نصرت میں خود کو تہاڑ محسوس کرے۔ جو لوگ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے قریبی واقفیت رکھتے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ حضرت ان اوصاف کے بہترین حامل تھے۔

شیخ الاسلام کا لقب حضرت پر حقیقی معنوں میں صادق آتا ہے۔ حق بات تو یہ ہے جس کے کہنے میں ہم کوئی جھجھک محسوس نہیں کرتے ہیں کہ حضرت مدنی اس وقت دنیا سے اسلام کے سب سے بڑے دینی و روحانی بزرگ تھے۔ سنت نبوی کو اگر کوئی زندہ شکل میں دیکھنا چاہتا تو حضرت کی روحانی رفتار و گفتار کا جائزہ لے لیتا۔ چند دن آپ کی صحبت میں گزارتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ سلف صالحین کا انداز نشست و برخاست اور طریق بود و باش کیسا تھا۔

آج تمام مسلمانوں کے لئے یوم الحزن ہے اور ہر کلمہ گو تعزیت کا مستحق ہے۔ حق تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ان سے راضی ہو۔ (ملخص)

انبار چٹان لاہور شورش کشمیری مرحوم
اس تعزیتی خبر سے اسلامی دنیا کے ثقہ افراد بے شبہ رنج و قلق کا شکار ہوئے

ہیں کہ ایشیا کی سب سے بڑی دینی درس گاہ کے رئیس الجامعہ شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی ۵ دسمبر کو پنج گرجا ۴۵ منٹ پر دیوبند میں اس جہان نانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ان کا سن شباب تھا کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے تلمذ اختیار کیا اور دین و سیاست میں انہی کی سیادت قبول فرمائی، پھر ان کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ روزِ اہل کے سامنے بیٹھ کر حدیث شریف کا درس پڑھا اور پڑھایا۔ وہیں پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں انگریزوں نے مرشد و مرید دونوں کو گرفتار کر لیا۔ اور مالٹا کے جزیرہ میں نظر بند رکھا۔ وہاں آپ پر جو مظالم روا رکھے گئے، ان کا ذکر یہاں بیکار ہے کیوں کہ زخموں سے کھیلنے والوں کو زخم پہننے والوں کی کہانی سننا بجائے خورد زخموں کی اہانت کرنا ہے۔

رہائی کے بعد ہندوستان پہنچے اور تحریک خلافت میں شریک ہو گئے۔ پھر جب تک انگریز اس برصغیر سے نکل نہیں گئے، آپ نے کسی موڑ پر بھی اپنے بڑھاپے کو تھکنے نہیں دیا۔ شب و روز گزارتے رہے۔

آپ نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کے خلاف کلمہ اہانت نہیں کہا۔ اختلاف فکر و نظرسر کے باوجود ہر شخص کی عزت کی۔ دین کو دین کی سطح پر رکھا۔ کاروبار کا ذریعہ نہیں بنایا۔ غیرت اور جرات دو ایسے وصف تھے جو آپ کے خون میں دوڑتے تھے۔

حضرت تقویٰ کی اس منزل میں تھے کہ مولانا ایسا س دہلوی (بانی جماعت تبلیغ) نے سیاست کی گرم بازاری کے دنوں میں کہا تھا کہ آپ سیاستاً جو کچھ کہتے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر سمجھ میں آسکتا تو میں آپ کے ہمراہ دوڑتا پھرتا۔ مگر اللہ کے نزدیک آپ کا جو درجہ ہے میں اس سے کما حقہ واقف ہوں اس لئے آپ کی مخالفت کر کے جہنم کی آگ نہیں خریدنا چاہتا۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بیش بہا ستارے تھے۔ زندہ ہندوستان میں ہوتے تو آج بھارت

کے پرچم آپ کے غم میں سرنگول ہوتے۔ لیکن آپ اس ملک میں اجنبی تھے۔ (ملخص)

ہفت روزہ خدام الدین لاہور

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے عالم اسلام ایک عالم بے بدل اور صاحب باطن صوفی، ہندوستان کی جنگ آزادی کے ایک مایہ ناز اور جاں باز سپاہی اور مسلمانان ہند ایک قابل اور موثر رہنما سے محروم ہو گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خدام اور معتقدین کی بہت بڑی تعداد برصغیر بلکہ سارے عالم اسلام میں موجود ہے جن میں بڑے بڑے علمائے کرام اور صوفیائے عظام بھی شامل ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نیکی، خلوص اور تقویٰ کا مجسمہ تھے۔ (ملخص)

ماہنامہ الصدیق ملتان (پاکستان) ادارہ مولینا عبداللہ صاحب

بروز جمعہ مدرسہ عربیہ خیر المدارس میں حضرت مولینا خیر محمد صاحب مدظلہ نے ایک موثر تقریر فرمائی جس میں فرمایا کہ سلف میں دو قسم کے بزرگ ہیں ایک علوم شریعت میں ماہر اور باکمال اور دوسرے وہ علوم طریقت میں انتہائی مقام کو پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت مدنی ان اکابر میں تھے جو ظاہر و باطن دونوں کے جامع تھے اور صحیح معنوں میں شیخ الاسلام تھے اور ان کو حضرت مولینا محمد قاسم سے تواضع و انکساری اور مولینا رشید احمد گنگوہی سے استقلال اور استقامت و رز میں ملی تھی۔

حضرت مولینا خدابخش صاحب مدظلہ، حضرت مولینا محمود اختر صاحب اور اخیر میں امیر شریعت حضرت مولینا سید عطار اللہ شاہ بخاری نے حضرت کے مناقب محاسن بیان فرمائے۔ (ملخص)

۱۔ ادارہ ہفت روزہ چٹان، ۹ دسمبر ۱۹۵۶ء
۲۔ ہفت روزہ خدام الدین، ۱۳ دسمبر ۱۹۵۶ء
۳۔ مولینا خیر محمد صاحب حضرت تھانوی کے اجل خلیفہ میں تھے
۴۔ الصدیق (ملتان) ماہِ ربیع الثانی ۱۳۷۶ھ

ماہنامہ مدینہ لاہور (پاکستان) ادارہ مولوی محمد میاں کاندھلوی

پانچ دسمبر کی شام کو یہ جانکاہ خبر رنج و الم کے ساتھ سنی کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحلت فرما گئے۔ برصغیر میں آپ کے شاگردوں کی بڑی تعداد ہے اور اختلافات و فتنوں کے باوجود آپ کو ہر طبقہ میں احترام و عقیدت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ عبادات میں آپ کا شروع و خضوع دیکھنے والے پر رقت طاری کر دیتا تھا۔ آپ کی وفات ایک فرد کی نہیں ایک تحریک، ایک جذبہ اور ایک تاریخ کی موت ہے۔ (ملخصاً)

ماہنامہ مقام رسالت کراچی (پاکستان) ادارہ سلیم شمشی

یہ سال ۱۹۵۷ء اپنے ساتھ ایک ایسی ہستی کو لے گیا جو نہ صرف مسلمانان ہند و پاک کی متاع گراں مایہ تھی بلکہ مسلمانان عالم کی ایک بھانجی تھی۔ یعنی حضرت العلامہ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔

مدوح کی وفات ہر اُس مسلمان کے لئے ہوگا جو کر دینے والا جانکاہ واقعہ ہے جس کے دل میں کتاب و سنت کی محبت ہے۔ مولانا مرحوم کی ذات ایک متقی مسلمان، عالم دین اور فن حدیث میں کمال رکھنے والے ایک فاضل کی ذات تھی۔ اور اسی حیثیت سے مسلمانان عالم کے لئے ایک سرمایہ عظیم تھی۔ (ملخصاً)

اخبار آزاد لاہور (اداریہ)

پاکستان ریڈیو نے رات کی خبروں میں جب شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے حادثہ ارتحال کی خبر نشر کی تو دینی حلقوں میں صفت ماتم بچھ گئی۔ یہ سانحہ ساری دنیائے اسلام میں بڑے ہی رنج و ملال سے سُنا گیا ہوگا۔ رات گئے ایک اس خبر کی تصدیق کے لئے فون آتے

رہے۔ حضرت کی عظیم شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ برصغیر کے علاوہ آپ کے شاگردوں اور عقیدت مندوں کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ ہر اس ملک میں جہاں مسلمانوں کی تھوڑی بہت بھی آبادی موجود ہے ان کے عقیدت مند موجود ہیں۔

دین کی خدمت، آزادی وطن کی تڑپ اور برطانوی سامراج کی مخالفت آپ کی نگہبانی میں تھی۔ خدمت ملک و ملت میں آپ نے وہ کڑی مصیبتیں جھیلیں اور ایسی مستقل مزاجی سے جنگ آزادی میں حصہ لیا کہ باید و شاید۔ نامساعد حالات سے کبھی حوصلہ نہ ہارا اور اور اپنوں اور بیگانوں کی زبان طعن کو کبھی خاطر میں نہ لائے۔ برطانوی حکومت نے انھیں ہمیشہ اپنا باغی جانا۔ برطانوی ایجنٹوں نے حضرت مدنی سے جب بھی بدسلوکی یا بدتمیزی کا برتاؤ کیا آپ نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ آج افق اسلام کا یہ درخشندہ ستارا ڈوب چکا ہے۔ دیوبند ہی نہیں ساری دنیا کے اسلام اس اُجالے کو مدتوں ترستی ہے گی۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ حضرت کو اپنے جوار رحمت میں مقام اعلیٰ عطا کرے اور انھیں کروٹ کروٹ چین نصیب ہو۔ (مخلص)

اخبار تسنیم لاہور (اداریہ)

مولینا سید حسین احمد مدنی کا انتقال ایک نہایت الم ناک واقعہ ہے جس پر پورا عالم سوگوار ہوگا۔ مولینا مدنی جامع الکمال شخصیت تھے۔ ان کا علم و فضل، ان کا دُرع و تقویٰ، ان کی بے باکی و حق گوئی، حمایت اسلام اور آزادی وطن کا جذبہ، ان کا استقلال اور استقامت اور ان کے دوسرے اوصاف و خصائص ایسے تھے کہ کسی ایک شخص میں بہت کم جمع ہوتے ہیں۔ ان کی موت سے اسلام، ملت اور علم و عمل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ جو لوگ ان کے مخصوص عقائد و رجحانات اور مشاغل و مصروفیت سے اختلاف رکھتے ہوں وہ بھی ان کے فضائل و محاسن سے انکار نہیں کرتے۔ آخری زمانے میں بعض مخصوص اسباب کی بنا پر

مولانا موصون و مرحوم جماعت اسلامی کی مخالفت کرنے لگے تھے اور اس معاملہ میں انہوں نے کسی حد تک غلو سے بھی کام لیا لیکن ہمیں گمان ہے کہ ان کا یہ طرز عمل غلط سلوات اور غلط فہمیوں پر مبنی تھا اور ہمیں توقع ہے کہ اس معاملے میں بھی ان کی نیت نیک ہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی اس نفس کشی کو معاف فرمائے گا۔ ہمارے دل میں ان کی نیکیوں کی پوری قدر ہے اور ان کی مخالفت کا کوئی ملال نہیں اور ہم صدق دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ (ملخص)

الجمیۃ دہلی اداریہ مولانا عثمانیہ فارقلیط

جو لوگ واقف ہیں وہ شہادت دیں گے کہ حضرت سراج العلماء شیخ العربیہ المہم سیدنا مولانا سید حسین احمد مدنی اخلاص و ایثار، تقویٰ و طہارت، عبادت و ریاضت، سخاوت و مردت، خدا پرستی و مردم شناسی، خودداری اور علم دوستی کا پیکر تھے۔

یوں تو سارا ہندوستان حضرت کی جدائی سے غمگین و طول ہے لیکن جب ہم نے آل انڈیا ریڈیو پر صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر راجندر پرشاد، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، صدر کانگریس مسٹر ڈھیبیر، ڈاکٹر سید محمود اور راجس صدیقی کے پیغام تعزیت سنے تو ہماری اثر پذیری میں مزید اضافہ ہوا۔ غالباً گاندھی جی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ آل انڈیا ریڈیو نے حضرت کے ماتم میں ایک مستقل پروگرام نشر کیا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت مدوح کی روح مبہر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے اور غم و دلوں کو نصیب جیل کی نعمتوں سے نوازے۔ (ملخص)

اخبار نسئی دنیا دہلی اداریہ مولانا عبدالوہید غازی پوری مرحوم

یہ روشنائی نہیں خون کے آنسو اور قلم نہیں ٹوٹا ہوا دل ہے جو شیخ الاسلام حضرت

مولینا سید حسین احمد مدنی کے غم میں سوگوار ہے۔ علم کی ایک شمع خاموش ہو گئی، فضل و کمال کا ایک آفتاب غروب ہو گیا۔ موت نے زندگی کے ہاتھ سے وہ ہمکتا ہوا پھول لے لیا جس کا رنگ تفسیر شریعت، جس کی پنکھڑیوں میں اسوۂ مشائخ کی خوشبو اور جس کے حسن میں اخلاق کی کشش تھی جس کے دامن میں علم و حکمت کا شہد تھا۔ وہ علم و عمل اور شریعت و طہارت کا مجمع البحرین تھے۔

عالم کی موت اگر عالم کی موت ہے تو آج حسین احمد نہیں ایک عالم مر گیا۔ علم کی ایک دنیا فنا ہو گئی۔ دنیاۓ اسلام کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ انسانیت کی وہ روح پرواز کر گئی جس کی محشر انسانیت میں ہمیشہ ہی تلاش رہے گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون (ملخص)

روزنامہ قومی آواز لکھنؤی ادارہ حیات اللہ انصاری

مولینا مدنی جو جدوجہد آزادی کے ایک بہت بڑے پرہ سالار تھے جو قربانیوں کے وقت سپاہیوں کے آگے آگے رہا کرتے تھے اور جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ نظر بندی اور قید میں گزرا۔ وہ جس جگہ جاتے تھے تقریر کرتے تھے یا بولتے تھے ان کے پس منظر میں ایک عظیم تاریخ بولتی تھی۔ مولینا مدنی زبردست سیاسی لیڈر تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ بڑے عالم اور محدث بھی تھے جن کے علم و فضل کا لوہا ان کے مخالف بھی مانتے تھے۔ دوسری طرف وہ بہت بڑے مرشد بھی تھے۔ وہ سپرد خاک کر دئے گئے لیکن زمانہ دیکھے گا کہ ان کی موت کو بھی موت آگئی ہے کیوں کہ ان کی زندگی قلب انسانی کے سنگ خارا پر نصب ہے جہاں ماضی ہمیشہ حال رہتا ہے۔ (ملخص)

روزنامہ خلافت بمبئی ادارہ

ملت اسلامیہ ہند کی انتہائی بدقسمتی ہے کہ آفتاب علم و معرفت، جامع شریعت و

طریقت مجاہد راہ حریت مولانا حسین احمد مدبر کو شدید علالت قلبی کے باعث دن رات پاگئے۔ ان اللہ انانہ الخ۔ مرحوم دنیاۓ اسلام کے کبار و مرشدان طریقت میں تھے۔ علمی تبحر کے ساتھ ان کے ذاتی ماسن اخلاق نے انھیں مددِ خالق بنا دیا تھا۔ جو لوگ ان کے شدید مخالف تھے وہ بھی ان کے اخلاق و تقویٰ کے قائل اور بقر تھے۔ مولانا کو جنگ آزادی کی تحریک خلافت اور ترک موالات میں جو شہرت حاصل ہوئی وہ طبقہ علماء میں کم لوگوں کو حاصل ہوئی۔ لیکن ان کا اصل جوہر زہدِ تقویٰ، عبادتیں اور ریاضتیں تھیں جو سفر حضر میں تقریباً ہر وقت جاری رہتی تھیں۔ مولانا جیسا درس حدیث دینے والا محدث اب ملنا بہت دشوار بلکہ ناممکن ہے اور پھر اس درس و تدریس کے لئے تقویٰ و تزکیہ نفس کی جو شرط ہے اس کا پورا کرنے والا اس دورِ پُرفتن میں تو ڈھونڈے بھی نہیں ملے گا۔ مولانا کی وفات نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ (مخلص)

اخبارِ مدینہ بجنور ادارہ

حضرت شیخ کا وصال تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے حادثہ عظیم ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اس پر بھی تسلی دے سکتے ہیں کہ آؤ ہم سنت اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دیں۔ بقول امام الہند مولانا آزاد خود حضرت شیخ نے اپنے جسم اور اپنی روح کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دیا تھا، امت مسلمہ کی سرداری کے لئے جو صفات درکار ہیں وہ اب ہندوستان میں کسی ایک فرد میں اس طرح جمع نہیں ہو سکتیں جس طرح حضرت کی ذاتِ قدسی صفت میں جمع ہو گئی تھیں۔

دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اور بالخصوص حضرت مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن کو صبر و استقامت کی توفیق عطا فرمائے (مخلص)

لے روز نامہ خلافت، ۱۳ دسمبر ۱۹۵۶ء

لے اخبار سہ روزہ مدینہ بجنور، ۱۳ دسمبر ۱۹۵۶ء

اخبار ملاپ دہلی اداریہ رنیر

محترم مولینا حسین احمد مدنی کے دیہانت سے ہندوستان کے ہر دیش بھگت کو دکھ ہوگا۔ وہ جدوجہد آزادی کے ان جرنیلوں میں سے تھے جنہوں نے سارا جیون دیش کی خدمت میں لگا۔ دوسرے نیتاؤں کے مقابلے میں ان کا میدان عمل زیادہ کٹھن تھا۔ انھیں ان مسلمانوں میں کام کرنا پڑا جنہیں دشواری دلا گیا تھا کہ سیاست کی بنیاد مذہب پر ہے اور قومیت کی بھی۔ ان کے دیہانت سے جدوجہد آزادی کا ایک شان دار ورق اُلٹ گیا ایشوران کی آتما کو شانتی دے۔ (ملخص)

اخبار دور جدید رنگون برما اداریہ

شیخ الاسلام حضرت مولینا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ بیک وقت مجاہد، سپاہی، فقیہ، صوفی، محدث، شیخ طریقت اور وقت کے امام درہناتھے۔ سیاسی میدان میں شیخ الاسلام مولینا مدنی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی خلوص، سچائی، حب وطن اور خدمت اسلام سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے تقریباً نصف صدی تک جس جوش اور انہماک کے ساتھ دین اسلام اور علم کی خدمت کی اور جس مجاہدانہ زندگی کا ثبوت دیا آج اس کی مثال معدوم ہے۔ ایسی ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ (ملخص)

اخبار نیو ایچ آف ہندوستانی کیونسٹ پارٹی دہلی اداریہ

مولینا حسین احمد مدنی، عظیم محب وطن عالم، ہندوستان کی تاریخ سے متعلق اور مذہبی کتابوں کے مصنف، مسلمانوں کے عظیم اشان عالم، دسمبر کو انتقال فرما گئے، حقیقت میں مولینا مدنی خلافت تحریک کے اولین رہنماؤں میں تھے۔ وہ کانگریس میں اس گروہ سے تعلق

رکھتے تھے جو مکمل آزادی کو اپنا نصب العین بتاتا تھا اسی لئے آپ نے موتی لال نہسرو رپورٹ کی مخالفت کی۔ مولانا مدنی میں قوم پرستی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ انھوں نے قومی آزادی کے لئے ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا اور اس کے لئے تمام ملک میں پرچار کیا۔ تمام دنیا میں انھیں ایک زبردست مذہبی عالم تصور کیا جاتا تھا۔ مولانا بے حد سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کی زندگی سختیوں، قربانیوں اور مصیبتوں کی زندگی تھی۔ اپنی زندگی کے کسی دور میں بھی انھوں نے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آخر وقت تک وہ ایک زبردست اور بے حد مستقل مزاج سامراج دشمن ہندوستانی رہے۔

ہفت روزہ پیام مشرق دہلی ادارہ

آہ! آج ہمیں اسلام اپنے باغباں سے محروم ہو گیا۔ جس نے پون صدی تک اسلام کے ناموس کی خاطر جہاد کیا۔ جس نے ہندوستان میں اللہ رسول کا نام سر بلند کرنے کے لئے بار بار دار و درن کو دعوت دی جس نے ملک و قوم کی خاطر جہن و زندال کو لبیک کہا۔ آج جیتے علماء ہند کے صدر محترم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس، جانشین حضرت شیخ الہند مجاہد اعظم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی ۵ دسمبر کو دو بجے دن میں اپنے مولا کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ان کی ذات ایک سمندر تھی جس کے دامن میں ہزاروں مجاہدین نے پرورش پائی۔ ان کی ذات اس دور اسلام کا بازوئے شمشیر زن تھا جس نے اسلام کی چودہ سو سال عظمت و عزت کا علم سر بلند رکھا۔ وہ فقر و استغناء اور سخاوت و حیا میں عثمان رضی اللہ عنہ کا پرتو تھے۔ جہاد و نفس کشی سرفروشی اور بہادری انھیں علی کرم اللہ وجہہ سے ورثہ میں ملی تھی۔

یہ وہ ذات گرامی تھی جس نے ایک تاریخ بنائی ہے۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی مورخ نے اپنا قلم رکھ دیا۔ اب حریت پسندی، وطن پروری اور اسلام کے لئے جاں نثاری

کی تاریخ کھل ہوگئی۔ آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں گی۔ سرمہ بصیرت سمجھیں گی اور مثل راہ بنائیں گی۔ (مخلصؑ)

ہفتہ وار بیباک سہارنپور ادارہ مولینا زکریا اسعدی مرحوم

۵ دسمبر کی ایک تاریک ترین رات تھی۔ اس شام کو جہاد حریت کی تاریخ کو ابدی زندگی اور روشنی عطا کرنے والا مجاہد اعظم اپنے مجاہدانہ کارناموں کی تکمیل کر کے دنیا سے جا رہا تھا۔ بلاشبہ آج دنیا کا ہر گوشہ ایک خصوصی روشنی سے محروم ہو گیا اور ہر مجلس میں ایک بھیانک اور گہری تاریکی طاری ہوگئی۔ آج ہمارے سامنے شیخ العرب والعجم حضرت مولینا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا وہ عظیم دارالحدیث اپنے محبوب یحییٰ سے خالی نظر آ رہا ہے۔ مگر چند ہی دنوں میں دارالعلوم دیوبند کی رونقیں واپس آنے لگیں گی۔ بیعتہ علماء کو بھی صدر اور سرپرست میسر آجائیں گے۔ سب کچھ ہو جائے گا۔ مگر کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جوئی الحقیقت تیم ہو گئے ہیں۔ وہ غریب، مفلس اور بد حال دنیا جو نہ جانے کب سے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشن داستانیں سنتی چلی آرہی تھی اس کو اب کوئی حسین احد نہ ملے گا جس کی پوری زندگی صحابہ کا نمونہ اور رسول اللہ کا اسوہ تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے مہمانان رسول کو اب کوئی ایسی محبت و شفقت کے ساتھ سینہ سے نہیں لگائے گا۔ (مخلصؑ)

رسالہ برہان دہلی ادارہ مولینا سعید احمد اکبر آبادی مرحوم

آہ! کیونکر کہیے کہ فلک علم و فضل کا آفتاب زرخندہ غروب ہو گیا۔ بزم انس و قدرح کی شمع فردزاں گل ہوگئی۔ درج تقویٰ و طہارت کا لعل شب چراغ تم ہو گیا۔ شریعت و طہارت کے اسرار و رموز کا محرم جاتا رہا۔ اخلاق و مکارم اسلامی کے ایوان میں خاک اڑنے لگی۔ ملت

بیضا کا سہارا، فرزند ان توحید کی امیدوں کا مزج پیروان دین محمدی کی تمناؤں کا مرکز راہی ملک عدم ہو گیا۔ یعنی حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نے ۵ دسمبر کو بمقام دیوبند سرپہر میں داعی اجل کو لبیک کہا ان اللہ، وانا الیہ راجعون الخ

اسلام میں اعلیٰ اور مکمل زندگی کا تصور یہ ہے کہ ترکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے ساتھ فکر و نظر کی بلندی اور جہد و عمل میں نختگی اور ہمہ گیری ہو اور یہ سب کچھ تعلق باللہ کے واسطے سے ہو۔ مولانا اس دور میں اس میار پر جس طرح پورے اترتے تھے۔ ہندو پاک تو کیا پورے عالم اسلامی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ مولانا جامعیت کمالات و اوصان کے اعتبار سے بے شبہ شیخ العرب و العجم تھے۔ آج عالم اسلامی یتیم ہو گیا۔ (مخلص)

ماہنامہ معارف اعظم گڑھ ادارہ شاہ معین احمد ندوی

شیخ الہند مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی وفات ملک و ملت کا اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اس پر اظہار سے قلم قاصر ہے۔ یہ تنہا ایک شخص کی نہیں بلکہ صحیح معنوں میں موت العالم موت العالم ہے

وماکان قیس ہلکہ ہلک واحد ، دلکنہ بنیان قوم تھما
علم و عمل، دین و تقویٰ، سلوک و تصوف، ارشاد و ہدایات، جہاد و جاننازی، خلق عظیم و لطف عظیم کس کس چیز کا تم کیا جائے۔ وہ اس دور میں سلف جلالین کا نمونہ اور اسلام کی مجسم تصویر تھے۔ ان کی ایک ایک ادا سے اسوہ صحابہ آشکارا تھا۔ ان پر اس سلسلہ الذہب کی خصوصیات ختم ہو گئیں جس کا آغاز خاندان دلی الہی سے ہوا تھا۔ (مخلص)

ماہنامہ الفرقان لکھنؤ ادارہ مولانا عتیق الرحمان سنبھلی

آہ! کہ آج بزم عرفان سونی ہے۔ محراب انسانیت بے نور ہے، مسند علم کی رونق

جا چکی ہے اور محفل طریقت جان محفل کو رو رہی ہے۔ آہ وہ سلف صالحین کی چلتی پھرتی یادگار! وہ مہم زہد و ایثار، وہ بیکر تقدس، وہ کوہ استقامت، وہ جلوہ نمائے خلق احمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے دیکھ کر ایمان کے بجھے ہوئے ذرات میں تازگی پیدا ہوتی تھی جس کے قرب سے دلوں میں ذوق عمل اور تعلق باللہ کی انگ پیدا ہوتی تھی۔ اب ہم کہاں دیکھ پائیں گے۔ روئے گل سیر ندیم و بہار آفرشد (مخلص)

اہنامہ تجلی دیوبند ادارہ عام عثمانی (مرحوم)

۵ دسمبر ۱۹۵۴ء کی سہ پہر کو اساتذ محترم حضرت مولینا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی وفات کا جو غم انگیز سانحہ پیش آچکا ہے اس سے ملک کا بچہ بچہ واقف ہے۔ شیخ کے اوصاف کا بیان اس سادہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں ہونا چاہیے جو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا ائمہ و اقلیاء نے صحابہ کی توصیف میں اختیار فرمایا۔ مناسب ترین خطاب ان کے لئے مرد مومن ہے اور مرکزی حیثیت ان کے خالص اور راسخ ایمان کی ہے جس کی چاندنی میں وہ قائد اور سپہ سالار کی نہیں سخت کوشش سپاہی کی زندگی گزارتے رہے۔ جانتے ہیں آپ اس مرد مومن کی دیانت و پرہیزگاری؟ مرض الموت میں جب کچھ دنوں مدرسے تشریف لے لے جا سکے اور تنخواہ آئی تو واپس فرمادی۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ مقام جہاں کم از کم آج کے دور زر پرست میں جبریل کے پر جلنے کا محاورہ بولا جاسکتا ہے۔ کیا اسے انتہائی تقویٰ اور دیانت کے سوا بھی کچھ کہا جائے گا۔ شجاعت و پامردی جو انسانیت کا بہترین جوہر سمجھا گیا ہے وہ حضرت کی نمایاں خصوصیت رہی ہے۔ خون، جبین، دہن، بزدلی اور سخن سازی سے تو آپ کی فطرت و طبیعت کو کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ جس وقت جس بات کو آپ کے قلب و ذہن نے خفی سمجھا شیروں کی طرح ڈٹ گئے۔ اور ہر حال میں وہی کہا جسے اپنے نزدیک قرآن و سنت کے مطابق سمجھا۔ لگی لپٹی آپ کا شیوہ نہ تھا۔ کھری کہتے تھے اور بے جھجک کہتے تھے۔

ایک سلیم و سادہ انسان کی طرح آپ کے مزاج میں لڑخی بیخ نہیں تھا، فغان سے بڑھی۔ غلام اسلام وضع قطع کو سخت مکروہ سمجھتے تھے۔ غلام سنت چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بچے اور پاک نفس سون کی طرح حضرت شیخ کو زندگی بھر جب جاہ اور اپنے لئے تصادم مدحیہ سے بیزاری رہی۔ خود میرا اپنا واقعہ ہے کہ ایک جلسہ میں جو حضرت کی صدارت میں ہوا میں نے ایک نظم شروع کی (جس کا ایک مصرعہ آج تک یاد ہے) ظہیر فخر کچھ کم نہیں ہے عامر کہ ہوں غلام حسین احمدؑ دو ایک شعروں کے بعد یہ اندازہ کر کے کہ نظم آپ کی منقبت میں کہی گئی ہے فوراً ڈانٹ دیا کہ خرافات بند کرو۔ ناظرین سے چھپا نہیں ہے کہ انہی صفحہات میں ہم بارہا شیخ کے بعض خیالات سے اختلاف اور ان کی بعض تحریروں پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ آج ہم اپنے ہر اس لفظ کی جس میں سوئے ادب کا شائبہ ہو اپنے ہزاروں ناظرین کو گواہ بنا کر حضرت کی روح سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اس موقع پر چند شعربے اختیار نوک قلم پر آگئے ہیں وہ پیش ہیں۔ (یہ تین اشعار اس باب کی ابتدا میں نقل کئے جا چکے ہیں)۔

لے ایک دو شعر ناقل المردن کو بھی یاد ہیں

دیار ہند و سماں میں اپنا چراغ ہے وقف نور پاشی
 چمک رہا ہے بلند یوں پر مہ تمام حسین احمد
 بنام پاک حسین احمد نبی کے پیارے وطن کے باشی
 کہاں یہ رتبہ کر دیکھ پائے نظیر مقام حسین احمد
 مہ عام صاحب مرحوم نے تجلی کو جماعت اسلامی اور مولینا مودودی صاحب کی مدح سرائی اور تبلیغ کی طرز نوڈیا تھا۔

شجرہ نسب حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ

سیدنا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی
سید حبیب اللہ

سید پیر علی

سید جہانگیر بخش

سید شاہ نور اشرف

شاہ مدین

شاہ محمد امین شاہی

شاہ نیر اللہ

شاہ صفی اللہ

شاہ حبیب اللہ

شاہ محمود

شاہ لدھن

شاہ قلندر

شاہ منور

شاہ راجو

شاہ عبدالواحد

شاہ محمد زاہدی

شاہ نور الحق رحمہم اللہ تعالیٰ

.....

سید شاہ زید

سید شاہ احمد زاہد

سید شاہ حمزہ

سید شاہ ابوبکر

سید شاہ عمر

سید شاہ محمد

حضرت مخدوم سید شاہ احمد توفیقہ شمال رسول (علیہ السلام)

سید علی

سید حسین

سید محمد بنی المعروف بر سیدنا ناصر ترغزی

سید حسین

سید موسیٰ احمد

سید علی

سید حسین اصغر

سیدنا الامام علی زین العابدین

سیدنا الامام حسین رضی اللہ عنہ نبیرہ سیدنا و مولانا

سید الاولین و الآخین و محبوب رب العالمین

محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

شجرہ مبارکہ حسینہ رشیدیہ صابریہ چشتیہ قدس اللہ اسراہم

حضرت شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز کو چاروں سلسلوں کے مشائخ سے اجازت بیت حاصل تھی اور آپ چاروں سلسلوں میں بیت فرمایا کرتے تھے مگر اذکار و وظائف عموماً طریقہ چشتیہ ہی کے بتایا کرتے تھے۔ مولانا عبداللیل صاحب سہلٹی تہتم خانقاہ حسینہ دارالعلوم دیوبند نے ان چاروں سلسلوں کے شجرے اس طرح مرتب فرمائے کہ ہر ایک سلسلے کے وطن اور سادات وغیرہ کا ذکر کیا ہے اس نمبر میں صرف مشائخ چشتیہ کا شجرہ شائع کیا جا رہا ہے کیونکہ حضرت اپنے تئیں کو یہی شجرہ عنایت فرمایا کرتے تھے۔

نام	مستطراسخ سنہ ولادت	سنہ وفات	مقام دفن
۱۔ اللہم بجاہ قطب العالم سیدنا و مرشدنا مولانا حسین احمد دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز	بمقام بانگر موصل آباد جہاں آپ کے والد ماجد درس دیا کرتے تھے اور وطن اصلی آپ کا اللہ واد پور تحصیل ٹانڈہ ضلع فیض آباد ۱۹۰۱ء شوال ۱۲۹۶ھ ۱۷ اکتوبر ۱۸۷۹ء	۱۲ جمادی الاول ۱۳۷۷ھ ۵ دسمبر ۱۹۵۵ء بروز جمرات بعد در پہر پھر ۸۱ سال ۱۶ ۲۳ یوم قرمی اور ۹ سال ۲ ۱۷ ایک یوم شمسی یوم پیدائش و وفات	مقبرہ دارالعلوم دیوبند (مقبرہ قاسمی)
۲۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا قطب الزماں مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز	تھبہ گنگوہی ضلع سہارنپور صوبہ یوپی ولادت زھینڈ	بروز جمعہ ۱۸ ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۲۳ھ	تھبہ گنگوہی ضلع سہارنپور صوبہ یوپی

نام	مستقر اس مع سنہ ولادت	سنہ وفات	مقام دفن
۳۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا الحاج الحافظ المشائخ	۱۲۴۲ھ بروز شنبہ		مکہ معظمہ
۴۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا نور محمد الجھنجھانوی	برقت شب		
۵۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد الرحیم الشہید	تھماڑ بھون ضلع	۱۲ جمادی الثانی	
۶۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد الباری الامروہوی	منظر گکو صوبہ یو۔ پی	۱۳۱۴ھ	
۷۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد البہادی الامروہوی	جھنجھانہ ضلع منظر گکو		
۸۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن الامروہوی	صوبہ یو۔ پی ولادت	۴ ہرمضان المبارک	جھنجھانہ ضلع منظر گکو
۹۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن محمد بن الامروہوی	۱۲۰۱ھ مطابق ۱۶۸۶ء	۱۳۰۹ھ	صوبہ یو۔ پی
۱۰۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا شاہ عمادی	افغانستان	۲۴ ذی قعدہ	پختار مک ولایت
۱۱۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن محمد بن الامروہوی	قصبہ امرہ ضلع مراد آباد	۱۲۴۶ھ	صوبہ سرحد
۱۲۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن محمد بن الامروہوی	صوبہ یو۔ پی	۶ محرم ۱۲۴۶ھ	قصبہ امرہ ضلع مراد آباد
۱۳۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن محمد بن الامروہوی	قصبہ امرہ ضلع مراد آباد	۱۱۹۰ھ	صوبہ یو۔ پی
۱۴۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن محمد بن الامروہوی	صوبہ یو۔ پی	۲۴ رجب المرجب	قصبہ امرہ ضلع مراد آباد
۱۵۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن محمد بن الامروہوی	مکہ معظمہ	۱۲۶۱ھ	صوبہ یو۔ پی
۱۶۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن محمد بن الامروہوی	قصبہ امرہ ضلع مراد آباد	۱۱ رجب المرجب	قصبہ امرہ ضلع مراد آباد
۱۷۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن محمد بن الامروہوی	صوبہ یو۔ پی	۱۲۶۲ھ	صوبہ یو۔ پی
۱۸۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن محمد بن الامروہوی	قصبہ امرہ ضلع مراد آباد	۳ رجب المرجب	اکبر آباد حوتی گڑھ
۱۹۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن محمد بن الامروہوی	صوبہ یو۔ پی	۱۲۶۲ھ	ضلع مراد آباد صوبہ یو۔ پی
۲۰۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن محمد بن الامروہوی	وطن ولادت صد پور	۹ رجب المرجب	الآباد
۲۱۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبد اللہ بن محمد بن الامروہوی	وطن قیام الآباد	۱۱۸۵ھ	صوبہ یو۔ پی

مقام دفن	سندونات	مستطراس من سندونات	نام
قصبہ گنگوہ خلیع سہارنپور صوبہ یو۔ پی	۱۱۴۰ھ	قصبہ گنگوہ خلیع سہارنپور صوبہ یو۔ پی	۱۲۔ وجاہ شیخ المشائخ سیدنا ابی سیدہ انگلوہی قدس اللہ سرہ العزیز
تھانیسر خلیع کرنال صوبہ یو۔ پی	۱۲۴۲ھ رجب	تھانیسر خلیع کرنال صوبہ پنجاب	۱۳۔ وجاہ شیخ المشائخ سیدنا نظام الدین الہندی قدس اللہ سرہ العزیز
تھانیسر خلیع کرنال صوبہ پنجاب	۱۰۳۵ھ	مکن اپکا تھانیسر خلیع کرنال صوبہ پنجاب	۱۴۔ وجاہ شیخ المشائخ سیدنا جمال الدین التھانیسری قدس اللہ سرہ العزیز
قصبہ گنگوہ خلیع سہارنپور صوبہ یو۔ پی	۱۲۰۳ھ	قصبہ رودلی خلیع بارہ بنکی صوبہ یو۔ پی	۱۵۔ وجاہ شیخ المشائخ سیدنا قلب العالم شیخ عبدالمقدس انگلوہی قدس اللہ سرہ العزیز
رودلی خلیع بارہ بنکی صوبہ یو۔ پی	۱۲۰۳ھ	قصبہ رودلی خلیع بارہ بنکی صوبہ یو۔ پی	۱۶۔ وجاہ شیخ المشائخ سیدنا عثمان الودلی قدس اللہ سرہ العزیز
رودلی خلیع بارہ بنکی صوبہ یو۔ پی	۱۲۰۳ھ	قصبہ رودلی خلیع بارہ بنکی صوبہ یو۔ پی	۱۷۔ وجاہ شیخ المشائخ سیدنا احمد الودلی قدس اللہ سرہ العزیز
رودلی خلیع بارہ بنکی صوبہ یو۔ پی	۱۲۰۳ھ	قصبہ رودلی خلیع بارہ بنکی صوبہ یو۔ پی	۱۸۔ وجاہ شیخ المشائخ سیدنا شیخ عبدالحق الودلی قدس اللہ سرہ العزیز
پانی پت خلیع کرنال صوبہ پنجاب	۱۲۰۳ھ	پانی پت خلیع کرنال صوبہ پنجاب	۱۹۔ وجاہ شیخ المشائخ سیدنا جمال الدین کبیر اللودی الغانی فقی قدس اللہ سرہ العزیز
پانی پت خلیع کرنال صوبہ پنجاب	۱۲۰۳ھ	پانی پت خلیع کرنال صوبہ پنجاب	۲۰۔ وجاہ شیخ المشائخ سیدنا شمس الدین الترک الغانی فقی قدس اللہ سرہ العزیز

مقام دفن	سنہ وفات	مقطرات مع سزاؤ	نام
پیران کیلر شریف	۱۳ ربيع الاول	ابودھن غالباً	۲۱۔ وجاه شیخ المشائخ سیدنا علاء الدین علی احمد
ضلع بہار پور یو پی	۶۹۰ھ	ولادت ۹ ربيع الاول ۵۹۴ھ۔ شب بختنبہ	الصابر قدس اللہ سرہ العزیز
پاک پٹن شریف	۵ محرم ۶۲۸ھ یا ۹۷۴ھ	ملتان ولادت غزہ رمضان المبارک ۵۶۹ھ	۲۲۔ وجاه شیخ المشائخ سیدنا فرید الدین شکر گنج الابرہ صحنی قدس اللہ سرہ العزیز
دہلی، مہرولی شریف	۲۴ یا ۲۵ ربيع الاول	اوش توابع فرغانہ ولادت شب دوشنبہ	۲۳۔ وجاه شیخ المشائخ سیدنا قطب الدین بختیار الکاکلی قدس اللہ سرہ العزیز
اجیر شریف	۶ رجب المرجب ۶۳۲ھ (اس میں اختلاف بہت ہے)	سنجرستان یا سیستان	۲۴۔ وجاه شیخ المشائخ سیدنا مرکز الطریقہ معین الدین حسن السنجری قدس اللہ سرہ العزیز
مکہ شریف متصل مکان	۵ شوال ۶۳۳ھ یا	قصبہ ہارون تواج	۲۵۔ وجاه شیخ المشائخ سیدنا شیخ عثمان الہارونی قدس اللہ سرہ العزیز
شریف صاحب	۵۶۷ھ یا ۵۹۷ھ	خراسان	۲۶۔ وجاه شیخ المشائخ سیدنا الحاج السید الشریف الزیننی قدس اللہ سرہ العزیز
زندانہ بلاد بخارا	۳ رجب ۶۲۱ھ	زندانہ تواج بخارا	۲۷۔ وجاه شیخ المشائخ سیدنا مودودی الجشتی قدس اللہ سرہ العزیز
چشت	۵۷۷ھ یا ۵۷۲ھ	چشت ولادت ۴۲۰ھ بہد ظلاً المقام باللہ	۲۸۔ وجاه شیخ المشائخ سیدنا ابی یوسف الجشتی الچشتی قدس اللہ سرہ العزیز
"	یکم جمادی الاول	چشت ولادت ۳۷۵ھ	۲۹۔ وجاه شیخ المشائخ سیدنا ابی محمد المحرم الجشتی قدس اللہ سرہ العزیز
"	۴ ربيع الاول ۴۱۱ھ	چشت ولادت محرم شب عاشورہ ۳۳۱ھ	۳۰۔ وجاه شیخ المشائخ سیدنا ابی محمد المحرم الجشتی قدس اللہ سرہ العزیز

نام	سقطہ اس میں سن ولادت	سن ولادت	مقام دفن
۳۰۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا ابی احمد الابدال	چشت	غزوہ جادی الثانی ۲۰۳ھ	چشت
ابن ہشتی قدس اللہ سرہ العزیز	ولادت ۲۶۰ھ	بہدخت الملیح باللہ	
۳۱۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا ابی المنعم	شام	۱۳ جمادی الاول	مکہ از بلاد شام
ابن حاجی قدس اللہ سرہ العزیز		یا آخر ۳۲۹ھ	
۳۲۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا ممشاد	تعبہ ذیور شہر مائے	۱۳ محرم الحرام	تعبہ ذیور
علو الذیوری قدس اللہ سرہ العزیز	منبل سے ہے نزدیک	۲۹۹ھ بہدخت	
	فریبین	المقتدر باللہ	
۳۳۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا ابی بصرہ	بصرہ ولادت ۱۶۷ھ	۴ شوال ۲۷۵ھ	بصرہ
البصری قدس اللہ سرہ العزیز			
۳۴۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا خلیفۃ العرش	تعبہ عرش ملک شام	۱۳ یا ۲۴ شوال ۲۵۲ھ	بصرہ نزد بعض
قدس اللہ سرہ العزیز	نواح دمشق	بہدخت الاستیعین باللہ	
۳۵۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا السلطان	اصل آپ کی نسل	کیم شوال ۱۰۷ھ	در شام علی الامام
ابراہیم بن ادیم البلیغی قدس اللہ سرہ العزیز	سے ہے	۱۶۶ھ	
۳۶۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا فضیل بن	سمرقند	محرم ۱۷۷ھ	مکہ منظرہ بگورستان
عیاض قدس اللہ سرہ العزیز			جنت المعلیٰ
۳۷۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا عبدالوامد	مدینہ منورہ	۲۷ صفر ۱۷۶ھ	بصرہ
بن زید قدس اللہ سرہ العزیز		۱۷۸ھ	
۳۸۔ و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا امام الاولیاء	"	کیم رجب المرجب یا	"
خواجه حسن البصری قدس اللہ سرہ العزیز		۳ محرم ۱۱۰ھ	اس میں
			اختلاف بہت ہے

مقام و فن	سن وفات	سقط راس مع سن ولادت	نام
نبی اشرف غالباً	۲۱ رمضان المبارک ۴۰ھ	۱۳۰۳ھ تک بروز جمعہ و اتوار سے ۳۰ سال بعد	۳۹۔ و بجاہ امیر المؤمنین باب مدینۃ العلم سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ
مدینہ منورہ	۹ یا ۱۲ دوشنبہ	۱۳۰۳ھ تک بروز دوشنبہ	۴۰۔ و بجاہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طہر قلبی
زاد اللہ نورہا	ربیع الاول ۴۰ھ بوقت دوپہر	۱۳۰۳ھ تک بروز اول سال قبل موافق ۴ حکومت کسریٰ	عاسواک و نورہ بانو اس مع فتک و عشقک و دقعی لما تحبہ و ترضاه و ارض عنی فی الدنیا و الآخرة یا کرم

حضرات خلفائے مجازین

بنگلہ دیش

- ۱- مولوی تمغیہ حسین صاحب مرحوم سید پور ڈاکخانہ سید پور ضلع سلہٹ
- ۲- حاجی عبدالباری صاحب بھنگا باڑی چور کھائی
- ۳- حاجی ابرو میاں صاحب تال باڑی
- ۴- مولینا بشیر احمد صاحب باگا
- ۵- مولوی تقدس علی صاحب محلہ شیخ بنیا چنگ
- ۶- مولوی سید عبدالناتق صاحب مرحوم سید پور سید پور
- ۷- ڈاکٹر علی اصغر نوری صاحب غفر گاؤں کمار گاؤں
- ۸- مولوی حبیب الرحمن صاحب موضع رائے پور درلب پور
- ۹- سلیمان خاں صاحب مولوی بازاری
- ۱۰- مولوی عبدالرحیم صاحب پڑی پاڈہ کنائی گھاٹ
- ۱۱- مولوی مجاہد علی صاحب گنگا جیل گنگا جیل
- ۱۲- مولوی عبدالمتین صاحب چودھری پھول باڑی تقیم مال ڈوھا کر دکھن
- ۱۳- مولوی عبدالرحمن صاحب موضع دھولیا ڈاکخانہ فاگا ڈوڑا
- ۱۴- مولینا تجمل علی صاحب انگورا محمد پور کورا بازار
- ۱۵- مولوی علاء الدین صاحب بنیا چنگ
- ۱۶- مولوی عبدالمنان صاحب موضع اٹھالیا شینا جوڑی
- ۱۷- مولوی عبداللطیف صاحب مولوی بازاری موضع نالی ہوڑی اکھٹل کورڈا
- ۱۸- مولوی سراج الحق صاحب موضع پران گاؤں ڈاکخانہ کلیر بھنگا

- ۱۹۔ مولوی عبدالحق صاحب موضع غازی نگر ڈاکخانہ پتھار یا ضلع سلہٹ
- ۲۰۔ مولوی عبدالمومن صاحب موضع پُران گاؤں کلیر بھنگا
- ۲۱۔ مولوی یونس علی صاحب موضع رائے گڈھ ڈھاکہ دکھن
- ۲۲۔ مولوی عبدالمتان صاحب موضع گنویٰ بنیا چنگ
- ۲۳۔ مولوی عبدالنصار صاحب موضع عمرو خانی منشی پارہ
- ۲۴۔ مولوی محمد علی صاحب موضع بلرام پور منشی بازار
- ۲۵۔ مولوی ریاض الرب صاحب ڈھاکہ دکھن ڈھاکہ دکھن
- ۲۶۔ مولینا محمد اسماعیل صاحب مرحوم ساکن چوڑکھائی
- ۲۷۔ مولینا حسن علی صاحب مرحوم گورٹن گھاٹ
- ۲۸۔ مولینا لطف الرحمن صاحب حامد نگر بردن
- ۲۹۔ مولینا حافظ عبدالکریم صاحب موضع اسلام آباد لکھی پاشا
- ۳۰۔ مولینا بدر عالم صاحب منزل بازار مدرسہ منزل بازار
- ۳۱۔ مولینا مسعود الحق صاحب حال شیخ الحدیث
- ۳۲۔ مدرسہ مظاہر العلوم پورٹ صدر چانگام ڈاؤن پٹیا ڈاکخانہ ہزاری
- ۳۳۔ مولینا مفتی احمد الحق صاحب مدرسہ معین الاسلام فتح پور دن بھاٹ
- ۳۴۔ مولوی عبدالستار صاحب مدرسہ معین الاسلام ہزاری
- ۳۵۔ مولوی عبید الرحمن صاحب موضع امام نگر نظیر ہاٹ
- ۳۶۔ مولوی عبدالرحمن صاحب موضع گچی ہمامنی
- ۳۷۔ مولوی محمد نعمان صاحب موضع اندھر پارہ بھالی کھن
- ۳۸۔ مولوی محمد ادریس صاحب معرفت ایابن علی صاحب موضع سارنگ سوتر، امان اللہ
- ۳۹۔ مولوی عبدالحکیم صاحب پیر کھن

- ۱۰۴۔ حاجی احمد حسین صاحب موضع سنہولی ڈاک خانہ پورینی ضلع بھاکپور
- ۱۰۵۔ مولینا قاری فخر الدین صاحب جامعہ تاسیمہ شہر گیا
- ۱۰۶۔ مولینا نبیہ حسن صاحب موضع کور مری ڈاک خانہ پنجرا نوان ضلع گیا
- ۱۰۷۔ حاجی منہاج الدین صاحب تمباکو مرچنٹ دھامی ٹولہ شہر گیا
- ۱۰۸۔ مولوی عبداللہ صاحب چھپروی موضع دڈاک خانہ مانجھا اسٹیٹ ضلع ساران
- ۱۰۹۔ حاجی محمد عاقل صاحب جیاگھاٹ بلاسپور ضلع دربنگ
- ۱۱۰۔ مولوی محمد ازہر صاحب موضع دڈاک خانہ رنخورس براتہ کتول " " ضلع دربنگ
- ۱۱۱۔ مولوی عبدالرشید صاحب موضع مبارک پور ڈاک خانہ سلگھوا بازار ضلع مونگیر
- ۱۱۲۔ قاری مہدی بخاری صاحب مدرسہ تجوید القرآن جات مسجد شہر مونگیر
- ۱۱۳۔ مولوی ادریس صاحب موضع نوکڑا ڈاک خانہ اسلام پور ضلع پورنیہ
- ۱۱۴۔ مولوی انہر صاحب موضع اورنگ آباد ضلع گیا۔ مقیم حال بردا ڈیہہ گریڈیہ ضلع ہزارہی بان

صوبہ یو۔ پی

- ۱۱۵۔ مولینا نعیم اللہ صاحب موضع بھولے پور ڈاک خانہ ہنسور ضلع فیض آباد
- ۱۱۶۔ مولوی عبدالجبار صاحب ہنسور " " " " ضلع فیض آباد
- ۱۱۷۔ مولوی حافظ محمد طیب صاحب انابنا) قصبہ بھدرہ ملاء آسنہ بی بی کا احاطہ " " شہر فیض آباد
- ۱۱۸۔ مولوی فیض اللہ صاحب گونڈوی مدرسہ احمدیہ منگلپورہ ضلع نکلنڈ
- ۱۱۹۔ مولینا اویس صاحب استاذ مدوۃ العلماء قصبہ نگرام ضلع مظفر نگر
- ۱۲۰۔ مولینا محمد یونس صاحب مرحوم قصبہ بگٹھ " " ضلع مظفر نگر
- ۱۲۱۔ حافظ عبداللطیف صاحب مرحوم امام جات مسجد گڑھی پختہ " " ضلع غازی پور
- ۱۲۲۔ حکیم محمد سلیمان صاحب مرحوم و منفور موضع دڈاک خانہ نولی ضلع سہارن پور
- ۱۲۳۔ مولینا قاری اصغر علی صاحب ہنسور پوری دنی منزل دارالعلوم دیوبند " " ضلع سہارن پور
- ۱۲۴۔ مولینا سید محمود حسن صاحب موضع پٹھڑ برتھا کاستھ عرف پٹھڑ کلاں " " ضلع سہارن پور
- ۱۲۵۔ مولوی ہدایت علی صاحب مدرسہ ہدایت المسلمین کربہ ڈاک خانہ دودھارا ضلع بستی

صوبہ مشرقی پنجاب

- ۱۴۵۔ مولانا نیاز محمد صاحب مدرسہ عربیہ اسلامیہ قصبہ نوح ضلع گڑگاہوں
 ۱۴۶۔ مولوی جمیل احمد صاحب معرفت مولانا نیاز محمد صاحب " " " "
 ۱۴۷۔ میاں جی محمد رمضان صاحب موضع مالہ " " " "

دہلی

- ۱۴۸۔ جناب منشی اللہ رتہ صاحب تبلیغی مرکز نظام الدین نئی دہلی
 ۱۴۹۔ قاری عبدالشکور صاحب سہنس پوری امام حوض والی مسجد نئی سڑک دہلی

پاکستان

- ۱۵۰۔ مولوی خورشید احمد صاحب قصبہ عبدالحکیم ضلع ملتان
 ۱۵۱۔ مولوی حامد میاں صاحب دیوبندی مسلم مسجد چوک انارکلی لاہور
 ۱۵۲۔ مولانا حکیم عبدالحکیم صاحب سلیمانی دواخانہ فیض باغ لاہور
 ۱۵۳۔ مولوی نذیر حسین صاحب بمقام بھیس تحصیل چکوال ضلع جہلم
 ۱۵۴۔ مولوی رحمت اللہ صاحب مدرسہ عربیہ مودب چک ۱۷/۵۰.۸ ڈاک خانہ ہیڈ رازقان ریاست بہاول پور
 ۱۵۵۔ مولوی عبدالحق صاحب دامانی موضع شیردکنہ ڈاک خانہ کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان بمبئی

- ۱۵۶۔ حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب مرحوم سملک ڈاک خانہ ڈابھیل ضلع سورت
 ۱۵۷۔ مولانا عبدالصمد صاحب کاجھوی روم " " " "
 ۱۵۸۔ مولانا عبدالصمد صاحب موضع دانکانیر ڈاک خانہ بارودلی " " " "
 ۱۵۹۔ مولانا عبدالنفور صاحب قریشی مدرسہ فرتانیہ شہر عثمان آباد
 ۱۶۰۔ سید سلیمان شاہ صاحب قادری " " " "
 ۱۶۱۔ سید بدیع الدین صاحب ضلع عثمان آباد
 ۱۶۲۔ مولانا عبدالحکیم صاحب " " " "

- ۱۶۳۔ سید طالب علی صاحب ہستم مدرسہ معراج العلوم شاستور تعلقہ لاہور ضلع عثمان آباد
- ۱۶۴۔ مولوی عبدالصمد صاحب شاستور تعلقہ عمرگہ " " " "
- برما
- ۱۶۵۔ مولوی مظفر احمد صاحب موضع مینگڑی ہواک خانہ بوسید ڈھنگ ضلع اکیاب
- جنوبی افریقہ
- ۱۶۶۔ مولانا باپزید صاحب شہید رشن برگ ٹرانسوال (جنوبی افریقہ)
-
- ۱۶۷۔ صاحبزادہ محترم مولانا اسعد صاحب زید بدم (باجازت خلفاء)

کتابیات

- ۱- نقش حیات
- ۲- مکتوبات شیخ الاسلام
- ۲۰- تذکرۃ الرشید
- ۳- تحریکِ خلافت
- ۵- سفرنامہ اسیرائیلا
- ۶- تذکرہ حضرت مدنی رح
- ۷- EIGHT LIVES
- ۸- آپ بیتی
- ۹- حضرت مدنی کے حیرت انگیز واقعات
- ۱۰- حیات شیخ الاسلام
- ۱۱- سوانح قاسمی
- ۱۲- انڈین مسلم
- ۱۳- شیخ الاسلام: ایک سیاسی مطالعہ
- ۱۴- مسلمانوں کا روشن مستقبل
- ۱۵- ہندوستانی مسلمان آئینہ آیام میں
- ۱۶- آٹو بائیگرافی
- ۱۷- ۱۸۵۷ء کی دستاویزیں
- ۱۸- مجموعہ پچھڑ سرسید احمد خاں
- ۱۹- مرتع اجتماعات احمد آباد
- شیخ الاسلام حضرت مدنیؒ
- مرتبہ: مولینا نجم الدین اصلاحی
- مولینا عاشق الہی میٹھی
- قاضی عدیل عباسی
- شیخ الاسلام حضرت مدنیؒ
- مولینا راشد حسن عثمانی
- راج موہن گاندھی
- مولینا زکریا صاحب
- مولینا عبدالحق سہنس پوری
- مولینا محمد میاں
- پروفیسر محمد مجیب
- ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہا پوری
- مولوی طفیل احمد منگلوری
- ڈاکٹر عابد حسین
- جواہر لال نہرو
- مکتبہ دینیہ دیوبند
- مکتبہ دینیہ دیوبند
- مکتبہ اشاعت العلوم، سہاڑپو
- انجمن ترقی اردو، دہلی
- دیوبند
- راشد کپنی، دیوبند
- اشاعت العلوم، سہاڑپور
- مکتبہ دینیہ دیوبند
- الجمیعة بک ڈپو، دہلی
- دیوبند
- دہلی
- کراچی (پاکستان)
- نظامی پریس، بدایوں
- مکتبہ جامعہ دہلی
- مکتبہ شاہراہ، دہلی

- ۲۳- آدھی رات کی آزادی
۲۴- ماؤنٹ بیٹن:
- ۲۵- شہاب نامہ
۲۶- جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی
۲۷- شہید جستجو
- ۲۸- اختلاف امت اور صراط مستقیم
۲۹- خلافت و ملکیت
۵۰- رسالہ ایمان و عمل
۵۱- ایک شخص ایک کارواں
۵۲- فقہ و مودودیت
- ۵۳- مراسلت حضرت مدنی اور امیر جماعت اسلامی
۵۴- جماعت اسلامی میں میری شرکت
۵۵- تعبیر کی غلطی
۵۶- معاصرین
۵۷- جناح کریٹر آن پاکستان
۵۸- نزہتہ الخواطر
۵۹- پیغام آزاد و مدنی
۶۰- تاریخ تحریک آزادی ہند
- سری نگر (کشمیری)
لندن
کراچی
دہلی
مکتبہ جامعہ، دہلی
کراچی
مولانا محمد یوسف لدھیانوی
مولانا مودودی
دہلی
حضرت شیخ مدنی
" "
مولانا محمد زکریا
دہلی
بکھنؤ
دہلی
بکھنؤ
لندن
حیدرآباد
دیوبند
ترقی اردو یونیورسٹی دہلی
- فلپ زیگر
قدرت اللہ شہاب
ڈاکٹر کلیم عاجز
ضیاء الحسن فاروقی
مولانا محمد یوسف لدھیانوی
مولانا مودودی
حضرت شیخ مدنی
" "
مولانا محمد زکریا
مولانا محمد زکریا
مولانا محمد منظور نعمانی
مولانا وحید الدین خاں
مولانا عبد الماجد دریابادی
کپڑ بولتھیو
مولانا سید عبد الحمی صاحب
ڈاکٹر تارا چند
- ۶۱- البیعتہ شیخ الاسلام نمبر
۶۲- الرشید مدنی و اقبال نمبر
۶۳- الفرقان جنوری ۱۹۵۸ء
- دی پرنٹ پاکستان
ساہیوال پاکستان
بکھنؤ

دیسالے

دہلی	۶۴-	اجمیعۃ قومی جمہوری کنونشن نمبر
"	۶۵-	اجمیعۃ دارالعلوم دیوبند نمبر
کراچی	۶۶-	بینات مولانا محمد یوسف نمبر
دہلی	۶۷-	سلم انڈیا سید شہاب الدین
کراچی	۶۸-	چراغِ راہ نظریۃ پاکستان نمبر دسمبر ۱۹۶۰ء
لاہور	۶۹-	اردو ڈائجسٹ الطاف حسین قریشی
دہلی	۷۰-	اجمیعۃ مجاہد ملت نمبر
لکھنؤ	۷۱-	الفرقان شعبان و رمضان
دہلی	۷۲-	خطبہ صدارت ۱۹۴۸ء حضرت مدنی
"	۷۳-	" ۱۹۴۹ء
"	۷۴-	" ۱۹۵۱ء
"	۷۵-	عصر حاضر میں دین کی تشریح مولانا ابوالحسن علی ندوی
دیوبند	۷۶-	حضرت مدنی صحافت کی نظر میں
دہلی	۷۷-	خطبہ صدارت ۱۹۵۵ء حضرت مدنی
"	۷۸-	" ۱۹۵۶ء
بجنور	۷۹-	سہ روزہ مدینہ

امام الدین ۹۰۲ - اصغر علی ۸۰۲	ابن عباسؓ ۳۱۳ - ابو بکرؓ ۳۱۳، ۳۱۲
آل انڈیا ریڈیو ۸۰۲، ۸۰۱، ۸۱۰ - امام احمد ۴۴۴	ابن حجر ۳۱۵، ابوسلمان ۳۱۸، ۳۲۲
امین امن اصلاحی ۴۴۶	اکرام ۳۲۶، ۳۲۷ - آل انڈیا مسلم کانفرنس ۳۲۸
اسرار احمد ۴۴۶، ابراہیم ۴۵۰	انجمن اسلامیہ ۳۲۸ - آل انڈیا مسلم لیگ ۳۳۱
اصغر علی ۴۶۲ - ابو علی سندھی ۴۶۶	آغا خان ۳۳۱ - آل پارٹیز کانفرنس ۳۳۴
آل انڈیا فیدریشن ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۴۸	اصغر حسین ۲۸، ۲۹ - ایسی ہنسٹ ۱۷۷، ۲۲۹
آغا خان ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۴۸	اکبر آبادی ۳۲۶ - اکبر سعید ۳۳۶، ۳۰۰
ارچولڈ ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۸	۴۴۳، ۴۴۴ - اکبر اعظم ۳۴۱ -
ایرجسن خاں ۴۴۵	اورنگ زیب ۳۴۱ - احسن ۳۴۱
ایٹلی فوڈ کورپس ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹	احسن الشرفاں ۳۴۱ - اقبال ۳۴۶، ۳۴۷
انور صابری ۴۰۲، ۴۱۳	۳۴۸، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴، ۳۴۳
آرائس ایس ۴۴۴، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸	۴۳۸، ۴۳۹ - آفتاب احمد خاں ۳۵۳
۴۳۳، ۴۳۹، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۵۰، ۴۵۱	آر بندو گھوش ۳۵۳ - اثرن علی تھانوی ۳۶۴
آصف علی ۵۰۶ - اثرین بھٹی ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹	ایسٹ انڈیا کمپنی ۳۸۲ - اسد ۳۹۳، ۴۲۵
۵۶۶، ۵۹۵ - ابد اللہ ۵۱۹	۴۲۸، ۴۲۷، ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۱۷، ۴۱۸، ۵۲۰
اسٹان جبین ۵۱۰، ۵۱۶ - ابوالحسن عیڑی ۵۱۵	اسماعیل ۴۸۵، ۵۵۷ - اجل خاں ۴۸۹، ۳۹۷
۵۱۲، ۵۱۴، ۵۳۰، ۵۳۲، ۵۲۸، ۴۲۹	ارشاد احمد ۴۵۷ - انوار الرحمان ۴۹۸
اصغر علی ۵۱۸، ۵۳۵، ۵۳۶	ازہر ۴۹۸ - ازہر ۴۹۸، امامہ ۴۹۸
اسد اللہ ۵۰۵	احمد ۴۹۹ - اخلد ۴۵۹ - آئیس ۴۹۹
انور السادات ۶۹۰ - ابو بکرؓ ۷۰۰، ۴۴۲	ابوالاعلیٰ مودودی ۸۰۱، ۸۰۸، ۸۱۸، ۴۲۴، ۴۲۵
احشام الحسن ۶۵۲، ۷۰۴ - امام غزالی ۴۳۵	۴۲۶، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲
ابوالیث اصلاحی ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲	۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰
امام ابو حنیفہ ۴۴۴ - امام مالک ۴۴۴	۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳
امام شافعی ۴۴۴ - آئن اسٹین ۶۴۵	۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱
آفتاب ۶۵۳ - اچھر ورام ۶۶۹	۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴

- ایون جین کیس ۶۷۹ - ایوب ۵۹۴، ۵۹۶
- ایشلی ۶۰۰ - انٹرن گورنمنٹ ۶۰۵
- آگنگ ۶۲۶ - اکالی دل سرگس ۶۳۳
- احمد بن یحییٰ ۷۶۶ - آرٹلز ۷۶۷
- اسماعیل خان ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳
- ۴۱۶، ۴۲۲، ۴۶۳، ۴۷۵
- اے کے فضل الحق ۴۵۷
- ایگزیکٹو پارٹی ۴۰۸، ۴۲۲
- آل انڈیا جماعت ۴۱۶ - انڈیپنڈنٹ پارٹی ۴۲۲
- اصغر علی ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲ - امداد الحق ۴۳۲، ۴۳۳
- انجمن اصلاح المسلمین ۴۴۹
- اقبال احمد ۵۲۴، ۵۲۵ - اسپ ۵۲۴، ۵۲۵
- احمد سعید ۵۴۸، ۵۶۰، ۵۶۱، ۶۵۳، ۶۵۵
- ۶۵۷، ۶۵۸ - آئی۔ آئی۔ چندریگر ۵۶۵، ۵۷۹
- ۵۹۷ - احسان الحق ۵۶۸
- اے۔ وی۔ الکرنڈر ۵۷۴، ۵۷۷ - ابوالحسن
- آصف جاہی ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۸۱، ۵۸۷
- بلوڈن مشر ۳۳۳ - بدر الدین ۱۸۴، ۱۶۲
- بیک ۴۳۱، ۴۴۲، ۴۷۳
- بابو ابھو چرن ۳۲۸
- برن ۲۰۶، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳ - بارتن ۲۵۰
- بصری پاشا ۱۸۰ - بابر ۳۴۱
- بال گنگا دھر تلک ۱۷۷ - بہادر شاہ ظفر ۳۴۱
- ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۷، ۳۷۷ - بقرات ۳۴۱
- بشیر احمد ۴۰۰، ۴۲۶، ۴۲۷
- بیدی ۱۶۲۳، ۱۶۲۴ - بڑھاسنگھ ۶۲۹، ۶۳۰
- بودھان رائے ۶۳۶ - برہم پرکاش ۶۵۷
- برج موہن ۶۵۷ - بایزید ۷۶۲ - بابر ۷۶۶
- بہار الدین زکریا ۷۶۶ - برہان الدین ۷۶۷
- بشری ۷۹۸
- پیر علی ۳۶۰، ۳۶۱ - پٹیل ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲
- ۵۹۹، ۶۰۳، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰
- ۶۳۱، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱
- پرشوتم داس سٹڈن ۴۳۵، ۴۱۴
- پیارے لال ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۷
- پنڈل مون ۴۲۰، ۴۲۹
- پتھجی ۴۶۳ - پتھک لارنس ۱۵۷۶، ۱۵۷۷
- ۵۷۸، ۵۷۹ - پریم سنگھ ۶۲۵
- پیارے صاحب رشید ۶۲۷
- تفضل حسین ۳۱، ۵۶، ۹۱، ۱۰۳
- تصدق حسین ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶
- توکل حسین ۳۲، ۸۴، ۸۵
- تیخ علی ۳۳ - تراب علی ۷۴ - تارا چند ۳۰۹
- ۳۷۸ - تقی الدین ۳۱۵ - تجلی ۲۶۳
- تحریک سول نافرمانی ۳۳۹ - تحریک آزادی ۳۴۰
- ۳۴۵، ۳۸۹ - تیلیسی جماعت ۶۵۸، ۷۰۳
- ۷۰۴، ۷۰۶ - تاراسنگھ ۶۲۵
- تحریک خلافت ۷۲۰، ۷۲۱
- جیتہ گلارہند ۱۸، ۱۹، ۸۳، ۲۲۸، ۲۲۳
- ۲۳۵، ۲۴۰، ۲۴۵، ۲۴۹، ۲۸۵، ۲۸۰

۱۸۰، ۱۸۱، ۲۳۸، ۳۸۵	حبیب الوجدی ۸۵ - حبیب حسن ۱۰۹
خالد الوجدی ۸۴، خالد جاوید ۸۵	حبیب الرحان ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۳۶، ۱۶۱، ۲۳۰
خیر الدین آفندی ۲۰۴، ۲۱۳، ۲۱۴	۲۳۲، ۶۵۴، ۶۶۵، ۶۵۱ - حمدان ۱۶۸
خلافت کانفرنس ۳۲۸، ۳۰۰ - خلیق الزمان ۳۲۷	حاری صاحب ترنگ زئی ۱۷۵ - حبیب بیگ ۲۰۴
خان عبدالغفار خان ۳۳۵، ۲۶۵	حسن فہمی ۲۰۴ - حبیب اللہ خاں ۲۲۳
خلافت کمیٹی ۳۳۳، ۳۳۶، ۳۳۸، ۳۴۹	حافظ ضامن ۲۲۵ - حسرت برہانی ۱۲۲۸، ۳۴۶
۳۵۰، ۳۵۱، ۳۸۰، ۳۸۱، ۴۰۵، ۴۸۰	۳۴۸، ۳۴۹، ۳۶۰، ۳۷۷، ۷۲۱
خلافت تحریک ۱۸، ۱۹، ۳، ۱۷، ۲۱۶، ۲۱۷	حسین امام ۲۲۸، ۷۳۸، ۷۷۰
۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۵۶	حفیظ جالندھری ۲۳۰ - حبیب الرحمن عثمانی ۳۰۹
۲۶۲، ۲۶۳، ۲۷۴، ۲۷۹، ۲۸۷، ۲۹۶	۳۱۸، ۳۱۹، خطبہ الرحمن ۳۱۶، ۴۶۸
۲۳۵، ۲۴۴، ۳۱۲، ۳۱۶، ۳۲۶، ۳۲۹	۴۶۹، ۴۸۸، ۴۹۰، ۵۰۷، ۵۴۸، ۵۶۰
ظہار اللہ ۳۴۱ - خلیق الزمان ۳۵۵، ۳۹۹	۶۴۴، ۶۵۱، ۶۵۳، ۶۵۶، ۶۶۸، ۶۶۹
۴۰۰، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۵، ۴۰۸، ۴۱۱	۶۷۱، ۶۸۶، ۷۷۳، ۷۹۴، ۷۹۹، ۸۱۲
۴۱۲، ۴۱۷، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۶۲، ۴۶۴	حاجی محرزین ۳۹۳ - حمید الدین ۴۸۸، ۷۹۷
خدائی خدمت گار ۳۹۷، خالد بن ولید ۴۰۷	۷۹۹ - حضرت عمر ۶۹۷، ۷۳۴
خورشید احمد ۶۵۳، دائرۃ المعارف عثمانیہ ۲۶	حضرت عثمان ۶۹۷، ۷۳۴، ۷۳۸، ۷۳۳
دارالعلوم دیوبند ۴۳، ۷۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۴۰	حسین ۷۸۰ - حبیب اللہ ۷۲۰، ۷۲۲
۱۴۲، ۲۶۲، ۲۹۲، ۳۰۵، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹	۲۲۵ - حافظ محمود ۷۹۷ - حافظ مسعود ۷۹۷
۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶	حافظ محمد ۷۹۷ - حافظ مورود ۷۹۷
۳۱۹، ۶۷۳، ۶۷۵، ۶۹۲، ۷۹۹، ۸۱۵	صائب ۷۹۸ - حیات اللہ انصاری ۸۱۱
دادا بھائی نوروجی ۱۷۷، دردانہ ۸۵	حسین شہید بہروردی ۵۷۸، ۵۹۰
داؤد علیہ السلام ۷۳۲، دیوبندی تعلیمی کونشن ۷۵۷	حضرت علی ۷۳۳، ۷۳۴ - حضرت سعد ۷۳۴
۷۶۸، ڈھاکہ رینورٹس ۲۸۴، ۲۸۵	حضرت معاویہ ۷۳۴
ڈبلو ڈبلو نیوز ۳۳۶ - ڈبلیو اسمتھ ۴۷۶	خیر اللہ شاہ ۴۶، ۴۹ - خلیل احمد ۳۳۲، ۶۷
	۱۸۸، ۱۰۷، ۱۱۸، ۱۲۳، ۱۵۵، ۱۷۰

سید احمد الوجدی ۱۸۵، ۱۴۳، ۲۳۲	سید احمد اکبر آبادی ۱۸۱۵، ۱۸۸۸
سید احمد وجدی ۸۵ - سبحاش چندر بوس ۱۷۶	سند رلال ۶۷۹
۱۷۷، ۱۳۲۶، ۱۲۶۱، ۱۲۹۵، ۵۳۴	شبلی نعمانی ۲۳، ۴۸، ۴۸۱، ۴۱۷، ۷۱۹
سہا بیگ ۲۰۴ - سعید حلیم پاشا ۲۰۴، ۲۸۲	شعبیر احمد عثمانی ۳۳، ۲۲۸، ۳۱۰، ۳۱۸
سر جینی ٹائیڈو ۳۲۲ - سری نواس آننگر ۳۲۲	شاہ نور جہاں ۲۶
سادر کر ۳۳۹ - سوامی شردھانند ۲۲۵، ۳۲۹	شاہ احمد ۲۸، ۲۹
۳۳۳، سسی - آر داس ۲۲۸، ۲۲۵، ۳۲۲	شعیم احمد پاشا ۳۱
۶۸۶ - سیف الدین کچلو ۲۶۳، ۲۶۶، ۳۲۹	شاکرہ ۳۲
سقراط ۳۴۱ - سید حبیب صاحب ۳۹۴	شیخ الہند ۳۸، ۴۴، ۵۲، ۷۷، ۷۵
سراج احمد ۴۳۲	۷۸، ۸۰، ۸۲، ۸۶، ۸۸، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹
سید سلیمان ندوی ۷۳۴، ۷۲۵	۱۱۰، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۲
سلیم اللہ ۴۷۴، ۴۷۵	۱۲۳، ۱۳۵، ۱۴۴، ۱۴۶، ۱۴۸، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰
سنٹرل ایروسی ایشن ۴۷۵	۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷
ستارام ۵۱۲	۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷
سنگل ۵۳۷	۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳
سلطان الحق ۵۵۶ - ۵۵۸	۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲
سی ایچ بھابھا ۵۹۸	۱۹۳، ۱۹۴، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴
سیرج ۶۲۵ - سبھدر اچوشی ۶۵۷	۲۰۶، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸
سید محمود احمد ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۹، ۸۱۰	۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵
سید ذاکر علی صاحب ۴۰۰	۲۲۶، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵
سکندر حیات ۴۵۷ - سچوانند ۶۳۷	۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳
سجاد حسین ۷۶۲	۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸
سوربن عبدالعزیز ۷۶۲	۲۸۵، ۲۸۴، ۲۹۵، ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱
سید فخر الدین ۷۸۷ - سید عطار اللہ ۸۰۷	۳۱۴، ۳۱۷، ۳۲۹، ۵۵۲، ۵۵۸
سید حسن ۷۹۸	شرف حسین ۶۰، ۶۶، ۹۵، ۱۶۶، ۱۸۲

شاہ اسماعیل داد . شوکت اللہ ۵۲۰	۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷
شہوار ۵۲۷، شمس الحق ۵۷۰	شکیب ۸۵ - شاہانہ ۸۵
صفت اللہ ۲۹، ۳۶، ۴۶	شفیع الدین ۱۴۰ - شیخ ترک ۱۶۸
صغیرا ۳۱ - صابرہ خاتون ۳۲	شہسختی سنگھن ۲۸۰، ۲۸۳، ۲۹۷، ۲۹۸
صدیق احمد ۳۸، ۴۱، ۴۶، ۴۷، ۵۱، ۵۲	۳۳۲، ۳۷۳
۵۴، ۵۵، ۶۳، ۶۴، ۶۶، ۶۷، ۷۷، ۷۸	شیر شاہ سوزی ۳۰۸، ۳۶۶
۷۷، ۷۸، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲	شفیع بیگ ۳۲۲
۱۲۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۶۴، ۱۶۶	شکر لال ۳۲۹
۲۹۳ - صدیق الرحمدی ۸۴	شیر پوٹیکل کانفرنس ۳۳۵، ۳۳۸
صفیہ بیگم ۸۵ - صہیب ۸۵	شاہ جہاں ۳۴۱
صہیب احمد ۱۹۳	شوکت علی ۳۲۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳
صوفی محمود ۴۳۰ - صدیق علی خان ۷۳۹	۴۰۶، ۴۸۷، ۴۱۹
ضیاء الحسن فاروقی ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷	شہر دھاندہ ۳۵۵، ۳۵۶
ضرغام الدین ۱۶۰ - ضمیر احمد ۷۹	شمس الحسن ۴۱۷، ۴۱۹
ظہیر احمد ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹	شیخ حسن عبدالجواد ۴۳۰
۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸	شاہد خان خوری ۵۱۱
۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹	شہاب الدین سہروردی ۴۴۴
۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹	شہاب الدین خوری ۷۶۶، ۷۶۷
۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹	شمس الدین آفتاب ۷۶۶
۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹	شیخ حسام الدین ۷۶۷
۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹	شیخ یعقوب ۷۶۷
۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹	شفیق احمد ۷۸۹
۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹	شوکت خان ۷۹۲، ۷۹۳
۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹	شیرہ نسب ۷۱۹
۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹	شیرہ ظہیرت ۸۲۰
۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹	
۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹	
۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹	
۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹	
۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹	
۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹	
۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹	
۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹	
۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹	
۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹	
۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹	
۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹	
۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹	
۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹	
۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹	
۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹	
۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹	
۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹	
۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹	
۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹	
۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹	
۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹	
۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹	
۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹	
۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹	
۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹	
۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹	
۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹	
۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹	
۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹	
۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹	
۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹	
۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹	
۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹	
۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹	
۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹	
۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹	
۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹	
۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹	
۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹	
۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹	
۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹	
۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹	
۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹	
۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹	
۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹	
۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹	
۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹	
۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹	
۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹	
۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹	
۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹	
۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹	
۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹	
۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹	
۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹	
۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹	
۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹	
۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹	
۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹	
۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹	
۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹	
۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹	
۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹	
۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹	
۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹	
۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹	
۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹	
۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹	
۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹	
۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹	
۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹	
۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹	
۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹	
۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹	
۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹	
۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹	
۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹	
۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹	
۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹	
۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹	
۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹	
۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹	
۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹	
۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹	
۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹	

۱۲۶۸، ۱۲۶۶، ۱۲۴۱، ۲۲، ۱۱۷، ۱۱۶	فریدالوحیدی	۶۵۷، ۶۵۳، ۳۳۸	عبدالغفار خاں
۵۲۰، ۵۱۸، ۵۱۷		۶۲۷، ۴۰۲، ۴۰۱، ۴۰۰	عبدالمبین
۱۳۰۶، ۱۲۳، ۱۰۷، ۱۸۸، ۱۶۷، ۱۳۲	ناروق احمد	۵۱۲، ۴۳۲، ۳۳۴، ۳۳۳	عبدالغفار
۳۰۷ - فضل الزمان	۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۹	۵۵۶ - شفیق	۴۳۰ - عبدالوحید
۱۳۱، ۷۸، ۷۵، ۷۰، ۶۹، ۵۹، ۴۴، ۴۲	فرزند علی	۴۳۲، ۴۳۰	عبدالواحد
۷۷، ۶۳		۵۷۹، ۵۷۰	عبدالغبار
۶۹۸، ۱۹۹، ۸۵	نہدالوحیدی		میسلی سیخ
۸۵ - فضل رشیدالوحیدی	۸۵ - فیصل	۸۱۶، ۷۹۴، ۷۵۲، ۶۵۳	عتیق الرحمان
۹۹ - فضل اللہ	۸۵ - فرزانہ حسین	۶۰۰، ۶۵۹، ۶۵۸	عبدالقادر
۲۶	نیروز الدین بشاوی	۷۵۴، ۷۵۲، ۷۴۶، ۶۵۹	عبدالرحیم
۳۲۸، ۳۰۸، ۱۶، ۱۱۶	فضل الحق نقی	۷۴۳	عبدالقادر جیلانی
۲۱۲، ۲۰۴	فضل محمود	۷۶۶	عبدالغفار حسین
۲۸۶	فائق بیگ	۵۹۰	علی بن عباس
۳۳۲	فضل حسین میاں	۴۷۵	عمر بن العاص
۴۲۰	نور الدین علی احمد	۵۱۱	عبدالقیوم
۷۵۰، ۵۸۸، ۴۵۸	ناظم جناح	۵۶۱، ۵۶۰	عطار اللہ
۶۰۷، ۶۰۴، ۶۰۳	نظیر زنگیلر	۷۹۶، ۷۸۷	علاء
۷۹۸	فرید الدین شکر گنج	۵۹۷	عبید
۵۷۰ - فتح محمد	۵۷۰ - فضل محمد	۸۰۴	عالیہ
۳۶، ۲۹	قلندر شاہ		غلام رسول سودی
۲۹۳، ۴۴، ۴۳	قطب عالم	۲۰۳، ۲۰۲، ۱۶۴، ۱۶۲، ۱۴۲، ۱۴۱	غلام محمد
۵۹۶، ۵۹۴	قدرت اللہ شہاب	۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹	غالب پاشا
۷۶۶، ۶۵۵	قطب الدین بختیار کاکی	۲۷۵، ۲۷۳، ۲۶۶، ۲۶۳	غلام مجدد
۷۶	قاضی علیم الدین	۵۴۶	غلام حسین (سر)
۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱	کانگریس	۵۹۷، ۵۷۰، ۵۶۹	غضنفر علی خاں

۳۲۶، ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳

۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹

کوشش تیرتھ سوامی ۲۶۶، ۲۶۳

کوشش کانت مالویہ ۳۲۹

کرزن ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹

کلائو کالون ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶

کنزرویٹیو پارٹی ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷

کیٹل احمد ۵۶

کیٹل مشن پلان ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸

۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶

۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴

کوشن مینن ۶۷

کندن لال کپور ۶۲، ۶۳، ۶۴

کبیر الدین ۷۶

کمال الدین قزوینی ۷۶

کیزنٹ پارٹی ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸

کلیم عاجز ۵۹

گوپال کرشن گوکھلے ۱۷۷

گانڈھی ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹

۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷

۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵

۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳

۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱

۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹

۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷

۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵

۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳

۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱

۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹

۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷

۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵

۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳

۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱

۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹

۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷

۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷

۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵

۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳

۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱

۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹

۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷

۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵

۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳

۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱

۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹

۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷

۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵

۸۱۳

کبیر احمد جلال ۳۱ - کمال ۳

کینز فاطمہ ۳۳

کفایت اللہ ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳

۵۲۴	۱۵۲۱	۱۵۱۲	۱۵۲۱	۵۲۴
ہندوہا سبھا	۱۳۸۱	۱۳۸۱	۱۳۸۱	۱۳۸۱
۶۴۰	۶۴۳	۶۴۴	۶۵۶	۶۴۰
ہنری سنٹ جارج	۳۸۳			۳۸۳
ہسٹل	۵۳۵	۵۳۴	۵۳۸	۵۳۵
ہلاکو	۵۸۹			۵۸۹
ہیفر ٹریولین	۷۶۲			۷۶۲
بارون				
یاسمین	۸۵			۸۵
یونیٹ پارٹی	۴۰۶	۵۶۳		۴۰۶
یوسف علیہ السلام	۷۳۲			۷۳۲
یونس علیہ السلام	۷۳۳	۷۳۳	۷۵۰	۷۳۳
یحییٰ بن علی	۷۶۷			۷۶۷
۱۵۷	۱۵۲۱	۱۵۲۱	۱۵۷	۱۵۷
وحید الدین	۱۸۳	۱۸۳	۱۸۳	۱۸۳
وحید الوحیدی	۵۸			۵۸
ولسن کزنل	۱۸۳			۱۸۳
وکر ہیرگو	۲۵۰			۲۵۰
وکرٹریہ ملک	۲۶۹			۲۶۹
دلی اللہ دلوی	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹
دقار الملک	۳۳۱	۳۳۱	۳۴۹	۳۳۱
دلپھ بھائی ٹیل	۳۵۸	۳۵۸	۳۵۸	۳۵۸
۵۹۷	۵۹۸	۵۹۹	۵۹۷	۵۹۷
۶۲۸	۶۳۵	۶۴۰	۶۲۸	۶۲۸
۶۶۲				۶۶۲
وزیر حسن	۱۸۸			۱۸۸
وزیر احمد	۳۹۹			۳۹۹
۶۰۲				۶۰۲

إِنْ تَنْصُرْكُمْ اللَّهُ يَنْصُرْكُمْ
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

یہ تکلیفیں، یہ تاریکیاں اور یہ مصیبتیں یا دوسری
کی نہیں ایک روشن مستقبل کی علامت ہیں،
اس اندھیرے کے بعد اجالا ضرور ہوگا۔
مگر یاد رکھیے !

اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہماری زندگیاں،
ہمارے اعمال و افعال اور اخلاق و کردار نمونہ
اور مثال ہوں۔ ان میں خلوص اور للہیت ہو۔

’شیخ الاسلام‘

اسکولوں اور مدرسوں کیلئے

عام فہم آسان زبان اور دلچسپ سلوب میں

تاریخ اسلام پر بہترین کتابیں

— ﴿﴾ مؤلفہ مولینا فریدالوحیدی ﴿﴾ —

رسولِ عربی اُردو ۱۰ روپے رسولِ عربی ہندی ۱۰ روپے رسولِ عربی انگریزی ۱۰ روپے

خلافتِ راشدہ اول ۱۲ روپے خلافتِ راشدہ اردو حصہ دوم ۱۰ روپے

— تالیفات ڈاکٹر مس شہیدالوحیدی —

خلافتِ بنی امیہ اُردو ۱۲ روپے اسلامی علوم اُردو ۱۵ روپے اسلامی علوم ہندی ۱۵ روپے

دلچسپ کہانیاں (بچوں کیلئے) ۶ روپے

یہ کتابیں چالیس برس سے ہندوستان کے بہت سے مدارس اور اسکولوں، دارالعلوم دیوبند، جامولیر اسلامیہ، جامعہ قاسمیہ مراد آباد وغیرہ وغیرہ اور بیرون ملک انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ کے بعض مدارس میں داخل نصاب ہیں۔

— ﴿﴾ مصلحتیہ کا پتہ ﴿﴾ —

قومی کتاب گھر $\frac{61}{1}$ ڈاکٹر نگر - نئی دہلی 110025

لک اور دیکھ زبان اور دیکھ

اسکولوں اور مدرسوں کیلئے

عام فہم آسان زبان اور دلچسپ ملوبہ میں

تاریخ اسلام پر بہترین کتابیں

مولفہ مولانا فریدالوحید سی

رسول عربی اورد رسول عربی ہندی رسول عربی انگریزی
۱۰ روپے ۱۰ روپے ۱۰ روپے

خلافت راشدہ اوردست اول خلافت راشدہ اوردست دوم
۱۳ روپے ۱۰ روپے

مالیات ڈاک ٹر ساشیدالوحید سی

خلافت بنی امیہ اورد اسلامی علوم اورد اسلامی علوم ہندی
۱۳ روپے ۱۵ روپے ۱۵ روپے

دلچسپ کہانیاں (بچوں کیلئے) ۶ روپے

یہ کتابیں چالیس برس سے ہندوستان کے بہت سے مدارس اور اسکولوں اور اہل علم و دیند
جاسویہ اسلامیہ ایجوکیشنل سوسائٹی، لاہور اور بیرونی ملک انگلینڈ اور مساتھ انٹرنیشنل ایجو
کیشنل سوسائٹی میں داخل نصاب ہیں۔

پہلے کا پتہ

قومی کتاب گھر 61 ڈاکنگز۔ نئی دہلی 110025